

نئے اضافوں کے ساتھ

عالم اسلام میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب


# شہادتِ عاصیہ

قادیانیوں کے بدترین کفریہ عقائد و عزم پر مبنی عکس شہادتیں


2

ترتیب و تحقیق

محمد بن خالد








ثبوتِ حاضریں! قادیانیت

”ثبوت حاضر ہیں“

یہ کتاب، اپنے اندر  
 قادیانی مذہب کے بانی  
 آنجنہانی، مرزا غلام احمد قادیانی  
 اس کے بیٹوں، اس کے نام نہاد خلیفوں اور دیگر اہم قادیانیوں کی  
 مستند تصانیف اور اخبارات و رسائل کی  
 قابل اعتراض اور دل آزار کفریہ عبارتوں کی عکسی نقول لیے ہوئے ہے  
 قادیانی جرائم کے یہ ثبوت  
 اتنے واضح ہیں کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں  
 ان عکسی دستاویزات کی صداقت کو چیلنج کرنا  
 کسی بھی قادیانی کے لیے ممکن نہیں ہے  
 میں اس کتاب میں درج  
 تمام حوالوں اور عکسی نقول کے مصدقہ ہونے  
 کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں  
 اور قادیانی جماعت کے موجودہ سربراہ سمیت  
 دنیا کے تمام قادیانیوں (بشمول لاہوری گروپ) کو  
 چیلنج کرتا ہوں کہ  
 اگر اس کتاب میں موجود، کوئی بھی عکس غیر حقیقی ہو،  
 یا میری طرف سے کسی بھی نوع کی ترمیم ہوئی ہو، کسی قسم کا اضافہ کیا گیا ہو، یا  
 ایک بھی خانہ ساز حوالہ پایا جائے  
 تو میں اس کے لیے ہر قسم کی سزا پانے کے لیے تیار ہوں!  
 بصورت دیگر انہیں ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر آخرت کی فکر کرتے  
 ہوئے اسلام کی آغوش میں آ جانا چاہیے  
 ہے کسی قادیانی میں اخلاقی جرأت جو میرے اس چیلنج کو قبول کرے؟

محمد متین خالد



نئے اضافوں کے ساتھ

عالم اسلام میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب

# قادیانیت تہمت کا اصرار!

جلد دوم

قادیانیوں کے بدترین کفریہ عقائد و عوام پر مبنی عکس شہادتیں

محمد بن خالد

علم و سائنس پبلیشرز

الحمد مارکیٹ 40- اردو بازار، لاہور،

فون: 7352332-7232336-8405100



## جملہ حقوق محفوظ

ثبوتِ حاضریں! جلد دوم

نام کتب

محمد تقی خاں

مصنف

علم و سائنس پبلیشرز

ناشر

محمد نوید شاہین ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

قانونی مشیر

جوہر رحمانیہ پرنٹرز، لاہور

مطبع

فضیل کیانی

سرورق

تاج کمپوزنگ سنٹر، لاہور

کمپوزنگ

(نئے اضافوں کے ساتھ) 2010ء

سن اشاعت

600/- روپے

قیمت

# علم و سائنس پبلیشرز

الحمد مارکیٹ 40- اردو بازار، لاہور،

فون: 7352332-7232336-8405100



# انتساب

پھول، خوشبو، رنگ، بہار، صبا، شبنم، روشنی، شفق، نور، چاندنی، حُسن، ترنم، سحر، آبشار، ستارا، گلینہ اور قوس قزح..... اگر یہ ملکوتی جمال آفرینیاں انسانی روپ دھار لیں تو یقیناً میرے اہل خانہ کی مانند ہوں گی۔ میری عمر 13 سال تھی جب میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ پھر میری والدہ محترمہ نے ہم سب بھائیوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فقہ قادیانیت کی سرکوبی کے محاذ پر سب سے زیادہ حوصلہ افزائی اور جرأت انہی کی طرف سے ملی۔ وہ غرقابِ محبت رسول ﷺ اور دینی غیرت و حمیت کا استعارہ تھیں۔ والدہ ہونے کے ناتے ان کی عزت و تکریم مجھ پر فرض ہے لیکن ایک اور حوالہ سے بھی میں انہیں مزید قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ان کا نام فاطمہ ہے۔ شہر خموشاں کے یہ دونوں منور چراغ ماضی کی طرح اب بھی مجھے اپنی محبت و شفقت کی لُو دیتے ہیں۔ میرے سب بھائی اور بھتیجے تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن کے ساتھ بڑی مضبوطی اور اخلاص سے وابستہ ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں برادر گرامی محترم محمد شاہین پرواز صاحب ہیں جو ناسازی طبع کے باوجود پورے جوش اور جذبے سے میری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ گھر میں تالیف و تصنیف کے دوران میری اہلیہ محترمہ ہمیشہ مجھے پرسکون ماحول فراہم کرتے ہوئے میری تمام ضرورتوں کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ میری دونوں بیٹیوں نے میری پوری لائبریری کی تزئین و آرائش

سنجبال رکھی ہے جس سے مجھے حوالہ جات کی تلاش میں بے حد آسانی رہتی ہے۔ میرے بیٹے محمد بن متین اور احمد متین جنہیں میں نے تحفظِ ختم نبوت کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ بھی میرے کام میں بے حد معاون و مددگار رہتے ہوئے اس بہانے خوب تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ نور چشم عزیز علی مدرس حسین کی معاونت اور مشاورت بھی قابلِ صد ستائش ہے۔ زہد و تقویٰ میں یگانہ روزگار محترمہ آپا جی، حالہ جان اور ماموں جان کی خصوصی دعائیں ہمیشہ میرے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوتی ہیں۔ میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں جسے ایسے مشفق الہی خانہ کی سرپرستی اور سائبانی میسر ہے۔ میں اس کتاب کا انتساب ان تمام افراد کے نام کرتے ہوئے غیر معمولی دلی راحت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ

۔ میں خشک پیڑ-خزاں کا تھا، مجھے کیسا برگ و بار دیا

اللهم صلی علی محمد خاتم النبیین و خاتم المرسلین





## ترتیب عنوانات

2	چیلنج	✽
5	انتساب	✽
25	توجہ فرمائیں	✽
27	فہرست ٹائٹل کتب	□
31	احمد کریم شیخ (کینیڈا)	□
35	محمد متین خالد	□
	قادیانی ڈائریکٹری	□
	نہیں ملتا سخن اپنا کسی سے	□

### مرزا قادیانی کے حالات زندگی

41		
46	تذکرہ	□
47	سیرت المہدی	□
48	پیدائش	□
49	سر اور پیر	□
49	تاریخ پیدائش کا دلچسپ اختلاف	□
52	نام و نسب	□
52	میں کون ہوں؟	□
53	ذات بدلنے والا کون؟	□

- 54 والد اور بھائی کے نقش قدم پر
- 54 والد کی وفات پر اللہ تعالیٰ کی تعزیت
- 55 مرزا قادیانی کا والد بے نمازی
- 56 مقدمات میں وقت ضائع
- 56 مرزا قادیانی کی تلاش
- 56 بازو ٹوٹ گیا
- 57 اور انگلی کٹ گئی
- 57 کسی کی جان گئی، کسی کی ادا ٹھہری
- 58 چھری چل گئی
- 58 لطیفہ
- 59 راکھ سے روٹی
- 59 مٹی اور گڑ کے ڈھیلے
- 60 سُندھی
- 60 ادھر ادھر
- 64 مختاری کے امتحان میں فیل
- 64 غرارہ
- 64 قادیانی جماعت کا نام
- 65 ہرنی کا کلمہ
- 65 تیمم
- 65 تیز گرم پانی سے طہارت
- 66 عورتوں کا امام
- 66 زنانہ نماز

- 67 نماز میں فارسی نظم
- 67 نماز میں پان
- 67 بو اسیر اور..... نماز
- 68 بیٹے کی خاطر نماز جمعہ نہیں پڑھی
- 68 سب کا نماز جنازہ پڑھا دیا
- 69 روزہ توڑ دیا
- 69 روزے توڑ دئیے
- 69 روزے نہیں رکھے
- 70 روزہ کھلوا دیا
- 70 رمضان المبارک کا احترام؟
- 71 حج، اعتکاف، زکوٰۃ
- 71 اعتکاف
- 72 مردہ اسلام
- 72 کتنی (بدکار عورت) کی رقم
- 72 سود جائز ہے!
- 73 جیب میں اینٹ
- 73 جرابیں، کاج، گرمگابی اور کھانا
- 74 الٹے کاج
- 74 الٹی سیدی گرمگابی
- 75 الٹی سیدی جرابیں
- 75 پہلوانوں والی خوراک
- 78 کھانے کا انداز

- 78 گوشت کی قیمت
- 78 تکیے کے نیچے کپڑے
- 79 ریشمی ازار بند
- 79 ریشمی ازار بند کے فوائد
- 80 جیبی گھڑی
- 80 پیشہ نبوت
- 81 خدا کی مشین
- 81 نبی کے ہتھیار
- 82 قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کا دادا
- 82 پانچ اور پچاس کا شہرت یافتہ قادیانی فرق
- 85 سرسید کی نظر میں
- 85 ہندوؤں کی نظر میں
- 86 کتب فروش
- 88 چوڑی، زانیہ اور کنجروں کے خواب
- 89 ٹیچی ٹیچی
- 89 ”ماہواری“ چندہ
- 90 جماعت مرغی کی آواز پر توجہ دے
- 90 دعا برائے فروخت
- 91 افریقہ کے بندر اور مرزا قادیانی
- 92 بتوں کی زیارت
- 92 مرزا قادیانی کی علمی باتیں
- 92 خمل کا ذب

93	عورتوں کی خاص قسم	□
93	مرشد کے ساتھ مرید کا تعلق	□
93	مرزا قادیانی کی سائنس	□
93	قلمی اسلحہ	□
95	ایک ایک حرف..... خدا تعالیٰ کی طرف سے	□
96	مرزا قادیانی کے معجزات	□
96	اللہ نے جو مجھے سکھایا، وہ کسی اور کو نہ سکھایا	□
96	جو میرے ہاتھ سے جام پئے گا، وہ ہرگز نہیں مرے گا	□
103	معجزانہ انشا پر دوازی کا ایک نمونہ	□
104	مجھ سے خدا تعالیٰ لکھواتا ہے	□
105	مرزا قادیانی کے خانگی حالات	
110	بیوی سے حسن سلوک	□
110	بیوی سے عمدہ سلوک	□
110	طلاق سے پرہیز کرو	□
111	”بیکھے دی ماں“ کو طلاق	□
112	بد ذات بیوی	□
113	حالت مردی کا عدم	□
113	بیوی کے ایام نے عزت رکھ لی	□
116	پچاس مردوں کے برابر طاقت	□
117	حقیقی بیعت	□
117	نصرت جہاں بیگم نے بیعت ہیں کی	□

- 118 بیعت نہ کرنے والا منافق
- 119 تنگ پا جامہ
- 119 غرارہ
- 119 مصافحہ
- 120 ملکہ کاراج
- 121 میں ایسے پردے کا قائل نہیں
- 121 مرجا بیوی دی گل بڑی مندااے
- 122 مبارکہ بیگم اور امتہ الحفیظہ کا حق مہر
- 123 داماد کی قوت باہ کا علاج
- 123 اپنے بیٹے فضل احمد کی موت پر خوشی کا اظہار
- 124 سسرالی عورتوں کے متعلق الہام
- 125 **مرزا قادیانی اور غیر محرم عورتیں**
- 127 نبی کریم ﷺ کا تقویٰ
- 128 اسلام کی اعلیٰ تعلیم
- 128 جو عورتیں پردہ نہیں کرتیں، شیطان ان کے ساتھ ہے
- 128 عورت سے مصافحہ جائز نہیں
- 129 غیر محرم عورتوں کو چھونا
- 129 ”نبی معصوم“
- 129 ادھر ادھر
- 130 تھیز
- 131 ٹانگہ وائن شراب کا استعمال

- 131 ٹانگہ واٹن کا فتویٰ
- 132 لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟
- 133 گول منہ، لمبا منہ
- 133 ایہو کڑی لینی اس
- 134 احتلام
- 135 میں ایسے پردے کا قائل نہیں
- 135 رات کا پہرہ
- 136 مائی تابی
- 136 مائی کا کو
- 136 بھانو
- 137 زینب بیگم
- 138 دوپٹہ تیرا ملل دا
- 138 بچہ سپیشلسٹ
- 139 گنہگار کبھی زنا

### شرمناک قادیانی تحریریں

- 141
- 146 فحاشی کی اشاعت
- 146 مصروفیات
- 146 پلیڈول
- 147 خیالات
- 147 بے حیا انسان
- 147 جب انسان حیا چھوڑ دیتا ہے.....

- 147 میں وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے
- 147 مرزا قادیانی کی اپنی جماعت کو نصیحت
- 148 بڑا کارنامہ
- 148 پر میشر کی جگہ
- 149 قادیانی کوک شاستر
- 152 میری تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا
- 153 نیوگ، روز کی مشق
- 154 قانون دکھائی
- 157 قادیانی خشوع و خضوع
- 160 قادیانی ترانہ
- 161 نرم اندام عورتیں اور ہمارے باکرہ مضامین
- 162 برہنہ شخص سے بغلیگری
- 162 پیٹ سے چوہا؟
- 162 رحم پر مہر
- 163 عضو تناسل کاٹ دیتا.....
- 163 جہاں سے نکلے تھے.....
- 163 بے غسل.....؟
- 164 عورت کی کارروائی
- 165 سلطان القلمی کا نادر نمونہ
- 165 یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ
- 166 اللہ عورت، مرزا مرد
- 166 کبھی کبھی زنا



166	تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق	□
168	مباہلہ جائز ہے	□
168	خلیفہ صاحب کی عیاری	□
169	میاں زاہد سے میری بیویاں پردہ نہیں کرتیں	□
169	شہادت نمبر 1	□
171	شہادت نمبر 2	□
171	ایک احمدی خاتون کا بیان	□
172	شہادت نمبر 3	□
173	شہادت نمبر 4	□
173	شہادت نمبر 5 (حلفیہ شہادت)	□
173	شہادت نمبر 6	□
173	بے خوف مجاہد	□
174	شہادت نمبر 7 (حلفیہ شہادت)	□
175	شہادت نمبر 8 (حلفیہ شہادت)	□
175	شہادت نمبر 9 (حلفیہ شہادت)	□
175	شہادت نمبر 10	□
175	حلفیہ شہادت	□
176	شہادت نمبر 11 (حلفیہ شہادت)	□
176	محمد یوسف ناز کا حلفیہ بیان	□
177	شہادت نمبر 12	□
177	شہادت نمبر 13 (حلفیہ شہادت)	□
178	شہادت نمبر 14 (حلفیہ شہادت)	□

- 179 شہادت نمبر 15 (حلفیہ شہادت)
- 179 شہادت نمبر 16 (حلفیہ شہادت)
- 179 شہادت نمبر 17 (حلفیہ شہادت)
- 179 مرزا محمود کی اپنی گواہی
- 180 شہادت نمبر 18 (حلفیہ شہادت)
- 180 شہادت نمبر 19 (حلفیہ شہادت)
- 181 شہادت نمبر 20 (حلفیہ شہادت)
- 181 شہادت نمبر 21 (حلفیہ شہادت)
- 181 شہادت نمبر 22 (حلفیہ شہادت)
- 183 شہادت نمبر 23 (حلفیہ شہادت)
- 185 شہادت نمبر 24 (حلفیہ شہادت)
- 186 شہادت نمبر 25 (حلفیہ شہادت)
- 187 شہادت نمبر 26
- 188 شہادت نمبر 27
- 190 شہادت نمبر 28
- 190 سول سرجن کی شہادت
- 191 حق پسند اصحاب کن توجہ کے لیے
- 192 بدکردار مصلح موعود نہیں ہو سکتا
- 193 اظہار واقعہ کو بدزبانی نہیں کہا جاسکتا
- 194 اغتباہ
- 195 فیصلہ عدالت عالیہ ہائی کورٹ لاہور
- 198 مرزائیوں کی روحانی شکار گاہ

- 204 بے نقاب
- 204 مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں
- 205 مرزا قادیانی کی کتابوں میں قرآن مجید والا نور اور ہدایت ہے
- 205 مرزا قادیانی کی کتابیں قرآن کی تفسیر ہیں
- 205 مرزا قادیانی کا طرزِ تحریر
- 207 **مرزا قادیانی بحیثیت ایک طبیب**
- 210 حکمت کی کتابیں، تفسیر قرآن ہیں
- 210 مرزا قادیانی کی علم طب میں دسترس
- 210 کچلہ کونین فولاد
- 211 نیم حکیم، خطرہ جان
- 211 پنجمبری ادویات
- 212 ممنوعہ چیزیں ”بھنگ، دھتورہ، افیون“ سب جائز
- 212 افیون
- 213 شکمیا
- 214 دو بوتل براٹڈی
- 214 ٹانک وائٹن
- 215 ٹانک وائٹن کا فتویٰ
- 215 حالتِ مردی
- 216 قادیانی ویاگرا
- 217 داماد اور قوت باہ
- 217 بھنگ، افیون شراب کے بہن بھائی ہیں

- 218 "دست شریف" میں دودھ کا استعمال
- 218 سوڈا وغیرہ
- 218 تریاق الہی؟
- 219 شربت کی جگہ تیل
- 219 کھانسی کا علاج
- 220 گنے سے کھانسی کا علاج
- 220 پھوڑے کا علاج
- 220 بال بڑھانے کی دوا
- 220 مفت بر
- 221 چچازاد بھائی سے علاج
- 221 مرغاذخ کر کے .....
- 221 رسوا کن باتیں
- 223 **مرزا قادیانی اور شاعری**
- 226 شاعر اور شاعری
- 227 مرزا قادیانی کی عشقیہ شاعری
- 228 بھینی بھینی خوشبو
- 229 قادیانی ترانہ
- 230 مرزا قادیانی کی شاعری سے قبض دور ہوتا ہے
- 230 پاکیزہ جذبات عشق میں ڈوبا ہوا کلام
- 231 حیا سوز شاعری
- 232 نسلیں ہیں میری بے شمار
- 232 ہوں بشر کی جائے نفرت .....

- 232 خدا کا کلام
- 235 [مرزا قادیانی ایک ڈرپوک اور بزدل شخص]
- 237 میرا نام غازی ہے
- 237 غازی نام رکھنا رسول کریم ﷺ کی نافرمانی ہے
- 238 ہم موت سے نہیں ڈرتے
- 238 بزدلی ایمان کی کمزوری ہے
- 238 مجھے للکارنا اچھا نہیں
- 240 پادریوں کی حمایت
- 241 زلزلہ
- 242 انگریزی عدالت میں، ”اپنے مریدوں کی اطلاع کے لیے“
- 243 آئندہ پیش گوئی سے میری توبہ!
- 243 حج نہ کرنے کی وجہ
- 243 پولیس کا پہرہ
- 244 کتا محافظ
- 244 مناظرہ سے فرار
- 245 [قادیان]
- 247 قادیان کی گمنام حالت
- 249 کشف کا قادیان
- 250 خواب میں قادیان
- 250 لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا

## بہشتی مقبرہ

253

255

255

256

256

257

257

257

258

259

262

265

267

267

268

268

269

270

270

271

271

بہشتی مقبرہ بہشتی لوگ

جنت ارضی

مرزا اور اس کے اہل و عیال کے لیے کوئی فیس نہیں

بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کی وصیت نہ کرنے والا منافق

بہشت سے اخراج، چندہ ضبط

دانگی جنت

ابوبکرؓ و عمرؓ کی سی فضیلت

بہشتی مقبرہ

بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کی شرائط

بہشتی مقبرہ کا آنکھوں دیکھا حال

## مرزا قادیانی کے استاد

مہدی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا

مہدی کے لیے ضروری ہے

نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا

میرے کئی استاد تھے

بیٹے کی تصدیق

حلفاً کہتا ہوں میرا کوئی استاد نہیں

قسم کی اہمیت

اپنے استاد کی تعریف

شاگرد، استاد کی مانند ہوتا ہے

- 273 **مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ”فیض یافتہ“ مرید**
- 275 نماز میں نامناسب تکلیف
- 276 اللہ کا بچہ
- 276 اللہ مرد، مرزا عورت
- 277 جسم پر نامناسب ہاتھ پھیرنا
- 278 قادیان اور سجدہ
- 278 کفن چور
- 279 تھیٹر
- 279 ضرور بدکاری کرے گا
- 280 قوت رجولیت بالکل معدوم
- 281 قادیان میں بڑے بڑے خبیث، شریر، ناپاک طبع، کذاب اور مفتری رہتے ہیں
- 281 مرزا قادیانی کی بیعت کا ”فیض“
- 283 کثرت قبولیت دعا کا نشان
- 285 **قادیانی جماعت، قادیانی قیادت کی نظر میں**
- 287 درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے
- 287 قادیان؟
- 288 بھیڑیوں کی جماعت
- 288 درندے، قادیانیوں سے اچھے
- 289 قادیانی جلسہ، اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ
- 289 کج دل لوگوں کی جماعت
- 290 تہذیب اور پرہیزگاری سے عاری جماعت
- 290 مخنثوں کی جماعت
- 290 اکیلا کسی جنگل میں ہوتا تو بہتر تھا!

- 291 جیسے کتا مردار کی طرف
- 291 شوق پورا نہیں ہوا
- 292 جلنے والی لکڑیاں
- 292 نفسی جماعت
- 293 سُوروں کی جماعت
- 294 جماعت میں بہت کمی ہے
- 295 میں کسی کو حساب نہیں دوں گا
- 296 بے حیا اور بزدل جماعت
- 296 جہنم کی آگ کی حامل جماعت
- 297 بددیانت جماعت
- 297 گالیاں کھلوانے والی جماعت
- 298 کتے
- 299 احمق جماعت
- 299 انکاروں والی جماعت
- 299 جھگڑالو جماعت
- 300 غیر مہذب اور غیر شائستہ جماعت
- 301 نفس پرور جماعت
- 301 ایک پیسے سے بھی کم حیثیت جماعت
- 301 لومڑی، سور اور سانپ
- 303 مرزا قادیانی کی بیماریاں
- 305 مردانہ حسن کا نمونہ
- 306 صحت کا ٹھیکہ
- 306 انبیا اور خبیث امراض



- 306 دائم المرض اور طرح طرح کی بیماریاں
- 306 آنکھوں کی نسبت خاص الہام
- 307 مائی اوپیا
- 307 چشم نیم باز
- 307 الٹا جوتا پہننا
- 308 کس کی چھتری ہے؟
- 308 گھڑی
- 309 ”انہوں کچھ دیدا ہے“
- 309 ذیابیطس، سوسودفعہ پیشاب
- 309 حالت مردی کا عدم
- 310 سردرد، کمی خواب، تنگی دل، ذیابیطس، کثرت پیشاب
- 310 سردرد، کثرت پیشاب و دست
- 311 سر اور دستوں کی بیماری
- 311 دست
- 311 دورے
- 312 دورے اور روزے
- 312 مرگی
- 313 ہسٹریا (Hysteria)
- 313 ہسٹریا کے دورے
- 314 اگر ہسٹریا ثابت ہو جائے.....
- 315 مراق
- 315 ہسٹریا اور مراق
- 315 مراق اور کثرت بول
- 316 ہرنی کو مراق
- 316 سیل

- 316 خونی تے
- 317 قونج زحیری
- 317 کچھڑ اور ریت سے علاج
- 318 خارش
- 318 لکنت
- 318 دانتوں کو کیڑا
- 319 ایڑیاں پھٹ گئیں
- 319 بال سفید
- 319 دایاں بازو
- 320 حافظہ خراب
- 320 سرعت انزال

## 321 مرزا قادیانی کا عبرتناک انجام

- 323 بہت بری موت
- 324 مولوی ثناء اللہ سے آخری فیصلہ
- 326 یہ خدا کی طرف سے ہے
- 326 حالت دگرگوں
- 328 میر صاحب! مجھ کو بائی ہیضہ ہو گیا ہے
- 329 میں نجاست کے کیڑے سے بھی بدتر ہوں!
- 329 دوزخ کا الہام
- 329 جھوٹے مدعی کو خدا ہلاک کرتا ہے
- 329 خدا جھوٹوں کو ہلاک کرتا ہے
- 330 دوزخ کا وعدہ

## 331 عکسی شہادتیں

## توجہ فرمائیں!

- اس کتاب کے 14 ابواب ہیں۔
- ہر باب ایک مختلف موضوع کا مکمل احاطہ کرتا ہے۔
- ان ابواب کے شروع میں قادیانیوں کی متعلقہ گستاخیوں، ہرزہ سرائیوں اور مضحکہ خیزیوں کو نمبر شمار لگا کر ایک ترتیب سے درج کیا گیا ہے۔
- پھر کتاب کے آخر میں اسی ترتیب کے ساتھ اصل قادیانی کتب کے عکس دے دیے گئے ہیں۔ مثلاً ”شرمناک قادیانی تحریریں“ کے باب میں حوالہ نمبر 177 کا عکسی ثبوت، کتاب کے آخر میں حوالہ نمبر 177 کے تحت فراہم کر دیا گیا ہے۔
- اصل قادیانی کتابوں کے ٹائٹل کا عکس ہر حوالہ کے ساتھ بار بار دینے کے بجائے صرف ایک دفعہ دیا گیا ہے، اس کے لیے دیکھیے صفحہ نمبر 27 تا 30
- اہم معترضہ قادیانی تحریروں کو نمایاں کرنے کے لیے ان کے گرد موٹی آؤٹ لائن لگا دی گئی ہے۔
- قادیانی کتب سے پورے صفحے کا عکس دینے سے قادیانیوں کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ان کی گستاخانہ اور متنازع فیہ عبارات سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کی جاتی ہیں۔
- قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اس کتاب میں موجود قابل اعتراض، دل آزار اور توہین آمیز قادیانی عبارات پڑھتے وقت کثرت سے استغفار کریں۔ شکر یہ!



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكٰلِبِيْنَ  
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. وَلَا حَوْلَ وَلَا  
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

## فہرست ٹائٹل قادیانی کتب

صفحہ نمبر

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 333 | تذکرہ مجموعہ وحی والہامات (مرزا قادیانی)    | □ |
| 334 | سیرت المہدی جلد اول (مرزا بشیر احمد ایم اے) | □ |
| 335 | سیرت المہدی جلد دوم (مرزا بشیر احمد ایم اے) | □ |
| 336 | سیرت المہدی جلد سوم (مرزا بشیر احمد ایم اے) | □ |
| 337 | ملفوظات جلد اول (مرزا قادیانی)              | □ |
| 338 | ملفوظات جلد دوم (مرزا قادیانی)              | □ |
| 339 | ملفوظات جلد سوم (مرزا قادیانی)              | □ |
| 340 | ملفوظات جلد چہارم (مرزا قادیانی)            | □ |
| 341 | ملفوظات جلد پنجم (مرزا قادیانی)             | □ |
| 342 | مجموعہ اشتہارات جلد اول (مرزا قادیانی)      | □ |

- 343 مجموعہ اشتہارات جلد دوم (مرزا قادیانی)
- 344 مکتوبات احمد جلد دوم (مرزا قادیانی)
- 345 دعویہ الامیر، انوار العلوم جلد 7 (مرزا بشیر الدین محمود)
- 346 تریاق القلوب (مرزا قادیانی)
- 347 کتاب البریہ (مرزا قادیانی)
- 348 مجدد اعظم جلد اول (ڈاکٹر بشارت احمد لاہوری قادیانی)
- 349 حقیقت الوحی (مرزا قادیانی)
- 350 براہین احمدیہ حصہ پنجم (مرزا قادیانی)
- 351 تفسیر صغیر (مرزا بشیر الدین محمود)
- 352 ازالہ اوہام (مرزا قادیانی)
- 353 ذکر حبیب (مفتی محمد صادق قادیانی)
- 354 مسیح موعود کے مختصر حالات، ملحقہ براہین احمدیہ حصہ اول تا چہارم (معراج الدین عمر قادیانی)
- 355 سیرت مسیح موعود (مرزا بشیر الدین محمود)
- 356 آئینہ کمالات اسلام (مرزا قادیانی)
- 357 چشمہ معرفت (مرزا قادیانی)
- 358 انجام آتھم (مرزا قادیانی)
- 359 خطوط امام بنام غلام (حکیم محمد حسین قریشی قادیانی)
- 360 کشتی نوح (مرزا قادیانی)
- 361 تحفہ گولڈویہ (مرزا قادیانی)

- 362 نزول المسح (مرزا قادیانی) □
- 363 اصحاب احمد جلد 13 (ملک صلاح الدین قادیانی) □
- 364 کلمۃ الفصل (مرزا بشیر احمد ایم اے) □
- 365 نور القرآن (مرزا قادیانی) □
- 366 تحفہ غزنویہ (مرزا قادیانی) □
- 367 براہین احمدیہ جلد اول تا چہارم (مرزا قادیانی) □
- 368 اعجاز احمدی (مرزا قادیانی) □
- 369 تذکرہ الشہادتین (مرزا قادیانی) □
- 370 تفسیر کبیر (مرزا بشیر الدین محمود) □
- 371 آریہ دھرم (مرزا قادیانی) □
- 372 نسیم دعوت (مرزا قادیانی) □
- 373 حجۃ اللہ (مرزا قادیانی) □
- 374 سراج منیر (مرزا قادیانی) □
- 375 حیات احمد (یعقوب علی عرفانی) □
- 376 تذکرہ المہدی (پیر سراج الحق نعمانی قادیانی) □
- 377 تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق (مظہر الدین ملتانی) □
- 378 مرزائیوں کی روحانی شکارگاہ (عبدالرزاق مہتہ) □
- 379 کلام محمود (مرزا بشیر الدین محمود) □
- 380 ملائکہ اللہ مندرجہ انوار العلوم جلد پنجم (مرزا بشیر الدین محمود) □
- 381 تقریر دلپذیر مندرجہ انوار العلوم جلد 10 (مرزا بشیر الدین محمود) □

- 382 منہاج الطالبین مندرجہ انوار العلوم جلد 9 (مرزا بشیر الدین محمود) □
- 383 دافع البلاء (مرزا قادیانی) □
- 384 در ثمین (مرزا قادیانی) □
- 385 نشان آسمانی (مرزا قادیانی) □
- 386 خطبہ الہامیہ (مرزا قادیانی) □
- 387 البلاغ (مرزا قادیانی) □
- 388 الوصیت (مرزا قادیانی) □
- 389 اربعین (مرزا قادیانی) □
- 390 ایام الصلح (مرزا قادیانی) □
- 391 حماۃ البشری (مرزا قادیانی) □
- 392 اسلامی قربانی (قاضی یار محمد قادیانی) □
- 393 ضرورت الامام (مرزا قادیانی) □
- 394 شہادت القرآن (مرزا قادیانی) □
- 395 فتح اسلام (مرزا قادیانی) □
- 396 حیات ناصر (شیخ یعقوب علی عرفانی قادیانی) □





## قادیانی ڈائریکٹری

قادیانیت اگرچہ بدبختی کا دوسرا نام ہے لیکن خوش بختی تمام قادیانیوں سے محض دو قدم کے فاصلے پر منتظر کھڑی ہے۔ جی ہاں! کفر سے ایمان کی جانب سفر ایسی نیکی ہے جس سے بہر حال ”جامد مومن“ محروم رہتا ہے۔ وہ خواتین و حضرات جو ”احمدیت“ سے تائب ہو کر از سر نو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضوری کے درجات حاصل کر گئے، ان کے مقدر پر رشک کیا جاسکتا ہے۔ قدرت نے اگر انہیں سرفراز فرمایا ہے تو اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ انہوں نے اپنے موروثی معتقدات سے نجات پانے کے لیے ایک صبر آزما جنگ لڑی ہے۔ دوستو! دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے آبائی عقیدے کے قلاوے کو گردن سے اتار پھینکنا ہے۔ فرد کا تعلق چاہے اقلیت سے ہو اس کی سوسائٹی کا محاصرہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ میں ظاہری پہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پیش نگاہ وہ ماحول ہے وہ جذباتی دراشت ہے جو فرد کو لہو کے خلیوں میں تحلیل شدہ حالت میں ملتی ہے۔ ماں باپ ہر شخص کے ایک جیسے مکرم و مقدس ہوتے ہیں۔ وہ اولاد کو صرف جنم ہی نہیں دیتے، اپنی بے مثل محبت بھی رگوں میں منتقل کرتے ہیں۔ اسی لیے غلط سے غلط مذہب کا پیروکار بھی اپنے اجداد کے مذہب سے شدید قلبی لگاؤ رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ فرد اکثر بے عمل ہوتا ہے، پوجا پاٹھ میں بھی اخلاص اس کا قبلہ نہیں ہوتا مگر جب اس کے بزرگوں کے عقیدے پر حرف گیری کا مرحلہ آتا ہے تو اس کا لہو کھول اٹھتا ہے اور وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اعتقادات کی حقانیت کے سحر میں گرفتار ہوتا ہے بلکہ سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے والدین کی نفی کرنا یا ان کا نفی کیا جانا دشنام محسوس ہوتا ہے۔ اس قصبے کا تعلق انسانی نفسیاتی پیچیدگیوں کے

ساتھ ہے اور یہ مسئلہ ایسا سادہ نہیں ہے۔ بہر قصہ جب کسی شخص کو معروضی احوال میں اپنے مذہب کا جائزہ لینے کی توفیق ملتی ہے تو اس کے عقل و شعور اکل کمرے ہو کر بین شہادت دے دیتے ہیں، کیا غلط ہے اور کیا درست ہے..... مگر جس کشمکش کا صحرا بالعموم اس سے عبور نہیں ہو پاتا، اس کا نام خون کے رشتوں کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے۔ عہد طفولیت سے جس ماں نے اپنے بچے کو سکھایا پڑھایا ہو کہ یہی سچ ہے، اس شخصیت کا تقدس ہر ظن سے بالا ہے، جس باپ نے قدم قدم پر اپنے بیٹے/ بیٹی کے لیے لازوال ایثار کا مظاہرہ کیا ہو، اس نے ساتھ ساتھ اس کے شعور کو یوں مرتب کیا ہو کہ یہی نظریہ آسانی ہے، یہی مامور ربانی ہے اور پھر اس عمل کا تواتر کم و بیش ربع صدی پر محیط ہو۔ نیز ایسے ماں باپ اپنے تئیں اس ”سچ“ کو سچ یقین کرنے کے فریب میں بھی مبتلا ہوں۔ علاوہ ازیں بچپن سے ہی ارد گرد موجود تمام ”ایجنسیاں“ اسی کار خیر پر مامور ہوں۔ سماجی معاشی حال و مستقبل ان سے جڑے رہنے ہی سے وابستہ ہو..... تو جناب خم ٹھونک کر یہ کہہ دینا کہ میں آج سے اس مدار کے باہر کھڑا ہوں، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔

دوستو! ”احمدیت“ تاریخ کا ایسا القباس ہے، جس کی نظیر نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہے۔ میں گھر کا بھیدی ہوں، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ پیدائشی احمدی کو، احمدی برقرار رکھنے اور مزاج احمدیت میں پختہ تر کر دینے کے لیے، کیسے کیسے جتن کیے جاتے ہیں۔ ”احمدیت“ وہ قلعہ ہے، جسے نقب لگانا ایسا سہل نہیں ہے۔ اس کے بانیوں نے اس ریاست کے گرد ایسی فولادی فصیل استوار کر رکھی ہے، جس پر کند ڈالنا آسان نہیں ہے، احمدی گھرانوں میں فکری آزادی اور بے جھجک مکالمے کے لیے نفا کبھی سازگار نہیں رکھی گئی۔ اور عملاً یہ کوشش کی گئی ہے کہ احمدیت کے فکری نظام پر کوئی گفتگو نہ کر سکے۔ احمدی خاندانوں میں مخالف نقطہ نظر کی جس قدر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس کی مثال ڈھونڈنی مشکل ہے۔

دوستو! یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ میں وہ شخص ہوں، جس نے اعصاب کی رزم گاہ میں ایک ایک ساعت صلیب پر کاٹی ہے..... پیاس کے ایک طویل ریگزار کو طے کیا، تب کہیں جا کر مدنی نخلستانوں تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ قادیانیت سراسر دھوکا ہے مگر اس کا تانا بانا بڑی مہارت سے ترتیب دیا گیا ہے۔ میں اندر کی ہوشربا کہانی سے واقف ہوں..... لیکن میں اکثر یہ سوچ کر ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ علمی دنیا میں ایک شخص

ایسا بھی ہے جس کی ماضی بعید و قریب میں کبھی کسی بھی نوعیت کی احمدیت سے لبت نہیں رہی۔ اس کے علی الرغم وہ قادیانیت کے ریٹے ریٹے سے آگاہ ہے۔ ان محترم کا نام محمد متین خالد ہے۔ مجھے اکثر یہ گمان گزرتا ہے کہ اگر متین خالد صاحب، مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں ہوتے تو یہ اس مدعی نبوت کی راہ میں سد سکندری ثابت ہوتے۔ مجھے بہت اچھی طرح جانکاری ہے کہ احمدی حلقوں میں محمد متین خالد کا حوالہ آتے ہی سب دم بخود ہو جاتے ہیں۔ قادیانیت کی کس چال سے متین صاحب نابلد ہیں، نہیں وہ اس عجیب و غریب مذہب کی رگ رگ سے آگہی رکھتے ہیں۔ احمدیوں کے ساتھ مناظروں میں جب وہ ان کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو منظر دیدنی ہوتا ہے۔ محمد متین خالد صاحب کا طفرائے امتیاز یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر محقق ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ کافی بے رحم محقق ہیں تو نہ یہ گستاخی ہے اور نہ مبالغہ۔ تحقیق کی بازی میں وہ پورے اعتماد کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک عمر صرف کر کے احمدیہ لٹریچر کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہے۔ اور ان کی ریسرچ باون تولے پاؤرتی درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رد قادیانیت پر لکھی ہوئی چالیس کے قریب کتب میں درج بے شمار حوالوں میں سے کوئی حوالہ چیلنج نہیں ہو سکا۔ یوں تو جناب متین خالد کا سارا کام ہی وقیح ہے لیکن جو اعتبار ان کی کتاب ”ثبوت حاضر ہیں“ کو حاصل ہوا ہے وہ لا جواب ہے۔ مذکورہ تصنیف پہلی مرتبہ اکتوبر 1997ء میں منظر عام پر آئی تھی اور علمی مجالس میں اس نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس تالیف کا اختصام یہ ہے کہ اس میں جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد کی تصانیف کے اصل عکس شامل کر دیے ہیں۔ اس سے قادیانیوں کا یہ شکوہ بھی دور ہو گیا ہے کہ مخالفین بغیر کسی ثبوت کے بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں متین صاحب نے اس کتاب کو ”سیریز“ بنا دیا ہے یعنی اس سلسلے کی مزید جلدیں ترتیب دے دی ہیں۔ ان تمام جلدوں میں نئے حوالے قادیانیت پر شش جہات کو تنگ کرنے پر مستعد ہیں۔ سچی بات ہے ”ثبوت حاضر ہیں“ کی اشاعت کے بعد احمدیوں کے لیے کوئی جائے مفر، کوئی گریز کی راہ رہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ متین صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کو قادیانیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین! قادیانی علما کا سدا یہ وتیرہ رہا ہے کہ حالات و واقعات کے مطابق اپنی کتب میں تحریف کر لو (اس ضمن میں ایک نایاب مال میں نے بھی محفوظ کر رکھا ہے جو وقت

آنے پر جب سامنے آیا تو قادیانیت کے ثبوت میں آخری کیل ثابت ہوگا) لیکن یہ تحریفات  
متین صاحب کی نظر سے بچ کر کہیں نہ جاسکیں۔ سو ”ثبوت حاضر ہیں“ پڑھیے اور سر  
دھنیے.....

کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے

احمد کریم شیخ

کینیڈا

[www.ahmedi.org](http://www.ahmedi.org)



## نہیں ملتا سخن اپنا کسی سے

یہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے ورنہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ”ثبوت حاضر ہیں“! کو اس قدر پذیرائی اور مقبولیت حاصل ہوگی کہ اندرون اور بیرون ممالک سے بے شمار خطوط، فون اور ای میلز موصول ہوں گی جن میں احباب نے اس کتاب کی اشاعت پر نہایت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مبارک باد اور دعائیں دیں۔ دراصل ”ثبوت حاضر ہیں“! ایک ایسی کتاب ہے جس کی روشنی میں ایک عام شخص، قادیانی عقائد و عزائم کی بھیانک تصویر واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کے لیے بھی یہ کتاب اس لیے ہوش ربا اور چشم کشا ہے کہ انہوں نے آج تک مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بیٹوں کی ایسی تحریریں کبھی نہیں دیکھیں۔ قادیانی قیادت نے ایک خاص منصوبے کے تحت ایسی متنازعہ تحریروں کو مدت مدید قادیانیوں سے چھپا رکھا ہے۔ اس کتاب میں قادیانی تحریروں کی عکسی شہادتوں کی موجودگی میں کیا کوئی قادیانی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کسی نوع کا ترمیم و اضافہ کیا گیا ہے؟ یا کوئی حوالہ من گھڑت ہے یا کوئی حوالہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے؟ یا کوئی حوالہ قادیانی کتب میں موجود نہیں ہے؟

مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب قادیانی مجھے فون یا ای میل کر کے کسی حوالہ پر گفتگو کرتے اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں اصل کتب دکھائی جائیں۔ اس کے جواب میں، میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب میں موجود حوالہ جات کی تصدیق و توثیق کے لیے کسی قادیانی لائبریری بالخصوص اپنی مرکزی خلافت لائبریری چناب نگر (ربوہ) جائیں اور وہاں سے متعلقہ کتاب نکلوا کر مطلوبہ حوالہ کو سطر بہ سطر، لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف موازنہ کریں، اس عبارت کو مکمل سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں، پھر بالکل غیر

جانبدار ہو کر بغیر کسی تاویل کے دیانتداری کے ساتھ اس تحریر کا وہی مطلب سمجھیں جو لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے ضمیر کی عدالت سے فیصلہ لیں کہ کیا یہ سب کچھ آپ سے جان بوجھ کر نہیں چھپایا گیا؟ کیا ان عقائد کی موجودگی میں مسلمانوں کی آپ سے نفرت حق بجانب ہے یا نہیں؟ جس شخص کو مجدد، مہدی، مسیح موعود اور نبی کہتے آپ کا منہ سوکھتا ہے، کیا اس کا کردار اس قابل ہے کہ اسے ایک شریف آدمی بھی کہا جاسکے؟ اس پر وہ بیچارے دوبارہ رابطہ کرنے کا رسمی وعدہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ سچ کہا گیا ہے:

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مردِ ناداں پر کلامِ نرم و نازک بے اثر

”ثبوت حاضر ہیں!“ کے حوالہ سے یہاں ایک بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل مختلف ٹی وی چینلوں بالخصوص ایکسپریس نیوز چینل پر قادیانیوں کی حمایت میں کئی ایک پروگرام نشر ہوئے۔ جن میں قادیانی جماعت کے سرکردہ راہنماؤں نے شرکت کی اور بڑے جارحانہ انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ کسی شخص یا جماعت کو عقائد کی بنا پر غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 7 ستمبر 1974ء کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ کی طرف سے متفقہ طور پر منظور کی جانے والی ترمیم کو مانتے اور نہ اس سلسلے میں کسی قسم کے آئین، دستور، ضابطے، قانون کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اس حوالے سے کسی اعلیٰ عدالتی فیصلے کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ قادیانیوں کا یہ اقدام ریاست کے خلاف اعلانِ جنگ اور کھلی بغاوت کے مترادف ہے۔ ایسے پروگراموں کے نشر کیے جانے پر ایکسپریس نیوز چینل کو مسلمانوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجہ میں اس کی انتظامیہ نے ”توازن“ برقرار رکھنے کے لیے ایک پروگرام منعقد کروانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس اعتبار سے 11 جون 2010ء کو سہ پہر 4 بجے معروف ٹی وی پروگرام ”فرنٹ لائن“ کے ایٹر جناب کامران شاہد کا مجھے فون آیا اور کہا کہ آج رات 10 بجے ”ختم نبوت اور قادیانیت“ کے موضوع پر لائیو پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ آپ میرے پروگرام کے مہمان ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک معروف قادیانی مبلغ کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے جس کی منظوری مرکزی قادیانی قیادت دے گی۔ مزید کہا کہ آپ 9 بجے تک ہمارے سٹوڈیو پہنچ جائیں تاکہ پروگرام کے بارے میں کچھ ضروری امور طے کر لیں۔ میں نے بعد خوشی ہامی بھرتے ہوئے جناب کامران شاہد کا

شکریہ ادا کیا۔ جلدی میں گھر پہنچا، چند ضروری کتب اکٹھی کیں، نشانات لگائے اور ایک خاص ترتیب سے انھیں بیان کرنے کے لیے ذہن میں خاکہ بنایا۔ دوستوں اور بزرگوں کو فون کر کے دعاؤں کی درخواست کی۔ اسی اثنا میں جب جانے کے لیے تیار ہوا تو جناب کامران شاہد کا فون آ گیا: میں آپ سے بے حد معذرت چاہتا ہوں کہ ایکسپریس انتظامیہ کی طرف سے آج کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا ہے۔ میں نے حیرت سے وجہ پوچھی تو انھوں نے بتایا کہ قادیانی قیادت نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ پروگرام میں غیر احمدی علماء کی طرف سے کون آ رہا ہے تو میں نے کہا: محمد متین خالد۔ انھوں نے کہا کہ وہ..... ”ثبوت حاضر ہیں“..... والے! میں نے عرض کیا..... ہاں! اس پر انھوں نے فوراً کہا کہ ہم اس پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے۔ کامران شاہد نے مجھے مزید بتایا کہ قادیانیوں نے اس خوف سے کہ اگر یہ پروگرام نشر ہو گیا تو لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو ہمارے اصل عقائد و نظریات کا علم ہو جائے گا اور اس طرح مسلمانوں میں ہمارے خلاف غصہ کی ایک نئی لہر دوڑ جائے گی۔ چنانچہ قادیانی قیادت نے پیرا اور وزارت اطلاعات و نشریات میں موجود اعلیٰ عہدوں پر فائز قادیانیوں کے ذریعے ایکسپریس نیوز چینل کے مالکان سے اس پروگرام کی منسوخی کے لیے دباؤ ڈالا جس پر ایکسپریس نیوز چینل کی انتظامیہ نے فوری طور پر پروگرام کینسل کر دیا۔ میں نے کامران شاہد کو بتایا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں قادیانیوں کی آئینی، قانونی، عدالتی اور شرعی حیثیت کو پیش کرنا تھا اور قادیانیوں کے وہ کفریہ عقائد جنہیں پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، جو آنجہانی مرزا قادیانی اور اس کے بیٹوں کی کتابوں میں موجود ہیں، بیان کرنے تھے۔ لہذا ان عقائد کے منظر عام پر آنے کے اندیشے سے قادیانی راہ فرار اختیار کر گئے۔ میں نے گزارش کی کہ قادیانی جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، صحافیوں کی موجودگی میں اپنے عقائد پر پڑا من طور پر بحث مباحثہ کر سکتے ہیں۔ اس پر کامران شاہد بہت خوش ہوئے اور ایک بار پھر معذرت کی۔

16 جون 2010ء کو رات 11 بجے ایکسپریس نیوز چینل کے پروگرام ”پوائنٹ

بلینک“ (Point Blank) کے معروف ایٹکر جناب مبشر لقمان نے اپنے لائیو پروگرام میں ”ثبوت حاضر ہیں“! کا تعارف کرواتے ہوئے اسے تمام مسلمانوں اور قادیانیوں کو پڑھنے کی دعوت دی۔ جس پر قادیانیوں نے انٹرنیٹ پر جناب مبشر لقمان کے خلاف اپنے مسیح موعود کی پیروی میں خوب ہرزہ سرائی کی:

لاکھ سیاہی چھائی ہو، ابر رواں سے کیا ڈرنا  
 سورج کا مرکز ہے معین، ظلمت چلتا سایہ ہے  
 باطل اپنے چہرے پر حق کا غارہ مل لے تو سادہ لوحوں کا اس سے بچنا مشکل ہو جاتا  
 ہے۔ قادیانیت اور دھوکہ دہی دو جڑواں بہنیں ہیں جن کی سرشت ایک، طینت ایک اور روح  
 ایک ہے۔ قادیانیت کا اپنا ایک جہنم ہے جہاں لالچ کے کانٹے، مفاد کے ہتھکنڈے، عقائد کے  
 اندھے گلیارے اور مادی دولت کے آتش کدے ہیں جو اپنے ہیروکاروں کو حق کی طرف جانے  
 نہیں دیتے۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ بھٹکے ہوؤں کو راستہ دکھایا جائے۔ ٹیڑھے میڑھے، اوڑھ  
 کھا بڑ راستوں سے ہٹا کر انھیں صراط مستقیم پر چلایا جائے۔ سچائی سے انکار کی بھیڑ میں کھوئے  
 ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ ”ثبوت حاضر ہیں“! اسی مشن کی تکمیل کے لیے  
 تحریر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے! آمین!

نہیں ملتا سخن اپنا کسی سے  
 ہماری گفتگو کا ڈھب جدا ہے

خاکپائے مجاہدین ختم نبوت  
 محمد متین خالد

Email: fatchqadyaniat@hotmail.com









ثبوتِ حاضرین!

مرزا قادیانی

۷

حالاتِ زندگی



مسئلہ ثانی آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنی ذات کے متعلق ایک بڑا ہی

عجیب شعر ہے:

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاکم مطلق اور مختار کل ہے، اس نے اپنی قدرت

کاملہ اور لازوال طاقت کے ذریعہ ”مسئلہ قادیان“ کی زبان و قلم سے وہ کچھ کہلوا یا جس سے

مرزا قادیانی کی حقیقت الم نشرح ہو کر رہ گئی۔ آنجہانی کی تحریرات کو ایک خاص نظم و ترتیب

سے سامنے رکھا جائے تو اس کے پاگل پن، مرقی طبیعت اور حماقت کی حقیقت کھل کر سامنے

آجاتی ہے اور ہر شریف آدمی یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی اسلامی اقدار تو کیا،

عمومی انسانی اخلاق سے بھی عاری اور محروم تھا، چہ جائیکہ نبوت کا عالی مرتبت مقام، جو اللہ

تعالیٰ کی نعمتوں میں انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایسی نعمت جس کی تکمیل اللہ

رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر کر دی۔ حضور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ

کے اس عظیم منصب پر بہت سے ڈاکو حملہ آور ہونے کے لئے اس جہان رنگ و بو میں نمودار

ہوئے لیکن آقائے نامدار ﷺ کے غلاموں نے ان طالع آزمائوں کی ایک نہ چلنے دی اور اکثر

تو ”ارتداد“ کے سنگین جرم کے سبب تہ تیغ کر دیے گئے۔

یہ شخص حسن اتفاق تھا کہ مرزا قادیانی نے منصب نبوت پر اس وقت ڈاکہ ڈالا، جب

گوری اقلیت حکمران تھی اور بلکہ اسی اقلیت نے اسے کام کے لیے منتخب کیا۔ برٹش حکومت کے

زیر سایہ موصوف پروان چڑھے اور 1908ء میں عبرت ناک موت کے بعد بھی اس کی

جماعت اسلام کے نام پر پھیلتی رہی۔ تا آنکہ 1974ء میں پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے

متفقہ طور پر مرزا قادیانی کے تمام پیروکاروں کو جسد ملی سے آئینی اور دستوری طور پر کاٹ کر

پھینک دیا۔

”ثبوت حاضر ہیں!“ حصہ اول میں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی اسلام، نبی کریم ﷺ اور دیگر مقدس شخصیات کے بارے میں کلیجہ شق کر دینے اور آنکھوں میں خون اتار دینے والی گستاخیاں، ہرزہ سرانیاں اور توہینیں پڑھ آئے ہیں، جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ایسی دریدہ دہیوں کی جرأت تو شیطان کو بھی نہ ہو سکی تھی۔ مسلمہ کذاب، اسود غنسی، راج پال، لیکھ رام اور سلمان رشدی، مرزا قادیانی کے مقابلہ میں اسلام کے خلاف بغض و عناد کے حوالے سے بونے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف مرزا قادیانی کا ذاتی کردار اس قدر مضحکہ خیز ہے کہ اسے نبی تو کیا، ایک شریف آدمی بھی کہنا، شرافت کی اہانت ہے۔

”وفات مسیح“ اور ”اجزائے نبوت“ ہر قادیانی کا پسندیدہ موضوع ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیکنیکل موضوع ہے کہ ایک عام اور سادہ لوح مسلمان قرآن و حدیث سے لاعلمی اور ناقص مطالعہ کی بنا پر مدلل گفتگو نہیں کر سکتا۔ جبکہ ایک عام قادیانی کی اس خاص موضوع پر بھرپور تیاری ہوتی ہے اور یوں وہ ایک عام مسلمان پر نفسیاتی فتح بزم خود حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس کسی بھی قادیانی سے گفتگو، بحث یا مناظرہ کے شروع میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ”آج مرزا قادیانی کی شخصیت و کردار“ پر بات ہوگی تو یقین جانے، قادیانیوں کے اوسان خطا اور ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں بلکہ بعض تو اس قدر طیش میں آجاتے ہیں کہ گویا گالی سے ان کی تواضع کی گئی ہے۔ قادیانی کبھی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتے بلکہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ”کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔“ قادیانیوں کو تنہائی میں بیٹھ کر اس اہم نکتہ پر ضرور غور کرنا چاہیے۔

خود قادیانی قیادت کے نزدیک کسی مدعی نبوت و رسالت کے دعویٰ کو جانچنے کا پہلا معیار یہ ہے کہ اس کا کردار دیکھیں کہ آیا وہ صادق ہے یا کاذب۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے:

(1) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے کہ جب فتح اسلام، توحیح

مقام شائع ہوئیں تو ابھی میرے پاس نہ پہنچی تھیں اور ایک مخالف شخص کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا: دیکھو اب میں مولوی صاحب کو یعنی مجھے مرزا غلام احمد سے علیحدہ کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب! کیا نبی کریم ؐ کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر؟ میں نے کہا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور راستباز ہے یا نہیں۔ اگر صادق ہے تو بہر حال اس کی بات کو قبول کریں گے۔“

(سیرت المہدی ج اول ص 98 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ 397 پر)

اس طرح قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ مرزا محمود اس کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتا ہے:

(2) ”جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص فی الواقع مامور من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو پھر اجمالاً اس کے تمام دعاوی پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے..... غرض اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مدعی ماموریت فی الواقع سچا ہے یا نہیں؟ اگر اس کی صداقت ثابت ہو جائے تو اس کے تمام دعاوی کی صداقت بھی ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی سچائی ہی ثابت نہ ہو تو اس کے متعلق تفصیلات میں پڑنا وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔“

(دعوت الامیر ص 49، 50 مندرجہ انوار العلوم ج 7 ص 376، 377 از مرزا بشیر الدین محمود)  
(عکس صفحہ 398 پر)

قادیانی عقائد کے مطابق اگر مرزا قادیانی نبی اور رسول ہے تو قادیانیوں کو مرزا قادیانی کے کردار پر بات کرتے ہوئے ہرگز نہیں کترانا چاہیے۔ کیونکہ نبی اور رسول تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں، میں آپ کے سامنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

ایک روز حضور نبی کریم ﷺ نے کوہ صفا پر چڑھ کے لوگوں کو بلانا شروع کیا جب سب جمع ہوئے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو؟

سب نے ایک آواز سے کہا: ہم نے کوئی بات غلط یا بیہودہ آپ کے منہ سے نہیں سنی، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ دیکھو! میں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے ہو۔ میں پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی نظر کر رہا ہوں، اچھا اگر میں یہ کہوں کہ رہزنوں کا ایک مسلح گروہ دور سے نظر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا۔ کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟

لوگوں نے کہا: ”بے شک! کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے راست باز آدمی کے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں، خصوصاً جبکہ وہ ایسے بلند مقام پر کھڑا ہے کہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی۔ اب یہ یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آرہی ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میں عالم آخرت کو بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہوں، جیسے دنیا پر تمہاری نظر ہے۔“

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے شرک کے خرافات و بطلان کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور حیثیت کو واضح کرنا شروع کر دیا۔ آپ ﷺ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے، وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا۔ انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کی تاریخ میں اس کے کردار کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آخر اس کے بالقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔

قارئین محترم! اس باب میں زیادہ تر حوالہ جات ”تذکرہ“ اور ”سیرت المہدی“ نامی قادیانی کتب سے لیے گئے ہیں۔

”تذکرہ“ مرزا غلام احمد قادیانی پر اترنے والی خود ساختہ وحیوں اور الہامات کا مجموعہ ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک اس کی حیثیت نعوذ باللہ قرآن مجید جیسی ہے، کیونکہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام وحیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں (نعوذ باللہ)! قرآن مجید



کے بہت سے نام ہیں جن میں ایک نام ”تذکرہ“ بھی ہے۔ قادیانیوں نے دجل و تلمیس سے کام لیتے ہوئے اس کا نام ”تذکرہ“ رکھا۔

”سیرت المہدی“ مرزا بشیر احمد ایم اے کی بدنام زمانہ تصنیف ہے۔ مرزا بشیر احمد، مرزا قادیانی کا منجھلا بیٹا ہے جسے مرزا نے ”قمر الانبیا“ قرار دیا تھا۔ اس کتاب میں مرزا بشیر احمد نے اپنے باپ مرزا قادیانی کے تمام حالات زندگی اور ذاتی کردار تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اس لیے اس کی تمام روایات قادیانیوں کے نزدیک مستند ہیں جن سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ قادیانیوں کے نزدیک (نعوذ باللہ) یہ حدیث اور سنت کی کتاب ہے، کیونکہ جو کچھ مرزا قادیانی نے کہا اور کوئی عمل کیا ہے، قادیانیوں کے نزدیک (نعوذ باللہ) حدیث و سنت کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں (بخاری و مسلم وغیرہ) میں ہر حدیث مبارکہ کے شروع میں درج ہوتا ہے، مثلاً: ”روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں.....“

اس کی نقل اتارتے ہوئے مرزا بشیر احمد نے اس کتاب میں درج تمام روایات کے شروع میں لکھا: مثلاً، روایت کیا ہے ام المومنین (مرزا قادیانی کی بیوی) نے کہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں..... (نعوذ باللہ)!

قادیانی روزنامہ ”الفضل“ قادیان مورخہ 14 ستمبر 1929ء کے مطابق اس کتاب میں کافی چھان بین اور غور و خوض کے بعد مرزا قادیانی کے خصائص و شمائل و سیرت کے متعلق نہایت ثقہ روایات درج کی گئی ہیں۔ 19 فروری 1924ء کے ”الفضل“ کے مطابق ”ہر روایت کتب حدیث کی طرز پر بیان کی گئی ہے۔ ہر روایت پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حدیث کی کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ ہر احمدی کے پاس اس کتاب کا ہونا لازم ہے۔“

خدا کی زمین پر اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی!

آئیے مرزا قادیانی کی کہانی، خود اس کی اور اس کے اپنوں کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:-

## پیدائش

(3) ”میں تو ام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا اور یہ الہام کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة جو آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ 496 میں درج ہے۔ اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، اس کا نام جنت تھا اور یہ لڑکی صرف سات ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہو گئی تھی۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آدم صلی اللہ سے مشابہت دی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس قانون قدرت کے مطابق جو مراتب وجود دوریہ میں حکیم مطلق کی طرف سے چلا آتا ہے۔ مجھے آدم کی خواہر طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ واقعات جو حضرت آدم پر گزرے۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی۔ اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی۔ یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں۔ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا۔ اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد میں اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔“

(تریاق القلوب صفحہ 351 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 479 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 400 پر)

مرزا قادیانی کے الفاظ پر غور فرمائیں: ”پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد میں اس کے میں نکلا تھا۔“ کتنے بازاری اور گھٹیا الفاظ ہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سلطان القلم بنایا گیا ہوں۔ پھر قرآن مجید کی آیت کو اپنا الہام بنا کر پیش کیا اور وہ آسمانی جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو قیام کرنے کی نوید سنائی گئی تھی، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ وہ میری بہن ہے۔ ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں مرزا قادیانی ”بقلم خود“ خاتم الاولاد کا معنی ”اولاد کے ختم کرنے والا“ تسلیم کر رہا ہے، لیکن جب خود نبی بننے کی سوچھی تو خاتم الانبیا کا معنی ”نبیوں کے ختم کرنے والا“ ماننے سے انکار کر دیا۔

## سراور پیر

(4) ”اور اس پیشگوئی کو شیخ محی الدین ابن العربی نے فصوص الحکم میں فص شیت میں لکھا ہے اور دراصل یہ پیشگوئی فص آدم میں رکھنے کے لائق تھی۔ مگر انہوں نے شیت کو الولد سرلابیہ کا مصداق سمجھ کر اسی کے فص میں اس کو لکھ دیا ہے۔ ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس جگہ شیخ کی اصل عبارت نقل کر دیں اور وہ یہ ہے۔ ”وعلیٰ قدم شیت یكون آخر مولود یولد من هذا النوع الانسانی وهو حامل اسرارہ، ولیس بعدہ ولد فی هذا النوع فهو خاتم الاولاد. وتولد معہ اخت له فتخرج قبلہ و یخرج بعدها یكون رأسہ عند رجليها. و یكون مولده بالصین ولغته لغت بلده. و یسری العقم فی الرجال والنساء فیکثر النکاح من غیر ولادة. ویدعوهم الی اللہ فلا یجاب.“ یعنی کامل انسانوں میں سے آخری کامل ایک لڑکا ہوگا جو اصل مولد اس کا چچن ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم مغل اور ترک میں سے ہوگا۔ اور ضروری ہے کہ عجم میں سے ہوگا نہ عرب میں سے۔ اور اس کو وہ علوم اور اسرار دیے جائیں گے جو شیت کو دیے گئے تھے اور اس کے بعد کوئی اور ولد نہ ہوگا اور وہ خاتم الاولاد ہوگا۔ یعنی اس کی وفات کے بعد کوئی کامل بچہ پیدا نہیں ہوگا اور اس فقرہ کے یہ بھی معنی ہیں کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی۔ اور وہ اس کے بعد نکلے گی۔ اس کا سر اس دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا۔ یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی کہ پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر اور اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس پسر کا سر نکلے گا (جیسا کہ میری ولادت اور میری توام ہمشیرہ کی اسی طرح ظہور میں آئی۔“)

(تریاق القلوب صفحہ 355 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 482، 483 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 401 پر)

## تاریخ پیدائش کا دلچسپ اختلاف

مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب میں ضلع گورداسپور کے ایک قصبے ”قادیان“ میں پیدا ہوا۔ یہ قصبہ امرتسر سے شمال مشرق کی طرف ریلوے لائن پر ایک قدیم شہر بٹالہ سے گیارہ میل

کے فاصلے پر واقع ہے۔ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش کا تذکرہ کئی کتابوں سے ملتا ہے، لیکن اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی اپنی پیدائش کے بارے لکھتا ہے:

(5) ”میری پیدائش 1839ء یا 1840ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں 1857ء میں سولہ برس کا یا سترہویں برس میں تھا اور ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں تھا۔“  
(کتاب البریہ (حاشیہ) صفحہ 159 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 177 مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 403 پر)

(6) ”لیکن بعد میں اس کے خاندان کے افراد میں ان کے سال ولادت کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا، اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد، جو اس کا سوانح نگار اور سیرت المہدی کا مصنف ہے، کے پہلے نظریے کے مطابق سال ولادت 1836 یا 1837ء ہو سکتا ہے۔“  
(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 150 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 404 پر)

(7) ”پس 13 فروری 1835ء عیسوی بمطابق 14 شوال 1250 ہجری بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے۔“  
(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 76 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 405 پر)

(8) ”ایک تخمینہ کے مطابق سال ولادت 1831ء ہو سکتا ہے۔“  
(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 74 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 406 پر)

(9) ”معراج دین نے تاریخ ولادت 17 فروری 1832ء مقرر کی ہے۔“  
(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 302 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 407 پر)

(10) ”جبکہ دیگر 1833ء یا 1834ء کو سال ولادت قرار دیتے ہیں۔“  
(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 194 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 408 پر)

1914ء میں جب قادیانی جماعت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور لاہوری گروپ کا وجود عمل میں آیا تو لاہوری گروپ کے مورخ بشارت احمد لاہوری نے مرزا قادیانی کی تحریر کے 42 سال بعد 1939ء میں مرزا قادیانی کی سوانح حیات ”مجدد اعظم“ میں لکھا:

(11) ”حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنہ ولادت کے متعلق کوئی تحریری یادداشت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اس لیے اس امر میں اختلاف ہونا لازمی امر تھا۔ مگر تحقیقات سے سنہ ولادت 1835ء صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے کتاب البریہ میں اپنی پیدائش کا سنہ 1839ء یا 1840ء لکھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے یہ کسی تحریری یادداشت کی بنا پر نہیں لکھا، محض تخمینہ یا اندازہ سے قیاس کر کے ایسا لکھ دیا۔ اسی لیے کوئی سنہ متعین نہیں کیا۔“  
(مجدد اعظم جلد اول صفحہ 16 از ڈاکٹر بشارت احمد لاہوری قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 409 پر)

آنجنابی مرزا قادیانی کے اپنے قول کے مطابق اس کی پیدائش 1839ء یا 1840ء میں ہوئی ہے لیکن اس کے سوانح نگاروں نے اس سلسلے میں مرزا قادیانی کی تحریروں کو باہمی اختلاف و تضاد، تخمین و ظن اور قیاس پر مبنی مان کر ان کو مسترد کر دیا ہے اور اپنی نئی نئی تحقیقات کی بنا پر 1835ء، 1836ء کو ولادت کا سن متعین کیا ہے۔

لیکن اس موقع پر مرزائیوں کے لیے ایک بات ضرور غور طلب ہے کہ مرزائیوں کا مرزا قادیانی کی ہی لکھی ہوئی تاریخ ولادت میں اختلاف کرنا اور نئی تحقیقات پیش کرنا خود مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیل بنتی ہے۔

مرزا قادیانی کی عمر میں ترمیم ایک خاص مقصد کے لیے کی گئی تھی تاکہ اس کی ایک پیش گوئی کو سچ ثابت کیا جاسکے، مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی اربعین نمبر 3 صفحہ 80 (مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 422) پر درج کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔

نہایت تاسف کا مقام ہے کہ مرزائی حضرات نے مرزا قادیانی کی مقام افسوس اور خلاف الہام وفات سے سبق لینے کی بجائے اس کے واقعاتِ عمر میں ہی روو بدل کرنا شروع کر دیا۔ وفات کی تاریخ تو وہ بدل نہ سکتے تھے۔ ناچار انہوں نے تاریخ پیدائش میں اختلاف کرنا شروع کر دیا کہ کسی نہ کسی بہانے واقعات کو پیش گوئی پر منطبق کیا جاسکے۔

کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے

### نام و نسب

(12) ”میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے۔“

(کتاب البریہ (حاشیہ) صفحہ 144 روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 162 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 410 پر)

### میں کون ہوں؟

(13) ”ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہیں۔“

(تریاق القلوب صفحہ 145 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 273 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 411 پر)

(14) ”ہمارا خاندان جو اپنی شہرت کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کہلاتا ہے، اس پیشگوئی کا مصداق ہے کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے کہ جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے مگر یہ تو یقینی اور مشہور و محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ صینی الاصل ہیں یعنی چین کے رہنے والی۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 209 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 209 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 412 پر)

(15) ”میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں مگر بعض دادیاں میری سادات میں سے تھیں۔“  
(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 192 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 363 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 413 پر)

(16) ”اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ مغلیہ۔ نہ معلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا۔“

(ہیبتہ الوحی صفحہ 78 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 81 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 414 پر)

(17) ”میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہؑ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے۔“  
(تریاق القلوب صفحہ 158 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 286، 287 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 415، 416 پر)

### ذات بدلنے والا کون؟

(18) ”عتل بعد ذلک زنیم۔“ (القلم: 13)

قرآن مجید میں زنیم کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے۔“

(تفسیر صغیر صفحہ 763 از مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 417 پر)

(19) مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں عتل بعد ذلک زنیم، (القلم: 13)

کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زنیم کے معنی ہیں ولد الزنا (یعنی زنا کی پیداوار، ولد الحرام)

(ازالہ اوہام صفحہ 29، 30 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 116، 117 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 418، 419 پر)

## والد اور بھائی کے نقش قدم پر

(20) ”اور اگر ہم اس کی تمام خدمات لکھنا چاہیں تو اس جگہ سمانہ سکیں اور ہم لکھنے سے عاجز رہ جائیں۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا باپ سرکار انگریزی کے مراحم کا ہمیشہ امیدوار رہا اور عندالضرورت خدمتیں بجا لاتا رہا۔ یہاں تک کہ سرکار انگریزی نے اپنی خوشنودی کی چٹھیات سے اس کو معزز کیا اور ہر ایک وقت اپنے عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فرمایا اور اس کی غنخواری فرمائی اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنے خیر خواہوں اور مخلصوں میں سے سمجھا۔ پھر جب میرا باپ وفات پا گیا تب ان خصلتوں میں اس کا قائم مقام میرا بھائی ہوا جس کا نام مرزا غلام قادر تھا اور سرکار انگریزی کی عنایات ایسی ہی اس کے شامل حال ہو گئیں جیسی کہ میرے باپ کے شامل حال تھیں اور میرا بھائی چند سال بعد اپنے والد کے فوت ہو گیا، پھر ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اور ان کی سیرتوں کی پیروی کی۔“

(نورالحق صفحہ 38 مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 38 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 420 پر)

## والد کی وفات پر اللہ تعالیٰ کی تعزیت

(21) ”میں اس بات کو فراموش نہیں کروں گا کہ میرے والد صاحب کی وفات کے وقت خدا تعالیٰ نے میری عزا پرسی کی اور میرے والد کی وفات کی قسم کھائی جیسا کہ آسمان کی قسم کھائی۔ جن لوگوں میں شیطانی روح جوش زن ہے وہ تعجب کریں گے کہ ایسا کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو اس قدر عظمت دے کہ اس کے والد کی وفات کو ایک عظیم الشان صدمہ قرار دے کر اس کی قسم کھاوے۔ مگر میں پھر دوبارہ خدائے عزوجل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ واقعہ حق ہے اور وہ خدا ہی تھا جس نے عزا پرسی کے طور پر مجھے خبر دی اور کہا کہ والسماء والطارق اور اسی کے موافق ظہور میں آیا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 219 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 219 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 421 پر)

حیرت زدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد محترم



حضرت یعقوب علیہ السلام کی رحلت پر عزا پرسی نہ کی اور اگر کی ہوتی تو ضرور احادیث نبویہ میں اس کا ذکر ہوتا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے والد مکرم حضرت اسحاق علیہ السلام کے حادثہ انتقال پر تعزیت نہ فرمائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال پر کوئی عزا پرسی نہ کی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے والد مکرم حضرت داؤد علیہ السلام کے سانحہ ارتحال پر تعزیت نہ کی حالانکہ یہ تمام باپ بیٹے انبیاء و مرسلین تھے لیکن عزاداری کی تو انگریزوں کے تاؤٹ غلام مرتضیٰ کے انتقال پر کی، جو نبی تھا نہ صدیق، مہاجر تھا نہ شہید، زاہد تھا نہ عارف، عالم تھا نہ حافظ، غرض کچھ بھی نہ تھا۔ البتہ مرزا غلام مرتضیٰ میں دو ”خصوصیات“ ایسی پائی جاتی تھیں جو کسی نبی میں گزری ہیں اور نہ کسی صدیق، شہید، عارف اور ولی میں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کا والد تھا۔ دوسری یہ کہ وہ بے نمازی تھا۔ مؤخر الذکر خصوصیت کے متعلق مرزا بشیر احمد، ایم۔ اے۔ ”سیرۃ المہدی“ میں لکھتا ہے:

## مرزا قادیانی کا والد بے نمازی

(22) ”بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کہ ایک دفعہ قادیان میں ایک بغدادی مولوی آیا۔ دادا صاحب نے اس کی بڑی خاطر و مدارات کی۔ اس مولوی نے دادا صاحب سے کہا مرزا قادیانی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ دادا صاحب نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہاں بیشک میری غلطی ہے۔ مولوی صاحب نے پھر بار بار اصرار کے ساتھ کہا اور ہر دفعہ دادا صاحب یہی کہتے گئے کہ میرا قصور ہے۔ آخر مولوی نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتے، اللہ آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس پر دادا صاحب کو جوش آ گیا اور کہا ”تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ مجھے کہاں ڈالے گا۔ میں اللہ تعالیٰ پر ایسا بدظن نہیں ہوں، میری امید وسیع ہے۔ خدا فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمة اللہ تم مایوس ہو گئے، میں مایوس نہیں ہوں۔ اتنی بے اعتقادی میں تو نہیں کرتا۔“ پھر کہا ”اس وقت میری عمر 75 سال کی ہے۔ آج تک خدا نے میری پیٹھ نہیں لگنے دی ہے تو کیا اب وہ مجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔“ خاکسار عرض کرتا ہے۔ پینہ گناہ پنجابی کا محاورہ ہے جس کے معنی دشمن کے مقابلہ میں

ذلیل و رسوا ہونے کے ہیں ورنہ ویسے مصائب تو دادا صاحب پر بہت آئے ہیں۔“  
(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 231 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 422 پر)

## مقدمات میں وقت ضائع

(23) ”میرے والد صاحب اپنے بعض آبا و اجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کے لیے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کر رہے تھے، انہوں نے ان ہی مقدمات میں مجھے بھی لگایا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سا وقت عزیز میرا ان بیہودہ جھگڑوں میں ضائع گیا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری امور کی نگرانی میں مجھے لگا دیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا۔ اس لیے اکثر والد صاحب کی ناراضگی کا نشانہ رہتا رہتا رہا۔“

(کتاب البریہ حاشیہ صفحہ 164 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 182 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 423 پر)

## مرزا قادیانی کی تلاش

(24) ”کوئی حضرت مرزا صاحب سے ملنے آتا اور آپ کے متعلق دریافت کرتا تو فرماتے کہ مسجد کے سقاوہ کی کسی ٹونٹی میں جا کر دیکھو۔ اگر وہاں نہ پاؤ تو مسجد کے اندر کسی گوشہ میں تلاش کرو۔ اگر وہاں بھی نہ ہو تو دیکھنا کہ کسی صف میں کوئی پیٹ کر کھڑا کر گیا ہوگا، کیونکہ وہ زندگی میں ہی مرا ہوا ہے۔“

(مجدد اعظم جلد اول صفحہ 27 از ڈاکٹر بشارت احمد لاہوری قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 424 پر)

## بازو ٹوٹ گیا

(25) ”بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کہ ایک دفعہ والد صاحب اپنے چوبارے کی کھڑکی سے گر گئے اور دائیں بازو پر چوٹ آئی

چنانچہ آخر عمر تک وہ ہاتھ کمزور رہا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ آپ کھڑکی سے اترنے لگے تھے، سامنے سٹول رکھا تھا، وہ الٹ گیا اور آپ گر گئے اور دائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ ہاتھ آخر عمر تک کمزور رہا۔ اس ہاتھ سے آپ لقمہ تو منہ تک لے جاسکتے تھے مگر پانی کا برتن وغیرہ منہ تک نہیں اٹھا سکتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ نماز میں بھی آپ کو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے سہارے سے سنبھالنا پڑتا تھا۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 216، 217 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 425 پر)

## اور انگلی کٹ گئی

(26) ”خاکسار کے ماموں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گھر میں ایک مرغی کے چوزہ کے ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اس وقت گھر میں کوئی اور اس کام کو کرنے والا نہ تھا۔ اس لیے حضرت صاحب اس چوزہ کو ہاتھ میں لے کر خود ذبح کرنے لگے مگر بجائے چوزہ کی گردن پر چھری پھیرنے کے غلطی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی جس سے بہت خون گیا اور آپ توبہ توبہ کرتے ہوئے چوزہ کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ چوزہ کسی اور نے ذبح کیا۔“

(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 4 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 427 پر)

## کسی کی جان گئی، کسی کی ادا ٹھہری

(27) ”صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم کے دل بہلانے کے واسطے ایک دفعہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں کہیں سے لائی گئیں۔ صاحبزادہ صاحب ان چڑیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا پسند کرتے تھے اور بعض دفعہ بچپن کی ناواقفی سے ایسی طرح پکڑتے اور دبائے رکھتے کہ چڑیا کی جان پر بن جاتی۔ اس پر گھر کی کسی خادمہ نے صاحبزادہ صاحب کو چڑیا ہاتھ میں پکڑنے سے روکا۔ مگر حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے اس خادمہ کو منع کیا۔ فرمایا کہ یہ چڑیاں اس کے دل بہلانے کے واسطے ہیں۔ جس طرح چاہے پکڑے، تم نہ روکو۔“

(ذکر حبیب صفحہ 171 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 428 پر)

## چھری چل گئی

(28) ”حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک چوزہ ذبح کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے بذریعہ تحریر خاکسار سے بیان کیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود عصر کی نماز کے وقت مسجد مبارک میں تشریف لائے، بائیں ہاتھ کی انگلی پر پٹی پانی میں بھیگی ہوئی باندھی ہوئی تھی۔ اس وقت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے حضرت اقدس سے پوچھا کہ حضور نے یہ پٹی کیسے باندھی ہے؟ تب حضرت اقدس نے ہنس کر فرمایا کہ ایک چوزہ ذبح کرنا تھا۔ ہماری انگلی پر چھری پھر گئی۔ مولوی صاحب مرحوم بھی ہنسے اور عرض کیا کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت اور کوئی نہ تھا۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 6 از بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 429 پر)

## لطیفہ

(29) ”بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سنا تے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے بیٹھا لاؤ۔ میں گھر آیا اور بغیر کسی سے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید پورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا اور راستہ میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی، بس پھر کیا تھا میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ معلوم ہوا کہ جسے میں نے سفید پورا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا، وہ پورا نہ تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ گھر میں مٹھی روٹیاں پکیں کیونکہ حضرت صاحب کو مٹھی روٹی پسند تھی، جب حضرت صاحب کھانے لگے تو آپ نے اس کا ذائقہ بدلا ہوا پایا مگر آپ نے اس کا خیال نہ کیا، کچھ اور کھانے پر حضرت صاحب نے کڑواہٹ محسوس کی اور والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ روٹی کڑوی معلوم ہوتی ہے؟ والدہ صاحبہ نے پکانے والی سے پوچھا، اس نے کہا میں نے تو بیٹھا ڈالا تھا۔ والدہ صاحبہ نے پوچھا کہ کہاں سے لے کر ڈالا تھا؟ وہ برتن لاؤ۔ وہ عورت ایک ٹین کا ڈبہ اٹھالائی دیکھا تو معلوم ہوا کہ کونین کا ڈبہ تھا اور اس عورت نے جہالت سے بجائے بیٹھے کے روٹیوں میں کونین ڈال دی تھی، اس دن گھر میں یہ بھی ایک لطیفہ ہو گیا۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 244، 245 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 430 پر)

## راکھ سے روٹی

(30) ”بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ بعض بوڑھی عورتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا، انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا کہ یہ لے لو۔ حضرت نے کہا نہیں یہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی، حضرت صاحب نے اس پر بھی وہی جواب دیا۔ وہ اس وقت کسی بات پر چڑھی ہوئی بیٹھی تھیں، سختی سے کہنے لگیں کہ جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں ایک لطیفہ ہو گیا۔ یہ حضرت صاحب کا بالکل بچپن کا واقعہ ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے یہ واقعہ سنا کر کہا کہ جس وقت اس عورت نے مجھے یہ بات سنائی تھی، اس وقت حضرت صاحب بھی پاس تھے مگر آپ خاموش رہے۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 245 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 432 پر)

## مٹی اور گڑ کے ڈھیلے

(31) ”آپ (مرزا قادیانی) کو شیرینی سے بہت پیار تھا اور مرض بول بھی عرصہ سے آپ کو لگی ہوئی تھی۔ اس زمانہ میں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض وقت جیب میں ہی رکھتے تھے اور اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔“

(سبح موعود کے مختصر حالات ملحقہ براہین احمدیہ طبع چہارم صفحہ 67، مرتبہ معراج الدین عمر قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 433 پر)

نمک اور چینی میں فرق نہ کرنے والا مرزا قادیانی مٹی اور گڑ کے ڈھیلے سے جو سلوک کرتا ہوگا، وہ تو ظاہر ہی ہے مگر اس سے بھی زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ اس جیب کی صورت اور حالت کیا ہوگی جس میں وٹوانی کے لئے مٹی کے کئی ڈھیلے اور کھانے کے لئے گڑ کے کئی ڈھیلے اکٹھے رکھتا تھا۔ کیا مرزا قادیانی کی نفاست طبعی جانچنے کے لئے یہ ایک عمل ہی کافی نہیں ہے؟

بالفرض اگر ڈھیلے نہ بھی بدلتا ہو مگر مٹی کو گڑ اور گڑ کو مٹی تھوڑا بہت تو لگ ہی جاتا ہوگا۔ اس طرح مرزا قادیانی گڑ کھاتے وقت مٹی کے ڈالنے اور وٹوانی کرتے وقت گڑ کے مزے سے یقیناً لطف اندوز ہوتا ہوگا۔

## سُندھی

(32) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ تمہاری دادی ایہہ ضلع ہوشیار پور کی رہنے والی تھیں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ ایہہ گئے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سرکنڈے سے ذبح کر لیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایہہ سے چند بوڑھی عورتیں آئیں تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نہ سمجھ سکی کہ سندھی سے کون مراد ہے۔ آخر معلوم ہوا کہ ان کی مراد حضرت صاحب سے ہے۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ دستور ہے کہ کسی منت ماننے کے نتیجے میں بعض لوگ خصوصاً عورتیں اپنے کسی بچے کا عرف سندھی رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ کی والدہ اور بعض عورتیں آپ کو بھی بچپن میں کبھی اس لفظ سے پکار لیتی تھیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ سندھی غالباً دسونڈھی یا دسبندھی سے بگڑا ہوا ہے۔ جو ایسے بچے کو کہتے ہیں جس پر کسی منت کے نتیجے میں دس دفعہ کوئی چیز باندھی جاوے اور بعض دفعہ منت کوئی نہیں ہوتی بلکہ یونہی پیار سے عورتیں اپنے کسی بچے پر یہ رسم ادا کر کے اسے سندھی پکارنے لگ جاتی ہیں۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 45 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 434 پر)

مرزا قادیانی کا مشہور شعر ہے:

میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں

نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار

(درشین صفحہ 123 از مرزا قادیانی)

مرزا قادیانی کو چاہئے تھا، اس شعر میں اپنا سب سے بہتر نام ”سندھی“ بھی کسی

طرح ایڈجسٹ کرتا۔

## ادھر ادھر

(33) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں

حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے، باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے (نہ کرتے بے شرمی کا کام) اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچھری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔“.....

.....”والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر اس نے چائے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ معلوم ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری (”خدمت خاص“ کی) وجہ سے ہی اسے قید سے بچا لیا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا، ہمارے مخالف ہی کہتے کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 43، 44 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 435 پر)

عجیب بات ہے ”خدمت خاص“ کی وجہ سے اللہ نے ایک ڈاکو کو سزا سے تو بچا لیا مگر اسے ڈاکے کی واردات سے نہیں بچایا۔

یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ مرزا قادیانی کا چچا زاد بھائی، امام الدین نہ صرف بے دین اور دہریہ طبع بلکہ بھنگی چرسی تھا۔ مرزا قادیانی ادھر ادھر اس کے ساتھ پھرتا رہا تو اس سفر کی روشنی میں مرزا قادیانی کا کردار بھی واضح ہو جاتا ہے۔

کند ہم جنس باہم جنس پرواز

کبوتر با کبوتر باز با باز

اس سلسلہ میں مولانا منظور احمد چنیوٹی لکھتے ہیں:

”واضح ہو کہ مرزا قادیانی کی عمر اس وقت 24، 25 برس کی تھی کیونکہ اس کا سن

پیدائش بقول اس کے 1839ء یا 1840ء ہے۔ (دیکھیے حاشیہ کتاب البریہ صفحہ 159 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 177) اور تاریخ ملازمت حسب تحریر سیرت المہدی صفحہ 154 جلد اول، 1864ء ہے اور یہ واقعہ ملازمت سے کچھ پہلے کا ہے۔ نیز واضح ہو کہ یہ پنشن کی رقم

معمولی رقم نہ تھی بلکہ 700 سو روپیہ تھی جو آج کل کے سات لاکھ کے برابر ہے۔ (دیکھیے سیرۃ المہدی حصہ اول صفحہ 131)

اب مرزا قادیانی کی عمر کو ملحوظ رکھیے اور اتنی خطیر رقم کو بھی ذہن میں رکھیے اور ادھر ادھر کے الفاظ پر غور کیجیے کہ آخر اتنی بڑی رقم سیر و تفریح میں کہاں خرچ ہوئی؟ کیا مرزا قادیانی اس وقت بچہ تھا کہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے یا پھسلا سکتا ہے؟ اور پھر ادھر ادھر پھرانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات تو قطعی ہے کہ کسی دینی کام یا مسجد و مدرسہ میں نہیں گئے ہوں گے اور نہ یہ رقم کسی اچھی جگہ خرچ کی ہوگی۔ ”ادھر ادھر“ سے اگر بازار حسن مراد نہیں تو اور کون سی جگہ ہوگی جو مرزا قادیانی کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کوئی شرمناک وارداتیں نہ تھیں تو مرزا قادیانی کو شرم کیوں آئی جو وہ سیالکوٹ بھاگ گیا؟

اب مرزائیوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ اتنی خطیر رقم کا حساب دیں کہ کہاں کہاں خرچ ہوئی، بصورت دیگر مرزا قادیانی کی شرافت باقی نہیں رہتی اور یہ دعویٰ کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت سے قبل کی زندگی بالکل بے داغ تھی، بالکل باطل ہو جاتا ہے۔“

(رد قادیانیت کے زریں اصول از مولانا منظور احمد چنیوٹی ”صفحہ 267، 268“)

مولانا رفیق دلاوری کا کہنا ہے:

”بقول نصرت جہاں بیگم، امام الدین، مسیح موعود صاحب کو ان کی جوانی کے زمانہ میں پھسلا کر لے گیا اور ان کو دھوکا دیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا ”مسیح موعود“ کوئی ناکتھرا لڑکی تھی جسے کوئی بد معاش اغوا کر کے لے گیا یا کوئی ننھا بچہ تھا جو مشائی کا نام سن کر پیچھے چل پڑا؟ جب ”مسیح موعود“ صاحب عاقل، بالغ، ذی ہوش اور صاحب علم و خرد تھے تو مرزا امام الدین کا پھسلانا اور دھوکا دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ممکن ہے کہ مرزا امام الدین نے ہی یہ رائے دی ہو کہ چلو ذرا لاہور اور امرتسر کی دلفریبیاں دیکھیں، وہاں کے تعیشات سے جی بہلائیں، چمن جوانی کی بہار کے مزے لوٹیں کہ ع

بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

لیکن ظاہر ہے کہ جب تک خود مسیح صاحب ہوا و ہوس کے غلام نہ ہوتے، قانی دلچسپیوں اور نفسانی خواہشوں سے انس نہ ہوتا، مرزا امام الدین لاکھ سر پھکتا، وہ اس کے دام اغوا میں نہیں پھنس سکتے تھے۔ پس کوئی ذی عقل انسان ایسی طفل تسلیوں کو ایک منٹ کے لیے



بھی باور کرنے پر تیار نہ ہوگا کہ مرزا امام الدین کے پھسلاتے وقت ”مسح موعود“ صاحب کے ہوش و حواس برقرار نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ کھانے پینے میں سات سو روپیہ کی کثیر رقم خصوصاً 1864ء جیسے ارزاں ترین زمانہ میں جبکہ گیہوں کا نرخ قریباً آٹھ آنہ من، گوشت ایک آنہ سیر، گھی چار آنہ فی سیر بتایا جاتا ہے، صرف کھانے پینے پر یا اس قسم کی عام مباح تفریحات پر کبھی اٹھ نہیں سکتی تھی اور اگر بالفرض پندرہ بیس روپے جائز تفریحات پر اٹھ ہی گئے تھے تو یہ کوئی ایسا قابل سرزنش فعل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے مسیح صاحب گھر جانے سے ہچکچاتے اور بھاگ کر سیالکوٹ جیسے دور افتادہ مقام پر جادم لیتے، لیکن دس بیس روپے کا کیا ذکر ہے، اتنی کثیر رقم میں سے ایک حبه بھی گھر نہیں پہنچا۔ ظاہر ہے کہ اس ضیاع مایہ پر مرزا غلام مرتضیٰ اور چراغ بی بی، جن کے سال بھر کے مصارف اور خانگی ضروریات کا مدار اسی رقم پر تھا، کس درجہ مضطرب اور بدحواس ہوئے ہوں گے۔ اس وقت مرزا امام الدین سن کہولت کو پہنچا ہوا تھا اور مرزا قادیانی کا اوج شباب تھا اور جوش جوانی میں اکثر لوگ بے اعتدالیاں کر گزرتے ہیں۔ پس اگر ”مسح موعود“ صاحب سے کچھ بے اعتدالیاں ہو گئیں تو میرے نزدیک وہ نظر انداز کر دینے کے قابل ہیں، کیونکہ جوانی دیوانی مشہور ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عالم شباب سے نکل کر سن کہولت میں قدم رکھ دیتے ہیں۔

اچھا ہوا شباب کا عالم گزر گیا

اک جن چڑھا ہوا تھا کہ سر سے اتر گیا

اس لیے کم از کم مجھے عالم شباب کی بے اعتدالیوں پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے اور اگر اعتراض ہے تو محض اس چیز پر کہ جب ”مسح موعود“ صاحب نہ صرف عاقل، بالغ بلکہ بقول مرزائیہ مادرزاد نبی تھے تو وہ مرزا امام الدین کے چکمہ میں کس طرح آگئے اور مرزا امام الدین کو تنہا کیوں مجرم گردانا جاتا ہے؟

غور فرمائیں! جو شخص والدین کے اعتماد کو دھوکا دیتے ہوئے، اتنے ستے زمانے میں اتنی زیادہ رقم ایک بھنگی چڑی آدمی کی مصاحبت میں ادھر ادھر اڑا دے۔ ایسا شخص نبوت جیسے عظیم الشان منصب کا اہل ہونا تو کجا، کسی سیٹھ کا منشی یا منیم بننے کا اہل بھی نہیں ہو سکتا۔“

## مختاری کے امتحان میں فیل

(34) ”چونکہ مرزا صاحب ملازمت کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس واسطے آپ نے مختاری کے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور قانونی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ پر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے۔“  
(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 156 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 437 پر)

## غرارہ

(35) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود اوائل میں غرارے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر میں نے کہہ کر وہ ترک کر دیئے۔ اس کے بعد آپ معمولی پاجامے استعمال کرنے لگ گئے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ غرارہ بہت کھلے پانچے کے پانچامے کو کہتے ہیں۔ (پہلے اس کا ہندوستان میں بہت دواج تھا، اب بہت کم ہو گیا ہے)۔“  
(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 66 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 438 پر)  
کیا قادیانی حضرات اپنے ”نبی جی“ کی متروک سنت کو زندہ کرنے کی مشکور مساعی نہیں کریں گے؟

## قادیانی جماعت کا نام

(36) ”اور وہ نام جو اس سلسلہ کے لیے موزوں ہے جس کو ہم اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے پسند کرتے ہیں وہ نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے اور جائز ہے کہ اس کو احمدی مذہب کے مسلمان کے نام سے بھی پکاریں۔ یہی نام ہے جس کے لیے ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ اسی نام سے اپنے کاغذات اور مخاطبات میں اس فرقہ کو موسوم کرے یعنی مسلمان فرقہ احمدیہ۔“

(تریاق القلوب صفحہ 398 از روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 526 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 439 پر)

## ہرنی کا کلمہ

(37) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرمایا کرتے تھے کہ ہرنی کا ایک کلمہ ہوتا ہے۔ مرزا کا کلمہ یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔“

(سیرت الہدی جلد سوم صفحہ 305 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 440 پر)

## تیمم

(38) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو اگر تیمم کرنا ہوتا تو بسا اوقات تکیہ یا لحاف پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کر لیا کرتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ تکیہ یا لحاف میں سے جو گرد نکلتی ہے، وہ تیمم کی غرض سے کافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی تکیہ یا لحاف بالکل نیا ہو اور اس میں کوئی گرد نہ ہو تو پھر اس سے تیمم جائز نہ ہوگا۔“

(سیرت الہدی جلد سوم صفحہ 259 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 441 پر)

اس کا ”فقہی حل“ بڑا آسان ہے، پہلے تھوڑی سی گرد تکیے یا لحاف پر چھڑک لی جائے، پھر اس خاک کو اڑایا جائے اور تیمم کر لیا جائے۔

## تیز گرم پانی سے طہارت

(39) ”میرے گھر سے یعنی والدہ عزیز مظفر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) عموماً گرم پانی سے طہارت فرمایا کرتے تھے اور ٹھنڈے پانی کو استعمال نہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے کسی خادمہ سے فرمایا کہ آپ کے لیے پاخانہ میں لوٹا رکھ دے۔ اس نے غلطی سے تیز گرم پانی کا لوٹا رکھ دیا۔ جب حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ لوٹا کس نے رکھا تھا؟ جب بتایا گیا کہ فلاں خادمہ نے رکھا تھا تو آپ نے اسے بلوایا اور اسے اپنا ہاتھ آگے کرنے کو کہا اور پھر اس کے ہاتھ پر آپ نے اس لوٹے کا بچا ہوا پانی بہا دیا تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ پانی اتنا گرم ہے کہ

طہارت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔“  
 (سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 243، 244 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 442 پر)  
 یہ بھی قادیانی نبی کی کوئی اعلیٰ اخلاقی حالت ہوگی جو اس واقعہ کو اس کی سیرت پر لکھی  
 گئی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ عام حالت میں اس سے زیادہ بد اخلاقی ہو ہی نہیں سکتی  
 کہ جان بوجھ کر بطور سزا کسی خادمہ کے ہاتھ گرم پانی سے جلانے جائیں۔

## عورتوں کا امام

(40) ”باہر مردوں میں نمازیں باجماعت ہونے کے علاوہ آخری سالوں میں حضرت مسیح  
 موعود (مرزا قادیانی) ایک بہت بڑے عرصہ تک اندر عورتوں میں خود پیش امام ہو کر مغرب اور  
 عشاء کی نمازیں ایک لمبے عرصہ تک جمع کراتے رہے۔“  
 (ذکر حبیب صفحہ 65 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 444 پر)

## زنانہ نماز

(41) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود (مرزا  
 قادیانی) کو میں نے بارہا دیکھا کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو حضرت ام المومنین کو اپنے دائیں  
 جانب بطور مقتدی کے کھڑا کر لیتے حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقتدی  
 ہو تب بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں اکیلا مرد مقتدی ہو تو  
 اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت ام المومنین سے پوچھا تو  
 انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ  
 بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہو کر چکر آ جایا کرتا ہے۔ اس لیے تم میرے پاس  
 کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔“  
 (سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 131 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 445 پر)

مرزا قادیانی کی کیفیت اس شعر سے گہری مطابقت کی حامل دکھائی دیتی ہے  
 دیوارِ خشکی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا  
 میں گر پڑوں گا دیکھ مجھے آسرا نہ دے  
 لیکن لگتا ہے کہ کبھی کبھی اپنی مقتدیہ کا آسرا لینے کے لیے وہ دورانِ نماز چکر کا  
 اہتمام کر لیتا ہوگا۔

## نماز میں فارسی نظم

(42) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مسجد  
 مبارک میں مغرب کی نماز پیر سراج الحق صاحب نے پڑھائی۔ حضور (مرزا قادیانی) بھی اس  
 نماز میں شامل تھے۔ تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے  
 حضور کی ایک فارسی نظم پڑھی، جس کا یہ مصرعہ ہے:

”اے خدا اے چارہ آزار ما“

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ فارسی نظم نہایت اعلیٰ درجہ کی مناجات ہے جو روحانیت  
 سے بڑھ ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 138 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 446 پر)

## نماز میں پان

(43) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کو  
 سخت کھانسی ہوئی ایسی کہ دم نہ آتا تھا البتہ منہ میں پان رکھ کر قدرے آرام معلوم ہوتا تھا۔ اس  
 وقت آپ نے اس حالت میں پان منہ میں رکھے رکھے نماز پڑھی تاکہ آرام سے پڑھ سکیں۔“  
 (سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 103 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 447 پر)

## بواسیر اور نماز

(44) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی وجہ سے مولوی

عبدالکریم صاحب مرحوم نماز نہ پڑھا سکے، حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی موجود نہ تھے تو حضرت صاحب نے حکیم فضل الدین صاحب مرحوم کو نماز پڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور تو جانتے ہیں کہ مجھے بوا سیر کا مرض ہے اور ہر وقت رتخ خارج ہوتی رہتی ہے۔ میں نماز کس طرح سے پڑھاؤں؟ حضور نے فرمایا حکیم صاحب آپ کی اپنی نماز باوجود اس تکلیف کے ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں حضور۔ فرمایا کہ پھر ہماری بھی ہو جائے گی، آپ پڑھائیے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اخراج رتخ جو کثرت کے ساتھ جاری رہتا ہو، نواقض وضو میں نہیں سمجھا جاتا۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 111 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 448 پر)  
مرید کی رتخ جاری، نبی صاحب کا پیشاب جاری۔ سچ ہے، جیسی روح ویسے فرشتے!

### بیٹے کی خاطر نماز جمعہ نہیں پڑھی

(45) ”صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی عرض الموت کے ایام میں ایک جمعہ کے دن حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) حسب معمول کپڑے بدل کر عصا ہاتھ میں لے کر جامعہ مسجد کو جانے کے واسطے طیار ہوئے۔ جب صاحبزادہ کی چارپائی کے پاس سے گزرتے ہوئے ذرا کھڑے ہو گئے، تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا دامن پکڑ لیا اور اپنی چارپائی پر بیٹھا دیا اور اٹھنے نہ دیا۔ صاحبزادہ صاحب کی خاطر حضور بیٹھے رہے، اور جب دیکھا کہ بچہ اٹھنے نہیں دیتا اور نماز جمعہ کے وقت میں دیر ہوتی ہے تو حضور نے کہلا بھیجا کہ جمعہ پڑھ لیں اور حضور کا انتظار نہ کریں۔“

(ذکر حبیب صفحہ 172 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 449 پر)

### سب کا نماز جنازہ پڑھا دیا

(46) ”قاضی سید امیر حسین صاحب کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہونے پر جنازے کے ساتھ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) بھی تشریف لے گئے۔ اور خود ہی جنازہ پڑھایا۔ عموماً جنازے کی نمازیں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) اگر موجود ہوتے تو خود ہی امامت

کرتے۔ اس وقت نماز جنازہ میں شامل ہونے والے دس پندرہ آدمی ہی تھے۔ بعد سلام کسی نے عرض کی کہ حضور میرے لیے بھی دعا کریں۔ فرمایا۔ میں نے تو سب کا ہی جنازہ (ایمان کا۔ ناقل) پڑھ دیا ہے۔ مراد یہ تھی کہ جتنے لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوئے تھے، ان سب کے لیے نماز جنازہ کے اندر حضرت صاحب نے دعائیں کر دی تھیں۔“

(ذکر حبیب صفحہ 161، 162 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 450 پر)

### روزہ توڑ دیا

(47) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ لدھیانہ میں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ دل گھٹنے کا دورہ ہوا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس وقت غروب آفتاب کا وقت بہت قریب تھا مگر آپ نے فوراً روزہ توڑ دیا۔ آپ ہمیشہ شریعت میں سہل راستہ کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 131 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 452 پر)

### روزے تڑوا دیئے

(48) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ لاہور سے کچھ احباب رمضان میں قادیان آئے۔ حضرت صاحب کو اطلاع ہوئی تو آپ مع کچھ ناشتہ کے ان سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان دوستوں نے عرض کیا کہ ہم سب روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے، چنانچہ ان کو ناشتہ کروا کے ان کے روزے تڑوا دیئے۔“

(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 59 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 453 پر)

### روزے نہیں رکھے

(49) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو دورے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سارے رمضان کے روزے

نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ دوسرا رمضان آیا تو آپ نے روزے رکھنے شروع کیے مگر آٹھ نو روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا اس لیے باقی چھوڑ دیئے اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آپ نے دس گیارہ روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ کی وجہ سے روزے ترک کرنے پڑے اور آپ نے فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا تیرھواں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور آپ نے روزہ توڑ دیا اور باقی روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جتنے رمضان آئے آپ نے سب روزے رکھے مگر پھر وفات سے دو تین سال قبل کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے اور فدیہ ادا فرماتے رہے۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتداء دوروں کے زمانہ میں روزے چھوڑے تو کیا بعد میں ان کو قضا کیا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں صرف فدیہ ادا کر دیا تھا۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 65، 66 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 454 پر)

## روزہ کھلوا دیا

(50) ”بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ اوائل زمانہ کی بات ہے کہ ایک دفعہ رمضان کے مہینہ میں کوئی مہمان یہاں حضرت صاحب کے پاس آیا۔ اسے اس وقت روزہ تھا اور دن کا زیادہ حصہ گزر چکا تھا۔ بلکہ شاید عصر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت صاحب نے اسے فرمایا آپ روزہ کھول دیں۔ اس نے عرض کیا کہ اب تھوڑا سا دن رہ گیا ہے، اب کیا کھولنا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ سینہ زوری سے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سینہ زوری سے نہیں بلکہ فرمانبرداری سے راضی ہوتا ہے۔ جب اس نے فرما دیا ہے کہ مسافر روزہ نہ رکھے تو نہیں رکھنا چاہیے۔ اس پر اس نے روزہ کھول دیا۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 108، 109 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 456 پر)

## رمضان المبارک کا احترام؟

(51) ”اس موخر الذکر سفر میں حضور نے لدھیانہ میں ایک لیکچر دیا، جس میں ہندو، عیسائی، مسلمان اور بڑے بڑے معزز لوگ موجود تھے۔ تین گھنٹے حضور اقدس نے تقریر فرمائی۔“



حالانکہ بوجہ سفر وہلی کچھ طبیعت بھی درست نہ تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے حضور اقدس نے بوجہ سفر روزہ نہ رکھا تھا۔ اب حضور اقدس نے تین گھنٹہ تقریر جو فرمائی تو طبیعت پر ضعف سا طاری ہوا۔ مولوی محمد احسن صاحب نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا، جس پر ناواقف مسلمانوں نے اعتراضاً کہا کہ مرزا رمضان میں دودھ پیتا ہے، اور شور کرنا چاہا۔ لیکن چونکہ پولیس کا انتظام اچھا تھا، فوراً یہ شور کرنے والے مسلمان وہاں سے نکال دیے گئے۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 272 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 458 پر)

(52) ”آپ (مرزا قادیانی) لیکچر گاہ میں اندر تشریف لے گئے اور لیکچر شروع کیا۔ لیکن مولوی صاحبان کو اعتراض کا کوئی موقع نہ ملا جس پر لوگوں کو بھڑکائیں۔ پندرہ منٹ آپ کی تقریر ہو چکی تھی کہ ایک شخص نے آپ کے آگے چائے کی پیالی پیش کی کیونکہ آپ کے حلق میں تکلیف تھی اور ایسے وقت میں اگر تھوڑے تھوڑے وقفہ سے کوئی سیال چیز استعمال کی جائے تو آرام رہتا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رہنے دو لیکن اُس نے آپ کی تکلیف کے خیال سے پیش کر ہی دی۔ اس پر آپ نے بھی اُس میں سے ایک گھونٹ پی لیا۔ لیکن وہ مہینہ روزوں کا تھا۔ مولویوں نے شور مچا دیا کہ یہ شخص مسلمان نہیں کیونکہ رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتا۔“

(سیرت مسیح موعود صفحہ 55، 56 از مرزا بشیر الدین محمود) (عکس صفحہ نمبر 459 پر)

## حج، اعتکاف، زکوٰۃ

(53) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے حج نہیں کیا، اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی..... اور زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ آپ کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے البتہ حضرت والدہ صاحبہ زیور پر زکوٰۃ دیتی رہی ہیں اور تسبیح اور رکی وظائف وغیرہ کے آپ قائل ہی نہ تھے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 119 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 461 پر)

## اعتکاف

(54) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ میں نے کبھی حضرت مسیح موعود (مرزا

قادیانی) کو اعتکاف بیٹھتے نہیں دیکھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ میاں عبداللہ سنوری نے بھی مجھ سے یہی بیان کیا ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 68 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 462 پر)

## مردہ اسلام

(55) ”چنانچہ ایک دفعہ ان لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ریویو میں حضرت صاحب کا اور احمدیت کی خصوصیات کا ذکر نہ ہو بلکہ عام اسلامی مضامین ہوں تاکہ اشاعت زیادہ ہو۔ اخبار وطن میں بھی یہ تحریک چھپی تھی جس پر حضرت صاحب نے نہایت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہمیں چھوڑ کر کیا آپ مردہ اسلام کو پیش کریں گے؟“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 116 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 463 پر)

## کنجنی (بدکار عورت) کی رقم

(56) ”بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری صاحب نے کہ ایک دفعہ انبالہ کے ایک شخص نے حضرت صاحب سے فتویٰ دریافت کیا کہ میری ایک بہن کنجنی تھی۔ اس نے اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا پھر وہ مر گئی اور مجھے اس کا ترکہ ملا مگر بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی۔ اب میں اس مال کو کیا کروں؟ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے خیال میں اس زمانہ میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ ہو سکتا ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 261، 262 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 464 پر)

(نوٹ) کنجنی پیشہ ورفاحشہ عورت کو کہتے ہیں۔

## سود جائز ہے!

(57) ”ہمارا یہی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ایسا روپیہ اشاعت دین کے کام میں خرچ کیا جاوے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سود حرام ہے لیکن اپنے نفس

کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی کیونکہ حرمت اشیا کی انسان کے لیے ہے نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ پس سود اپنے نفس کے لیے، بیوی بچوں، احباب، رشتہ داروں اور ہمسائیوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر یہ روپیہ خالصتاً اشاعتِ دین کے لیے خرچ ہو تو حرج نہیں ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسلام بہت کمزور ہو گیا ہے۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ 368 طبع جدید، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 466 پر)

□ ”ومن تفوه بكلمة ليس له اصل صحيح في الشرع. ملهما كان او

مجتهدا. فبه الشياطين متلعبا“

(ترجمہ): ”جو شخص ایسی بات کہے کہ جس کی شرع میں کوئی اصل نہ ہو، خواہ وہ شخص ملہم یا مجتہد

ہی کیوں نہ ہو، سمجھ لینا چاہئے کہ شیاطین اس سے کھیلتے ہیں۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 21 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 21 از مرزا قادیانی)

### جیب میں اینٹ

(58) ”آپ کے ایک بچے نے آپ کی واسکٹ کی ایک جیب میں ایک بڑی اینٹ ڈال

دی۔ آپ جب لیٹتے تو وہ اینٹ چبھتی۔ کئی دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن اپنے ایک خادم کو

کہنے لگے کہ میری پسی میں درد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چبھتی ہے۔ وہ حیران ہوا اور

آپ کے جسد مبارک پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ اینٹ پر جا لگا۔ جھٹ جیب سے نکال

لی۔ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ چند روز ہوئے، محمود نے میری جیب میں ڈالی تھی، اور کہا تھا کہ

اسے نکالنا نہیں، میں اس سے کھیلوں گا۔“

(مسح موعود کے مختصر حالات ملحقہ براہین احمدیہ طبع چہارم صفحہ 53، مرتبہ معراج الدین عمر قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 467 پر)

### جراہیں، کاج، گرگابی اور کھانا

(59) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود (مرزا

قادیانی) اپنی جسمانی عادات میں ایسے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تھے تو بے

تو جہی کے عالم میں اس کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی اور بارہا ایک کاج کا بٹن دوسرے کاج میں لگا ہوا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لیے گرگابی ہدیہ لاتا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بایاں دائیں میں۔ چنانچہ اسی تکلیف کی وجہ سے آپ دیکھی جوتی پہنتے تھے۔ اسی طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کہ جب کھاتے کھاتے کوئی کنکر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچے آ جاتا ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 58 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 468 پر)

## الٹے کاج

(60) ”بارہا دیکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے ہی میں لگے ہوئے ہوتے تھے بلکہ صدری کے بٹن کوٹ کے کاجوں میں لگائے ہوئے دیکھے گئے۔“

(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 126 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 469 پر)

## الٹی سیدھی گرگابی

(61) ”ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لیے گرگابی لے آیا، آپ نے پہن لی مگر اس کے الٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا، کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر فرماتے، ان (انگریز) کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ (یہاں تک کہ انگریزوں سے کوئی ڈھنگ کا ”نبی“ بھی نامزد نہ ہو سکا۔ مرتب) والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے واسطے الٹے سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان لگا دیئے تھے مگر باوجود اس کے آپ الٹا سیدھا پہن لیتے تھے۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 67 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 470 پر)

اس پر قارئین کی تفتن طبع کے لیے ایک لطیفہ پیش کرتے ہیں:

دو سکھوں نے دو گھوڑے خرید لیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شناخت کیسے ہو، کون سا گھوڑا کس سکھ کا ہے؟ حل اس پر اہل علم کا یہ ڈھونڈا گیا کہ بطور نشانی ایک سکھ نے اپنے گھوڑے کا

کان کاٹ دیا۔ اگلی صبح جو دیکھا تو دوسرے گھوڑے کا کان بھی کسی نے کاٹ دیا تھا۔ نئے سرے سے غور و خوض ہوا اور اب یہ کیا گیا کہ دوسرا کان کاٹ ڈالا گیا تا کہ گھوڑے، مکس نہ ہو جائیں۔ اگلی صبح عجیب حادثہ دیکھا گیا کہ دوسرے گھوڑے کا دوسرا کان بھی کٹا ہوا تھا۔ دونوں دانشور کچھ سخت پریشان ہوئے۔ سو تازہ فیصلہ کے مطابق پہلے گھوڑے کی دم کاٹ ڈالی گئی۔ جب نیا دن طلوع ہوا تو منظر یہ تھا کہ دوسرے گھوڑے کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ سو طویل تر تفکر کے بعد دونوں سکھوں نے مستقل بنیادوں پر یہ قضیہ حل کر لیا۔ جی ہاں دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک کا گھوڑا کالا ہوگا اور دوسرے کا سفید۔ معلوم ہوتا ہے مرزا قادیانی کے جوتوں کے حوالے سے بھی ایسا ہی..... پائیدار حل ڈھونڈا گیا تھا۔ مگر افسوس! وہ پھر بھی جوتا الٹا ہی پہنتا رہا۔

## الٹی سیدی جرابیں

(62) ”جرابیں آپ سردیوں میں استعمال فرماتے اور ان پر مسح فرماتے۔ بعض اوقات زیادہ سردی میں دو دو جرابیں اوپر تلے چڑھا لیتے مگر بارہا جراب اس طرح پہن لیتے کہ وہ پیر پر ٹھیک نہ چڑھتی، کبھی تو سرا آگے ٹکٹا رہتا اور کبھی جراب کی ایڑی کی جگہ پیر کی پشت پر آ جاتی، کبھی ایک جراب سیدی دوسری الٹی۔“

(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 127 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 471 پر)

## پہلوانوں والی خوراک

(63) ”روٹی آپ تندوری اور چولھے کی دونوں قسم کی کھاتے تھے، ڈبل روٹی چائے کے ساتھ یا بسکٹ اور بکرم بھی استعمال فرمایا کرتے تھے بلکہ ولایتی بسکٹوں کو بھی جائز فرماتے تھے اس لیے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس میں چربی ہے کیونکہ بنانے والوں کا ادعا تو مکھن ہے پھر ہم ناحق بدگمانی اور شکوک میں کیوں پڑیں۔ مکئی کی روٹی بہت مدت آپ نے آخری عمر میں استعمال فرمائی کیونکہ آخری سات آٹھ سال سے آپ کو دستوں کی بیماری ہو گئی تھی اور ہضم کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ علاوہ ان روٹیوں کے آپ شیر مال کو بھی پسند فرماتے تھے اور باقر خانی تلیے

وغیرہ غرض جو جو اقسام روٹی کے سامنے آجایا کرتے تھے، آپ کسی کو رو نہ فرماتے تھے۔

سالن آپ بہت کم کھاتے تھے۔ گوشت آپ کے ہاں دو وقت پکتا تھا مگر وال آپ کو گوشت سے زیادہ پسند تھی۔ یہ وال ماش کی یا اوڑدہ کی ہوتی تھی جس کے لیے گورداسپور کا ضلع مشہور ہے۔ سالن ہر قسم کا اور ترکاری عام طور پر ہر طرح کی آپ کے دسترخوان پر دیکھی گئی ہے اور گوشت میں ہر حلال اور طیب جانور کا آپ کھاتے تھے۔ پرندوں کا گوشت آپ کو مرغوب تھا۔ اس لیے بعض اوقات جب طبیعت کمزور ہوتی تو تیترا فاختہ وغیرہ کے لیے شیخ عبدالرحیم صاحب نو مسلم کو ایسا گوشت مہیا کرنے کو فرمایا کرتے تھے۔ مرغ اور بیروں کا گوشت بھی آپ کو پسند تھا مگر بیرے جب سے کہ پنجاب میں طاعون کا زور ہوا، کھانے چھوڑ دیئے تھے بلکہ منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے گوشت میں طاعون پیدا کرنے کی خاصیت ہے اور بنی اسرائیل میں ان کے کھانے سے سخت طاعون پڑی تھی۔ حضور کے سامنے دو ایک دفعہ گوہ کا گوشت پیش کیا گیا مگر آپ نے فرمایا کہ جائز ہے جس کا جی چاہے کھالے مگر رسول کریمؐ نے چونکہ اس سے کراہت فرمائی اس لیے ہم کو بھی اس سے کراہت ہے اور جیسا کہ وہاں ہوا تھا۔ یہاں بھی لوگوں نے آپ کے مہمان خانہ بلکہ گھر میں بھی بچوں اور لوگوں نے گوہ کا گوشت کھایا مگر آپ نے اسے اپنے قریب نہ آنے دیا۔ مرغ کا گوشت ہر طرح کا آپ کھالیتے تھے۔ سالن ہو یا بھنا ہوا کباب ہو یا پلاؤ مگر ایک ران پر ہی گزارہ کر لیتے تھے اور وہی آپ کو کافی ہو جاتی تھی بلکہ کبھی کچھ بیج بھی رہا کرتا تھا۔ پلاؤ بھی آپ کھاتے تھے مگر ہمیشہ نرم اور گداز اور گلے گلے ہوئے چاولوں کا اور میٹھے چاول تو کبھی خود کہہ کر پکوا لیا کرتے تھے مگر گڑ کے اور وہی آپ کو پسند تھے۔ عمدہ کھانے یعنی کباب مرغ پلاؤ یا انڈے اور اسی طرح فیرینی میٹھے چاول وغیرہ۔“

(سیرت الہدی، جلد دوم صفحہ 132 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 472 پر)  
مرزا قادیانی انگریزوں کے ساتھ ساتھ ان کی ”ایجاد“ بسکٹوں سے بھی بہت مرعوب تھا۔ معروف افسانہ نگار آغا بابر، اعجاز حسین بٹالوی اور عاشق حسین بٹالوی کے بھائی ہیں۔ وہ اپنی کتاب ”خدوخال“ کے صفحات 110، 111 میں بتاتے ہیں کہ غالباً 1900ء میں ان کے والد غلام اکبر صاحب کو ذوق تجسس قادیان لے گیا تا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے مل سکیں۔ اس ملاقات کی تفصیل بڑی دلچسپ ہے، پڑھ کر لطف اٹھائیے۔ ہم آپ کی ضیافت طبع

کے لیے یہاں صرف دو سطر میں Quote کرتے ہیں:

”(مرزا صاحب بولے): ”شباباش! تمہیں ایک خاص چیز کھلاؤں؟“ چھت سے ایک چھینکا لٹک رہا تھا۔ اٹھ کر انہوں نے اس میں سے ایک چیز نکالی اور کہنے لگے: ”کسی نے امرتسر سے یہ سوغات بھیجی ہے۔ اسے ”بستی کٹ“ کہتے ہیں۔ کیا ہے؟“  
والد صاحب نے تعریف کی۔

بولے: ”یہ انگریز لوگ کھاتے ہیں۔“

”بڑی مزیدار چیز ہے۔“

• قارئین! آپ بسکٹ کے مزے کو جانے دیجیے، آپ بس ”بستی کٹ“ (Biscuit) کی ادائیگی پر فدا ہو جائیے۔ اس اچھے خاصے نرم اور ملائم لفظ کو جانگلی لہجے کے سپرد کرنے کی بجائے بہتر تھا، موصوف ”بادامی رنگ کی خستہ اور میٹھی ٹکیے“ فرما کر ہی اپنا مدعا بیان کر لیتے۔

(64) ”بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ حضرت صاحب جب بڑی مسجد میں جاتے تھے تو گرمی کے موسم میں کنوئیں سے پانی نکلا کر ڈول سے ہی منہ لگا کر پانی پیتے تھے اور مٹی کی تازہ ٹنڈیا تازہ آبخورہ میں پانی پینا آپ کو پسند تھا اور میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب اچھے تلے ہوئے کرارے پکوڑے پسند کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھ سے منگوا کر مسجد میں ٹہلتے ٹہلتے کھایا کرتے تھے اور سالم مرغ کا کباب بھی پسند تھا۔ چنانچہ ہوشیار پور جاتے ہوئے ہم مرغ پکوا کر ساتھ لے گئے تھے۔ مولیٰ کی چٹنی اور گوشت میں مونگرے بھی آپ کو پسند تھے۔ گوشت کی خوب بھنی ہوئی بوٹیاں بھی مرغوب تھیں۔ چپاتی خوب سکی ہوئی جو سکنے سے سخت ہو جاتی ہے، پسند تھی۔ گوشت کا پتلا شوربہ بھی پسند کرتے تھے۔ جو بہت دیر تک پکتا رہا ہوتا تھا کہ اس کی بوٹیاں خوب گل کر شوربہ میں اس کا عرق پہنچ جاوے۔  
سکینجھین بھی پسند تھی۔ میاں جان محمد مرحوم آپ کے واسطے سکینجھین تیار کیا کرتا تھا۔ نیز میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ گوشت زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ جو شخص چالیس دن لگاتار کثرت کے ساتھ صرف گوشت ہی کھاتا رہتا ہے۔ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دال، سبزی، ترکاری کے ساتھ بدل بدل کر گوشت کھانا چاہیے بھیز کا گوشت ناپسند فرماتے تھے۔ بیٹھے چاول، گڑ یعنی قند سیاہ میں پکے ہوئے پسند

فرماتے تھے۔ ابتدا میں چائے میں دیسی شکر (جو گڑ کی طرح ہوتی ہے) ڈال کر استعمال فرماتے تھے۔ شوربہ کے متعلق فرماتے تھے کہ گاڑھا کچھڑ جیسا ہم کو پسند نہیں، ایسا پتلا کرنا چاہیے کہ ایک آنہ کا گوشت آٹھ آدمی کھائیں۔ اس وقت ایک آنہ کا سیر خام گوشت آتا تھا۔“  
(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 181، 182 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 473 پر)

### کھانے کا انداز

(65) ”کھانا کھاتے ہوئے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے جاتے تھے، کچھ کھاتے تھے، کچھ چھوڑ دیتے تھے، کھانے کے بعد آپ کے سامنے سے بہت سے ریزے اٹھتے تھے۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 51 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 475 پر)

### گوشت کی قیمت

(66) ”شوربہ کے متعلق فرماتے تھے کہ گاڑھا کچھڑ جیسا ہم کو پسند نہیں۔ ایسا پتلا کرنا چاہیے کہ ایک آنہ کا گوشت آٹھ آدمی کھائیں۔ اس وقت ایک آنہ کا سیر خام گوشت آتا تھا۔“  
(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 182 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 476 پر)

### تکیے کے نیچے کپڑے

(67) ”کپڑوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کوٹ، صدری، ٹوپی، عمامہ رات کو اتار کر تکیے کے نیچے ہی رکھ لیتے اور رات بھر تمام کپڑے جنہیں محتاط لوگ شکن اور میل سے بچانے کو الگ جگہ کھوٹی پر ٹانگ دیتے ہیں، وہ بستر پر سر اور جسم کے نیچے طے جاتے اور صبح کو ان کی ایسی حالت ہو جاتی کہ اگر کوئی فیشن کا دلدادہ اور سلوٹ کا دشمن ان کو دیکھ لے تو سر پیٹ لے۔“  
(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 128 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 477 پر)



## ریشمی ازار بند

(68) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب ہم بچے تھے تو حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) خواہ کام کر رہے ہوں یا کسی اور حالت میں ہوں، ہم آپ کے پاس چلے جاتے تھے کہ ابا پیسہ دو اور آپ اپنے رومال سے پیسہ کھول کر دے دیتے تھے۔ اگر ہم کسی وقت کسی بات پر زیادہ اصرار کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ میاں میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ زیادہ تنگ نہ کرو۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ آپ معمولی نقدی وغیرہ اپنے رومال میں جو بڑے سائز کا ململ کا بنا ہوا تھا، باندھ لیا کرتے تھے اور رومال کا دوسرا کنارہ واسکٹ کے ساتھ سلوا لیتے یا کاج میں بند ہوا لیتے تھے اور چابیاں ازار بند کے ساتھ باندھتے تھے جو بوجھ سے بعض اوقات لٹک آتا تھا (کیا نظارہ ہوتا ہوگا کہ انگریزی نبوت جا رہی ہے؟) اور والدہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) عموماً ریشمی ازار بند استعمال فرماتے تھے کیونکہ آپ کو پیشاب جلدی جلدی آتا تھا اس لیے ریشمی ازار بند رکھتے تھے تاکہ کھلنے میں آسانی ہو اور گرہ بھی پڑ جاوے تو کھولنے میں دقت نہ ہو۔ سوتی ازار بند میں آپ سے بعض وقت گرہ پڑ جاتی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 55 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 478 پر)

## ریشمی ازار بند کے فوائد

(69) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے پاجاموں میں، میں نے اکثر ریشمی ازار بند پڑا ہوا دیکھا ہے اور ازار بند میں کنجیوں کا گچھا بندھا ہوتا تھا (اور جب چلتا ہوگا تو چھن چھن چھن سے کیا سماں پیدا ہوتا ہوگا؟) ریشمی ازار بند کے متعلق بعض اوقات فرماتے تھے کہ ہمیں پیشاب کثرت سے اور جلدی جلدی آتا ہے تو ایسے ازار بند کے کھولنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 110 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 479 پر)

## جیبی گھڑی •

(70) ”بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت صاحب کو ایک جیبی گھڑی تحفہ میں دی۔ حضرت صاحب اس کو رومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجیر نہیں لگاتے تھے اور جب وقت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کر ایک کے ہندسے یعنی عدد سے گن کر وقت کا پتہ لگاتے تھے اور انگلی رکھ رکھ کر ہندسے گنتے تھے اور منہ سے بھی گنتے جاتے تھے اور گھڑی دیکھتے ہی وقت نہ پہچان سکتے تھے۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کر اس طرح وقت شمار کرنا مجھے بہت ہی پیارا معلوم ہوتا تھا۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 180 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 480 پر)

گویا ذہانت یا دماغی قابلیت کو گولہ ماریے ”انگریزی نبی“ کی ادا پر لہلوٹ ہو جائے۔ سچ ہے کہ دنیا میں ہر فرد کی قسمت کے بلاوقوف مقرر و موجود ہیں جو خود چل کر اس تک پہنچ جاتے ہیں۔

## پیشہ نبوت

(71) ”18 جنوری 1905ء کو جبکہ میں قادیان کے ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر تھا، میں نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی خدمت بابرکت میں ایک رقعہ لکھا تھا، جس کا اصل بمعہ جواب درج کرنا مناسب ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کی دلچسپی کا موجب ہوگا:

رقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم      نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حضرت اقدس مرشدنا و مہدینا مسیح موعود

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ صاحبزادہ میاں محمود احمد کا نام برائے امتحان (ٹڈل) آج ارسال کیا جائے گا۔ جس فارم کی خانہ پری کرنی ہے، اس میں ایک خانہ ہے کہ اس لڑکے کا باپ کیا کام کرتا ہے؟ میں نے وہاں لفظ نبوت لکھا ہے۔“

(ذکر حبیب صفحہ 244، 245 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 481 پر)

## خدا کی مشین

(72) ”ایک دفعہ جب سخت گرمی پڑی، تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک مضمون لکھا جس میں گرمی کا اظہار کرتے ہوئے، اور گرمی کے سبب کام نہ کر سکنے کی معذرت کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی لکھ دیئے کہ ”گرمی ایسی سخت ہے کہ اس کے سبب سے خدا کی مشین بھی بند ہوگئی ہے۔“ اس میں مولوی صاحب نے اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے بھی شدت گرمی کے سبب کام چھوڑ دیا ہے۔ جب حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے یہ مضمون سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو غلط ہے ہم نے تو کام نہیں چھوڑا۔“ (ذکر حبیب صفحہ 161 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 483 پر)

## نبی کے ہتھیار

(73) ”بیان کیا مجھ سے شیخ عبدالرحمن صاحب مصری نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نماز ظہر کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے۔ ان دنوں میں آپ نے شیخ سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق لکھا تھا کہ یہ ابتر رہے گا اور اس کا بیٹا جو اب موجود ہے، وہ نامرد ہے۔ گویا اس کی اولاد آگے نہیں چلے گی۔ (خاکسار عرض کرتا ہے کہ سعد اللہ سخت معاند تھا اور حضرت مسیح موعود کے خلاف بہت بیہودہ گوئی کیا کرتا تھا) مگر ابھی آپ کی یہ تحریر شائع نہ ہوئی تھی۔ اس وقت مولوی محمد علی صاحب نے آپ سے عرض کیا کہ ایسا لکھنا قانون کے خلاف ہے۔ اس کا لڑکا اگر مقدمہ کر دے تو پھر اس بات کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی نامرد ہے؟ حضرت صاحب پہلے نرمی کے ساتھ مناسب طریق پر جواب دیتے رہے۔ مگر جب مولوی محمد علی صاحب نے بار بار پیش کیا اور اپنی رائے پر اصرار کیا تو حضرت صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے غصے کے لہجے میں فرمایا۔ ”جب نبی ہتھیار لگا کر باہر آ جاتا ہے تو پھر ہتھیار نہیں اتارتا۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 34، 35 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 484 پر)

کس درجہ افسوس کی بات ہے کہ یہ نعرہ لگانے والا ”نبی“ عدالت میں لکھ کر تو بہ کرتا ہے کہ میں آئندہ کسی کے خلاف اندازی پیش گوئی شائع نہیں کیا کروں گا..... تفصیل آگے آرہی ہے۔

## قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کا دادا

(74) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ ایک دفعہ ہم گھر کے بچے مل کر حضرت صاحب کے سامنے میاں شریف احمد کو چھیڑنے لگ گئے کہ ابا کو تم سے محبت نہیں ہے اور ہم سے ہے۔ میاں شریف بہت چڑتے تھے۔ حضرت صاحب نے ہمیں روکا بھی کہ زیادہ تنگ نہ کرو مگر ہم بچے تھے لگے رہے۔ آخر میاں شریف رونے لگ گئے اور ان کی عادت تھی کہ جب روتے تھے تو ناک سے بہت رطوبت بہتی تھی۔ حضرت صاحب اٹھے اور چاہا کہ ان کو گلے لگالیں تاکہ ان کا شک دور ہو مگر وہ اس وجہ سے کہ ناک بہ رہا تھا، پرے پرے کھینچتے تھے۔ حضرت صاحب سمجھتے تھے کہ شاید اسے تکلیف ہے، اس لیے دور ہٹتا ہے چنانچہ کافی دیر تک یہی ہوتا رہا کہ حضرت صاحب ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے اور وہ پرے پرے کھینچتے تھے اور چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اصل بات کیا ہے، اس لیے ہم پاس کھڑے ہنتے جاتے تھے۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 54، 55 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 486 پر)

بقول شخصے: مرزا محمود احمد نے ہمیشہ مرزا شریف احمد کو ایک کونے میں لگا کر رکھا۔ جب وہ قادیان میں تھا، تب اس کو باڈی بلڈنگ کا شوق تھا۔ اس کے مسلز اتنے زبردست ہو گئے تھے کہ کوئی لائٹی چلانے والا لائٹی مارتا تو لائٹی ٹوٹ جاتی۔ تب مرزا محمود نے اس کی قوت سے ڈر کر اسے بعض فضول قسم کے نشوں میں لگا دیا۔ نیز اپنی نگرانی میں چھپوائی جانے والی ”سیرت المہدی“ میں اس کا ذکر اس انداز سے کرایا جس میں اس کی تضحیک کا پہلو نمایاں رکھا گیا۔

## پانچ اور پچاس کا شہرت یافتہ قادیانی فرق

مرزا قادیانی نے شروع شروع میں ایک عالم کا روپ دھارا اور اعلان کیا کہ وہ عیسائیت، ہندومت اور آریہ سماج کے خلاف کتاب لکھے گا جس میں اسلام کی حقانیت اور ان مذکورہ مذاہب کا ابطال ہوگا اور یہ کتاب پچاس جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان مخیر حضرات اس کی طباعت وغیرہ کے لیے پیسگی رقوم ارسال کریں۔ مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق لوگوں نے پچاس جلدوں کی رقم پیسگی بھجوا دی۔ مرزا قادیانی نے

”براہین احمدیہ“ کے نام سے اس کتاب کو لکھا۔ 5 جلدیں مکمل ہونے پر اعلان کر دیا کہ چونکہ 5 اور 50 میں صرف صفر کا فرق ہے، اس لیے پانچویں جلد کے ساتھ ہی ان کا پچاس جلدیں لکھنے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مرزا قادیانی کی مضحکہ خیز دلیل!

(75) ”پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم دیباچہ صفحہ 7 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 9 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 488 پر)

ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی!

اسلامی شریعت میں خیانت بہت بڑا اور سنگین جرم ہے۔ خیانت میں جھوٹ، بے ایمانی، دھوکا، فریب اور دغا بازی جیسی برائیاں شامل ہیں۔ سب سے پہلے خیانت کے معنی سمجھ لینے چاہئیں۔ ایک انسان کا جو حق دوسرے انسان کے ذمے واجب ہو، اس کے ادا کرنے میں ایمان داری نہ برتنا بددیانتی اور خیانت ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

□ ”اے ایمان والو! تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔“

یہ آیت ایک اصولی حیثیت رکھتی ہے، جس میں ہر اس مال کو حرام بتایا گیا ہے، جو کسی ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کوئی بندہ حرام مال کھائے، پھر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ

صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر اپنی ذات اور گھر

والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا

تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔“

حضور نبی کریم ﷺ جن بری باتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے

## قادیاہنی خلیفہ مرزا مسرور کا دادا

(74) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ ایک دفعہ ہم گھر کے بچے مل کر حضرت صاحب کے سامنے میاں شریف احمد کو چھیڑنے لگ گئے کہ ابا کو تم سے محبت نہیں ہے اور ہم سے ہے۔ میاں شریف بہت چڑتے تھے۔ حضرت صاحب نے ہمیں روکا بھی کہ زیادہ تنگ نہ کرو مگر ہم بچے تھے لگے رہے۔ آخر میاں شریف رونے لگ گئے اور ان کی عادت تھی کہ جب روتے تھے تو ناک سے بہت رطوبت بہتی تھی۔ حضرت صاحب اٹھے اور چاہا کہ ان کو گلے لگالیں تاکہ ان کا شک دور ہو مگر وہ اس وجہ سے کہ ناک بہ رہا تھا، پرے پرے کھینچتے تھے۔ حضرت صاحب سمجھتے تھے کہ شاید اسے تکلیف ہے، اس لیے دور ہوتا ہے چنانچہ کافی دیر تک یہی ہوتا رہا کہ حضرت صاحب ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے اور وہ پرے پرے کھینچتے تھے اور چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اصل بات کیا ہے، اس لیے ہم پاس کھڑے ہنستے جاتے تھے۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 54، 55 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 486 پر)

بقول شخصے: مرزا محمود احمد نے ہمیشہ مرزا شریف احمد کو ایک کونے میں لگا کر رکھا۔ جب وہ قادیان میں تھا، تب اس کو باڈی بلڈنگ کا شوق تھا۔ اس کے مسلز اتنے زبردست ہو گئے تھے کہ کوئی لاٹھی چلانے والا لاٹھی مارتا تو لاٹھی ٹوٹ جاتی۔ تب مرزا محمود نے اس کی قوت سے ڈر کر اسے بعض فضول قسم کے نشوں میں لگا دیا۔ نیز اپنی نگرانی میں چھپوائی جانے والی ”سیرت المہدی“ میں اس کا ذکر اس انداز سے کرایا جس میں اس کی تضحیک کا پہلو نمایاں رکھا گیا۔

## پانچ اور پچاس کا شہرت یافتہ قادیانی فرق

مرزا قادیانی نے شروع شروع میں ایک عالم کا روپ دھارا اور اعلان کیا کہ وہ عیسائیت، ہندومت اور آریہ سماج کے خلاف کتاب لکھے گا جس میں اسلام کی حقانیت اور ان مذکورہ مذاہب کا ابطال ہوگا اور یہ کتاب پچاس جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان مخیر حضرات اس کی طباعت وغیرہ کے لیے پیشگی رقوم ارسال کریں۔ مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق لوگوں نے پچاس جلدوں کی رقم پیشگی بھجوا دی۔ مرزا قادیانی نے

”براہین احمدیہ“ کے نام سے اس کتاب کو لکھا۔ 5 جلدیں مکمل ہونے پر اعلان کر دیا کہ چونکہ 5 اور 50 میں صرف صفر کا فرق ہے، اس لیے پانچویں جلد کے ساتھ ہی ان کا پچاس جلدیں لکھنے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مرزا قادیانی کی مضحکہ خیز دلیل!

(75) ”پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم دیباچہ صفحہ 7 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 9 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 488 پر)

ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی!

اسلامی شریعت میں خیانت بہت بڑا اور سنگین جرم ہے۔ خیانت میں جھوٹ، بے ایمانی، دھوکا، فریب اور دغا بازی جیسی برائیاں شامل ہیں۔ سب سے پہلے خیانت کے معنی سمجھ لینے چاہئیں۔ ایک انسان کا جو حق دوسرے انسان کے ذمے واجب ہو، اس کے ادا کرنے میں ایمان داری نہ برتنا بددیانتی اور خیانت ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

□ ”اے ایمان والو! تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔“

یہ آیت ایک اصولی حیثیت رکھتی ہے، جس میں ہر اس مال کو حرام بتایا گیا ہے، جو کسی ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کوئی بندہ حرام مال کھائے، پھر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ

صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر اپنی ذات اور گھر

والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا

تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔“

حضور نبی کریم ﷺ جن بری باتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے

ایک خیانت بھی ہے۔ ابوداؤد کی ایک روایت ہے کہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

”الہی! مجھے خیانت سے بچائے رکھنا کہ یہ بہت برا اندرونی ساتھی ہے۔“

خیانت کی کراہیت کا اندازہ حضرت ابن مسعودؓ کی اس روایت سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کہ اللہ کی راہ میں مارا جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے لیکن خیانت کا نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہو اور کہا جائے گا: ”تم امانت لاؤ اور ادا کرو۔“ وہ کہے گا: ”اے اللہ! اب کیسے لاؤں؟“ کہا جائے گا کہ: ”اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔“

مولانا رفیق دلاوریؒ لکھتے ہیں: ”اس شاعرانہ خیال آفرینی کے متعلق التماس ہے کہ اس قسم کی طفل تسلیاں اور مہمل نگاریاں مرزا قادیانی کے ماؤف الدماغ اور فریب خوردہ مرید تو قبول کر سکتے ہیں لیکن دنیا کا کوئی دوسرا صحیح العقل انسان ان سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اگر پچاس کا وعدہ پانچ سے پورا ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے تین روزے رکھ کر باقی روزے ترک کر دے اور کہنے لگے کہ 30 اور 3 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے 30 روزوں کا فریضہ خداوندی ادا ہو گیا تو ارباب قادیاں اپنے مرزائی اصول کے بموجب اس کی تصدیق نہ کریں یا اگر مرزا قادیانی کے ذمہ کسی کے پچاس روپے قرض تھے تو وہ پانچ روپے دے کر قرض خواہ کو اس قسم کی حیلہ گرانہ منطق سے کبھی مطمئن نہیں کر سکتے تھے کہ پچاس اور پانچ میں ایک ہی نقطہ کا فرق ہے، اس لیے سارا قرضہ ادا ہو گیا۔“ بہر حال مرزا قادیانی صاحب مسلمانوں کا جو ہزار ہا روپیہ کھا گئے، اس کے متعلق یوم الحساب کو ان سے یقیناً باز پرس ہوگی اور رب العالمین کی بارگاہ عالی میں پچاس کی جگہ پانچ حصوں سے وعدہ پورا کرنے کی جسارت کا جو انجام ہو سکتا ہے، وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔“

(رئیس قادیان از مولانا رفیق دلاوریؒ)

معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی بھی غبی ہیں، اپنے ”نبی“ پر گئے ہیں، وگرنہ اس مسئلے کا حل بڑا سادہ ہے کہ ”براہین احمدیہ“ کے پانچوں حصوں کے صفحات کو برابر تقسیم کر کے پچاس جلدیں بنوالیں۔ یوں مرزا قادیانی کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور ”فقہ احمدیہ“ میں ”باب الحیل“ کا مفید اضافہ بھی ہو جائے گا۔



## سرسید کی نظر میں

### [HEIGHT OF INSULT]

(76) ”ہنسی اور ٹھٹھا کرنا اکثر انکا شیوہ تھا۔ جب میں ایک دفعہ علی گڑھ میں گیا۔ تو مجھ سے بھی اسی رعونت کی وجہ سے جس کا محکم پودہ ان کے دل میں مستحکم ہو چکا تھا، ہنسی ٹھٹھا کیا اور یہ کہا کہ ”آؤ، میں مرید بنتا ہوں اور آپ مُرشد بنیں اور حیدرآباد میں چلیں اور کچھ جھوٹی کرامات دکھائیں اور میں تعریف کرتا پھروں گا۔ تب ریاست اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ایک لاکھ روپیہ دے دے گی۔ اس میں دو حصے میرے اور ایک حصہ آپ کا ہوا۔“ گویا اس تقریر میں وہ ٹھگ جو سادھو کہلاتے ہیں، مجھے قرار دیا۔ ایسا ہی اور کئی باتیں تھیں جن کا اب ان کی وفات کے بعد لکھنا بے فائدہ ہے۔“

(تریاق القلوب صفحہ 339، 340 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 467، 468 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 489 پر)

## ہندوؤں کی نظر میں

(77) ”جس شخص نے اُن کے اخبار شہ چنگ کے چند پرچے دیکھے ہوں گے، وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ تمام پرچے بد زبانی اور گند اور افترا سے بھرے ہوئے ہیں، چنانچہ اخبار مذکور کے پرچہ 22 اپریل 1906ء میں میری نسبت لکھا ہے کہ یہ شخص خود پرست ہے، نفس پرست ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس واسطے گندی اور ناپاک خواہیں اس کو آتی ہیں۔ پھر پرچہ 15 مئی 1906ء میں لکھا ہے۔ قادیانی مسیح کے الہاموں اور اس کی پیشگوئیوں کی اصلیت طشت از بام کرنے کا ذمہ اٹھانے والا ایک ہی پرچہ شہ چنگ ہے۔ مرزا قادیانی بد اخلاق، شہرت کا خواہاں، شکم پرور ہے۔“

اور پھر پرچہ 22 مئی 1906ء میں میری نسبت لکھتا ہے۔ کبخت کمانے سے عار رکھنے والا۔ مکر اور فریب اور جھوٹ میں مشاق۔ اور پھر پرچہ 22 دسمبر 1906ء میں لکھتا ہے۔ ہم ان کی چالاکیوں کو ضرور طشت از بام کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ارادہ میں

ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور پرچہ 22 دسمبر 1906ء میں لکھا ہے۔ مرزا مکار اور جھوٹھ بولنے والا ہے۔ مرزا کی جماعت کے لوگ بد چلن اور بد معاش ہیں۔ غرض ہر ایک پرچہ ان کا ناپاک گالیوں سے بھرا ہوا نکلتا رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ جناب الہی میں دعائیں کیں کہ خدا اس اخبار کے کارکنوں کو نابود کر کے اس فتنہ کو درمیان سے اٹھا دے۔ چنانچہ کئی مرتبہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ خدا تعالیٰ ان کی بیخ کنی کرے گا۔ زیادہ تر میرے پرنا گوار یہ امر تھا کہ چونکہ یہ لوگ قادیان میں رہتے تھے۔ اس لیے ان کے قرب مکانی کی وجہ سے ان کے جھوٹ کو بطور سچ کے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی اپنے اخبار کیم مارچ 1907ء میں محض دھوکا دینے کے لیے یہ شایع کیا ہے کہ ہم نے..... پندرہ سال تک متواتر پہلو بہ پہلو ایک ہی قصبہ میں ان کے ساتھ رہ کر ان کے حال پر غور کی تو اتنی غور کے بعد ہمیں یہی معلوم ہوا کہ یہ شخص درحقیقت مکار، خود غرض، عشرت پسند، بد زبان وغیرہ وغیرہ ہے۔“ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ پندرہ سال کی ہمسائیگی کا دعویٰ کر کے یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص درحقیقت مکار اور مفتری ہے، ایسے لوگوں کی گواہی کا کس قدر دلوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ پھر اسی پرچہ میں لکھا ہے کہ نشان تو ہم نے اس مدت تک کوئی نہیں دیکھا، البتہ یہ دیکھا ہے کہ یہ شخص ہر روز جھوٹے الہام بناتا ہے۔ ایک لاثانی بے وقوف ہے۔“

(ہقیقۃ الوحی) (تمہ) صفحہ 153 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 590، 591 از مرزا قادیانی  
(عکس صفحہ نمبر 491 پر)

## کتاب فروش

(78) ”اس وقت ایک کتاب ”آئینہ کمالات اسلام“ نام سے تالیف کی ہے جس میں بڑی تحقیق و تدقیق سے اسلام اور قرآن کریم کی خوبیوں اور کمالات کا بیان ہے۔ اور علاوہ اس کے مخالفین مذہب کے عقاید باطلہ کا رد ہے۔ اور فرقہ نیچر یہ کے خیالات باطلہ کا بھی اچھی طرح استیصال کیا گیا ہے۔ ضخامت اس کی ساڑھے چھ سو صفحہ سے زیادہ ہے۔ قیمت دو روپیہ اور محصول علاوہ ہے۔ اور ماسوا اس کے مفصلہ ذیل کتابیں بھی موجود ہیں۔ فتح اسلام، توضیح مرام، ازالہ اوہام۔ محصول علاوہ ہے اور فتح اسلام اور توضیح مرام کی قیمت آٹھ آٹھ آنہ تھی۔

اب ہم نے چار چار آنہ کم کر دیئے ہیں۔ (المشتمر مرزا غلام احمد قادیان ضلع گورداسپور پنجاب)“  
(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 359، طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 493 پر)

(79) ”چونکہ رسالہ سراج منیر جو پیشگوئیوں پر مشتمل ہوگا۔ چودہ سو روپیہ کی لاگت سے چھپے گا۔ اس لیے چھپنے سے پہلے خریداروں کی درخواستیں آنا ضروری ہے۔ تا بعد میں وقتیں پیدا نہ ہوں۔ قیمت اس رسالہ کی ایک روپیہ علاوہ محصول ہوگی۔ لہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جو صاحب پختہ ارادہ سے سراج منیر کو خریدنا چاہتے ہیں، وہ اپنی درخواست معہ پتہ سکونت وغیرہ کے ارسال فرمائیں۔ جب ایک حصہ کافی درخواستوں کا آجائے گا تو فی الفور کتاب کا طبع ہونا شروع ہو جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ خاکسار غلام احمد از قادیان۔“  
(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 118 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 494 پر)

(80) ”عزیزو! یہ کتاب قدرت حق کا ایک نمونہ ہے اور انسان کی معمولی کوششیں خود بخود اس قدر ذخیرہ معارف کا پیدا نہیں کر سکتیں۔ اس کی ضخامت چھ سو صفحہ کے قریب ہے اور کاغذ عمدہ اور کتاب خوشخط اور قیمت دو روپیہ اور محصول علاوہ ہے اور یہ صرف ایک حصہ ہے اور دوسرا حصہ الگ طبع ہوگا اور قیمت اس کی الگ ہوگی۔ اس میں علاوہ حقائق و معارف قرآنی اور لطائف کتاب رب عزیز کے ایک وافر حصہ ان پیشگوئیوں کا بھی موجود ہے جن کو اول سراج منیر میں شائع کرنے کا ارادہ تھا۔ اور میں اس بات پر راضی ہوں کہ اگر خریداران کتاب میری اس تعریف کو خلاف واقعہ پائیں تو کتاب مجھے واپس کر دیں میں بلا توقف ان کی قیمت واپس بھیج دوں گا۔ لیکن یہ شرط ضروری ہے کہ کتاب کو دو ہفتے کے اندر واپس کریں اور دست مالیدہ اور داغی نہ ہو..... اب گزارش مدعا یہ ہے کہ جو صاحب اس کتاب کو خریدنا چاہیں وہ بلا توقف معمم ارادہ سے اطلاع بخشیں تاکہ کتاب بذریعہ ویلیو بی ایبل ان کی خدمت میں روانہ کی جائے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ (خاکسار غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور پنجاب)“  
(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 652 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 652 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 495 پر)

(81) ”اور کتاب ازالہ اوہام کے خریداروں پر واضح ہو کہ میں ملی ماروں کے بازار میں کوٹھی لاہورو والی میں فروش ہوں اور ازالہ اوہام کی جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ جو صاحب تین روپیہ قیمت داخل کریں۔ وہ خرید سکتے ہیں۔ والسلام (المشتمر خاکسار غلام احمد قادیانی حال وارد حلی بازار بلیماراں کوٹھی نواب لوہارو۔ ۲۔ اکتوبر ۱۸۹۱ء)“  
(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 218 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 496 پر)

(82) ”کتاب براہین احمدیہ کی قیمت جو بالفعل دس روپیہ قرار پائی ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے کمال درجہ کی تخفیف اور رعایت ہے کہ جن کو بشرط وسعت اور طاقت مالی کے اعانت دین متین میں کسی نوع کا دریغ نہیں۔ لیکن جو صاحب کسی اور مذہب یا ملت کے پابند ہو کر اس کتاب کو خریدنا چاہیں تو چونکہ اعانت کی ان سے کچھ توقع نہیں۔ لہذا ان سے وہ پوری پوری قیمت لی جائے گی جو حصہ اول کے اعلان میں شائع ہو چکی ہے۔ (المشتمر مؤلف براہین احمدیہ)“  
(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 50 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 497 پر)

## چوہڑی، زانیہ اور کنجروں کے خواب

(83) ”بعض فاسق اور فاجر اور زانی اور ظالم اور غیر متدین اور چور اور حرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو بھی کبھی کبھی سچی خوابیں آتی ہیں اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے (تجربہ کے لیے مرزا قادیانی ان کے پاس جاتے تھے یا وہ ان کے پاس آتے تھے؟) کہ بعض عورتیں جو قوم کی چوہڑی یعنی بھنگن تھیں جن کا پیشہ مردار کھانا اور ارتکاب جرائم کام تھا، انہوں نے ہمارے روبرو بعض خوابیں بیان کیں اور وہ سچی نکلیں۔ اس سے بھی عجیب تر یہ تھا کہ بعض زانیہ عورتیں اور قوم کے کنجر جن کا دن رات زنا کاری کام تھا، ان کو دیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 3، مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 5 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 498 پر)

واہ! کیا خوب تحقیق ہے۔

## ٹپھی ٹپھی

(84) ”5 مارچ 1905ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا، میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا۔ (میں کو خواب سمجھنے والوں کے) میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا، نام کچھ نہیں، میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا۔ اس نے کہا میرا نام ہے ٹپھی۔ ٹپھی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت پر آنے والا۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 332، مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 346 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 499 پر)

مرزا قادیانی کے فرشتے کا نام ٹپھی ٹپھی ہے۔ جب قادیانیوں سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ”ٹپ“ سے بنا ہے جس کا مطلب تیز رفتار ہے۔ یہ فرشتہ ٹپ کر کے مرزا قادیانی کا پیغام اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے اور ٹپ کر کے واپس آتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کسی قادیانی کو ازراہ مذاق ”ٹپھی ٹپھی“ کہتا ہے تو وہ غصہ سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ کئی قادیانی اساتذہ نے طلبہ کی طرف سے بلیک بورڈ پر ”ٹپھی ٹپھی“ لکھنے یا کورس کے انداز میں با آواز بلند ٹپھی ٹپھی کہنے پر اپنے تباد لے کر والے لیے ہیں۔ (آزمائش شرط ہے) جس کی وجہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مسلمان مرزا قادیانی کے فرشتے کا نام لے رہے ہیں۔

## ”ماہواری“ چندہ

(85) ”ہر ایک شخص سوچ سمجھ کر اس قدر ماہواری چندہ کا اقرار کرے جس کو وہ دے سکتا ہے، گو ایک پیسہ ماہواری ہو۔ مگر خدا کے ساتھ فضول گوئی اور دروغ گوئی کا برتاؤ نہ کرے۔ ہر ایک شخص جو مرید ہے، اس کو چاہئے جو اپنے نفس پر کچھ ماہواری مقرر کر دے خواہ ایک پیسہ ہو اور خواہ ایک دھیلہ اور جو شخص کچھ بھی مقرر نہیں کرتا اور نہ جسمانی طور پر اس سلسلہ کے لیے کچھ بھی مدد دے سکتا ہے، وہ منافق ہے۔ اب اس کے بعد وہ سلسلہ میں رہ نہیں سکے گا۔ اس اشتہار کے شائع ہونے سے تین ماہ تک ہر ایک بیعت کرنے والے کے جواب کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ ماہواری چندہ اس سلسلہ کی مدد کے لیے قبول کرتا ہے۔ اور اگر تین ماہ

تک کسی کا جواب نہ آیا تو سلسلہ بیعت سے اُس کا نام کاٹ دیا جائے گا اور مشتہر کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ماہواری چندہ کا عہد کر کے تین ماہ تک چندہ کے بھیجنے سے لاپرواہی کی، اس کا نام بھی کاٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی مغرور اور لاپرواہ جو انصار میں داخل نہیں، اس سلسلہ میں ہرگز نہیں رہے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔“

(اشتہارات جلد دوم صفحہ 556 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 500 پر)  
قادیانی حضرات صرف اس ایک اشتہار پر غور کر لیں تو انہیں معلوم ہو جانا چاہئے کہ مرزا قادیانی نے ”نبوت“ کو لپھور دھندے کے اختیار کیا تھا۔ چندے کے نام پر پیسے بٹورنا اس کا بنیادی مقصد تھا۔

## جماعت مرغی کی آواز پر توجہ دے

(86) ”رؤیا دیکھا کہ ایک دیوار پر ایک مرغی ہے۔ وہ کچھ بولتی ہے۔ سب فقرات یاد نہیں رہے۔ مگر آخری فقرہ جو یاد رہا یہ تھا:-

ان کنتم مسلمین

(ترجمہ) اگر تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد بیداری ہوئی۔ یہ خیال تھا کہ مرغی نے یہ کیا الفاظ بولے ہیں۔ پھر الہام ہوا:-

انفقوا فی سبیل اللہ ان کنتم مسلمین

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم مسلمان ہو۔

فرمایا کہ

مرغی کا خطاب اور الہام کا خطاب ہر دو جماعت کی طرف تھے۔ دونوں فقروں میں ہماری جماعت مخاطب ہے۔ چونکہ آج کل روپیہ کی ضرورت ہے۔ لنگر میں بھی خرچ بہت ہے اور عمارت پر بھی بہت خرچ ہو رہا ہے۔ اس واسطے جماعت کو چاہئے کہ اس حکم پر توجہ کریں۔“  
(ملفوظات جلد چہارم، صفحہ 582، طبع جدید، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 501 پر)

## دعا برائے فروخت

(87) ”بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ پٹیالہ میں خلیفہ محمد حسین

صاحب وزیر پٹیالہ کے مصاحبوں اور ملاقاتیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تھے جو کوم ضلع لدھیانہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا، جو بڑا امیر کبیر اور صاحب جائداد تھا اور لاکھوں روپے کا مالک تھا۔ مگر اس کے کوئی لڑکا نہ تھا جو اس کا وارث ہوتا۔ اس نے مولوی عبدالعزیز صاحب سے کہا کہ مرزا صاحب سے میرے لیے دعا کرواؤ کہ میرے لڑکا ہو جاوے۔ مولوی عبدالعزیز نے مجھے بلا کر کہا کہ ہم تمہیں کرایہ دیتے ہیں۔ تم قادیان جاؤ اور مرزا صاحب سے اس بارہ میں خاص طور پر دعا کے لیے کہو۔ چنانچہ میں قادیان آیا اور حضرت صاحب سے سارا ماجرا عرض کر کے دعا کے لیے کہا۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک تقریر فرمائی، جس میں دعا کا فلسفہ بیان کیا اور فرمایا کہ محض رسمی طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے سے دعا نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے ایک خاص قلبی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ان دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یا تو اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا گہرا تعلق اور رابطہ ہو کہ اس کی خاطر دل میں ایک خاص درد اور گداز پیدا ہو جائے، جو دعا کے لیے ضروری ہے اور یا اس شخص نے کوئی ایسی دینی خدمت کی ہو کہ جس پر دل سے اس کے لیے دعا نکلے۔ مگر یہاں نہ تو ہم اس شخص کو جانتے ہیں اور نہ اس نے کوئی دینی خدمت کی ہے کہ اس کے لیے ہمارا دل پگھلے۔ پس آپ جا کر اسے یہ کہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے ایک لاکھ روپیہ دے یا دینے کا وعدہ کرے۔ (یعنی مینوں نوٹ دکھا، میرا موڈ بنے۔ مرتب) پھر ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پھر اللہ اسے ضرور لڑکا دے دے گا۔ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جا کر یہی جواب دے دیا۔ مگر وہ خاموش ہو گئے اور آخر وہ شخص لا ولد ہی مر گیا۔ اور اس کی جائداد اس کے دور نزدیک کے رشتہ داروں میں کئی جھگڑوں اور مقدموں کے بعد تقسیم ہو گئی۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 257 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 502 پر)

## افریقہ کے بندر اور مرزا قادیانی

(88) ”میر شفیق احمد صاحب محقق دہلوی نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک عرب حضرت مسیح موعود کے پاس بیٹھا ہوا افریقہ کے بندروں کے اور افریقن لوگوں کے لغو قصے سنانے لگا۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہنستے رہے۔ آپ نہ تو کبیدہ خاطر ہوئے اور نہ

ہی اس کو ان لغو قصوں کے بیان کرنے سے روکا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے بلکہ اس کی دلجوئی کے لیے اخیر وقت تک خندہ پیشانی سے سنتے رہے۔“  
(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 215 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 503 پر)

## بتوں کی زیارت

(89) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ سفر ملتان کے دوران میں حضرت صاحب ایک رات لاہور میں شیخ رحمت اللہ صاحب مرحوم کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے تھے۔ ان دنوں لاہور میں ایک کمپنی آئی ہوئی تھی۔ اس میں قد آدم موم کے بنے ہوئے مجسمے تھے۔ جن میں بعض پرانے زمانہ کے تاریخی بت تھے اور بعض میں انسانی جسم کے اندرونی اعضاء طبی رنگ میں دکھائے گئے تھے۔ شیخ صاحب مرحوم حضرت صاحب کو اور چند احباب کو وہاں لے گئے اور حضور نے وہاں پھر کر تمام نمائش دیکھی۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 38 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 504 پر)

یہاں سید ضمیر جعفری کے شعر بے ساختہ یاد آئے ہیں:۔  
ایسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے  
کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے  
آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں  
لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرمانا ہوں

## مرزا قادیانی کی ”علمی“ باتیں

### حمل کاذب

(90) ”اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک تو حمل حقیقی ہوتا ہے۔ جب مدت مقررہ نو ماہ گزر جاتے ہیں تو لڑکایا لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اس کے مقابلہ میں حمل کاذب ہوتا ہے۔ بعض



عورتیں رات دن اولاد کی خواہش کرتی رہتی ہیں جس سے رجاہ کی مرض پیدا ہو جاتی ہے اور جھوٹا حمل ہو کر پیٹ پھولنے لگتا ہے اور حمل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن نو ماہ کے بعد پانی کی مٹک نکل جاتی ہے۔“

(ملفوظات جلد پنجم صفحہ 105، 106 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 505 پر)

## عورتوں کی خاص قسم

(91) ”تحقیق کی رُو سے بعض اس قسم کی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ قوت رجولیت اور انیمیت دونوں اُن میں جمع ہوتی ہیں اور کسی تحریک سے جب اُن کی منی جوش مارے تو حمل ہو سکتا ہے۔“  
(چشمہ معرفت صفحہ 218 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 226 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 507 پر)

## مرشد کے ساتھ مرید کا تعلق

(92) ”مرشد کے ساتھ مرید کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، جیسا عورت کا تعلق مرد سے ہو۔“  
(ملفوظات جلد اول صفحہ 404 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 508 پر)  
مرزا قادیانی نے یہ واضح نہیں کیا کہ مرید کے ذمے کس کردار کو نبھانا ضروری ہے؟  
یا پھر اس پر ماہر الطرفین ہونے کی پابندی ہے؟

ہر ایک سے آشنا ہوں، لیکن جدا جدا رسم و راہ میری  
کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ

## مرزا قادیانی کی سائنس

### قلمی اسلحہ

(93) ”اس وقت جو ضرورت ہے۔ وہ یقیناً سمجھ لو۔ سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔  
ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کئے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مکائد کی رُو سے

اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدانِ کارزار میں اُتوں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ میں کب اس میدان کے قابل ہو سکتا تھا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اُس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔“

(ملفوظات جلد اول صفحہ 38، طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 509 پر)

(94) ”اور اس مادہ کے لیے ضروری نہیں کہ ساگ پات کی کسی قسم پر رُوح، شبنم کی طرح گرے اور اس سے رُوح کا نطفہ پیدا ہو۔ بلکہ وہ مادہ گوشت سے بھی پیدا ہو سکتا ہے خواہ وہ گوشت بکرہ کا ہو۔ یا مچھلی کا۔ یا ایسی مٹی ہو جو زمین کی نہایت عمیق تہہ کے نیچے ہوتی ہے جس سے مینڈکیں وغیرہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 116 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 124 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 510 پر)

(95) ”اگر تم مثلاً دودھ کو جو باسی ہو کر سڑنے کو ہے، ہاتھ میں لو اور خوب اس دودھ میں نظر لگائے رکھو تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہزار ہا کیڑے بن جائیں گے۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 117 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 125 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 511 پر)

(96) ”مثلاً زمین کے نیچے کا طبقہ جو ستر اسی ہاتھ تک کھود کر پھر دکھائی دیتا ہے، اس میں جاندار پائے جاتے ہیں۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 122 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 130 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 512 پر)

(97) ”دُنیا میں ہزاروں چیزیں نیست سے ہست ہو رہی ہیں مثلاً ایک دھات جو بالکل نیست ہو جاتی اور مر جاتی ہے وہ شہد اور سہاگہ اور گھی میں جوش دینے سے پھر زندہ ہو جاتی ہے کسی نے پنجابی میں کہا ہے شہد سہاگہ گھی، موئی دھات دا ایہو جی۔ یعنی شہد، سہاگہ اور گھی جو

ہے، مری ہوئی دعوات کی یہی جان ہے۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 163 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 171 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 513 پر)

(98) ”یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایک گلہری کو پتھر یا سوٹے سے مارا جائے اور وہ بظاہر بالکل مرجائے مگر ابھی تازہ ہو تو اگر اس کے سر کو گوبر میں دبایا جائے تو چند منٹ میں وہ زندہ ہو کر بھاگ جاتی ہے، مکھی بھی اگر پانی میں مرجائے تو وہ بھی زندہ ہو کر پرواز کر جاتی ہے اور بعض جانور جیسے زنبور اور دوسرے حشرات الارض سخت سردی کے ایام میں مرجاتے ہیں اور زمین میں یا دیواروں کے سوراخوں میں چمٹے رہتے ہیں اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 163 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 171، 172 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 514 پر)

۔ جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی

(99) ”اور بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کے پتوں میں سے بڑے بڑے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آک کا درخت بھی ہے اور اس کی نظیریں ہزار ہا ہیں نہ صرف ایک دو۔“  
(چشمہ معرفت صفحہ 269 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 282 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 516 پر)

۔ اک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا

مرزا قادیانی کا حال اس سکھ جیسا ہے جس نے شراب پی کر ایک مکھی کے دونوں پر کاٹ دیئے اور کہا ”اڑ جا“۔ وہ نہ اڑی تو سردار جی بولے۔ تجربہ سے ثابت ہوا کہ مکھی کے دونوں پر کاٹ دیئے جائیں تو وہ سن نہیں سکتی۔ اس کے باوجود مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے:

ایک ایک حرف..... خدا تعالیٰ کی طرف سے

(100) ”میں تو ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا۔ اگر خدا تعالیٰ کی طاقت میرے ساتھ نہ ہو۔“

بارہا لکھتے لکھتے دیکھا ہے کہ ایک خدا کی رُوح ہے جو تیر رہی ہے۔ قلم تھک جایا کرتی ہے مگر اندر جوش نہیں تھکتا۔ طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہ ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔“  
(ملفوظات جلد 2 صفحہ 483 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 517 پر)

## اللہ نے جو مجھے سکھایا، وہ کسی اور کو نہ سکھایا

(101) ”کالجوہرین من المادة الواحدة وروہب لی علوما مقدسة نقية و معارف صافية جلية و علمنی مالم یعلم غیری من المعاصرین.“

(ترجمہ) اور اس نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) مجھے پاکیزہ اور صاف علوم دیئے اور خالص اور اعلیٰ درجہ کے معارف دیئے اور مجھے وہ کچھ سکھایا جو اس زمانہ میں کسی اور کو نہ سکھایا۔  
(انجام آتم صفحہ 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 75 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 518 پر)

## جو میرے ہاتھ سے جام پیے گا، وہ ہرگز نہیں مرے گا

(102) ”اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے، وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں۔ اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے، دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 3 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 104 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 519 پر)  
یہ غالباً وہی ”جام“ ہے جو مرزا امام الدین کی رفاقت میں مرزا قادیانی کو نصیب ہوا تھا۔

## مرزا قادیانی کے ”معجزات“

(103) ”ہر ایک شخص کا الہام جو نرے الفاظ ہوں اور کوئی فوق العادت امر ان میں نہ ہو، خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی الہام ہرگز قابل پذیرائی نہیں جب تک کہ اس میں

الہی شوکت نہ ہو۔ اور الہی شوکت یہ ہے کہ فوق العادت اور عظیم الشان پیشگوئیاں جو الوہیت کی قدرت اور علم سے بھری ہوئی ہوں، اُس الہام میں پائی جائیں۔“

(تریاق القلوب صفحہ 42، 43 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 15 صفحہ 170، 171 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 520 پر)

(104) ”خدا نے میرے لیے وہ نشان دکھائے کہ اگر وہ ان امتوں کے وقت نشان

دکھلائے جاتے جو پانی اور آگ اور ہوا سے ہلاک کی گئیں تو وہ ہلاک نہ ہوتیں۔“  
(حقیقۃ الوحی صفحہ 7 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 619 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 522 پر)

(105) ”مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم

میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں، وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 148 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 152 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 523 پر)

کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک

(106) ”صد ہا نشانوں اور آسمانی شہادتوں اور قرآن شریف کی قطعیت الدلالت آیات اور

نصوص صریحہ حدیثیہ نے مجھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اپنے تئیں مسیح موعود مان لوں۔“  
(حقیقۃ الوحی صفحہ 150 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 153 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 524 پر)

(107) ”خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے تین لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 168 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 168 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 525 پر)

(108) ”پس یقیناً سمجھو کہ سچا مذہب اور حقیقی راستہ از ضرور اپنے ساتھ امتیازی نشان رکھتا ہے اور اسی کا نام دوسرے لفظوں میں معجزہ اور کرامت اور خارق عادت امر ہے۔“  
(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 50 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 63 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 526 پر)

(109) ”نشان: بعض نشان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے وقوع میں ایک منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوتی کہ فی الفور واقع ہو جاتے ہیں اور ان میں گواہ کا پیدا ہونا کم میسر آتا ہے۔ اسی قسم کا یہ ایک نشان ہے کہ ایک دن بعد نماز صبح میرے پرکشی حالت طاری ہوئی۔ اور میں نے اُس وقت اس کشی حالت میں دیکھا کہ میرا لڑکا مبارک احمد باہر سے آیا ہے اور میرے قریب جو ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، اُس کے ساتھ پیر پھسل کر گر پڑا ہے اور اُس کو بہت چوٹ لگی ہے اور تمام گرتہ خون سے بھر گیا ہے۔ میں نے اس وقت مبارک احمد کی والدہ کے پاس جو اُس وقت میرے پاس کھڑی تھیں، یہ کشف بیان کیا۔ تو ابھی میں بیان ہی کر چکا تھا کہ مبارک احمد ایک طرف سے دوڑا آیا۔ جب چٹائی کے پاس پہنچا تو چٹائی سے پیر پھسل کر گر پڑا۔ اور سخت چوٹ آئی اور تمام گرتہ خون سے بھر گیا اور ایک منٹ کے اندر ہی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔“  
(حقیقۃ الوحی صفحہ 384 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 398، 399 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 527 پر)

(110) ”نشان: ایسا ہی عرصہ قریباً تین سال کا ہوا ہے کہ صبح کے وقت کشی طور پر مجھے دکھایا گیا کہ مبارک احمد سخت مبہوت اور بدحواس ہو کر میرے پاس دوڑا آیا ہے اور نہایت بے قرار ہے اور حواس اڑے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ ابا پانی یعنی مجھے پانی دو! یہ کشف میں نے نہ صرف گھر کے لوگوں کو بلکہ بہتوں کو سنا دیا تھا۔ کیونکہ اس کے وقوع میں ابھی قریباً دو گھنٹے باقی تھے۔ اس کے بعد اُسی وقت ہم باغ میں گئے اور قریباً 8 بجے صبح کا وقت تھا اور مبارک احمد بھی ساتھ تھا اور مبارک احمد کئی دوسرے چھوٹے بچوں کے ساتھ باغ کے ایک گوشہ میں کھیلتا تھا اور عمر تقریباً چار برس کی تھی، اُس وقت میں ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مبارک احمد زور سے میری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور سخت بدحواس ہو رہا ہے۔ میرے سامنے

آ کر اتنا اُس کے مُنہ سے نکلا کہ ابا پانی۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 385 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 399 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 529 پر)

(111) ”نشان: ایک دفعہ 1902ء میں مجھے الہام ہوا بیریڈون ان یطفوا نورک وینخطفوا عرضک وانی معک ومع اہلک یعنی دشمن لوگ ارادہ کریں گے کہ تیرے نور کو بجھا دیں اور تیری آبروریزی کریں مگر میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ اور ان کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں اور انہی دنوں میں میں نے دیکھا میں ایک کوچہ میں ہوں جو آگے سے بند ہے اور بہت تنگ کوچہ ہے کہ بمشکل ایک آدمی اس میں گزر سکتا ہے۔ میں بند کوچہ کے آخری حصہ میں جس کے آگے کوئی راہ نہ تھا، دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور جو واپس جانے کی طرف راہ تھی، اس کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تین قوی ہیکل سنڈھے وہاں کھڑے ہیں جو خونئی ہیں اور گزرنے کی راہ بند کر رکھی ہے۔ ایک اُن میں سے میری طرف حملہ کر کے دوڑا۔ اُس کو میں نے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ پھر دوسرا حملہ آور ہوا اور اس کو بھی میں نے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ پھر تیسرا اس شدت اور جوش سے آیا کہ اسے دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ اب خیر نہیں لیکن جب میرے قریب آیا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور میں اس کے ساتھ رگڑ کر اُس کے پاس سے گزر گیا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات میرے دل پر القا ہوئے جن کو میں پڑھتا جاتا اور دوڑتا تھا اور وہ یہ ہیں رب کل شیء خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ اس واقعہ کے دیکھنے کے ساتھ ہی مجھ کو تفہیم ہوا کہ کوئی دشمن مقدمہ برپا کرے گا اور اس کے تین وکیل ہوں گے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 381 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 394، 395 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 530 پر)

(112) ”نشان: ایک دفعہ مجھے لدھیانہ سے پٹیالہ جانے کا اتفاق ہوا اور میرے ساتھ وہی شیخ حامد علی اور دوسرا شخص فتح خان نام ساکن ایک گاؤں متصل ٹانڈہ ضلع ہوشیار پور کا اور تیسرا شخص عبدالرحیم نام ساکن انبالہ چھاؤنی تھا اور بعض اور بھی تھے جو یاد نہیں رہے۔ جس صبح ہم نے ریل پر سوار ہونا تھا، مجھے الہام کے ذریعہ سے بتایا گیا تھا کہ اس سفر میں کچھ نقصان ہوگا

اور کچھ حرج بھی۔ میں نے اپنے ان تمام ہمراہیوں کو کہا کہ نماز پڑھ کر دُعا کر لو کیونکہ مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ چنانچہ سب نے دُعا کی اور پھر ہم ریل پر سوار ہو کر ہر ایک طور کی عافیت سے پیالہ میں پہنچ گئے۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو وزیر اعظم ریاست کا خلیفہ محمد حسن مع اپنے تمام ارکان ریاست کے جو شاید اٹھارہ گاڑیوں پر سوار ہوں گے، پیشوائی کے لیے موجود دیکھے۔ اور جب آگے بڑھے تو شاید سات ہزار کے قریب دوسرے عام و خاص شہر کے رہنے والے ملاقات کے لیے موجود تھے۔ اس حد تک تو خیر گزری نہ کوئی نقصان ہوا اور نہ کوئی حرج۔ لیکن جب واپس آنے کا ارادہ ہوا تو وہی وزیر صاحب مع اپنے بھائی سید محمد حسین صاحب کے جو شاید ان دنوں میں ممبر کونسل ہیں، مجھے ریل پر سوار کرنے کے لیے اسٹیشن پر میرے ہمراہ گئے اور ان کے ساتھ نواب علی محمد خان صاحب مرحوم جھروا لے بھی تھے۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو ریل کے چلنے میں کچھ دیر تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ عصر کی نماز یہیں پڑھ لوں، اس لیے میں نے چونغ اتار کر وضو کرنا چاہا اور چونغ وزیر صاحب کے ایک ملازم کو پکڑا دیا اور پھر چونغ پہن کر نماز پڑھ لی اور اس چونغ میں زاہد راہ کے طور پر کچھ روپیہ تھے اور اسی میں ریل کا کرایہ بھی دینا تھا۔ جب ٹکٹ لینے کا وقت آیا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ ٹکٹ کے لیے روپیہ دوں تو معلوم ہوا کہ وہ رومال جس میں روپیہ تھا، گم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونغ اتارنے کے وقت کہیں گر پڑا۔ مگر مجھے بجائے غم کے خوشی ہوئی کہ ایک حصہ پیشگوئی کا پورا ہو گیا۔ پھر ہم ٹکٹ کا انتظام کر کے ریل پر سوار ہو گئے۔ جب ہم دوراہہ کے اسٹیشن پر پہنچے تو شاید اس وقت دس بجے رات کا وقت تھا اور وہاں صرف پانچ منٹ کے لئے ریل ٹھہرتی تھی۔ میرے ایک ہمراہی شیخ عبدالرحیم نے ایک انگریز سے پوچھا کہ کیا لودہانہ آ گیا؟ اُس نے شرارت سے یا کسی اپنی خود غرضی سے جواب دیا کہ ہاں آ گیا۔ (یہ ہوتا ہے نقصان ٹیج کر کے آنے والے ”ٹیچی ٹیچی“ پر اعتماد کرنے کا، وگرنہ کوئی جینون فرشتہ رکھا ہوتا تو بتا دیتا مرزا صاحب! یہ انگریز آپ سے دھوکا کر رہا ہے۔ مرتب)۔ تب ہم مع اپنے تمام اسباب کے جلد جلد اتر آئے۔ اتنے میں ریل روانہ ہو گئی۔ اترنے کے ساتھ ہی ایک ویرانہ اسٹیشن دیکھ کر پتہ لگ گیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ وہ ایسا ویرانہ اسٹیشن تھا کہ بیٹھنے کے لیے چار پائی بھی نہیں ملتی تھی اور نہ روٹی کا سامان ہو سکتا تھا مگر اس امر کے خیال سے کہ اس حرجہ کے پیش آنے سے دوسرا حصہ پیشگوئی کا بھی پورا ہو گیا۔ اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ گویا اس مقام میں کسی نے ہمیں بھاری دعوت دی اور گویا ہر ایک قسم کا خوش مزہ کھانا ہمیں مل گیا۔ بعد اس کے اسٹیشن ماسٹر اپنے کمرہ سے نکلا۔ اس نے افسوس کیا کہ



کسی نے ناحق شرارت سے آپ کو حرج پہنچایا اور کہا کہ آدھی رات کو ایک مال گاڑی آئے گی۔ اگر گنجائش ہوئی تو میں اس میں بٹھا دوں گا۔ تب اُس نے اس امر کے دریافت کے لیے تار دی اور جواب آیا گنجائش ہے۔ تب ہم آدھی رات کو سوار ہو کر لودھانہ میں پہنچ گئے۔ گویا یہ سفر اسی پیشگوئی کے لیے تھا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 257 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 257 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 532 پر)

(113) ”نشان: ایک دفعہ نواب علی محمد خان مرحوم رئیس لودھیانہ نے میری طرف خط لکھا کہ میرے بعض امور معاش بند ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ تا وہ کھل جائیں۔ جب میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ کھل جائیں گے۔ میں نے بذریعہ خط اُن کو اطلاع دے دی۔ پھر صرف دو چار دن کے بعد وہ وجوہ معاش کھل گئے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 257 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 257 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 534 پر)

(114) ”میرے پاس ایک شیشی مُشک کی ہے جس میں سے میں کھایا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے سلسلہ کو منقطع کرنا نہیں چاہتا تو جس طرح چاہے اس کو برکت دے دے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ لاؤ اس شیشی کو میں برکت دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اُس میں پھونک مار دی۔ ڈاک کے وقت فضل الہی ایک شیشی لایا۔ میں نے سمجھا کہ کوئی دوائی ہے اور رکھ دی۔ مگر فجر کو جب اسے کھول کر دیکھا تو وہ مُشک نکلا۔ میں نے اس کو بلکا کر پوچھا کہ کس نے بھیجی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کاغذ گم ہو گیا۔ اس شیشی پر بھی مُرسل و فریسنده کا نام نہیں۔ یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے برکت کا دیا ہے میں نے گھر میں خود پھونک ماری اور دوسرے دن وہ شیشی آگئی۔ یہ خدا کے عجیب کام ہیں۔ جو آج کل ظاہر ہو رہے ہیں۔ فالحمد لله علی ذالک۔“

(ملفوظات جلد دوم صفحہ 286 طبع جدید، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 535 پر)

(115) ”نشان: ایک دفعہ مجھے دانت میں سخت درد ہوئی۔ ایک دم قرار نہ تھا۔ کسی شخص سے میں نے دریافت کیا کہ اس کا کوئی علاج ہے۔ اس نے کہا کہ علاج دندان، اخراج دندان۔ اور دانت نکالنے سے میرا دل ڈرا۔ تب اس وقت مجھے غنودگی آگئی اور میں زمین پر بے تابی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور چارپائی پاس بچھی تھی۔ میں نے بے تابی کی حالت میں اس چارپائی کی پائنتی پر اپنا سر رکھ دیا اور تھوڑی سی نیند آگئی۔ جب میں بیدار ہوا تو درد کا نام و نشان نہ تھا اور زبان پر یہ الہام جاری تھا:-

اذا مرضت فہو یشفی یعنی جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتا ہے فالحمد لله علی ذالک۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ 246، 247 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 246، 247 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 536 پر)

(116) ”نشان: خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ ایک لڑکی تمہارے گھر میں پیدا ہوگی اور مر جائے گی اور اس کا نام غاسق رکھا یعنی غروب ہونے والی۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ طفولیت میں ہی مر جائے گی۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق لڑکی پیدا ہوئی اور پیشگوئی کے مطابق طفولیت میں ہی مر گئی۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 396 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 396 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 538 پر)

(117) ”میری سچائی پر ایک نشان ہے۔ یہ ہے کہ جب میری لڑکی مبارکہ پیٹ میں تھی۔ اور قریباً پچیس روز اس کی پیدائش میں باقی رہتے تھے تو اس لڑکی کی والدہ نہایت تکلیف میں مبتلا تھی۔ اور حساب کی غلطی سے یہ غم بھی ان کو لاحق ہوا کہ شاید یہ حمل نہ ہو، کوئی اور بیماری ہو۔ کیونکہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رہنے کی وجہ سے خیال کیا کہ یہ گیارہواں مہینہ جاتا ہے اور عام دستور کے لحاظ سے یہ مدت حمل کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دوہری تکلیف دامنگیر ہوگئی اور جب ایسے ایسے خیالات سے ان کا غم حد سے بڑھ گیا تو میں نے ان کے لیے دعا کی۔ تب مجھے یہ الہام ہوا۔ آید آں روزے کہ مستخلص شود۔ یعنی وہ دن چلا آتا ہے کہ چھٹکارا ہو جائے گا

اور اس الہام کے معنوں کی مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ لڑکی پیدا ہوگی اور اسی وجہ سے کوئی لفظ بشارت کا اس الہام میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ چھٹکارا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ میں نے اس الہام سے اپنی جماعت میں سے بہتوں کو اطلاع دے دی۔ آخر 27 رمضان 1314ھ کو لڑکی پیدا ہوگئی جس کا نام مبارکہ رکھا گیا۔“

(تریاق القلوب صفحہ 323 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 451 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 539 پر)

(118) ”میرا ارادہ تھا کہ ان نشانوں کو تین سو تک اس کتاب میں لکھوں اور وہ تمام نشان جو میری کتاب نزول المسح اور تریاق القلوب وغیرہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور دوسرے نئے نشان اس قدر اس میں لکھ دوں کہ تین سو کا عدد پورا ہو جائے مگر تین روز سے میں بیمار ہو گیا ہوں اور آج اتیس ستمبر 1906ء کو اس قدر غلبہ مرض اور ضعف اور نقاہت ہے کہ میں لکھنے سے مجبور ہو گیا ہوں۔ اگر خدا نے چاہا تو حصہ پنجم براہین احمدیہ میں یہ تین سو نشان یا زیادہ اس سے لکھے جائیں گے۔“  
(حقیقۃ الوحی صفحہ 400 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 400 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 540 پر)

(119) ”جھوٹے اور فریبی اپنے جھوٹ میں تھک کر رہ جاتے ہیں۔“  
(ملفوظات جلد دوم صفحہ 642 طبع جدید، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 541 پر)

بائبل میں لکھا ہے:

□ ”احتم بھی بہت سی باتیں بناتا ہے، پر آدمی نہیں بتا سکتا ہے کہ کیا ہوگا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ احتمال کی محنت اسے تھکاتی ہے۔“

(واعظ 10:15-14)

معجزانہ انشا پردازی کا ایک نمونہ

(120) ”مجی اخویم حکیم محمد حسین صاحب قریشی سلمہ اللہ تعالیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ و

برکاتہ۔ اشیاء مفصلہ ذیل ہمراہ لیتے آویں اور اگر خدا نخواستہ ایسی مجبوری ہو تو کسی اور آنے والے کے ہاتھ بھیج دیں۔ وائی بیوٹر جو ایک رحم کے متعلق دوائی ہے، پلومر کی دوکان سے (عصہ) مشک خالص عمدہ جس میں چھبھڑانہ ہو ایک تولہ، پان عمدہ بیگی (عصہ) اور ایک انگریزی وضع کا پاخانہ جو ایک چوکی ہوتی ہے اور اس میں ایک برتن ہوتا ہے اس کی قیمت معلوم نہیں۔ آپ ساتھ لاویں۔ قیمت یہاں سے دی جاوے گی، مجھے دوران سر کی بہت شدت سے مرض ہو گئی ہے۔ پیروں پر بوجھ دے کر پاخانہ پھرنے سے مجھے سر کو چکر آتا ہے۔ اس لیے ایسے پاخانہ کی ضرورت پڑی۔ اگر شیخ صاحب کی دوکان میں ایسا پاخانہ ہو تو وہ دے دیں گے مگر ضرور لانا چاہیے اور روپیہ 30 کا منی آرڈر آپ کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام۔ مرزا غلام احمد!

(خطوط امام بنام غلام صفحہ 6 از حکیم محمد حسین قریشی قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 542 پر)

## مجھ سے خدا تعالیٰ لکھواتا ہے

(121) ”یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔“

(نزل المسیح صفحہ 56 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 434 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 543 پر)



ثبوت حاضر ہیں!

مرزا قادیانی

۷

خانگی حالات



اسلام کا خانگی نظام بے نظیر و بے مثال ہے۔ اسلام فطرت اور اخلاقی پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہنگامی حالات میں دوسری شادی بلکہ چار شادیوں تک کی اجازت دیتا ہے اور اس حالت میں بیویوں کے درمیان پورا انصاف اور تمام حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک کڑی شرط ہے جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں نہیں۔ پہلی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے دینا کہ مرد کو دوسری عورت سے نکاح کی خواہش یا ضرورت ہے، پہلی بیوی اور اس کی اولاد سے سراسر نا انصافی ہے۔ جھوٹے مدعی نبوت آنجہانی مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کیں۔ مگر نفسانی خواہش اور لالچ کی بنا پر ان دونوں میں انصاف و حقوق کا پلڑا برابر نہ رکھ سکا۔ بقول ملک محمد جعفر خاں:

”مرزا قادیانی کی پہلی شادی عمر کے اوائل میں ہی ہو گئی تھی اور اس شادی سے مرزا قادیانی کے دو لڑکے مرزا سلطان احمد اور فضل احمد موجود تھے۔ 1884ء میں جب کہ مرزا قادیانی کی عمر تقریباً انچاس سال تھی، انہوں نے دہلی کے ایک معزز خاندان کی ایک نو عمر کنواری لڑکی سے رشتہ کیا۔ جس بیوی کے ساتھ مرزا قادیانی کی جوانی کا بہترین حصہ گزر چکا تھا، بڑھاپے میں اسے عذاب میں مبتلا کرنا کسی طرح جائز نہ تھا۔ اگر مرزا قادیانی قرآنی حکم کے ماتحت دیانت داری سے غور کرتا تو یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچتا کہ اس عمر میں وہ اپنی نئی دلہن اور اویڑ عمر کی بیوی کے درمیان انصاف نہ کر سکے گا۔ خدا سے زیادہ کون انسانی فطرت اور ازدواجی تعلقات کے تقاضوں کی نزاکت اور اہمیت سے واقف ہے۔ اس لیے سورہ نساء میں جہاں تعدد ازواج کے لیے انصاف کی شرط مقرر کی گئی ہے، ساتھ ہی مردوں کو اس حقیقت سے متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اس بارے میں اپنی استعداد کی نسبت کسی خوش فہمی اور حسن ظن میں مبتلا نہ رہو اور یہ نہ سمجھو کہ تم آسانی کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کر سکو گے۔ چنانچہ فرمایا:

□ ”ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلو

کل ایمل فتدروہا کالمعلقة۔“ (النساء: 129)

ترجمہ: ”اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو۔ تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ (ایک بیوی کی طرف) بالکل اور چھوڑ دو دوسری کو جیسے وہ (درمیان میں) لٹک رہی ہو۔“

مرزا قادیانی کی نسبت ہمارے پاس ایسی شہادت موجود ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اپنے حالات کے ماتحت ان کو یقین تھا کہ دوسری شادی کے بعد وہ اپنی پہلی بیوی سے انصاف نہ کر سکیں گے اور اس کے حقوق ادا کرنے سے قاصر رہیں گے۔ مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات کی نسبت ان کے چھوٹے صاحبزادے میاں بشیر احمد صاحب ایم۔ اے نے ایک کتاب ”سیرۃ المہدی“ لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی والدہ یعنی مرزا قادیانی کی دوسری بیوی کی زبانی یہ واقعہ لکھا ہے:

□ ”والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں (یعنی پہلی بیوی کو) کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا، ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس لیے اب اگر دونوں بیویوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو میں گنہگار ہوں گا۔ اس لیے اب دو باتیں ہیں۔ یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو اور یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ میں تم کو خرچ دیے جاؤں گا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ اب میں بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی۔ بس مجھے خرچ ملتا رہے، میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔“

مرزا بشیر احمد صاحب نے ”سیرت المہدی“ میں ہمیں اپنی سوتیلی والدہ کا اصل نام تک نہیں بتایا لیکن اس کا ذکر ان تحقیر آمیز الفاظ سے کیا ہے کہ ”فضل احمد کی والدہ جس کو لوگ عام طور پر ”بھچھے دی ماں“ کہا کرتے تھے۔“ خدا کی شان ہے کہ ایک عورت تو اس اعزاز سے ام المومنین بن جائے کہ اس نے اپنی جوانی میں ایک ادھیڑ عمر کے مرد سے شادی کر لی اور دوسری بے چاری محض اس تصور کی بنا پر کہ وہ خاوند کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہوتی گئی، صرف ”بھچھے دی ماں“ ہو کر رہ جائے۔ اس ذکر سے میرے ذہن میں بیسیوں اور مثالیں آگئی ہیں۔



اگر آپ اپنے ملک کے ان لوگوں پر نظر ڈالیں تو شروع میں چھوٹے چھوٹے عہدوں پر فائز تھے یا متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور اب اتفاق زمانہ سے یک لخت اعلیٰ عہدوں پر پہنچ گئے ہیں یا دولت مند ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر کی ایک تو ”بیگم صاحبہ“ ہوتی ہے اور ایک غریب کوئی ”بھگے دی ماں“ ہوتی ہے جو گناہی میں اپنے آبائی گاؤں میں کسی نہ کسی طرح زندگی کے دن پورے کر رہی ہوتی ہے۔ ان حالات میں مرزا قادیانی کا طرز عمل کوئی ایسا انوکھا نہیں ہے۔ انہوں نے وہی کیا جو ان کے طبقے کے دوسرے مرد کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کیا نبی اور مجددین کی صداقت کا یہی معیار ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی معاشرہ کی مروج برائیوں کے عین مطابق ہے اور کسی برائی میں وہ منفرد نہیں ہے؟ کیا نبی برائیوں کی تقلید اور ان کے استحکام کے لیے آتے ہیں؟

اور کتنی بے بسی اور مظلومیت ٹپکتی ہے مرزا قادیانی کی بیوی کے جواب سے.....  
 ”اب میں بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی!“..... ان الفاظ میں ایک لطیف اور گہرا طنز ہے، جس کو مرزا قادیانی اور ان کے سیرت نگار دونوں نے محسوس نہیں کیا۔ کیا یہ عورت یہ کہتی ہوئی نہیں معلوم ہوتی:

□ ”آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہی تا کہ میں جوان نہیں رہی؟ کیا میں ہمیشہ بوڑھی تھی؟ میں نے اپنی جوانی کس پر نثار کی ہے؟ پھر اپنی عمر کا بھی تو خیال کرو۔ کیا تم ویسے ہی جوان ہو؟ کیا نکاح صرف جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا ہم نے زندگی کا اتنا لمبا عرصہ ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہو کر نہیں گزارا۔ اب مجھے کیوں چھوڑتے ہو؟ کیا زندگی کی شام کے لیے جوانی کی یادیں اور جوان بیٹوں کی خوشیاں ناکافی ہیں؟“

سیرۃ المہدی کے متذکرہ بالا اقتباس سے واضح ہوگا کہ مرزا قادیانی اس امر کے معترف تھے کہ وہ دو بیویوں میں برابری کا سلوک کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ تعجب ہے کہ اس احساس کے باوجود انہوں نے (محمدی بیگم نامی ایک کم عمر لڑکی سے) جلد ہی ایک تیسری شادی کا بھی ارادہ کر لیا۔ (احمدیہ تحریک از ملک محمد جعفر خاں)

آئے دیکھتے ہیں مرزا قادیانی کے خانگی حالات۔

## بیوی سے حسن سلوک

(122) ”جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔“  
(کشتی نوح صفحہ 21 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 19 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 544 پر)

## بیوی سے عمدہ سلوک

(123) ”ہمارے ہادیٰ کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خیر کم خیر کم لاہلہ۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں۔ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔“  
(ملفوظات جلد اول صفحہ 403 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 545 پر)

## طلاق سے پرہیز کرو

(124) ”اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ ان کی کینریں نہیں ہیں۔ درحقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے۔ پس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغا باز نہ ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو اور حدیث میں ہے۔ خیر کم خیر کم لاہلہ یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو۔ ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو۔ کیونکہ نہایت بد، خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔“  
(تحفہ گولڑویہ صفحہ 39 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 75 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 546 پر)

## ”بھجے دی ماں“ کو طلاق

(125) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود کو، اوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کو لوگ عام طور پر ”بھجے دی ماں“ کہا کرتے تھے، بے تعلقی سی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے سخت بے رغبتی تھی اور ان کا ان کی طرف میلان تھا اور وہ اسی رنگ میں رنگیں تھیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی۔ (اپنی دوسری والدہ کی بابت یہ بے رحم حقیقت نگاری کیا نام پائے گی؟ کوئی قادیانی ہی اس پر تبصرہ کرے!۔ مرتب) ہاں آپ اخراجات وغیرہ باقاعدہ دیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انھیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا، ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے اس لیے اب اگر دونوں بیویوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو میں گنہگار ہوں گا۔ اس لیے اب دو باتیں ہیں یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو اور یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ میں تم کو خرچ دیے جاؤں گا۔ انھوں نے کہلا بھیجا کہ اب میں بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی۔ بس مجھے خرچ ملتا رہے، میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کرا دیا اور فضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ رہیں۔ تب حضرت صاحب نے ان کو طلاق دے دی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کا یہ طلاق دینا آپ کے اس اشتہار کے مطابق تھا جو آپ نے 2 مئی 1891ء کو شائع کیا تھا اور جس کی سرخی تھی ”اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین۔“ اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر مرزا سلطان احمد اور ان کی والدہ اس امر میں مخالفانہ کوشش سے الگ نہ ہو گئے تو پھر آپ کی طرف سے مرزا سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہوں گے اور ان کی والدہ کو آپ کی طرف سے طلاق ہوگی۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ فضل احمد نے اس وقت اپنے آپ کو عاق ہونے سے بچا لیا۔ نیز والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد ایک دفعہ مرزا سلطان احمد کی والدہ بیمار ہوئیں تو چونکہ حضرت صاحب کی طرف سے مجھے اجازت تھی، میں انھیں دیکھنے کے لیے گئی۔ واپس آ کر میں نے حضرت صاحب سے ذکر کیا کہ بھجے کی ماں بیمار

ہے، اور یہ تکلیف ہے۔ آپ خاموش رہے۔ میں نے دوسری دفعہ کہا تو فرمایا میں تمہیں دو گولیاں دیتا ہوں، یہ دے آؤ۔ مگر اپنی طرف سے دینا میرا نام نہ لینا۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ اور بھی بعض اوقات حضرت صاحب نے اشارۃً کنایۃً مجھ پر ظاہر کیا کہ میں ایسے طریق پر کہ حضرت صاحب کا نام درمیان میں نہ آئے، اپنی طرف سے کبھی کچھ مدد کر دیا کروں، سو میں کر دیا کرتی تھی۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 33، 34 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 547 پر)

### بدذات بیوی

(126) ”عورتوں میں یہ بھی ایک بد عادت ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند کسی اپنی مصلحت کے لیے کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اور اس کے اقارب سخت ناراض ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور اس بندۂ خدا کو ناحق ستاتے ہیں۔ ایسی عورتیں اور ایسے ان کے اقارب بھی نابکار اور خراب ہیں کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت کاملہ سے جس میں صدہا مصالح ہیں، مردوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت یا مصلحت کے وقت چار تک بیویاں کر لیں۔ پھر جو شخص اللہ رسولؐ کے حکم کے مطابق کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو کیوں بُرا کہا جائے۔ ایسی عورتیں اور ایسے ہی اس عادت والے اقارب جو خدا اور اس کے رسولؐ کے حکموں کا مقابلہ کرتی ہیں، نہایت مردود اور شیطان کی بہنیں اور بھائی ہیں کیونکہ وہ خدا اور رسولؐ کے فرمودہ سے منہ پھیر کر اپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسی بدذات بیوی ہو تو اسے مناسب ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے دوسرا نکاح ضرور کرے۔“

بعض جاہل مسلمان اپنے ناطہ رشتہ کے وقت یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کرنا منظور ہے اس کی پہلی بیوی بھی ہے یا نہیں۔ پس اگر پہلی بیوی موجود ہو تو ایسے شخص سے ہرگز نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی صرف نام کے مسلمان ہیں اور ایک طور سے وہ ان عورتوں کے مددگار ہیں جو اپنے خاوندوں کے دوسرے نکاح سے ناراض ہوتی ہیں۔ سو ان کو بھی خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 86 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 549 پر)

## حالت مردی کا عدم

(127) ”ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا۔ اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا۔ میری حالت مردی کا عدم تھی۔ اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا کہ آپ باعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی اور مجھے اس نے دفع مرض کے لیے اپنے الہام کے ذریعہ سے دوائیں بتلائیں۔ اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ وہ دوا میں نے طیار کی اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلی یقین سے معلوم کیا کہ وہ پر صحت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے۔ وہ مجھے دی گئی اور چار لڑکے مجھے عطا کیے گئے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 98، 99 طبع چہارم، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 550 پر)

## بیوی کے ایام نے عزت رکھ لی

(128) ”مکرم مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ، حافظ صاحب سے روایت کرتے ہیں: حضرت مسیح موعود نے (گویا نومبر 1884ء میں) ایک روز مجھے فرمایا: میاں حامد علی! سفر پر جانا ہے۔ چنانچہ یکہ کرایہ پر لیا۔ جب خاکروبوں کے محلہ کے قریب پہنچے تو مرزا اسماعیل بیگ صاحب سے فرمایا کہ میں وہلی شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہیں رخصتانہ اور ولیمہ ہوگا۔ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ میں جا کر خط لکھوں گا۔ اس وقت سلطان احمد کی والدہ کو بتا دینا تاکہ میری واپسی تک وہ رو دو بیٹھے۔ میں حضور کی یہ بات سن کر سخت حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ مجھے بخوبی معلوم تھا کہ حضور اس وقت از دواجی زندگی کے قابل نہ تھے۔ اور عرصہ سے میں مختلف حکیموں اور طبیبوں سے نسخے معلوم کر کے نوٹ کیا کرتا تھا (اور حضور کو کھلاتا تھا لیکن کسی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا) مرزا اسماعیل بیگ صاحب کی موجودگی میں تو میں نے اپنے تئیں بمشکل ضبط کیا لیکن نہر کے پل پر پہنچے تو عرض کیا: آپ کی حالت آپ پر اور نہ مجھ پر مخفی ہے۔ پھر آپ نے شادی کا کیوں ارادہ فرمایا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی بات درست ہے۔ لیکن میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چل تو میں چلتا

ہوں۔ اس جواب پر میں کیا عرض کرتا۔ سو میں خاموش ہو گیا۔

دہلی میں حضرت میر ناصر نواب صاحب کے ہاں پہنچے تو بیٹھک میں مجھے ٹھہرایا گیا۔ چند روز قبل ہی بیوی صاحبہ (حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ) ایام سے پاک ہوئی تھیں۔ گھر پر ہی رخصتانہ عمل میں آیا۔ رخصتانہ کی رات میں نہایت بیقرار تھا کہ کیا ہوگا۔ چنانچہ شدت اضطراب کی وجہ سے میری نیند کافور ہو گئی۔ اور میں رات بھر حضور کے لیے نہایت تضرع سے دعا میں مصروف رہا۔ صبح کی اذان ہوئی تو حضور میرے پاس تشریف لائے اور ہم نے نماز فجر ادا کی، جس کے بعد فرمایا۔ آؤ! لال قلعہ کی طرف سیر کر آئیں۔ چنانچہ راستہ میں خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پردہ پوش اور با وفا ہے کہ رات بیوی صاحبہ کو پھر ایام شروع ہو گئے اور ہمیں چھٹی ہو گئی۔ چنانچہ اسی حالت میں حضور حضرت ام المومنین کو لے کر قادیان تشریف لے آئے۔

کچھ عرصہ بعد حضرت میر صاحب نے حضور کو لکھا کہ آپ لڑکی کو چھوڑ جائیں۔ حضور نے ایک سو روپیہ بھجوا کر لکھا کہ مجھے تصنیف کے کام کی وجہ سے فرصت نہیں، آپ آ کر لے جائیں۔ چنانچہ میر صاحب آ کر لے گئے۔ پھر دو تین ماہ بعد حضور کو لکھا کہ آپ آ کر بچی کو لے جائیں۔ حضور نے ایک سو روپیہ بھیج دیا اور لکھا کہ آپ آ کر چھوڑ جائیں۔ چنانچہ میر صاحب آ کر چھوڑ گئے۔ حضرت ام المومنین کے اخلاق عالیہ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے اپنے والدین کے ہاں اور سہیلیوں سے اس بارہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا۔

میں حضور کے علاج میں پہلے ہی مصروف تھا۔ بیوی صاحبہ کی واپسی پر آٹھ دس ماہ گزر گئے لیکن علاج بے اثر رہا۔ ایک روز سیر میں حضور نے ہمیں فرمایا کہ تم لوگ دعویٰ محبت کرتے ہو، میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حیران ہوئے کہ نہ معلوم کیا امتحان ہوگا۔ تو فرمایا: میرے دل میں ایک بات ہے اس کے متعلق دعا کرو۔ اور جو پتہ لگے بتاؤ۔ چنانچہ حضور روزانہ ہم سے دریافت کرتے تھے کہ کیا خواب آئی ہے۔ دیگر احباب اپنی خوابیں سناتے تو حضور فرماتے کہ یہ اس امر کے متعلق نہیں۔ مجھے کوئی خواب نہ آئی تھی۔ ایک روز موضع حصہ غلام نبی اپنے اہل و عیال کے پاس جانے کی میں نے اجازت لی اور ابھی قادیان سے نکلا ہی تھا کہ غیر اختیاری طور پر میری زبان پر دُرود شریف جاری ہو گیا اور میں گاؤں تک درود شریف ہی پڑھتا گیا اور گھر پہنچا اور بچوں سے ملا، کھانا کھایا۔ لیکن میری یہ خاص کیفیت اسی طرح قائم تھی۔ تھکا ماندہ تھا، سو گیا۔ رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے اور فرمایا۔ حاد علی!

تمہاری کاپی میں جو فلاں نسخہ ہے وہ مرزا صاحب کو کیوں نہیں دیتے؟ اس پر میں بیدار ہو گیا۔ اور صحن میں نکل کر دیکھا تو رات چاندنی ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے۔ اور میں قادیان کو روانہ ہو گیا۔ جب میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب والے مکان کی بیٹھک والی جگہ پر پہنچا تو حضور بیت الفکر میں ٹہل رہے تھے اور اس وقت فجر کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے کوچہ سے السلام علیکم عرض کیا، تو حضور نے جواب دے کر پوچھا۔ کون ہے؟ عرض کیا: حامد علی۔ فرمایا۔ خیر ہے؟ عرض کیا کہ خیر ہے۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خواب بیان کی۔ فرمایا۔ یہی بات تھی جس کے لیے میں نے آپ دوستوں کو دعا کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی کاپی میں تحریر کردہ وہ دو اڑھائی پیسے کا معمولی نسخہ بنا کر حضور کو استعمال کروایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا مفید ثابت ہوا کہ کچھ عرصہ تک حضور ہر نماز غسل کر کے پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایک اور نسخہ بھی بتا دیا جو بے حد مفید ثابت ہوا۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی روایت ہے:

”حافظ حامد علی صاحب مرحوم خادم مسیح موعود بیان کرتے تھے کہ جب حضرت صاحب نے دوسری شادی کی تو ایک عمر تک تجرد میں رہنے اور مجاہدات کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے قویٰ میں ضعف محسوس کیا۔ اس پر وہ الہامی نسخہ جو ”زدجام عشق“ کے نام سے مشہور ہے بنوا کر استعمال کیا۔ چنانچہ وہ نسخہ نہایت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت خلیفہ اول بھی فرماتے تھے کہ میں نے یہ نسخہ ایک بے اولاد امیر کو کھلایا تو خدا کے فضل سے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس پر اس نے ہیرے کے کڑے ہمیں نذر دیے۔“

یہ ساری تفصیل فصل الہی کے نشان کی خاطر دی گئی ہے۔ حضور تحریر فرماتے ہیں:

”اس وقت میرا دل و دماغ اور جسم نہایت کمزور تھا اور علاوہ ذیابیطس اور دوران سر اور تشنج قلب کے دق کی بیماری کا اثر ابھی بنگلی دور نہیں ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ کے ضعف میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مردی کا عدم تھی۔ اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے مجھے خط لکھا تھا..... کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلاء پیش آوے۔ مگر باوجود ان کمزوریوں کے خدا نے مجھے پوری قوت، صحت اور طاقت بخشی اور چار لڑکے عطا کیے۔“

(اصحاب احمد جلد سیزدہم صفحہ 31 تا 33 از ملک صلاح الدین قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 552 پر)

قربان جائیں قادیانی لٹریچر پر، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ صدائے عام

ہے.....!!!

ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر  
سب پہ سبقت لے گئی بے حیائی آپ کی

## پچاس مردوں کے برابر طاقت

(129) ”ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا۔ اور دو مرضیں یعنی ذیابیطس اور درد سر مع دوران سر قدیم سے میرے شامل حال تھیں جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا۔ اس لیے میری حالت مردی کا لہدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا اور ایک خط جس کو میں نے اپنی جماعت کے بہت سے معزز لوگوں کو دکھلا دیا ہے۔ جیسے اخویم مولوی نور الدین صاحب اور اخویم مولوی برہان الدین وغیرہ۔ مولوی محمد حسین صاحب ایڈیٹر اشاعت السنہ نے ہمدردی کی راہ سے میرے پاس بھیجا کہ آپ نے شادی کی ہے اور مجھے حکیم محمد شریف کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ باعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ اگر یہ امر آپ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ میں اولیاء اللہ کے خوارق اور روحانی قوتوں کا منکر نہیں ورنہ ایک بڑے فکر کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آوے۔“ یہ ایک چھوٹے سے کاغذ پر رقعہ ہے جو اب تک اتفاقاً میرے پاس محفوظ رہا ہے۔ اور میری جماعت کے پچاس کے قریب دوستوں نے پچشم خود اس کو دیکھ لیا اور خط پہچان لیا ہے۔ اور مجھے امید نہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب اس سے انکار کریں اور اگر کریں تو پھر حلف دینے سے حقیقت کھل جائے گی۔ غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی۔ اور مجھے اس نے رفع مرض کے لیے اپنے الہام کے ذریعہ سے دوائیں بتلائیں۔ اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ وہ دوا میں نے طیار کی اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلی یقین سے معلوم کر لیا کہ وہ پرمحمت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی اور چار لڑکے مجھے عطا کیے گئے۔ اگر دنیا اس بات کو مبالغہ نہ سمجھتی تو میں اس جگہ اس واقعہ حقہ کو جو اعجازی رنگ میں ہمیشہ کے لیے مجھے عطا کیا گیا بہ تفصیل بیان کرتا تا معلوم ہوتا کہ ہمارے قادر قیوم کے نشان ہر رنگ میں



ظہور میں آتے ہیں اور ہر رنگ میں اپنے خاص لوگوں کو وہ خصوصیت عطا کرتا ہے جس میں دنیا کے لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا۔ اور پھر اپنے تئیں خدا داد طاقت میں پچاس مرد کے قائم مقام دیکھا۔ اس لیے میرا یقین ہے کہ ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔“

(تریاق القلوب صفحہ 36 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 203، 204 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 555 پر)

واقعی یہ ایک عجیب نسخہ ہوگا اور عجب نہیں کہ حکیم نور الدین سے لے کر موجودہ قادیانی خلیفہ تک اس نسخہ سے نہ صرف خود مستفیض ہوئے ہوں گے بلکہ خاص خاص ”قادیانیوں“ کو بھی اس عجیب الفعل تریاق سے بہرہ مند فرماتے ہوں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرزا قادیانی کے گھر میں چالیس پچاس زن مدخولہ ہوتیں تو پچاس مردوں کی طاقت قرین قیاس تھی لیکن ایک بیوی اور پچاس مردوں کی طاقت، ایک بعید از فہم اور بے جوڑ سی بات معلوم ہوتی ہے۔

## حقیقی بیعت

(130) ”ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ اگر آپ کو ہر طرح سے بزرگ مانا جائے اور آپ کے ساتھ صدق اور اخلاص ہو مگر آپ کی بیعت میں انسان شامل نہ ہووے تو اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا۔ ”بیعت کے معنی ہیں اپنے تئیں بیچ دینا اور یہ ایک کیفیت ہے جس کو قلب محسوس کرتا ہے جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ بیعت کے لیے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے۔“  
(ملفوظات جلد اول صفحہ 506 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 557 پر)

## نصرت جہاں بیگم نے بیعت نہیں کی

(131) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود نے پہلی بیعت

لدھیانہ میں لی تھی۔ پہلے دن چالیس آدمیوں نے بیعت کی تھی، پھر جب آپ گھر میں آئے تو بعض عورتوں نے بیعت کی۔ سب سے پہلے مولوی صاحب (حضرت مولوی نور الدین صاحب) نے بیعت کی تھی۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ آپ نے کب بیعت کی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ میرے متعلق مشہور ہے کہ میں نے بیعت سے توقف کیا اور کئی سال بعد بیعت کی۔ یہ غلط ہے بلکہ میں کبھی بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی اور شروع سے ہی اپنے آپ کو بیعت میں سمجھا اور اپنے لیے باقاعدہ الگ بیعت کی ضرورت نہیں سمجھی۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 18، 19 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 558 پر)

### بیعت نہ کرنے والا منافق

(132) ”اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو شخص حضرت مسیح موعود کو واقعی سچا مسلمان جانتا ہے اور آپ کے مکذبین کو کافر سمجھتا ہے اور آپ کے الہامات اور نشانات کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتا ہے اور پھر آپ کی بیعت نہیں کرتا، ایسا شخص یقیناً منافق ہے اور صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت صاحب تو یہ کہیں کہ میری بیعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک شخص پر ضروری ہے اور وہ باوجود آپ کو استہزاز جاننے اور آپ کے نشانات اور الہامات پر ایمان لانے کے آپ کی بیعت میں داخل نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا اشتہار دے بھی دے جس میں حضرت صاحب کے منکرین کو کافر لکھا گیا ہو اور یہ بھی اعلان کرے کہ میں حضرت مرزا قادیانی کو استہزاز مسلمان سمجھتا ہوں اور آپ کے نشانات پر ایمان لاتا ہوں لیکن بیعت نہ کرے تو تب بھی ہم اس کو مسلمان نہیں کہیں گے کیونکہ وہ منافق ہے اور صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے..... اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص آپ کو آپ کے تمام دعاوی میں صادق جانتا ہو اور پھر باقاعدہ سلسلہ میں داخل نہ ہو۔ خاص کر جب حضرت مسیح موعود کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ میری بیعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک شخص پر واجب قرار دی گئی ہے ایسے شخص کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔“

(کلمۃ الفصل صفحہ 162، 163، 165 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 560 پر)

## تنگ پاجامہ

(133) ”مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن حضرت صاحب کی مجلس میں عورتوں کے لباس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تنگ پاجامہ جو بالکل بدن کے ساتھ لگا ہوا ہوا چھان نہیں ہوتا کیونکہ اس سے عورت کے بدن کا نقشہ ظاہر ہو جاتا ہے جو ستر کے منافی ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ صوبہ سرحد میں اور اس کے اثر کے ماتحت پنجاب میں بھی عورتوں کا عام لباس سلوار ہے۔ لیکن ہندوستان میں تنگ پاجامہ کا دستور ہے اور ہندوستان کے اثر کے ماتحت پنجاب کے بعض خاندانوں میں بھی تنگ پاجامے کا رواج قائم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے گھروں میں بھی بوجہ حضرت والدہ صاحبہ کے اثر کے جو دلی کی ہیں، زیادہ تر تنگ پاجامے کا رواج ہے۔ لیکن سلوار بھی استعمال ہوتی رہتی ہے مگر اس میں شک نہیں کہ ستر کے نکتہ نگاہ سے تنگ پاجامہ ضرور ایک حد تک قابل اعتراض ہے اور سلوار کا مقابلہ نہیں کرتا ہاں زینت کے لحاظ سے دونوں اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں یعنی بعض بدنوں پر تنگ پاجامہ بجا ہے اور بعض پر سلوار۔“

(سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 66 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 563 پر)

## غرارہ

(134) ”آخری ایام میں حضور ہمیشہ ایسے پاجامے پہنا کرتے تھے، جو نیچے سے تنگ اوپر سے کھلے گاؤ دم طرز کے اور شرعی کہلاتے ہیں۔ لیکن شروع میں 1890-95ء میں، میں نے حضور کو بعض دفعہ غرارہ پہنے ہوئے بھی دیکھا ہے۔“

(ذکر حبیب صفحہ 39 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 564 پر)

## مصافحہ

(135) ”میاں فخر الدین صاحب ملتانی ثم قادیانی نے مجھ سے بیان کیا کہ جب 1907ء میں حضرت بیوی صاحبہ لاہور تشریف لے گئیں تو ان کی واپسی کی اطلاع آنے پر حضرت مسیح موعود ان کو لانے کے لیے بیٹالہ تک تشریف لے گئے۔ میں نے بھی مولوی سید محمد احسن صاحب مرحوم کے واسطے سے حضرت صاحب سے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت حاصل کی

اور حضرت صاحب نے اجازت عطا فرمائی۔ مگر مولوی صاحب سے فرمایا کہ فخر الدین سے کہہ دیں کہ اور کسی کو خبر نہ کرے اور خاموشی سے ساتھ چلا چلے۔ بعض اور لوگ بھی حضرت صاحب کے ساتھ ہرکاب ہوئے۔ حضرت صاحب پاکی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے جسے آٹھ کھار باری باری اٹھاتے تھے۔ قادیان سے نکلتے ہی حضرت صاحب نے قرآن شریف کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع فرمائی اور میں غور کے ساتھ دیکھتا گیا کہ بیالہ تک حضرت صاحب سورہ فاتحہ ہی پڑھتے چلے گئے اور دوسرا ورق نہیں الٹا۔ راستہ میں ایک دفعہ نہر پر حضرت صاحب نے اتر کر پیشاب کیا اور پھر وضو کر کے پاکی میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر اسی طرح سورہ فاتحہ کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ بیالہ پہنچ کر حضرت صاحب نے سب خدام کی معیت میں کھانا کھایا اور پھر سٹیشن پر تشریف لے گئے۔ جب حضرت صاحب سٹیشن پر پہنچے تو گاڑی آچکی تھی۔ اور حضرت بیوی صاحبہ گاڑی سے اتر کر آئی ہوئی تھیں اور حضرت صاحب کو ادھر دیکھ رہی تھیں۔ حضرت صاحب بھی بیوی صاحبہ کو دیکھتے پھرتے تھے کہ اتنے میں لوگوں کے مجمع میں حضرت بیوی صاحبہ کی نظر حضرت صاحب پر پڑ گئی اور انہوں نے محمود کے ابا کہہ کر حضرت صاحب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر حضرت صاحب نے سٹیشن پر ہی سب لوگوں کے سامنے بیوی صاحبہ کے ساتھ مصافحہ فرمایا اور ان کو ساتھ لے کر فرودگاہ پر واپس تشریف لے آئے۔“

(سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 106، 107 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 565 پر)

## ملکہ کاراج

(136) ”مکرمی مفتی محمد صادق صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں میں کسی وجہ سے اپنی بیوی مرحومہ پر کچھ خفا ہوا، جس پر میری بیوی نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی بڑی بیوی کے پاس جا کر میری ناراضگی کا ذکر کیا اور حضرت مولوی صاحب کی بیوی نے مولوی صاحب سے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد میں جب حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ ”مفتی صاحب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ملکہ کاراج ہے۔“ بس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا مگر میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے یہ الفاظ عجیب معنی خیز ہیں کیونکہ ایک طرف تو ان دنوں میں برطانیہ کے تخت پر ملکہ وکٹوریا متمکن تھیں اور دوسری

طرف حضرت مولوی صاحب کا اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت مسیح موعود اپنے خانگی معاملات میں حضرت ام المومنین کی بات بہت مانتے ہیں۔“  
(سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 102 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 567 پر)

## میں ایسے پردے کا قائل نہیں

(137) ”بیان کیا حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کسی سفر میں تھے۔ سٹیشن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی، آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ سٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹھہرنے لگ گئے، یہ دیکھ کر مولوی عبدالکریم صاحب جن کی طبیعت غیور (اور مرزا قادیانی کی؟) اور جوشیلی تھی، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ بٹھا دیا جاوے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا آپ کہہ کر دیکھ لیں۔ ناچار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور، لوگ بہت ہیں۔ بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب سر نیچے ڈالے میری طرف آئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب! جواب لے آئے؟“  
(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 63 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 568 پر)

## مر جا بیوی دی گل بڑی مند اے

(138) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، مولوی عبدالکریم صاحب کی تصنیف سیرت مسیح موعود کے مندرجہ ذیل فقرات ایک عمدہ ذریعہ ہیں۔ مولوی صاحب موصوف فرماتے ہیں: ”عرصہ قریب پندرہ برس کا گزرتا ہے جبکہ حضرت صاحب نے بار دیگر خدا تعالیٰ کے امر سے معاشرت کے بھاری اور نازک فرض کو اٹھایا ہے۔ اس اثنا میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ خانہ جنگی کی آگ مشتعل ہوئی ہو۔ وہ ٹھنڈا دل اور بہشتی قلب قابل غور ہے، جسے اتنی مدت میں کسی قسم کے

رنج اور منحصر عیش کی آگ کی آنچ تک نہ چھوٹی ہو۔ اس بات کو اندرون خانہ کی خدمتگار عورتیں جو عوام الناس سے ہیں، اور فطری سادگی اور انسانی جامہ کے سوا کوئی تکلف اور تصنع، زیر کی اور استنباطی قوت نہیں رکھتیں بہت عمدہ طرح محسوس کرتی ہیں۔ وہ تعجب سے دیکھتی ہیں تو اور زمانہ اور گرد و پیش کے عام عرف اور برتاؤ کے بالکل برخلاف دیکھ کر بڑے تعجب سے کہتی ہیں اور میں نے بارہا انہیں خود حیرت سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ

”مر جا بیوی دی گل بڑی مندا اے۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 276 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 569 پر)

### مبارکہ بیگم اور امتہ الحفیظہ کا حق مہر

(139) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب ہماری ہمیشہ مبارکہ بیگم کا نکاح حضرت صاحب نے نواب محمد علی خان صاحب کے ساتھ کیا تو مہر 56 ہزار روپہ مقرر کیا گیا تھا اور حضرت صاحب نے مہر نامہ کو باقاعدہ رجسٹری کروائے اس پر بہت سے لوگوں کی شہادتیں ثبت کروائی تھیں۔ اور جب حضرت صاحب کی وفات کے بعد ہماری چھوٹی ہمیشہ امتہ الحفیظہ بیگم کا نکاح خان محمد عبداللہ خان صاحب کے ساتھ ہوا تو مہر -/15000 مقرر کیا گیا اور یہ مہر نامہ بھی باقاعدہ رجسٹری کرایا گیا تھا۔ لیکن ہم تینوں بھائیوں میں سے جن کی شادیاں حضرت صاحب کی زندگی میں ہو گئی تھیں، کسی کا مہر نامہ تحریر ہو کر رجسٹری نہیں ہوا اور مہر ایک ایک ہزار روپہ مقرر ہوا تھا۔“ (اس لیے کہ آپ کی بیویاں پیغمبرزادیاں نہ تھیں۔ ناقل)

(سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 53 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 570 پر)

قادیانی بتائیں! لڑکی اور لڑکوں کے مہر میں اتنا تفاوت کیوں؟ اور کیا انبیاء کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ اتنا گراں مہر مقرر کریں، اور رجسٹری کرا دیں۔ ظلی اور بروزی نبوت کا رنگ بھرنے والو! حضرت زہرا سیدۃ النساء المثل الجنۃ کے نکاح کی سادگی دیکھو اور خانہ ساز نبوت کو ظلی اور عین محمد ﷺ کی نبوت کہتے ہوئے شرم کرو! یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس زمانہ میں ایک روپیہ آج کے 6000 ہزار روپے کے برابر تھا۔ قارئین کرام اب خود ہی جمع تفریق کر لیں۔

## داماد کی قوت باہ کا علاج

(140) ”مجی عزیز می اخویم نواب صاحب سلمہ تعالیٰ! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی قدر تریاق جدید کی گولیاں ہمدست مرزا خدا بخش صاحب آپ کی خدمت میں ارسال ہیں اور کسی قدر اس وقت دے دوں گا جب آپ کا دیان آئیں گے۔ یہ دوا تریاق الہی سے فوائد میں بہت بڑھ کر ہے۔ اس میں بڑی بڑی قابل قدر دوائیں پڑی ہیں۔ جیسے مشک، عنبر، زنبی، مروارید، سونے کا کشتہ، فولاد، یا قوت احمر، کونین، فاسفورس، کہربا، مرجان، صندل، کیوڑہ، زعفران۔ یہ تمام دوائیں قریب سو کے ہیں اور بہت سا فاسفورس اس میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ دوا علاج طاعون کے علاوہ مقوی دماغ، مقوی جگر، مقوی معدہ، مقوی باہ اور مراق کو فائدہ کرنے والی مصفی خون ہے۔ مجھ کو اس کے تیار کرنے میں اول تامل تھا کہ بہت سے روپیہ پر اس کا تیار کرنا موقوف تھا لیکن چونکہ حفظ صحت کے لیے یہ دوا مفید ہے، اس لیے اس قدر خرچ گوارا کیا گیا۔ چالیس تولہ سے کچھ زیادہ اس میں یا قوت احمر ہے۔ اگر خریدا جاتا تو شاید کئی سو روپیہ سے آتا.....“

خوراک اس کی اول استعمال میں دورتی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ گرمی نہ کرے۔ نہایت درجہ مقوی اعصاب ہے اور خارش اور شورات اور جذام اور ذیابیطس اور انواع واقسام کے خطرناک امراض کے لیے مفید ہے اور قوت باہ میں اس کا ایک عجیب اثر ہے۔“

(خاکسار مرزا غلام احمد 29 اگست 1899ء)

(مرزا قادیانی کا اپنے داماد نواب محمد علی کے نام، مکتوبات احمد جلد دوم، طبع جدید صفحہ 250 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 571 پر)

## اپنے بیٹے فضل احمد کی موت پر خوشی کا اظہار

(141) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب مرزا فضل احمد فوت ہوا تو اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت صاحب نے مجھے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے ساتھ جائداد کا حصہ بٹانے والا ایک فضل احمد ہی تھا۔ سو وہ بیچارہ بھی گزر گیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ہمارے دادا صاحب کے دولڑکے تھے ایک حضرت صاحب جن کا نام مرزا غلام احمد تھا اور دوسرے ہمارے تایا مرزا غلام قادر صاحب جو حضرت صاحب سے بڑے

تھے۔ ہمارے دادا نے قادیان کی زمین میں دو گاؤں آباد کر کے ان کو اپنے دونوں بیٹوں کے نام موسوم کیا تھا۔ چنانچہ ایک کا نام قادر آباد رکھا اور دوسرے کا احمد آباد، احمد آباد بعد میں کسی طرح ہمارے خاندان کے ہاتھ سے نکل گیا اور صرف قادر آباد رہ گیا۔ چنانچہ قادر آباد حضرت صاحب کی اولاد میں تقسیم ہوا اور اسی میں مرزا سلطان احمد صاحب کا حصہ آیا۔ لیکن خدا کی قدرت کہ اب قریباً چالیس سال کے عرصہ کے بعد احمد آباد جو ہمارے خاندان کے ہاتھ سے نکل کر غیر خاندان میں جا چکا تھا۔ واپس ہمارے پاس آ گیا ہے اور اب وہ کلیتہً صرف ہم تین بھائیوں کے پاس ہے۔ یعنی مرزا سلطان احمد صاحب کا اس میں حصہ نہیں۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ قادر آباد قادیان سے مشرق کی جانب واقع ہے اور احمد آباد جانب شمال ہے۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 22 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 572 پر)

## سرائی عورتوں کے متعلق الہام

(142) ”ایک دفعہ میری بیوی کے حقیقی بھائی سید محمد اسمعیل کا (جن کی عمر اس وقت دس برس کی تھی) پھیالہ سے خط آیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ اور اسحاق میرے چھوٹے بھائی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اور پھر خط کے اخیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اسحاق فوت ہو گیا ہے اور بڑی جلدی سے بلایا کہ دیکھتے ہی چلے آئیں۔ اس خط کے پڑھنے سے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ اس وقت میرے گھر کے لوگ بھی سخت تپ سے بیمار تھے..... تب مجھے اس تشویش میں ایک دفعہ غنودگی ہوئی اور یہ الہام ہوا۔“

إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ

یعنی اے عورتو! تمہارے فریب بہت بڑے ہیں..... اس کے ساتھ ہی تفہیم ہوئی کہ یہ ایک خلاف واقعہ بہانہ بنایا گیا ہے۔ تب میں نے..... شیخ حامد علی کو جو میرا نوکر تھا، پھیالہ روانہ کیا، جس نے واپس آ کر بیان کیا کہ اس کی والدہ ہر دو زندہ موجود ہیں۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 163، 164 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 573 پر)





قیامت حاضر ہے!

سرزا قادیانی  
اور  
غیر مجرم عورتیں



اسلام نے عورت کی عصمت و پاکیزگی کی حفاظت کے لیے پردہ ضروری قرار دیا۔ عورت کے پردہ ترک کر دینے سے وہ عورت نہیں رہتی بلکہ بے حیائی کا مجسم فتنہ بن جاتی ہے جس سے معاشرے کی اخلاقی حالت ناگفتہ بہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام نے غیر محرم مردوں اور عورتوں کے اختلاط پر بھی سختی سے پابندی عائد کی ہے کیونکہ اس سے جنسی جذبات انگیزت ہوتے ہیں جس کا اکثر نتیجہ زنا کی صورت میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نکاح کی تقدیس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ غیر محرم عورت اور مرد تنہائی میں ایک جگہ پراکٹھے نہ ہوں کیونکہ یہ ملاقات دعوت گناہ کی پہلی دستک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور شیطان کی منشا و مراد اسی طرح پوری ہوتی ہے۔

جھوٹا مدعی نبوت آنجہانی مرزا قادیانی اسلام کی ان بنیادی قدغونوں سے نالاں تھا۔ اس کی اپنی شریعت تھی۔ وہ اپنے پیشرو سیلمہ کذاب کی طرح بڑا حسن پرست تھا۔ اس لیے غیر محرم عورتوں سے بڑی بے تکلفی سے گفتگو کرتا۔ رات کو وہ عورتیں چراغ محفل بن کر اُسے رغبت اور شہوت دلانے کا محرک بنتیں۔ مرزا قادیانی ان کے جسم سے لطف اٹھاتا اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے اہل خانہ یا مریدوں میں سے کسی کو بھی مرزا قادیانی کے ان مشاغل پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ممکن ہے قارئین کرام میرے ان خیالات کو جانبدارانہ سمجھیں اور انہیں اس سے حیرت ہو مگر مجھے یقین ہے کہ مندرجہ ذیل حوالہ جات پڑھنے کے بعد وہ میری تائید فرمائیں گے۔

نبی کریم محمد ﷺ کا تقویٰ

(143) ”ہمارے سید و مولیٰ افضل الانبیاء خیر الاصفاہ محمد مصطفیٰ ﷺ کا تقویٰ دیکھیے کہ وہ

ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاکدامن اور نیک بخت ہوتی تھیں اور بیعت کر لینے کے لیے آتی تھیں بلکہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے۔“

(نور القرآن صفحہ 74 مندرجہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 449 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 574 پر)

## اسلام کی اعلیٰ تعلیم

(144) ”یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہرگز قصداً کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو کہ یہ بد نظری کا پیش خیمہ ہے۔“

(نور القرآن صفحہ 72 مندرجہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 447 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 575 پر)

## جو عورتیں پردہ نہیں کرتیں، شیطان ان کے ساتھ ہے

(145) ”عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کا مال نہ چراویں اور نامحرم سے اپنے تئیں بچاویں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خاوند اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتیں شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 86 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 576 پر)

## عورت سے مصافحہ جائز نہیں

(146) ”مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب مرحوم نے حضرت مسیح موعود سے عرض کیا کہ میرے ساتھ شفاخانہ میں ایک انگریز لیڈی ڈاکٹر کام کرتی ہے اور وہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ وہ کبھی کبھی میرے ساتھ مصافحہ کرتی ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں ہے۔ آپ کو عذر کر دینا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں۔“

(سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 76 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 577 پر)

## غیر محرم عورتوں کو چھونا

(147) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) عورتوں سے بیعت صرف زبانی لیتے تھے۔ ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے تھے نیز آپ بیعت ہمیشہ اردو الفاظ میں لیتے تھے مگر بعض اوقات دہقانی لوگوں یا دیہاتی عورتوں سے پنجابی الفاظ میں بھی بیعت لے لیا کرتے تھے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آنحضرت صلعم بھی عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ان کے ہاتھ کو نہیں چھوتے تھے۔ دراصل قرآن شریف میں جو یہ آتا ہے کہ عورت کو کسی غیر محرم پر اظہار زینت نہیں کرنا چاہیے، اسی کے اندر لیس کی ممانعت بھی شامل ہے کیونکہ جسم کے چھونے سے بھی زینت کا اظہار ہو جاتا ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 15 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 578 پر)

## ”نبی معصوم“

(148) ”سوال ششم: حضرت اقدس (مرزا قادیانی) غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں کیوں دبواتے ہیں؟

جواب: وہ نبی معصوم ہیں، ان سے مس کرنا اور اختلاط منع نہیں بلکہ موجب رحمت و برکات ہے۔“

(قادیانی اخبار الحکم قادیان جلد 11 نمبر 13 مورخہ 17 اپریل 1907ء) (عکس صفحہ نمبر 579 پر)

## ادھر ادھر

(149) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے، باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ

اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے (بے شرمی کا کام نہ کرتے) اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچھری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔“.....

..... ”والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر اس نے چائے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ معلوم ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری (”خدمت خاص“ کی) وجہ سے ہی اسے قید سے بچا لیا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا، ہمارے مخالف بھی کہتے کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 43، 44 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 580 پر)

## تھیٹر

(150) ”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے امر تسر جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آ گئے۔ چنانچہ کپور تھلہ سے محمد خاں صاحب اور منشی ظفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھہرے رہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ اور منشی صاحب اور میں ہر دو نجیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چارپائی پر دونوں لیٹ جاتے تھے۔ ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا، جو مکان کے قریب ہی تھا۔ اور تماشہ ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا۔ منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا۔ منشی ظفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ میں تو حضرت صاحب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ حضرت صاحب آپ کو بلا کر تعجبیہ کریں گے مگر حضور نے تو صرف یہی فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔“

(ذکر حبیب صفحہ 18 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 582 پر)

## ٹانک وائٹن شراب کا استعمال

(151) ”مجی اخویم حکیم محمد حسین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیا خریدنی خود خریدیں اور ایک بوتل ٹانک وائٹن کی پلومر کی دکان سے خریدیں مگر ٹانک وائٹن چاہیے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام (مرزا غلام احمد)“

(خطوط امام بنام غلام، صفحہ 5، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، بنام حکیم محمد حسین قریشی صاحب قادیانی، مالک دواخانہ رفیق الصحت لاہور) (عکس صفحہ نمبر 583 پر)

□ ”ٹانک وائٹن کی حقیقت لاہور میں پلومر کی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب جواباً تحریر فرماتے ہیں حسب ارشاد پلومر کی دکان سے دریافت کیا گیا، جواب حسب ذیل ملا:

”ٹانک وائٹن ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سر بند بوتلوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت ڈیڑھ روپیہ ہے۔“ (21 ستمبر 1933ء)

(”سودائے مرزا، صفحہ 39، حاشیہ، طبع دوم، مصنفہ حکیم محمد علی صاحب، پرنسپل طبیہ کالج امرتسر)

## ٹانک وائٹن کا فتویٰ

□ ”پس ان حالات میں اگر حضرت مسیح موعود براٹھی اور رم کا استعمال بھی اپنے مریضوں سے کرواتے یا خود بھی مرض کی حالت میں کر لیتے تو وہ خلاف شریعت نہ تھا۔ چہ جائیکہ ٹانک وائٹن جو ایک دوا ہے۔ اگر اپنے خاندان کے کسی ممبر یا دوست کے لیے جو کسی لمبے مرض سے اٹھا ہو اور کمزور ہو یا بالفرض محال خود اپنے لیے بھی منگوائی ہو اور استعمال بھی کی ہو تو اس میں کیا حرج ہو گیا۔ آپ کو ضعف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے، نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود ایسی حالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ نبض کا پتہ نہیں ملتا تھا تو اطبا یا ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹانک وائٹن کا استعمال اندریں حالات کیا ہو تو عین مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام تمام دن تصنیفات کے کام میں لگے رہتے تھے۔ راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ بڑھاپا بھی پڑتا تھا تو اندریں حالات اگر ٹانک وائٹن بطور

علاج پی بھی لی ہو تو کیا قباحت لازم آگئی۔“

(از ڈاکٹر بشارت احمد صاحب قادیانی، فریق لاہوری، مندرجہ اخبار ”پیغام صلح“ جلد 23، نمبر 15،

مورخہ 4 مارچ 1935ء، و جلد 23، نمبر 65، مورخہ 11 اکتوبر 1935ء)

## لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟؟

(152) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی محمد علی صاحب ایم اے لاہور کی پہلی شادی حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے گورداسپور میں کرائی تھی۔ جب رشتہ ہونے لگا تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے حضور نے ایک عورت کو گورداسپور بھیجا تاکہ وہ آ کر رپورٹ کرے کہ لڑکی صورت و شکل وغیرہ میں کیسی ہے اور مولوی صاحب کے لیے موزوں بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ عورت گئی۔ جاتے ہوئے اسے ایک یادداشت لکھ کر دی گئی۔ یہ کاغذ میں نے لکھا تھا اور حضرت صاحب نے بمشورہ حضرت ام المومنین لکھوایا تھا۔ اس میں مختلف باتیں نوٹ کرائی تھیں۔ مثلاً یہ کہ لڑکی کا رنگ کیسا ہے۔ قد کتنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نقص تو نہیں۔ ناک، ہونٹ، گردن، دانت، چال ڈھال وغیرہ کیسے ہیں۔ غرض بہت ساری باتیں ظاہری شکل و صورت کے متعلق لکھوادی تھیں کہ ان کی بابت خیال رکھے اور دیکھ کر واپس آ کر بیان کرے۔ جب وہ عورت واپس آئی اور اس نے ان سب باتوں کی بابت اچھا یقین دلایا تو رشتہ ہو گیا۔ اسی طرح جب خلیفہ رشید الدین صاحب نے اپنی بڑی لڑکی حضرت میاں صاحب (مرزا محمود) کے لیے پیش کی تو ان دنوں میں یہ خاکسار ڈاکٹر صاحب موصوف کے پاس چکراتہ پہاڑ پر جہاں وہ متعین تھے، بطور تبدیلی آب و ہوا کے گیا ہوا تھا۔ واپسی پر مجھ سے لڑکی کا حلیہ وغیرہ تفصیل سے پوچھا گیا۔ پھر حضرت میاں صاحب سے بھی شادی سے پہلے کئی لڑکیوں کا نام لے لے کر حضور نے ان کی والدہ کی معرفت دریافت کیا کہ ان کی کہاں مرضی ہے۔ چنانچہ حضرت میاں صاحب نے بھی والدہ ناصر احمد کو انتخاب فرمایا اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 296 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 584 پر)



## گول منہ، لمبا منہ

(153) ”بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ مدت کی بات ہے جب میاں ظفر احمد صاحب کپورتھلوی کی پہلی بیوی فوت ہو گئی اور ان کو دوسری بیوی کی تلاش ہوئی تو ایک دفعہ حضرت صاحب نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں دو لڑکیاں رہتی ہیں۔ ان کو میں لاتا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ پھر ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس سے آپ کی شادی کر دی جاوے۔ چنانچہ حضرت صاحب گئے اور ان دو لڑکیوں کو بلا کر کمرہ کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر اندر آ کر کہا کہ وہ باہر کھڑی ہیں، آپ چک کے اندر سے دیکھ لیں چنانچہ میاں ظفر احمد صاحب نے ان کو دیکھ لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کو رخصت کر دیا اور اس کے بعد میاں ظفر احمد صاحب سے پوچھنے لگے کہ اب بتاؤ تمہیں کونسی لڑکی پسند ہے؟ وہ نام تو کسی کا جانتے نہ تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جس کا منہ لمبا ہے، وہ اچھی ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے میری رائے لی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو نہیں دیکھا۔ پھر آپ خود فرمانے لگے کہ ہمارے خیال میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرمایا جس شخص کا چہرہ لمبا ہوتا ہے، وہ بیماری وغیرہ کے بعد عموماً بد نما ہو جاتا ہے۔ لیکن گول چہرہ کی خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میاں ظفر احمد صاحب اور میرے سوا اور کوئی شخص وہاں نہ تھا۔ اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکیوں کو کسی احسن طریق سے وہاں لائے تھے اور پھر ان کو مناسب طریق پر رخصت کر دیا تھا، جس سے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوا مگر ان میں سے کسی کے ساتھ میاں ظفر احمد صاحب کا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ مدت کی بات ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں خوبصورتی کا احساس بھی بہت ہوتا ہے۔ دراصل جو شخص حقیقی حسن کو پہچانتا اور اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ مجازی حسن کو بھی ضرور پہچانے گا۔“ (سیرت الہدی جلد اول صفحہ 259 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 585 پر)

## ایہو کڑی لینی اس

(154) ”آج میں نے بوقت صبح صادق چار بجے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے۔ اس

میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے، اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں۔ اور وہ پانی لا کر ایک گھڑے میں ڈال دیا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی، یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آگئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے۔ (محمدی بیگم۔ ناقل)

پیروں سے سر تک سرخ لباس پہتے ہوئے شاید جالی کا کپڑا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیئے تھے۔ لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا اس نے کہا، یا دل میں کہا کہ میں آگئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے! اور پھر وہ عورت مجھ سے بغلگیر ہوئی۔ اس کے بغلگیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔

فالحمد لله على ذلك. اس سے دو چار روز پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ روشن بی بی میرے والان کے دروازہ پر آ کھڑی ہوئی ہے اور میں والان کے اندر بیٹھا ہوں۔ تب میں نے کہا کہ آ، روشن بی بی اندر آ جا۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 158، 159، طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 586 پر)

## احتمام

(155) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتمام ہوا۔ جب میں نے یہ روایت سنی تو بہت تعجب ہوا کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیا کو احتمام نہیں ہوتا پھر بعد فکر کرنے کے اور طبی طور پر اس مسئلہ پر غور کرنے کے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ احتمام تین قسم کا ہوتا ہے ایک فطرتی، دوسرا شیطانی خواہشات اور خیالات کا نتیجہ اور تیسرا مرض کی وجہ سے۔ انبیا کو فطرتی اور بیماری والا احتمام ہو سکتا ہے مگر شیطانی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے سب قسم کے احتمام کو شیطانی سمجھ رکھا ہے جو غلط ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 242 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 588 پر)

## میں ایسے پردے کا قائل نہیں

(156) ”بیان کیا حضرت مولوی نورالدین صاحب خلیفہ اول نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کسی سفر میں تھے۔ سٹیشن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی، آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ سٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹھہرنے لگ گئے، یہ دیکھ کر مولوی عبدالکریم صاحب جن کی طبیعت غیور (اور مرزا قادیانی کی؟) اور جوشیلی تھی، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ بٹھا دیا جاوے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا آپ کہہ کر دیکھ لیں۔ ناچار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور، لوگ بہت ہیں۔ بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب سر نیچے ڈالے میری طرف آئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب! جواب لے آئے؟“

(سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 63 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 589 پر)

## رات کا پہرہ

(157) ”مائی رسول بی بی صاحبہ بیوہ حافظ حامد علی صاحب نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ مولوی فاضل مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے وقت میں، میں اور اہلیہ بابوشاہ دین رات کو پہرہ دیتی تھیں اور حضرت صاحب نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر میں سونے میں کوئی بات کیا کروں تو مجھے جگا دینا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے آپ کی زبان پر کوئی الفاظ جاری ہوتے سنے اور آپ کو جگا دیا۔ اس وقت رات کے بارہ بجے تھے، ان ایام میں عام طور پر پہرہ پر مائی فجو، منشیانی اہلیہ محمد دین گوجرانوالہ اور اہلیہ بابوشاہ دین ہوتی تھیں۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 213 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 590 پر)

## مائی تابی

(158) ”میرے گھر سے یعنی والدہ عزیز مظفر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم گھر کی چند لڑکیاں تربوز کھا رہی تھیں۔ اس کا ایک چھلکا مائی تابی کو جا لگا جس پر مائی تابی بہت ناراض ہوئی اور ناراضگی میں بد دعائیں دینی شروع کر دیں اور پھر خود ہی حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے پاس جا کر شکایت بھی کر دی۔ اس پر حضرت صاحب نے ہمیں بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے؟ ہم نے سارا واقعہ سنا دیا جس پر آپ مائی تابی پر ناراض ہوئے کہ تم نے میری اولاد کے متعلق بد دعا کی ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مائی تابی قادیان کے قریب ایک بوڑھی عورت تھی جو حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے گھر میں رہتی تھی اور اچھا اخلاص رکھتی تھی۔“  
(سیرت الہدی، جلد سوم صفحہ 244 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 591 پر)

## مائی کا کو

(159) ”مائی کا کو نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے سامنے میاں عبدالعزیز صاحب پٹواری سیکھواں کی بیوی حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے لیے کچھ تازہ جلیبیاں لائی۔ حضرت صاحب نے ان میں سے ایک جلیبی اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ اس وقت ایک زاو پینڈی کی عورت پاس بیٹھی تھی۔ اس نے گھبرا کر حضرت صاحب سے کہا حضرت یہ تو ہندو کی بیٹی ہوئی ہیں۔ حضرت صاحب نے کہا تو پھر کیا ہے۔ ہم جو سبزی کھاتے ہیں، وہ گوبر اور پاخانہ کی کھاد سے تیار ہوتی ہے اور اسی طرح بعض اور مثالیں دے کر اسے سمجھایا۔“

(سیرت الہدی، جلد سوم صفحہ 244، 245 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 592 پر)

## بھانو

(160) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین (مرزا قادیانی کی بیوی) نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسماة بھانو

تھی۔ وہ ایک رات جبکہ خوب سردی پڑ رہی تھی، حضور کو دہانے بیٹھی۔ چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی اس لیے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبار ہی ہوں، وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ پنگ کی پٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا بھانو آج بڑی سردی ہے۔ بھانو کہنے لگی ”ہاں جی تدے تے تہاڈی لتاں لکڑی وانگر ہویاں ہویاں ایں۔“ یعنی جی ہاں جی تو آج آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو بھانو کو سردی کی طرف توجہ دلائی تو اس میں بھی غالباً یہ جتنا مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی شدت کی وجہ سے تمہاری حس کمزور ہو رہی ہے اور تمہیں پتہ نہیں لگا کہ کس چیز کو دبار ہی ہو مگر اس نے سامنے سے اور ہی لطفہ کر دیا۔“  
(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 210 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 594 پر)

## زینب بیگم

(161) ”ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ مجھ سے میری لڑکی زینب بیگم نے بیان کیا کہ میں تین ماہ کے قریب حضرت اقدس (مرزا قادیانی) کی خدمت میں رہی ہوں، گرمیوں میں پنکھا وغیرہ اور اسی طرح کی خدمت کرتی تھی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ نصف رات یا اس سے زیادہ مجھ کو پنکھا ہلاتے گزر جاتی تھی۔ مجھ کو اس اثنا میں کسی قسم کی تھکان و تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ خوشی سے دل بھر جاتا تھا۔ دو دفعہ ایسا موقع آیا کہ عشا کی نماز سے لے کر صبح کی اذان تک مجھے ساری رات خدمت کرنے کا موقع ملا۔ پھر بھی اس حالت میں مجھ کو نہ نیند نہ غنودگی اور نہ تھکان معلوم ہوئی بلکہ خوشی اور سرور پیدا ہوتا تھا۔ (موقع بھی تو سرور کا تھا۔ مرتب) اسی طرح جب مبارک احمد صاحب بیمار ہوئے تو مجھ کو ان کی خدمت کے لیے بھی اسی طرح کئی راتیں گزارنی پڑیں تو حضور نے فرمایا کہ زینب اس قدر خدمت کرتی ہے کہ ہمیں اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے (کیوں؟) اور آپ کئی دفعہ اپنا تبرک مجھے دیا کرتے تھے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 272، 273 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 595 پر)

(162) ”ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ میری لڑکی

زینب بیگم نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ جب حضور (مرزا قادیانی) سیالکوٹ تشریف لے گئے تھے تو میں رعیہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان ایام میں مجھے مراق کا سخت دورہ تھا، میں شرم کے مارے آپ سے عرض نہ کر سکتی تھی مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میری بیماری سے کسی طرح حضور کو علم ہو جائے تاکہ میرے لیے حضور دعا فرمائیں۔ میں حضور کی خدمت (؟) کر رہی تھی کہ حضور نے اپنے انکشاف اور صفائی قلب سے خود معلوم کر کے فرمایا: زینب تم کو مراق کی بیماری ہے، ہم دعا کریں گے۔“ (ولی راوی می شناسد۔ مرتب)!

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 275 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 597 پر)

### دوپٹہ تیرا ململ وا

(163) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب لاہوری کی ایک بیوی ڈاکٹر نی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ مدتوں قادیان آ کر حضور (مرزا قادیانی) کے مکان میں رہی اور حضور کی خدمت کرتی تھی۔ اس بے چاری کو سل کی بیماری تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو اس کا ایک دوپٹہ حضرت صاحب نے دعا کے لئے یاد دہانی کے لئے بیت الدعاء کی کھڑکی کی ایک آہنی سلاخ سے بندھوا دیا۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 126، از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 598 پر)

### بچہ سپیشلسٹ

(164) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت صاحب کی دائی کا نام لاڈو تھا۔ اور وہ ہا کونا کو بر والوں سکنہ قادیان کی ماں تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ مرزا سلطان احمد بلکہ عزیز احمد کو بھی اسی نے جنایا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے اس سے اپنی پیدائش کے متعلق کچھ شہادت بھی لی تھی۔ اپنے فن میں وہ اچھی ہوشیار عورت تھی چنانچہ ایک دفعہ یہاں کسی عورت کے بچہ پھنس گیا اور پیدا نہ ہوتا تھا تو حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ لاڈو کو بلا کر دکھاؤ وہ ہوشیار ہے۔ چنانچہ اسے بلایا گیا تو اللہ کے فضل سے بچہ آسانی سے پیدا ہو گیا۔“

(سیرت المہدی جلد اول از مرزا بشیر احمد صفحہ 256) (عکس صفحہ نمبر 599 پر)

قادیانی لاہوری جماعت کے ایک ذمہ دار شخص نے قادیانی خلیفہ مرزا محمود پر رنگ رلیوں کے الزامات لگائے اور اس سلسلہ میں ایک اہم خط لکھا۔ لاہوری جماعت کے لوگ مرزا محمود کے تو خلاف ہیں لیکن مرزا قادیانی کو مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عقیدت مند نے اپنے خط میں لکھا کہ مرزا قادیانی اور اس کا بیٹا مرزا محمود قادیانی خلیفہ دونوں زنا کرتے تھے۔ مرزا محمود نے قادیان میں اپنے ایک خطبہ جمعہ میں اس خط کو پڑھ کر سنایا اور بعد ازاں یہ خط قادیانی اخبار روزنامہ الفضل میں شائع بھی ہوا۔ ملاحظہ فرمائیں:

### کبھی کبھی زنا

(165) ”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) ولی اللہ تھے۔ اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا۔ پھر لکھا ہے۔ ہمیں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر اعتراض نہیں۔ کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے۔ ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔“

(روزنامہ الفضل قادیان دارالامان مورخہ 31 اگست 1938ء) (عکس صفحہ نمبر 600 پر)







تعمیرت حاضر ہیں!

شرینا ک  
قادیانی تحریریں



ارشاد خداوندی ہے:

- ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. (سورة الانعام: 152)
- ”اور بے حیائیوں کے پاس بھی نہ جاؤ، چاہے ان میں سے پوشیدہ ہوں یا ظاہر۔“
- قرآن حکیم نے فحاشی کے ارتکاب سے بڑی شدت کے ساتھ روکا ہے۔ مذکورہ بالا حکم کے باوجود جو لوگ بے حیائی کی طرف راغب رہتے ہیں اور انہوں نے دیگر حرکات کے ذریعے برائی کو فروغ دینے میں سرگرم عمل رہتے ہیں، انہیں سزائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
- ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. (النور: 19)

بے شک جو لوگ (مسلمانوں میں) بے حیائی کا چرچا کرنے کو عزیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

اس دنیوی اور اخروی عذاب میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں سے سختی سے منع فرما دیا ہے:-

□ ان الله لا يأمر بالفحشاء. (الاعراف: 28)

بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔

□ دينه عن الفحشاء والمنكر (النمل: 130)

اور اللہ تعالیٰ فحش اور منکر باتوں سے روکتا ہے۔

فحاشی کو ناپسند کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ایک عمدہ معیار مقرر فرمایا:

□ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شئ الا شانه وما كان الحياء في شئ الا زانه. (مشکوٰۃ المصابیح)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

جس چیز میں فحاشی ہو، وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور جس چیز میں حیا ہو، وہ اسے زینت بخشتی ہے۔“ اس حدیث سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ فحاشی کی ضد حیا ہے اور حیا ایمان کا ایک اساسی حصہ ہے اور انسانوں کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ مسلمان حیا دار ہوتا ہے اور وہ اسلامی حدود و قیود میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، جب کہ بے حیا انسان جو چاہے، کر گزرتا ہے۔ وہ اخلاقی، سماجی اور مذہبی حدود و قیود کا پابند نہیں ہوتا۔

بابوناج محمد، مرزا قادیانی کی ”خوش اخلاقی“ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف میں دو قسم کی بدزبانی پائی جاتی ہے۔ پہلی قسم انفرادی حیثیت رکھتی ہے اور دوسری اجتماعی۔ اگر ایک طرف مرزا یہ لکھتا ہے: ”گالیاں دینا سفلوں اور کینوں کا کام ہے“ (ست بچن صفحہ 21 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 133) تو دوسری طرف تحریر کرتا ہے: کہ ”اگر تو نرمی کرے گا تو میں بھی نرمی کروں گا۔ اگر تو گالی دے گا تو میں بھی گالی دوں گا“ (حجۃ اللہ صفحہ 93) اگر ایک پہلو پر یہ فقرہ نظر آئے گا تا کہ ”کسی کو گالی مت دو اگرچہ وہ گالی دیتا ہو۔“ (کشتی نوح صفحہ 11) تو دوسرے پہلو پر یہ عبارت بھی ملے گی کہ ”کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی مخالف کی نسبت اس کی بدگوئی سے پہلے خود بدزبانی میں سبقت کی ہو۔“ (تمتہ حقیقۃ الوحی صفحہ 21) اگر ایک طرف یہ لکھا ہوا دیکھو گے کہ ”ہر ایک سختی کو برداشت کرو۔ ہر ایک گالی کا نرمی سے جواب دو“، تو دوسری جانب یہ تحریر بھی ملے گی کہ ”اے گولڑہ کی سرزمین تجھ پر لعنت تو ملعون کے سبب ملعون ہو گئی۔“ (اعجاز احمدی صفحہ 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 188)

مناظر اسلام مولانا حافظ نور محمد صاحب سہارنپوری تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مصلح اور رہبر قوم جس کا فرض منصبی قوموں و جماعتوں کی اصلاح و تعلیم ہو اس کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ وہ تہذیب و اخلاق سے موصوف اور صبر و تحمل، علم و عفو سے آراستہ ہو۔ وہ برگشتہ قوم کو اپنی شیریں بیانی کے ذریعہ راہ راست پر لائے اور ان کو رذائل و خباثت سے پاک کر کے محاسن و مکارم کا حامل بنا دے۔ چنانچہ دیکھیے انبیاء علیہم السلام و دیگر مصلحین امت میں کس قدر اخلاق حسنہ کی فراوانی تھی۔ خصوصاً سردار انبیا حضور نبی رحمت ﷺ تو مکارم اخلاق کے ایک بے نظیر پیکر اور صبر و تحمل اور علم و عفو کے ایک بے مثال مجسمہ بن کر رونق افروز عالم ہوئے تھے کہ دوستوں کے علاوہ ان کے جانی دشمنوں کے لیے بھی جن کا شب و روز آپ ﷺ

کو تکلیف پہنچانا، شیوہ خاص تھا، مگر آپ ﷺ سراپا رحمت تھے کہ زبان مبارک سے ان کے لیے بھی کوئی برا کلمہ نہیں نکلا۔ اس نرمی و شیریں بیانی سے گفتگو فرماتے تھے کہ دشمن سخت دل بھی پانی پانی ہو جاتا تھا اور دل دکھانے والے سخت الفاظ سے دشمن کو بھی یاد کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔

لیکن پنجاب کی نبوت خیز سر زمین ضلع گورداسپور کے ایک غیر معروف گاؤں قادیان میں غلام احمد نامی ایک شخص پیدا ہوا اور کچھ لکھ پڑھ کر سیالکوٹ کی کچہری میں پندرہ روپے ماہوار پر کلرک لگ گیا۔ اس کے بعد اس کا اپنے متعلق یہ یقین ہو گیا کہ میں ”مصلح اعظم“ ”مسح موعود“ اور ”نبی و رسول“ ہوں بلکہ کامل اتباع و فتانی الرسول کے باعث ”محمد ثانی“ ہوں۔ اس لیے لازم تھا کہ وہ بھی اعلیٰ اخلاق، بہترین تہذیب، علم و عفو، شیریں کلامی، سنجیدگی و دیگر اخلاقی کمالات سے نہ صرف موصوف ہی ہوتا بلکہ اس میں یکتائے روزگار بھی ہوتا۔ لیکن افسوس کہ مصلح اعظم بننے والے اور نبوت و رسالت کے دعوے کرنے والے مرزا کے ”ظرف“ میں اخلاق حسنہ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ بلکہ وہ سراسر اخلاقی کمزوریوں نکتہ چینیوں، بدگوئیوں بدکلامیوں سے لبریز تھا۔ اور یہاں تک اس نے اس فن و شام دہی میں وہ ترقی کی تھی کہ اس کو دیکھ کر اور سن کر بد اخلاقی و بد تمیزی بھی شرم و ندامت سے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر مرزا قادیانی کو اس فن کا ”بے تاج بادشاہ“ کہا جائے تو کچھ بے جا نہیں۔ نگاہ عبرت سے دیکھیے کہ خدا تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے مقدس حبیب ﷺ کی نبوت کا روپ بدلنے والا دنیا میں مہذب و خلیق بن کر زندگی بسر کرے۔ بقول مرزا قادیانی (166) ”ہر ایک برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہے۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 1 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 19 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 602 پر)

فواہش سے لبریز تحریریں ہر معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس سے نہ صرف معاشرے میں شرم و حیا ختم ہو جاتا بلکہ عفت و عصمت اپنی اصل قدر و قیمت بھی کھو بیٹھتی ہیں۔ انسانی جذبات و احساسات کو برا بیخیز کرنے والی، آنجہانی مرزا قادیانی کی کتابیں فحش لٹریچر کا نادر نمونہ ہیں۔ اس کی تحریروں میں بے شرمی و بے حیائی کی باتیں نمایاں ہوتی ہیں۔

قادیانی جماعت کا بانی آنجہانی مرزا قادیانی جس طرح ظاہری طور پر بد صورت تھا،

اسی طرح باطنی طور پر بھی بد سیرت تھا۔ قادیانی امت اسے ”سلطان القلم“ کہتی نہیں تھکتی۔ اس پنجابی نبی کی تحریرات کو ملاحظہ کیا جائے تو جا بجا بد کلامی و بد گوئی کی نجاست و غلاظت بکھری ہوئی نظر آئے گی۔ ذیل میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے نمونہ کے طور پر ”سلطان القلم“ کی تحریروں کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں، وگرنہ مرزا قادیانی کی ساری کتابیں ایسی ہی تحریروں سے بھری ہوئی ہیں۔ ان فحش، مخرب اخلاق، حیا سوز، گندی اور بازاری تحریروں سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کیا یہ کسی شریف انسان کی تحریریں ہو سکتی ہیں اور ہے کوئی قادیانی جو اپنے ”نبی“ کی ان تحریروں کو اپنی جوان اولاد کے سامنے آواز بلند پڑھ سکے۔

صلائے عام ہے یارانِ نکتہ داں کے لیے

## فحاشی کی اشاعت

(167) ”مومنوں کو چاہیے کہ اشاعتِ فحش سے پرہیز کریں۔“

(ملفوظات جلد 6 صفحہ 603 از مرزا قادیانی)

## مصروفیات

(168) ”آج کل میری مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا رہتا ہوں حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دورانِ سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔“

(ملفوظات جلد اول صفحہ 565 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 604 پر)

## پلید دل

(169) ”پلید دل سے پلید باتیں نکلتی ہیں اور پاک دل سے پاک باتیں۔ انسان اپنی باتوں سے ایسا ہی پہچانا جاتا ہے جیسا کہ درخت اپنے پھلوں سے۔“

(تحفہ غزنویہ صفحہ 11 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 541 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 605 پر)

## خیالات

(170) ”انسان کے الفاظ ہمیشہ اس کے خیالات کے تابع ہوتے ہیں۔“

(براہین احمدیہ جلد اول تا چہارم صفحہ 393 (حاشیہ) مندرجہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 393 (حاشیہ) از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 606 پر)

## بے حیا انسان

(171) ”بے حیا انسان کی زبان کو قابو میں لانا تو کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہوا۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 59 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 75 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 607 پر)

## جب انسان حیا چھوڑ دیتا ہے.....

(172) ”جب انسان حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو جو چاہے بکے۔ کون اس کو روکتا ہے۔“

(اعجاز احمدی صفحہ 3 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 109 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 608 پر)

میں وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے

(173) ”میں اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے۔“

(تذکرہ الشہادتین صفحہ 79 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 79 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 609 پر)

## مرزا قادیانی کی اپنی جماعت کو نصیحت

(174) ”مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے

کہ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ کم از کم تین دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا، اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے۔“  
(سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 78 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 610 پر)

### بڑا کارنامہ

(175) ”اخرجت الارض من انقلابها کے نیچے جو یہ معنی بتائے گئے تھے کہ لوگ اپنے گندے خیالات بیان کرنے لگ جائیں گے۔“

اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خبر دی گئی ہے کہ لوگ اپنے گند کتابوں میں شائع کریں گے اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے گویا جن امور کو لوگ پہلے چھپایا کرتے تھے، ان کو مزے لے لے کر بیان کریں گے اور شرم و حیا کا مفہوم اس زمانہ میں بالکل بدل جائے گا۔“

(تفسیر کبیر از مرزا بشیر الدین محمود جلد نمبر 9 صفحہ 416، 418) (عکس صفحہ نمبر 611، 612 پر)

### پر میشر کی جگہ

(176) ”پر میشر ناف سے دس انگلی نیچے ہے (سمجھنے والے سمجھ لیں)۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 106 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 114 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 613 پر)

پر میشر ہندوؤں کے خدا کو کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ہندوؤں کے خدا کو اپنی ناف سے دس انگلی نیچے قرار دے کر انہیں بہت بڑی گالی دی۔ اس کے رد عمل میں ہندوؤں نے نہ صرف اپنے جلو سوں میں اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی توہین کی بلکہ مسلمانوں کی دل آزاری پر مبنی ”ستیا رتھ پرکاش“ نامی رسوائے زمانہ کتاب بھی لکھی جس کے پہلے ایڈیشن میں صرف 13 ابواب تھے جبکہ مرزا قادیانی کی طرف سے ہندوؤں کی مذہبی شخصیات کو گالیاں دینے کے بعد چودھویں باب کا اضافہ کیا گیا جس میں انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کو ناقابل بیان گالیاں دیں۔ پھر ایک عرصہ بعد بدنام ترین کتاب ”رنگیلا رسول“ بھی لکھی گئی جس سے



پر عظیم کے مسلمانوں میں کہرام برپا ہو گیا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری مرزا قادیانی اور اس کی ذریت پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ہندوؤں کو اشتعال دلایا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو مبادا یہ کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں۔

## قادیانی کوک شاستر

(177) ”ایک معزز آریہ کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، دوسری شادی کر نہیں سکتا کہ وید کی رو سے حرام ہے، آخر نیوگ کی ٹھہرتی ہے، یار دوست مشورہ دیتے ہیں کہ لالہ صاحب نیوگ کرایئے، اولاد بہت ہو جائے گی۔ ایک بول اٹھتا ہے کہ مہر سنگھ جو اسی محلہ میں رہتا ہے، اس کام کے بہت لائق ہے۔ لالہ بہاری لال نے اس سے نیوگ کرایا تھا، لڑکا پیدا ہو گیا۔ یہ لالہ لڑکا پیدا ہونے کا نام سن کر باغ باغ ہو گیا۔ بولا مہاراج آپ ہی نے سب کام کرنے ہیں، میں تو مہر سنگھ کا واقف بھی نہیں۔ مہاراج شریر النفس بولے کہ ہاں ہم سمجھا دیں گے، رات کو آجائے گا۔ مہر سنگھ کو خبر دی گئی، وہ محلہ میں ایک مشہور قمار باز، اول نمبر کا بد معاش اور حرام کار تھا۔ سنتے ہی بہت خوش ہو گیا اور انہیں کاموں کو وہ چاہتا تھا پھر اس سے زیادہ اس کو کیا چاہیے تھا۔ ایک نوجوان عورت اور پھر خوبصورت، شام ہوتے ہی آ موجود ہوا۔ لالہ صاحب نے پہلے ہی دلالہ عورتوں کی طرح ایک کوٹھری میں نرم بستر بچھوا رکھا تھا اور کچھ دودھ اور حلوا بھی دو برتنوں میں سرہانے کی طاق میں رکھوا دیا تھا تا اگر بیرج داتا کو ضعف ہو تو کھاپی لیں۔ پھر کیا تھا آتے ہی بیرج داتا نے لالہ دیوٹ کے نام و ناموس کا شیشہ توڑ دیا اور وہ بد بخت عورت تمام رات اس سے منہ کالا کراتی رہی اور اس پلید نے جو شہوت کا مارا تھا، نہایت قابل شرم اس عورت سے حرکتیں کیں اور لالہ باہر کے دالان میں سوئے اور تمام رات اپنے کانوں سے بے حیائی کی باتیں سنتے رہے بلکہ تختوں کی دراڑوں سے مشاہدہ بھی کرتے رہے۔ صبح وہ خبیث اچھی طرح لالہ کی ناک کاٹ کوٹھری سے باہر نکلا۔ لالہ تو منتظر ہی تھے، دیکھ کر اس کی طرف دوڑے اور بڑے ادب سے اس پلید بد معاش کو کہا سردار صاحب رات کیا کیفیت گذری؟ اس نے مسکرا کر مبارک باد دی اور اشاروں میں جتا دیا کہ حمل ٹھہر گیا۔ لالہ دیوٹ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ مجھے تو اسی دن سے آپ پر یقین ہو گیا تھا جبکہ میں نے بہاری لالہ کے گھر کی کیفیت سنی تھی اور پھر کہا وید حقیقت میں دویا سے بھرا ہوا ہے۔ کیا عمدہ تدبیر لکھی ہے جو خطانہ گئی۔ مہر سنگھ نے کہا کہ ہاں لالہ صاحب، سب سچ ہے کیا وید کی آگیا کبھی خطا بھی ہو جاتی

ہے میں تو انہی باتوں کے خیال سے وید کوست و دیاؤں کا پستک ماننا ہوں۔ اور دراصل مہر سنگھ ایک شہوت پرست آدمی تھا۔ اس کو کسی وید شاستر اور شرعی شلوک کی پروا نہ تھی اور نہ ان پر کچھ اعتقاد رکھتا تھا۔ اس نے صرف لالہ دیوٹ کی حماقت کی باتیں سن کر اس کے خوش کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملا دی۔ مگر اپنے دل میں بہت ہنسا کہ اس دیوٹ کی پتر لینے کے لیے کہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد مہر سنگھ تو رخصت ہوا اور لالہ گھر کی طرف خوش خوش آیا اور اسے یقین تھا کہ اس کی استری رام دئی بہت ہی خوشی کی حالت میں ہوگی کیونکہ مراد پوری ہوئی۔ لیکن اس نے اپنے گمان کے برخلاف اپنی عورت کر روتے پایا اور اس کو دیکھ کر تو وہ بہت ہی روئی، یہاں تک کہ چنچیں نکل گئیں، اور ہچکی آنی شروع ہوئی۔ لالہ نے حیران سا ہو کر عورت کو کہا کہ ”باہے بھاگوان آج تو خوشی کا دن ہے کہ دل کی مرادیں پوری ہوئیں اور بیچ ٹھہر گیا پھر تو روتی کیوں ہے؟ وہ بولی میں کیوں نہ روؤں، تو نے سارے کنبے میں میری مٹی پلید کی اور اپنی ناک کاٹ ڈالی اور ساتھ ہی میری بھی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں پہلے ہی مر جاتی۔ لالہ دیوٹ بولا کہ یہ سب کچھ ہوا مگر اب بچہ ہونے کی بھی کس قدر خوشی ہوگی، وہ خوشیاں بھی تو تو ہی کرے گی مگر رام دئی شاید کوئی نیک اصل کی تھی۔ اس نے تر ت جواب دیا کہ حرام کے بچہ پر کوئی حرام کا ہی ہو تو خوشی منائے۔ لالہ تیز ہو کر بولا کہ ہے ہے کیا کہہ دیا۔ یہ تو وید آ گیا ہے۔ عورت کو یہ بات سن کر آگ لگ گئی، بولی میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیسا وید ہے جو بد کاری سکھلاتا اور زنا کاری کی تعلیم دیتا ہے۔ یوں تو دنیا کے مذاہب ہزاروں باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں مگر یہ کبھی نہیں سنا کہ کسی مذہب نے وید کے سوا یہ تعلیم بھی دی ہو کہ اپنی پاک دامن عورتوں کو دوسروں سے ہم بستر کراؤ۔ آخر مذہب پاکیزگی سکھلانے کے لیے ہوتا ہے نہ بد کاری اور حرام کاری میں ترقی دینے کے لیے۔ جب رام دئی سب باتیں کہہ چکی تو لالہ نے کہا کہ چپ رہو، اب جو ہوا سو ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ شریک سنیں اور میرا ناک کاٹیں۔ رام دئی نے کہا کہ اے بے حیا کیا ابھی تک تیرا ناک تیرے منہ پر باقی ہے۔ ساری رات میرے شریک نے جو تیرا ہمسایہ اور تیرا پکا دشمن ہے، تیری سہروں کی بیاہتا اور عزت کے خاندان والی سے تیرے ہی بستر پر چڑھ کر تیرے ہی گھر میں خرابی کی اور ہر ایک ناپاک حرکت کے وقت جتا بھی دیا کہ میں نے خوب بدلا لیا۔ سو کیا اس بے غیرتی کے بعد تو جیتا ہے۔ کاش تو اس سے پہلے ہی مرا ہوتا۔ اب وہ شریک اور پھر دشمن باتیں بنانے اور ٹھٹھا کرنے سے کب باز رہے گا بلکہ وہ تو کہہ گیا ہے کہ میں اس فتح عظیم کو چھپا نہیں سکتا کہ جو آج وساواں کے مقابل پر مجھے حاصل ہوئی۔ میں ضرور رام دائی کا سارا نقشہ محلہ کے لوگوں پر ظاہر کروں گا، سو یاد رکھ کہ وہ ہر ایک

مجلس میں تیراناک کاٹے گا اور ہر ایک لڑائی میں یہ قصہ تجھے جتائے گا اور اس سے کچھ تعجب نہیں کہ وہ دعویٰ کر دے کہ رام دئی میری ہی عورت ہے کیونکہ وہ اشارہ سے یہ بھی کہہ گیا ہے کہ آئندہ بھی میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لالہ دیوٹ نے کہا کہ نکاح کا دعویٰ ثابت ہونا تو مشکل ہے البتہ یارانہ کا اظہار کرے تو کرے تا ہماری اور بھی رسوائی ہو، بہتر تو یہ ہے کہ ہم ویش ہی چھوڑ دیں۔ بیٹا ہونے کا خیال تھا، وہ تو ایشر نے دے ہی دیا۔ بیٹے کا نام سن کر عورت زہر خندہ ہنسی اور کہا کہ تجھے کس طرح اور کیونکر یقین ہوا کہ ضرور بیٹا ہوگا، اول تو پیٹ ہونے میں ہی شک ہے اور پھر اگر ہو بھی تو اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ لڑکا ہی ہوگا، کیا بیٹا ہونا کسی کے اختیار میں رکھا ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ حمل ہی خطا جائے یا لڑکی پیدا ہو۔ لالہ دیوٹ بولے کہ اگر حمل خطا گیا تو میں کھڑک سنگھ کو جو اسی محلہ میں رہتا ہے، نیوگ کے لیے بلا لاؤں گا۔ عورت نہایت غصہ سے بولی کہ اگر کھڑک سنگھ بھی کچھ نہ کر سکا تو پھر کیا کرے گا؟ لالہ بولا کہ تو جانتی ہے کہ نرائن سنگھ بھی ان دونوں سے کم نہیں، اس کو بلا لاؤں گا۔ پھر اگر ضرورت پڑی تو جمیل سنگھ، لہنا سنگھ، بوڑ سنگھ، جیون سنگھ، صوبا سنگھ، خزان سنگھ، ارجن سنگھ، رام سنگھ، کشن سنگھ، دیال سنگھ سب اس محلہ میں رہتے ہیں اور زور اور قوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، میرے کہنے پر سب حاضر ہو سکتے ہیں۔ عورت بولی کہ میں اس سے بہتر تجھے صلاح دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں ہی بٹھا دے، تب دس بیس کیا ہزاروں لاکھوں آسکتے ہیں، منہ کالا جو ہونا تھا، وہ تو ہو چکا مگر یاد رکھ کہ بیٹا ہونا پھر بھی اپنے بس میں نہیں اور اگر ہوا بھی تو تجھے اس سے کیا جس کا وہ نطفہ ہے آخر وہ اسی کا ہوگا اور اسی کی خوب، لائے گا کیونکہ درحقیقت وہ اسی کا بیٹا ہے، اس کے بعد رام دئی نے کچھ سوچ کر پھر رونا شروع کیا اور دور دور تک آواز گئی اور آواز سن کر ایک پنڈت نہال چند نام دوڑا آیا اور آتے ہی کہا کہ لالہ سکھ تو ہے، یہ کیسی رونے کی آواز آئی۔ لالہ ناک کٹا چاہتا تو نہیں تھا کہ نہال چند کے آگے قصہ بیان کرے مگر اس خوف سے کہ رام دئی اس وقت غصہ میں ہے، اگر میں بیان نہ کروں تو وہ ضرور بیان کر دے گی۔ کچھ کھیانا سا ہو کر زبان دبا کر کہنے گا کہ مہاراج آپ جانتے ہیں کہ وید میں وقت ضرورت نیوگ کے لیے آگیا ہے۔ سو میں نے بہت دنوں سوچ کر رات کو نیوگ کرایا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے نیوگ کے لیے مہر سنگھ کو بلا لیا، پیچھے معلوم ہوا کہ وہ میرے دشمن کرم سنگھ کا بیٹا اور نہایت شریر آدمی ہے، وہ مجھے اور میری استری کو ضرور خراب کرے گا اور وہ وعدہ کر گیا ہے کہ میں یہ ساری کیفیت خوب شائع کروں گا۔ نہال چند بولا کہ درحقیقت بڑی غلطی ہوئی اور پھر بولا کہ وساوا مل تیری سمجھ پر نہایت ہی افسوس ہے۔ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ نیوگ کے لیے پہلا

حق برہمنوں کا ہے اور غالباً یہ بھی تجھ پر پوشیدہ نہیں ہوگا کہ اس محلہ کی تمام کھترانی عورتیں مجھ سے ہی نیوگ کراتی ہیں اور میں دن رات اسی سیوا میں لگا ہوا ہوں پھر اگر تجھے نیوگ کی ضرورت تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ سب کام سدھ ہو جاتا اور کوئی بات نہ نکلتی۔ اس محلہ میں اب تک تین ہزار کے قریب ہندو عورتوں نے نیوگ کرایا ہے مگر کیا کبھی تم نے اس کا ذکر بھی سنا، یہ پردہ کی باتیں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے پھر ذکر نہیں کیا جاتا لیکن مہر سنگھ تو ایسا نہیں کرے گا۔ ذرہ دو چار گھنٹوں تک دیکھنا کہ سارے شہر میں رام دئی کے نیوگ کا شور و غوغا ہوگا۔ لالہ دیوٹ بولا کہ درحقیقت مجھ سے سخت غلطی ہوئی۔ اب کیا کروں۔ اس وقت شریر پنڈت نے جو باعث نہ ہونے رسم پردہ کے رام دئی کو دیکھ چکا تھا کہ جوان اور خوش شکل ہے، نہایت بے حیائی کا جواب دیا کہ اگر اسی وقت رام دئی مجھ سے نیوگ کرے تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ مہر سنگھ کے فتنہ کو میں سنبھال لوں گا اور پہلا حمل ایک شکی بات ہے۔ اب بہر حال یقینی ہو جائے گا۔ تب وسوا دل دیوٹ تو اس بات پر بھی راضی ہو گیا مگر رام دئی نے سن کر سخت گالیاں اس کو نکالیں۔ تب وسوا دل نے پنڈت کو کہا کہ مہاراج اس کا یہی حال ہے، ہرگز نیوگ کرنا نہیں چاہتی۔ پہلے بھی مشکل سے کرایا تھا جس کو یاد کر کے اب تک رو رہی ہے کہ میرا منہ کالا کیا۔ اسی سے تو اس نے چیخیں ماری تھی جن کو آپ سن کر دوڑے آئے۔ تب یہ شہوت پرست پنڈت وسوا دل کی یہ بات سن کر رام دئی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا نہیں بھاگو ان نیوگ کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہ وید آ گیا ہے مسلمان بھی تو عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور وہ عورتیں کسی دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں۔ سو جیسے طلاق جیسے نیوگ۔ بات ایک ہی ہے۔“

(آریہ دھرم صفحہ 31 تا 34 مندرجہ ذیل روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 31 تا 34 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 614 تا 617 پر)

## میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا

مرزا قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھ سے وعدہ کیا:

(178) ”واوحی الی ربی و وعدنی انہ سینصرنی حتی یبلغ امری مشارق

الارض و مغاربہا۔ و تتموج بحور الحق حتی یعجب الناس حباب غوار بہا۔“

ترجمہ: ”میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی اور وعدہ فرمایا کہ وہ مجھے مدد دے گا یہاں

تک کہ میرا کلام مشرق و مغرب میں پہنچ جائے گا اور راستی کے دریا موج میں آئیں گے یہاں

تک کہ اس کی موجوں کے حباب لوگوں کو تعجب میں ڈالیں گے۔“

”میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 260، طبع چہارم، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 618 پر)

## نیوگ، روز کی مشق

(179) ”واضح ہو کہ آریہ سماج کے اصولوں میں سے نہایت قبیح اور قابلِ شرم نیوگ کا مسئلہ ہے، جس کو پنڈت دیانند صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں درج کیا ہے اور وید کی قابلِ فخر تعلیم اس کو ٹھہرایا ہے۔ اور اگر وہ اس مسئلہ کو صرف بیوہ عورتوں تک محدود رکھتے، تب بھی ہمیں کچھ غرض نہیں تھی کہ ہم اس میں کلام کرتے مگر انھوں نے تو اس اصول، انسانی فطرت کے دشمن کو، انتہا تک پہنچا دیا، اور حیا اور شرم کے جامہ سے بالکل علیحدہ ہو کر یہ بھی لکھ دیا کہ ایک عورت جو خاوند زندہ رکھتی ہے اور وہ کسی بدنی عارضہ کی وجہ سے اولاد زرینہ پیدا نہیں کر سکتا۔ مثلاً لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، یا باعثِ رقت منی کے اولاد ہی نہیں ہوتی، یا وہ شخص جو جماع پر قادر ہے، مگر بانجھ عورتوں کی طرح ہے، یا کسی اور سبب سے اولاد زرینہ ہونے میں توقف ہو گئی ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کو چاہیے کہ اپنی عورت کو کسی دوسرے سے ہم بستر کراوے۔ اور اس طرح پر وہ غیر کے نطفہ سے گیارہ بچے حاصل کر سکتا ہے گویا قریباً بیس برس تک اس کی عورت دوسرے سے ہم بستر ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ ہم نے مفصل کتاب کے حوالہ سے یہ تمام ذکر اپنے رسالہ آریہ دھرم میں کر دیا ہے اور حیا مانع ہے کہ ہم اس جگہ وہ تمام تفصیلیں لکھیں۔ غرض اسی عمل کا نام نیوگ ہے۔“

اب ظاہر ہے کہ یہ اصول انسانی پاکیزگی کی بیخ کنی کرتا ہے اور اولاد پر ناجائز ولادت کا داغ لگاتا ہے۔ اور انسانی فطرت اس بے حیائی کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتی کہ ایک انسان کی ایک عورت منکوحہ ہو، جس کے بیاہنے کے لیے وہ گیا تھا اور والدین نے صد ہا یا ہزار ہا روپیہ خرچ کر کے اس کی شادی کی تھی جو اس کے تنگ و ناموس کی جگہ تھی، اور اس کی عزت و آبرو کا مدار تھا۔ وہ باوجودیکہ اس کی بیوی ہے اور وہ خود زندہ موجود ہے۔ اس کے سامنے رات کو دوسرے سے ہم بستر ہووے اور غیر انسان اس کے ہوتے ہوئے اسی کے مکان میں اس کی بیوی سے منہ کالا کرے۔ اور وہ آوازیں سنے اور خوش ہو کہ اچھا کر رہا ہے، اور یہ تمام ناجائز حرکات اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں اور اس کو کچھ بھی جوش نہ آوے۔ اب بتلاؤ کہ کیا ایسا شخص جس کی منکوحہ اور سہروں کے ساتھ بیاہی ہوئی اس کی آنکھوں کے سامنے

دوسرے کے ساتھ خراب ہو۔ کیا اس کی انسانی غیرت اس بیجائی کو قبول کرے گی.....  
مجھے ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں کہ نیوگ میں یعنی اپنی بیوی کو دوسرے سے ہم بستر کروا کر صرف گیارہ بچوں تک لینے کا حکم ہے یا زیادہ۔ مدت ہوئی کہ میں نے ستیا رتھ پرکاش میں پڑھا تو تھا مگر حافظہ اچھا نہیں، یاد نہیں رہا۔ آریہ صاحبان خود مطلع فرمائیں۔ کیونکہ بوجہ روز کی مشق کرانے کے ان کو خوب یاد ہوگا۔ (حاشیہ)

(نسیم دعوت صفحہ 78 تا 80 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 438 تا 440 بمعہ حاشیہ از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 619 تا 621 پر)

## قانون دکھائی

(180) ”وزارت کے تبدیل ہوتے ہی ولایت کے نامور اور سربر آوردہ اخبار ٹائمز نے جس زور شور سے قانون دکھائی کو پھر جاری کرنے کے سلسلہ جنبانی کی ہے، وہ ناظرین پر ظاہر کی جا چکی ہے۔ کنسرویٹیو وزارت سے جو سرکاری عہدہ داران کی رائے کو ہمیشہ بڑی وقعت سے دیکھتی ہے۔ امید ہو سکتی ہے کہ بالضرور وہ اس معاملہ پر اچھی طرح غور کرے گی کیونکہ اس قانون کی منسوخی کے وقت سرجارج وائٹ صاحب کمانڈر انچیف افواج ہند نے جو پر زور مخالفانہ رائے ظاہر کی تھی، وہ اس قابل ہے کہ ضرور کنسرویٹیو گورنمنٹ اس پر توجہ کرے گورنمنٹ ہند بھی اس قانون کے منسوخ کرنے پر رضامند نہ تھی پس ان واقعات کی رو سے پورے طور پر خیال ہو سکتا ہے کہ قانون دکھائی پھر جاری کیا جاوے اس میں شک نہیں ہے کہ قانون دکھائی کے منسوخ ہونے کے دن سے گورہ سپاہیوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ برٹش کے بہادر سپاہی بازاروں میں آتشک کی مریض فاحشہ عورتوں کے ساتھ خراب ہوتے پھرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ حسب رائے کمانڈر انچیف صاحب بہادر بہت خوفناک نکلنے کی امید ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ سرکاری طور پر ہمیں اس بات کی خبر نہیں ملی کہ سال 1894ء میں کتنے گورہ سپاہی مرض آتشک میں مبتلا ہوئے۔ گو مخالفان قانون دکھائی نے مہم چترال کی گورہ فوج کی صحت کو دیکھ کر نہایت مسرت ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ مویدان قانون دکھائی کی یہ رائے کہ اس قانون کے منسوخ ہونے سے تمام گورہ سپاہ مرض آتشک وغیرہ میں مبتلا ہو جائے

گی، غلط ٹھہرتی ہے مگر یہ واقعہ اس قابل نہیں ہے کہ جس سے تشفی ہو سکے کیونکہ مہم چترال میں چیدہ اور تندرست جوان بھیجے گئے تھے نیز لڑائی اور جنگلی ملک کی وجہ سے وہ کہیں خراب ہو کر بیمار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس امر کا دہرانا ضروری نہیں کہ گورے سپاہی چونکہ بالکل کم تعلیم یافتہ اور دیہاتی نوجوان ہیں۔ نیز بوجہ گوشت خور ہونے کے وہ زیادہ گرم مزاج کے ہیں۔ اس لیے ان سے نفسانی خواہش روکے رکھنے کی امید رکھنا محض لا حاصل ہے۔ قانون دکھائی کے جاری ہونے کے دنوں ہر ایک گورہ پلٹن کے لیے کسی عورتیں ملازم رکھی جاتی تھیں جن کا ہمیشہ ڈاکٹری معائنہ ہوتا رہتا تھا اور تمام گورہ لوگوں کو ان ملازم رنڈیوں کے علاوہ اور جگہ جانے کی بھی شاید ممانعت تھی۔ اس طریق سے ان کی صحت میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا تھا نیز اس طریق کے بند ہونے کی وجہ سے اور بھی کئی ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جن سے اہل ہند کی طرف سے بہت ناراضی پھیلتی جاتی ہے جن میں سے میاں میر کا مقدمہ زنا بالجبر جو گورہ سپاہیوں کی طرف سے ایک بد صورت بڑھی اور اندھی عورت سے کیا گیا تھا، قابل غور ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مدراس کے صوبہ میں ہوا جہاں ایک ریلوے پھانک کے چوکیدار نے ہندوستانی عورتوں کی عفت بچانے میں اپنی جان دے دی تھی۔ اگر چندے گورے سپاہیوں کے لیے انتظام سرکاری طور پر نہ کیا گیا تو علاوہ اس کے کہ تمام فوج بیماری سے ناکارہ ہو جائے ملک میں بڑی بھاری بددلی پھیلنے کا اندیشہ ہے اور یہ دونوں امور قیام سلطنت کے لیے غیر مفید ہیں۔ اس وقت جبکہ قانون دکھائی کو پھر جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں یہ ظاہر کر دینا بھی نہایت ضروری ہے کہ اگر اب پھر قانون مذکور جاری کیا جاوے تو گورنمنٹ ہند اور خصوصاً کمانڈر انچیف افواج ہند کو یہ بھی ضرور انتظام کرنا چاہیے کہ بجائے ہندوستانی عورتوں کے یورپین عورتیں ملازم رکھی جائیں کیونکہ قانون دکھائی کے متعلق ہندوستانی اور انگریز مخالفین کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ ہندوستان کی غریب عورتوں کو دلالہ عورتوں کے ذریعہ سے اس فحش ملازمت کی ترغیب دی جاتی ہے اور بعض اوقات نہایت کمینہ فریبوں سے اچھے گھروں کی یتیم لڑکیوں کو اس پیشہ کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور یہی وجہ تھی جس سے ہند کے بہت سے باشندگان نے قانون دکھائی کی منسوخی میں معمول سے بڑھ کر انٹرسٹ لیا تھا۔ ورنہ کسی معمولی سمجھ کے آدمی کو بھی ان بد معاش عورتوں سے ہرگز ہمدردی نہیں ہو سکتی تھی۔ قانون دکھائی کے مکرر اجراء کی کوشش محض اسی غرض سے کی جاتی ہے کہ گورہ سپاہیوں

کی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے سرکاری طور پر انتظام کیا جائے ورنہ ویسی لوگوں کی بہتری کلاس میں ذرا بھی خیال نہیں۔ اس لیے اگر مخالفین قانون مذکور کی دلجوئی گورنمنٹ کو منظور ہو تو یہی ایک طریق ہے جس سے بلا قانون مذکور کے جاری کرنے کے مقصد مطلوبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر حسب تجویز ہماری کے یورپین سپاہیوں کے لیے یورپین عورتیں بہم پہنچائی جائیں تو ان سے مرض آتشک کا خدشہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ایک تو یورپ میں مرض مذکور شاید ہوگا ہی نہیں دوم ان عورتوں کو بروقت بھرتی ہونے کے ذریعہ ڈاکٹروں کے ذریعہ مشکل فوجی سپاہیوں کے ملاحظہ کرایا جائے گا اس سے فریقین کے مرض مذکور سے پاک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹری معائنہ کی ہمیشہ کے لیے ضرورت ہی نہ رہے گی۔ اس طرح بغیر قانون دکھائی جاری کرنے کے سپاہیوں کی خواہش نفسانی کے لیے عمدہ طور سے انتظام ہو سکتا ہے۔

اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ولایت میں مثل ہندوستان کے فاحشہ عورتیں موجود ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ کو اس انتظام میں ذرا بھی وقت نہ ہوگی بلکہ ہمیں یقین ہے کہ یورپ کی مہذب کسبیاں (واہ مرزا قادیانی! کسبیاں اور مہذب!۔ مرتب) بہادر سپاہیوں کو خوش رکھنے کے لیے نہایت خوشی سے اپنی خدمات سپرد کر دیں گی یہی بات کہ ان عورتوں کے ہندوستان لانے اور واپس لے جانے میں گورنمنٹ کو رقم کثیر خرچ کرنی پڑے گی۔ اس کا ہندوستان کے باشندوں کو ذرا بھی رنج نہ ہوگا جہاں وہ ملٹری ڈیپارٹمنٹ کے اخراجات کے لیے پہلے سے ہی لاتعداد روپیہ خوشی سے دیتے ہیں اس رقم کے اضافہ سے بھی ہرگز انھیں اختلاف نہ ہوگا بلکہ وہ اس تجویز کو جس سے ہندوستان کی بد بخت عورتوں کی عفت بچ رہے گی اور برٹش گورنمنٹ کے بہادر گورے سپاہی تندرست اور خوش رہ سکیں گے۔ نہایت خوشی سے پسند کریں گے۔

اگر گورنمنٹ ہند کو یہ مطلوب ہے کہ ہندوستان کے نوجوان بھی جن میں ویسی پلٹنوں اور رسالوں کے سپاہی بھی شامل ہیں بازاری عورتوں کے ذریعہ مریض ہونے سے بچ رہیں تو ہم تمام ہندوستان کی فاحشہ عورتوں کے لیے قانون دکھائی کے جاری ہونے کو صدق دل سے پسند کرتے ہیں۔ کئی شریف ہندوستانی کو ان بدکار فاحشہ عورتوں کے ساتھ جو تمام قسم کے لوگوں کے لیے باعث خرابی ہیں۔ ذرا بھی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ہم قبل ازیں بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایسی عورتوں کے لیے جنھوں نے اپنے خاندان کے ناموس کو خیر باد کہہ دی ہے، قانون



دکھائی کی آزمائش باعث شرم نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ عورتیں جو تھوڑے سے پیسوں میں بھنگی کے ساتھ منہ کالا کرنے کو تیار ہیں۔ معزز ڈاکٹر کے معائنہ سے کب شرمسار ہو سکتی ہیں۔ بے شک یہ افسوسناک امر ہے کہ عورتوں کی عفت کا مردوں کے ذریعہ امتحان کرایا جائے مگر کیا ہو سکتا ہے ان بے شرم بد ذات عورتوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی شرم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے حق بات تو یہ ہے کہ قانون دکھائی کی ہندوستان میں سخت ضرورت ہے۔ جب یہ قانون جاری تھا تو ہر ایک بدکار عورت کو خوف ہوتا تھا کہ اگر وہ فحش پیشہ اختیار کرے گی تو اسے قانون دکھائی کی سخت آزمائش بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ بہت سی عورتیں اسی خوف کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرنے سے بچ رہتی تھیں۔ اس زمانہ میں جبکہ دکھائی کا طریق بند ہے۔ مرض آتشک کے ادویات کے اشتہارات کثرت سے شائع ہوتے ہیں جو اس امر کا کافی ثبوت ہیں کہ ملک میں مرض آتشک بہت پھیلا ہوا ہے اول تو ہمیں اس خراب فرقہ کے وجود سے ہی سخت اختلاف ہے مگر ایسے زمانہ میں جبکہ اخلاق اور مذہب کی سخت کمزوری ہو رہی ہے، یہ امید کرنا فضول ہے کہ یہ شیطانی فرقہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس سے یہ اخلاق اور مذہب کو بگاڑنے کے علاوہ عوام کی صحت کو ہمیشہ کے لیے خراب کرنے کے قابل نہ رہ سکیں اور وہ قانون صرف قانون دکھائی ہی ہے۔ ہم نہایت شکر گزار ہوں گے اگر دوبارہ ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جائے گا مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورہ لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں بہم پہنچائی جائیں۔ یقین ہے کہ گورنمنٹ ہند اور معزز ہمعصران اس معاملہ پر ضرور توجہ اور غور فرمائیں گے۔“

(آریہ دھرم صفحہ 72 تا 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 72 تا 75 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 622 تا 625 پر)

## قادیانی خشوع و خضوع

(181) مرزا قادیانی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے: قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلواتہم خاشعون۔ یعنی وہ مومن مراد پائے جو اپنی نمازوں میں اور ہر ایک طور کی یاد الہی

میں فروتنی اور عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں اور رقت اور سوز و گداز اور قلق اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ خشوع کی حالت جس کی تعریف کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔..... وہ لوگ جو قرآن شریف میں غور کرتے ہیں سمجھ لیں کہ نماز میں خشوع کی حالت روحانی وجود کے لیے ایک نطفہ ہے اور نطفہ کی طرح روحانی طور پر انسان کامل کے تمام قوی اور صفات اور تمام نقش و نگار اس میں مخفی ہیں اور جیسا کہ نطفہ اس وقت تک معرض خطر میں ہے جب تک کہ رحم سے تعلق نہ پکڑے..... یہی سنت اللہ بنی آدم کے لیے جاری ہے پس جبکہ انسان نماز اور یاد الہی میں خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے، تب اپنے تئیں رحیمیت کے فیضان کے لیے مستعد بناتا ہے۔ سو نطفہ میں اور روحانی وجود کے پہلے مرتبہ میں جو حالت خشوع ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نطفہ رحم کی کشش کا محتاج ہوتا ہے اور یہ رحیم کی کشش کی طرف احتیاج رکھتا ہے اور جیسا کہ نطفہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش سے پہلے ہی ضائع ہو جائے۔ ایسا ہی روحانی وجود کے پہلے مرتبہ کے لیے یعنی حالت خشوع کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحیم کی کشش اور تعلق سے پہلے ہی برباد ہو جائے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ابتدائی حالت میں اپنی نمازوں میں روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں اور چونکہ اس ذات ذوالفضل سے جس کا نام رحیم ہے، کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس کی خاص تجلی کے جذبہ سے اس کی طرف کھنچے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا وہ تمام سوز و گداز اور تمام وہ حالت خشوع بے بنیاد ہوتی ہے اور بسا اوقات ان کا قدم پھسل جاتا ہے یہاں تک کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 188 تا 190 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 188 تا 190 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 626 تا 628 پر)

(182) ”یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یاد الہی میں جو کبھی انسان کو حالت خشوع میسر آتی ہے اور وجد اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے جیسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفہ کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے بلکہ تعلق کے لیے علیحدہ آثار اور علامات ہیں۔ پس یاد الہی میں ذوق شوق جس کو دوسرے لفظوں میں

حالت خشوع کہتے ہیں نطفہ کی اس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 192 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 192 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 629 پر)

(183) ”جیسا کہ نطفہ کبھی حرام کاری کے طور پر کسی رنڈی کے اندام نہانی میں پڑتا ہے تو اس میں بھی وہی لذت، نطفہ ڈالنے والے کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ پس ایسا ہی بت پرستوں اور مخلوق پرستوں کا خشوع و خضوع اور حالت ذوق و شوق، رنڈی بازوں سے مشابہ ہے یعنی خشوع اور خضوع مشرکوں اور ان لوگوں کا جو محض اغراض دنیویہ کی بنا پر خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس نطفہ سے مشابہت رکھتا ہے جو حرام کار عورتوں کے اندام نہانی میں جا کر باعث لذت ہوتا ہے بہر حال جیسا کہ نطفہ میں تعلق پکڑنے کی استعداد ہے، حالت خشوع میں بھی تعلق پکڑنے کی استعداد ہے مگر صرف حالت خشوع اور رقت اور سوز اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ تعلق ہو بھی گیا ہے جیسا کہ نطفہ کی صورت میں جو اس روحانی صورت کے مقابل پر ہی مشاہدہ ظاہر کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور منی عوت کے اندام نہانی میں داخل ہو جائے اور اس کو فعل سے کمال لذت حاصل ہو تو یہ لذت اس بات پر دلالت نہیں کرے گی کہ حمل ضرور ہو گیا ہے۔ پس ایسا ہی خشوع اور سوز و گداز کی حالت گو وہ کیسی ہی لذت اور سرور کے ساتھ ہو، خدا سے تعلق پکڑنے کے لیے کوئی لازمی علامت نہیں ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 193 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 193 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 630 پر)

(184) ”اور پھر ایک اور مشابہت خشوع اور نطفہ میں ہے اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کا نطفہ اس کی بیوی یا کسی اور عورت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نطفہ کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت پکڑ کر رواں ہو جانا بعینہ رونے کی صورت میں ہوتا ہے جیسا کہ خشوع کی حالت کا نتیجہ بھی رونا ہی ہوتا ہے، اور جیسے بے اختیار نطفہ اچھل کر صورت انزال اختیار کرتا

ہے، یہی صورت کمال خشوع کے وقت رونے کی ہوتی ہے کہ رونا آنکھوں سے اچھلتا ہے اور جیسی انزال کی لذت کبھی حلال طور پر ہوتی ہے جبکہ اپنی بیوی سے انسان صحبت کرتا ہے اور کبھی حرام طور پر جبکہ انسان کسی کھرام کار عورت سے صحبت کرتا ہے۔ یہی صورت خشوع اور سوز و گداز اور گریہ و زاری کی ہے یعنی کبھی خشوع اور سوز و گداز محض خدائے واحد لا شریک کے لیے ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی بدعت اور شرک کا رنگ نہیں ہوتا۔ پس وہ لذت سوز و گداز کی ایک لذت حلال ہوتی ہے مگر کبھی خشوع اور سوز و گداز اور اس کی لذت بدعات کی آمیزش سے یا مخلوق کی پرستش اور بتوں اور دیویوں کی پوجا میں بھی حاصل ہوتی ہے مگر وہ لذت حرام کاری کے جماع سے مشابہ ہوتی ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 196 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 196 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 631 پر)

### قادیانی ترانہ

(185) ”چپکے چپکے“  
 آریوں کا اصول بھاری ہے  
 زن بیگانہ پر یہ شیدا ہیں  
 جس کو دیکھو وہی شکاری ہے  
 غیر مردوں سے مانگنا نطفہ  
 سخت نجس اور نابکاری ہے  
 غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے  
 وہ نہ بیوی زن بزاری ہے  
 نام اولاد کے حصول کا ہے  
 ساری شہوت کی بے قراری ہے  
 بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط

یار کی اس کو آہ و زاری ہے  
 دس سے کروا چکی زنا لیکن  
 پاک دامن ابھی بچاری ہے  
 گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو  
 ایسی جو رو کی پاسداری ہے  
 اس کے یاروں کو دیکھنے کے لیے  
 سر بازار ان کی باری ہے  
 ہے قوی مرد کی تلاش انہیں  
 خوب جو رو کی حق گذاری ہے“

(آریہ دھرم صفحہ 75، 76 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 75، 76 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 632، 633 پر)

### نرم اندام عورتیں اور ہمارے باکرہ مضامین

(186) ”اور میرے مضامین نازک اندام عورتوں کی طرح تھے، پس حسن کے ساتھ پھر اس  
 آواز کے ساتھ جو بطور قبا کے تھی، دل اس کی طرف جھک گئے۔ اور میرے کلمے آئینہ کی طرح  
 صاف کیے گئے ہیں، پس تعجب کرنے والے کی نظر اس کو ٹٹکنکی لگا کر دیکھتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں  
 کہ نرم اندام عورتیں اسراء کی ہمارے لیے بنی ہو گئیں اور غیروں سے وہ چھپنے والیوں کی طرح  
 دور ہو گئیں۔ اور جب کہ وہ ہودہ سے زینت کے ساتھ نکلیں پس ان کا حسن اندام دیکھنے والوں  
 کا دل لے گیا۔ اور جب ان کا حسن اپنے نور کے ساتھ چمکا، پس اندھیرائیوں چلا گیا جیسا کہ  
 وہ لوگ جو اپنے گھروں سے آوارہ پھرتے ہیں۔ اور معشوقوں میں سے بہت کم ہوگا جس کا  
 حسن ہمارے ان باکرہ مضامین کی طرح ہوگا اور رخسار روشن ہوں گے۔ اور جب میں نے خدا  
 سے کلمات فصاحت طلب کیے پس میں اپنے رب سے گونا گوں فصاحت کلام دیا گیا۔“

(حجۃ اللہ صفحہ 100 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 227، 238، 247 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 634 تا 636 پر)

## برہنہ شخص سے بغلگیری

(187) ”اور ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں محمد حسین کے مکان پر گیا ہوں اور میرے ساتھ ایک جماعت ہے اور ہم نے وہیں نماز پڑھی اور میں نے امامت کرائی اور مجھے خیال گزرا کہ مجھ سے نماز میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ظہر یا عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا تھا پھر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے سورہ فاتحہ بلند آواز سے نہیں پڑھی بلکہ صرف تکبیر بلند آواز سے کہی پھر جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد حسین ہمارے مقابل پر بیٹھا ہے اور اس وقت مجھے اس کا سیاہ رنگ معلوم ہوتا ہے اور بالکل برہنہ ہے پس مجھے شرم آئی کہ میں اس کی طرف نظر کروں پس اسی حال میں وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا وقت نہیں آیا کہ تو صلح کرے اور کیا تو چاہتا ہے کہ تجھ سے صلح کی جائے اس نے کہا کہ ہاں پس وہ بہت نزدیک آیا اور بغلگیری ہوا۔“

(سراج منیر صفحہ 78 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 80 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 637 پر)

## پیٹ سے چوہا؟

(188) ”اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس کا وہ مباہلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا؟ کیا اندر ہی اندر پیٹ میں تحلیل پا گیا یا پھر رجعت قہقری کر کے نطفہ بن گیا۔۔۔۔۔ اور اب تک اس کی عورت کے پیٹ میں سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔“

(انجام آہنم صفحہ 314، 317 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 311، 317 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 638، 639 پر)

## رحم پر مہر

(189) ”خدا تعالیٰ نے اس (عبدالحق غزنوی) کی بیوی کے رحم پر مہر لگا دی“

(تمتہ حقیقۃ الوحی صفحہ 444 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 444 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 640 پر)

## عضو تناسل کاٹ دیتا.....

(190) ”حضرت مسیح موعود کے قریباً ہم عمر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بھی تھے۔ ان کے والد کا جس وقت نکاح ہوا، اگر ان کو حضرت اقدس مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی حیثیت معلوم ہوتی اور وہ جانتے کہ میرا ہونے والا بیٹا محمد رسول اللہ ﷺ کے ظل اور بروز کے مقابلہ میں وہی کام کرے گا جو آنحضرت ﷺ کے مقابلہ میں ابو جہل نے کیا تھا تو وہ اپنے آلہ تناسل کو کاٹ دیتا اور اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا۔“

(مرزا بشیر الدین محمود کا خطبہ نکاح۔ روزنامہ الفضل قادیان مورخہ 2 نومبر 1922ء جلد 10 شماره 35)  
(عکس صفحہ نمبر 641 پر)

## جہاں سے نکلے تھے.....

(191) ”جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے رو برو تو بہت گزاف مارتے ہیں مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے، وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔“

(حیات احمد، حضرت مسیح موعود کے سوانح حیات جلد دوم نمبر اول صفحہ 25 از یعقوب علی عرفانی ایڈیٹر الحکم قادیان)  
(عکس صفحہ نمبر 642 پر)

## بے غسل.....؟

(192) ”اس شخص نے کہا کہ کیا ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تمہارے قول و فعل کس سے ملتے جلتے ہیں۔ اس بات پر وہ شخص سخت غضبناک ہو کر کہنے لگا۔ دیکھو جی مرزارات کو لگائی سے بدکاری کرتا ہے اور صبح کو بے غسل لوڑا بھرا ہوا ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا اور وہ الہام ہوا، میں مہدی ہوں، مسیح ہوں۔  
مجھ جیسا انسان غیرت مند کب روارکھ سکتا تھا کہ حضرت اقدس مرزا قادیانی (فداہ

جانی و روحی و نفسی وامی و ابی) کی نسبت ایسا گندہ جملہ سن سکے۔ بس میں نے اس کے ایک ایسا تھپڑ مارا کہ اس کی ٹوپی پگڑی سر پر سے اتر کر دور جا پڑی اور کہا او مردود و دشمن مقبول الہی، تو ایسا جملہ ناپاک ایسے صادق مصدوق، طاہر و مطہر انسان کی نسبت اور میرے سامنے بکنا ہے اور نہیں جانتا کہ میں ان کا خادم اور مرید ہوں اور وہ میرے آقا اور مرشد اور رہنما ہیں۔ خبردار جو آج سے میرے پاس آیا اور یا مجھ سے ملا۔“

(تذکرہ المہدی صفحہ 157 از پیر سراج الحق نعمانی قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 643 پر)

## عورت کی کارروائی

(193) ”مرد اور کئی وجوہات اور موجبات سے ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مرد کی ایک بیوی تغیر عمر یا کسی بیماری کی وجہ سے بد شکل ہو جائے تو مرد کی قوت فاعلی جس پر سارا مدار عورت کی کارروائی کا ہے، بیکار اور معطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مرد بد شکل ہو تو عورت کا کچھ بھی حرج نہیں کیونکہ کارروائی کی کل مرد کو دے دی گئی ہے اور عورت کا تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر مرد اپنی قوت مردی میں قصور یا عجز رکھتا ہے تو قرآنی حکم کی رُو سے عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے اور اگر پوری پوری تسلی کرنے پر قادر ہو تو عورت یہ عذر نہیں کر سکتی کہ دوسری بیوی کیوں کی ہے۔ کیونکہ مرد کی ہر روزہ حاجتوں کی عورت ذمہ دار اور کاربرابر نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے مرد کا استحقاق دوسری بیوی کرنے کے لیے قائم رہتا ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 282 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 282 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 644 پر)

نوٹ: (لجنہ اماء اللہ سے تعلق رکھنے والی تمام قادیانی حوریں کارروائی کرواتے وقت مرزا قادیانی کی مندرجہ بالا ہدایات پر ”تختی“ سے عمل کریں، فائدہ ہوگا۔)

قابل افسوس بات یہ ہے کہ جس کتاب میں مرزا قادیانی نے ”عورت سے کارروائی“ کا فلسفہ پیش کیا، اس کا نام ”آئینہ کمالات اسلام“ رکھا ہے۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ اس کی فروخت کے لیے جموٹے خوابوں کا سہارا لے کر کہا ”ایک رات یہ بھی دیکھا کہ ایک



فرشتہ بلند آواز سے لوگوں کے دلوں کو اس کتاب کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے ہذا کتاب مبارک فقوמו الاجلال والاکرام یعنی یہ کتاب مبارک ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 652 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 652 از مرزا قادیانی)

## سلطان القلمی کا نادر نمونہ

(194) ”جس طرح کھانگڑ بھینس کا دودھ نکالنا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح سے خدا کے نشان بھی سخت تکلیف کی حالت میں اتر کرتے ہیں۔“  
(ملفوظات جلد دوم صفحہ 428 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 645 پر)

## یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ

(195) ”جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں۔ مگر قیام انگلستان کے دوران میں مجھے اس کا موقع نہ ملا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے جو میرے ساتھ تھے، کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی عریانی سے نظر آسکے۔ وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے مگر مجھے ایک اوپیرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اوپیرا سینما کو کہتے ہیں۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ اعلیٰ سوسائٹی کی جگہ ہے جسے دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے۔ میری نظر چونکہ کمزور ہے، اس لیے دور کی چیز اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا، کیا یہ نگلی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ نگلی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ مگر باوجود اس کے، وہ نگلی معلوم ہوتی تھیں۔ تو یہ بھی ایک لباس ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے شام کی دعوتوں کے گاؤن ہوتے ہیں۔ نام تو اس کا بھی لباس ہے۔ مگر اس میں سے جسم کا ہر حصہ بالکل ننگا نظر آتا ہے۔“

(روزنامہ اخبار الفضل قادیان دارالامان مورخہ 24 جنوری 1934ء) (عکس صفحہ نمبر 646 پر)

## کبھی کبھی زنا

(196) ”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) ولی اللہ تھے۔ اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا، تو اس میں حرج کیا ہوا۔ پھر لکھا ہے۔ ہمیں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے۔ ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے، کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔“  
(روزنامہ اخبار الفضل قادیان دارالامان مورخہ 31 اگست 1938ء) (عکس صفحہ نمبر 647 پر)

## اللہ عورت، مرزا مرد

(197) ”اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود کو فرماتا ہے یا شمس یا قمر! اے سورج، اے چاند! سورج کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چاند کو روشنی دیتا ہے، اور چاند کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو سورج کہا اور خود چاند بنا۔ اسی طرح عورت مرد سے نطفہ لیتی ہے اور مرد نطفہ دیتا ہے۔ سورج کا قائم مقام مرد ہے، اور چاند کا قائم مقام عورت ہے، اس وقت بھی لوگوں نے حضرت موعود پر اعتراض کیا کہ خود سورج بنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چاند بنایا ہے اور اب بھی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، (میں نے) اللہ تعالیٰ کو عورت دیکھا۔“

(قادیانی خلیفہ مرزا محمود کا خواب مندرجہ روزنامہ الفضل قادیان، 20 مارچ 1947ء، جلد 35 شمارہ 67 صفحہ 2)  
(عکس صفحہ نمبر 649 پر)

## تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق

زمین و آسمان اپنے جائے قیام بدل سکتے ہیں، فرشتے زمین پر اور انسان آسمان پر منتقل ہو سکتے ہیں لیکن خدائے برتر ایسے انسانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جن کی مذہبی قیادت نے ہزاروں عصمتوں پر ڈاکے ڈالے، وہ پیشوا جو رہبر کے بھیس میں دنیا کے سامنے آیا،

لوگ اسے رہنما سمجھ کر پیچھے ہو لیے لیکن وہ رہزن نکلا۔ دنیا نے اسے انسان سمجھا لیکن وہ بھیڑیا ثابت ہوا۔ اس نے اپنے چاروں طرف ظلمتیں پھیلا دیں تاکہ اس کی بے راہ روی پر پردے پڑے رہیں۔ بظاہر رہنما باطن رہزن یہ کون شخص تھا، یہ تھا مرزا بشیر الدین قادیانی۔

مرزا بشیر الدین محمود آنجہانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بیٹا تھا، اس پر زنا کا الزام تو اتر کے ساتھ اس کے مریدوں نے لگایا۔ اس نے قادیان و ربوہ کے کسی قابل ذکر لڑکے و عورت کو نہیں چھوڑا۔ اس کی بدکرداریوں پر انہی کے اپنے آدمی، یعنی قادیانیوں کا تبصرہ، اعداد و شمار، شواہد، حلفی بیانات، مباہلے، قسمیں، حکومت کو درخواستیں، بشیر الدین سے خط کتابت غرضیکہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ پڑھ کر پکار اٹھیں گے کہ جس طرح مرزا قادیانی اس صدی میں دنیا کا سب سے بڑا کذاب تھا۔ اسی طرح آپ یقین کریں گے کہ اس صدی کا سب سے بڑا بدکردار شخص مرزا بشیر الدین تھا جس نے اپنی بیٹیوں تک کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ مرزائیوں کے منہ پر مرزائیوں کے جوتے یہ اس کتاب کا تعارف ہے۔ مصنف کے باپ فخر الدین ملتانی کو مرزا بشیر الدین محمود نے محض اس لیے قتل کرادیا تھا کہ اس نے بشیر الدین کے کریکٹر سے متعلق قادیان میں ایک اشتہار شائع کیا تھا۔ قادیانیوں کی قادیانی سربراہ کے متعلق تصنیف اور تحریری شہادت ایک تاریخی دستاویز ہے اور ایک ایسا آئینہ ہے، جس میں قادیانی اپنے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی عریاں تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔

مرزا بشیر الدین محمود آنجہانی نام نہاد مرزائی خلیفہ کی عریاں، شرم ناک سنگین و رنگین کہانی کو حلف موکد بعد اب کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے اور مرزائیوں کی عورتوں، مردوں کی حلیہ شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ مرزا بشیر الدین ایک زانی و بد معاش شخص تھا جو تقدس کے پردہ میں عورتوں اور لڑکوں کا شکار کرتا تھا۔

مظہر الدین ملتانی قادیانی نے راسپوٹین مرزا محمود کے متعلق جو انکشافات کیے ہیں، وہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مظہر الدین ملتانی آخری وقت تک قادیانی مذہب پر قائم رہے۔ صرف مرزا محمود سے اس کی رنگینیوں اور سنگینیوں کی وجہ سے اختلاف رہا۔ سچ ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔

## مباہلہ جائز ہے

(198) ”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے تین حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔ اس میں زنا کے الزام پر مباہلہ کرنے کی پوری پوری وضاحت موجود ہے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ زنا کے الزام لگانے والے خواہ چار گواہ پیش نہ بھی کریں تو وہ میدان مباہلہ میں نکل آئیں تو ان سے مباہلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور کا حکم ملاحظہ فرمائیے:

(1) ”مباہلہ صرف ایسے شخصوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کسی

دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔“ (الحکم، 24 مارچ 1902ء)

(2) ”دوم اس ظالم کے ساتھ جو بے جا تہمت کسی پر لگا کر اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا

ہے۔ مثلاً مستورہ عورت کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے،

کیونکہ میں نے پچشم خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے یا مثلاً ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں

یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے، کیونکہ پچشم خود اسے شراب پیتے دیکھا ہے۔ تو

اس حالت میں بھی مباہلہ جائز ہے، کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں کیونکہ

ایک شخص اپنے یقین اور رویت کی بنا رکھ کر ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا چاہتا

ہے۔“ (الحکم، 24 مارچ 1902ء)

(3) ”یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کہے کہ میں نے اسے پچشم خود زنا

کرتے دیکھا ہے یا پچشم خود شراب پیتے دیکھا ہے۔ اگر میں اس بے بنیاد افترا کے

لیے مباہلہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔“ (تبلیغ رسالت، جلد نمبر 2، صفحہ 2)

## خلیفہ صاحب کی عیاری

□ خلیفہ صاحب ربوہ نے جب یہ دیکھا کہ میری بدچلنی کا بھانڈا چورا ہے میں پھوٹ

رہا ہے اور حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے فتویٰ کی روشنی میں چار گواہوں کی بھی ضرورت

نہیں اور کہیں احمدی جماعت کے افراد مجھے مباہلہ کے لیے تیاری شروع نہ کروادیں، فوراً کمال

چابکدستی سے پیٹریوں بدلا کہ میں مباہلہ کے لیے تیار ہوں مگر گناہ شخص دعوت مباہلہ دے رہا

ہے۔ اس لیے اس سے مباہلہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور 8 ستمبر 1956ء کے الفضل میں گواہیوں کو رد کرتے ہوئے میاں زاہد کی گواہی کو سراہا اور یوں فرمایا:

”کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے میاں زاہد کی گواہی اور اپنا حافظہ کافی ہے۔“ (الفضل، 8 ستمبر 1956ء)

الفضل 31 جولائی 56 میں میاں محمود احمد صاحب خلیفہ ربوہ نے یہ بھی شکوہ فرمایا ہے کہ ”ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ گناہ شخص سے مباہلہ کون کر سکتا ہے۔“ (الفضل، 31 جولائی 1956ء)

## میاں زاہد سے میری بیویاں پردہ نہیں کرتیں

□ چونکہ خلیفہ صاحب کو اپنے حافظہ پر ناز ہے۔ بھولنا بھی ان کے بس کی بات نہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر یاد کروانا ضروری خیال کرتا ہوں۔ ہاں! یہ وہی میاں زاہد ہیں جن کو آپ نے مورخہ 8 ستمبر 1956ء کے الفضل میں فرمایا تھا کہ میری بیویاں میاں زاہد سے پردہ نہیں کرتیں۔ الفضل..... میں عرض کر رہا تھا۔ یہ دونوں صورتیں میاں زاہد نے پوری کر دیں، جو ان کے بیان سے ظاہر ہے۔ اس لیے غور سے ملاحظہ کیجیے۔

## شہادت نمبر 1

### چیلنج مباہلہ

## بنام میاں محمود احمد خلیفہ قادیان

### صدق و کذب میں فیصلہ کا آسان طریق

اب میاں زاہد صاحب کا بیان مباہلہ بغیر تبصرہ کے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور میاں محمود احمد صاحب ان کی گواہی از خود تسلیم کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ بغیر کسی تاویل کے حضرت مسیح موعود کے فتویٰ کی روشنی میں اس مباہلہ کو قبول فرمائیے۔ ”مباہلہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین کی بنا رکھ کر دوسرے کو مفتری اور زانی

قرار دیتے ہیں۔“ (اخبار الحکم)

کیونکہ آپ عجیب و غریب تفرقہ انگیز فتویٰ مثلاً یہ کہ تمام روئے زمین کے کلمہ گو مسلمان کافر ہیں۔ ان کے پیچھے نماز قطعی حرام ہے۔ ان کے اور ان کے معصوم بچوں کا جنازہ تک پڑھنا ناجائز اور ان سے رشتہ و ناٹھ حرام ہے، صادر فرمانے کی وجہ سے مسلمانوں میں خصوصاً اور باقی دنیا میں عموماً کافی شہرت رکھتے ہیں۔ آنجناب کا دعویٰ ہے کہ آپ خدا کے مقرر کردہ خلیفہ المسلمین ہیں اور خدا نے ہی آپ کو دنیا کی ہدایت و اصلاح کے لیے مامور فرمایا ہے اور اگر فی زمانہ کوئی روحانیت کا مجسم نمونہ اور اسلام کا سچا حامی علمبردار ہے تو وہ آپ کی ذات والا صفات ہے۔

خلافت مآب کے ان عظیم الشان دعاوی نے ایک دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا تھا لیکن یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ قادر مطلق خیر و علیم جس سے کوئی نہاں در نہاں فعل پوشیدہ نہیں اور جس نے ابتدائے عالم سے مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے سامان پیدا کیے اور بالآخر ہمارے مولیٰ و آقا سید الکونین حضرت محمد ﷺ کو دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، کسی ایسے شخص کو زیادہ مہلت دیتا جو اس کے اور اس کے چاک رسول کے نام کی آڑ میں بندگان خدا کو گمراہ کر رہا ہو۔ آج اس مسبب الاسباب کے پیدا کردہ یہ سامان ہیں کہ خود خلیفہ قادیان کے مخلص مرید آنجناب کے پوشیدہ رازوں کا انکشاف کر رہے ہیں اور عرصہ سے خلافت مآب کو جو پیشتر ازیں ہر مخالف کو مہلہ کے لیے بلایا کرتے تھے، ان کے مشتبہ چال چلن پر مہلہ کی دعوت دے رہے ہیں مگر آج تک اس روحانیت، پاکیزگی اور تعلق باللہ کے مدعی کو میدان میں آنے کی جرأت نہیں۔

خاکسار اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے اور دنیا پر حقیقت کو بے نقاب اور جملہ برادران اسلامی کی آگاہی کے لیے بذریعہ اشتہار ہذا اس امر کی اطلاع دیتا ہوں کہ یہ عاجز بھی عرصہ سے خلافت مآب کو یہی چیلنج دے رہا ہے کہ اگر ان کی ذات پر عائد کردہ الزامات غلط ہیں تو وہ میدان مہلہ میں آ کر اپنی روحانیت کی صداقت کا ثبوت دیں مگر خلافت مآب نے آج تک اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا۔ آج پھر اتمام الحجت بذریعہ اعلان ہذا میں خلیفہ قادیان کو چیلنج دیتا ہوں کہ ان کے دعاوی میں ذرہ بھر بھی صداقت ہے تو اپنے چال چلن پر الزامات کے خلاف دعاء مہلہ کریں تاکہ فریقین میں سے جو جھوٹا اور کاذب ہو، وہ

سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے اور دنیا اس مہبلہ کے نتیجے میں حق و باطل میں فیصلہ کر سکے۔  
کیا میں امید کروں کہ آنحضرت ﷺ کی مماثلت کا دعویٰ کر کے اہل اسلام کے  
دلوں کو مجروح کرنے والا اور تمام انبیاء کی پیش گوئیوں کا مصداق ہونے کا دعوے دار اس  
دعوت مہبلہ کو قبول کر کے اپنی صداقت کا ثبوت دے گا۔

ذیل میں یہ عاجز اس ہستی کا فتویٰ درج کرتا ہے جس کے قائم مقام ہونے کا  
خلافت مآب کو دعویٰ ہے اور جس کو آپ بعد آنحضرت ﷺ حقیقی نبی تسلیم کرتے ہیں تاکہ  
خلیفہ صاحب یہ کہنے کی جرأت نہ کر سکیں کہ ایسا مہبلہ جائز نہیں۔

مہبلہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر دوسرے کو  
مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔ (اخبار الحکم)

خاکسار خلیفہ قادیان کا ایک سابق مرید محمد زاہد اخبار مہبلہ قادیان

## شہادت نمبر 2

چونکہ شریعت نے عورتوں کو پردے کی اجازت دی ہے، اس لیے اس نام کو بے  
پردہ نہیں کیا گیا۔ اس کی فی الحال ضرورت تو نہ تھی لیکن اس خوف سے کہ خلیفہ صاحب کو ٹال  
مٹول کا موقع نہ ملے کہ عورتوں کی گواہی کسی کی بھی نہیں۔ اس لیے مہبلہ نامی اخبار قادیان میں  
جو بیان شائع ہوا ہے وہ ایک احمدی قادیانی خاتون کا ہے۔ وہ پیش خدمت ہے:

### ایک احمدی خاتون کا بیان

میں میاں صاحب کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اور لوگوں میں، میں ظاہر  
کر دینا چاہتی ہوں کہ وہ کیسی روحانیت رکھتے ہیں۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں سے سنا کرتی تھی کہ  
وہ بڑے زانی شخص ہیں مگر اعتبار نہیں آتا تھا کیونکہ ان کی مومنانہ صورت اور نیچی شرمیلی آنکھیں  
ہرگز یہ اجازت نہ دیتی تھیں کہ ان پر ایسا الزام لگایا جاسکے۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے والد صاحب نے، جو ہر کام کے لیے حضور سے  
اجازت حاصل کیا کرتے تھے اور بہت مخلص احمدی ہیں، ایک رقعہ حضرت صاحب کو پہنچانے  
کے لیے دیا، جس میں اپنے ایک کام کے لیے اجازت مانگی تھی۔ خیر میں رقعہ لے کر گئی۔ اس  
وقت میاں صاحب نئے مکان (قصر خلافت) میں مقیم تھے۔ میں نے اپنے ہمراہ ایک لڑکی لی،

جو وہاں تک میرے ساتھ گئی اور ساتھ ہی واپس آ گئی۔ چند دن بعد مجھے پھر ایک رقعہ لے کر جانا پڑا۔ اس وقت بھی وہی لڑکی میرے ہمراہ تھی۔ جونہی ہم دونوں میاں صاحب کی نشست گاہ میں پہنچیں تو اس لڑکی کو کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے رقعہ پیش کیا اور جواب کے لیے عرض کیا مگر انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو جواب دے دوں گا، گھبراؤ مت! باہر ایک دو آدمی میرا انتظار کر رہے ہیں، ان سے مل آؤں۔ مجھے یہ کہہ کر اس کمرے کے باہر کی طرف چلے گئے اور چند منٹ بعد پیچھے کے تمام کمروں کو قفل لگا کر اندر داخل ہوئے اور اس کا بھی باہر والا دروازہ بند کر دیا اور چٹخیاں لگا دیں۔ جس کمرے میں، میں تھی وہ اندر کا چوتھا کمرہ تھا۔ میں یہ حالت دیکھ کر سخت گھبرائی اور طرح طرح کے خیال دل میں آنے لگے۔ آخر میاں صاحب نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور مجھ سے برا فعل کروانے کو کہا۔ میں نے انکار کیا۔ آخر زبردستی انہوں نے مجھے پلنگ پر گرا کر میری عزت برباد کر دی اور ان کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ مجھ کو چکرا گیا اور وہ گفتگو بھی ایسی کرتے تھے کہ بازاری آدمی بھی نہیں کرتے۔ ممکن ہے جسے لوگ شراب کہتے ہیں، انہوں نے پی ہو، کیونکہ ان کے ہوش و حواس بھی درست نہیں تھے۔ مجھ کو دھمکایا کہ اگر کسی سے ذکر کیا تو تمہاری بدنامی ہوگی۔ مجھ پر کوئی شک بھی نہ کرے گا۔“ (از حضرت مرزا غلام احمد و صحیح موعود کی تحریر میں مرزا محمود احمد کی تصویر)

### شہادت نمبر 3

خاکسار پرانا قادیانی ہے اور قادیان کا ہر فرد بشر مجھے خوب جانتا ہے۔ ہجرت کا شوق مجھے بھی دامن گیر ہوا اور میں قادیان ہجرت کر آیا۔ قادیان میں سکونت اختیار کی۔ خلیفہ قادیان کے محکمہ قضاء میں بھی کچھ عرصہ کام کیا۔ مگر دل میں آرزو آرزو زگار کی تھی اور اخلاص مجبور کرتا تھا کہ اپنا کاروبار شروع کر کے خدمت دین بجالاؤں۔ چنانچہ خاکسار نے احمدیہ دوا گھر کے نام سے ایک دواخانہ کھولا، جس کے اشتہارات عموماً اخبار الفضل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ قادیان کی رہائش میری عقیدت کو زائل کرنے کا باعث ہوئی ورنہ اگر میں قادیانی بھائیوں کی طرح دور دور ہی رہتا تو آج مجھے اس تجارتی کمیٹی کے ایکٹروں کے سربستہ رازوں کا انکشاف نہ ہوتا یا اگر میں خاص قادیان میں اپنا مکان بنا لیتا یا خلیفہ قادیان کا ملازم ہو جاتا تو بھی مجھے آج اس اعلان کی جرأت نہ ہوتی۔.....



(خاکسار شیخ مشتاق احمد، احمدیہ دوا گھر قادیان)

### شہادت نمبر 4

میں خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اسی کی قسم کھا کر جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، یہ شہادت دیتا ہوں کہ میں اس ایمان اور یقین پر ہوں کہ موجودہ خلیفہ مرزا محمود احمد دنیا دار، بدچلن اور عیش پرست انسان ہے۔ میں ان کی بدچلنی کے متعلق خانہ خدا خواہ وہ مسجد ہو یا بیت اللہ شریف یا کوئی اور مقدس مقام ہو، میں حلف موکد بعد اب اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اگر خلیفہ صاحب مہبلہ کے لیے نکلیں تو میں مہبلہ کے لیے حاضر ہوں۔ یہ الفاظ میں نے دلی ارادہ سے لکھ دیئے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے ان کی حقیقت کا انکشاف ہو سکے۔ والسلام!

(خاکسار ڈاکٹر محمد عبداللہ، آنکھوں کا ہسپتال قادیان حال لالکپور)

### شہادت نمبر 5 (حلفیہ شہادت)

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کی قسم کھا کر یہ تحریر کرتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ مرزا محمود احمد دنیا دار، عیش پرست اور بدچلن انسان ہے۔ میں ہر وقت اس سے مہبلہ کے لیے تیار ہوں۔ (مستری اللہ بخش احمدی، قادیان)

### شہادت نمبر 6

بیگم صاحبہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب مرحوم ہم زلف خلیفہ ربوہ فرماتی ہیں:

”مرزا محمود احمد خلیفہ ربوہ بدچلن، زنا کار انسان ہیں۔ میں نے ان کو خود زنا کرتے دیکھا اور میں اپنے دونوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر موکد بعد اب حلف اٹھاتی ہوں۔“

### بے خوف مجاہد

خان عبدالرب خان صاحب برہم صدر انجمن کے دفتر بیت المال میں کام کرتے اور سر محمد ظفر اللہ کی کوشی کے ایک حصہ میں رہائش پذیر تھے۔ آپ نے مرزا محمود کی ہمیشہ کا دودھ بھی پیا ہوا ہے۔ اس سے آپ گہرے مراسم کا اندازہ لگائیے۔ باوجود اس قدر گہرے تعلقات کے جب حق کی بات کا قصہ آیا، حق کو مقدم کر کے خدا کو خوش کر لیا۔

امر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مخلص قادیانی دوست کو مرزا محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان کی آلودہ زندگی کے مخفی در مخفی حقائق سنائے۔ اس پر مخلص احمدی دوست نے مرزا محمود احمد صاحب کو لکھ بھیجا کہ خان صاحب موصوف نے آپ کی بدچلنی کے واقعات سنا کر مجھے جو حیرت کر دیا ہے اور دلائل اس نے ایسے دیئے ہیں جو میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس شکایت کے چند گھنٹے بعد مرزا بشیر احمد ایم۔ اے المعروف ”قمر الانبیاء“ نے خان صاحب موصوف کو بلا کر سمجھایا کہ اگر حضور کچھ باتیں دریافت کریں تو اس سے لاعلمی کا اظہار کر دینا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ مرزا بشیر احمد صاحب کے دل میں خیال آیا، اب بس کام بن گیا۔ ان کے ایک آدھ گھنٹہ بعد برہم صاحب کو قصر خلافت میں مرزا محمود احمد صاحب نے بلایا۔ جب آپ وہاں گئے تو وہ مخلص احمدی دوست بھی موجود تھا اور خان صاحب موصوف کے والد محترم بھی وہیں تھے اور دو تین تنخواہ دار ایجنٹ بھی تھے اور سب کو اکٹھے کرنے کا مطلب یہ تھا تا کہ رعب ڈال کر حق کو بدلا جاسکے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ صاحب نے جب خان صاحب موصوف سے دریافت کیا تو اس نے خوف مجاہد نے کہا: جو کچھ میں نے آپ کی بدچلنی کے متعلق ان صاحب سے کہا، وہ حرف بے حرف درست ہے۔ آخر جب کام نہ بنا تو کھڑے ہو کر خلیفہ صاحب نے احسان گننے شروع کر دیئے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم نے میری ہمشیرہ کا دودھ بھی پیا ہوا۔ خان صاحب موصوف نے کہا یہ درست ہے لیکن یہ حق کا معاملہ ہے۔ دنیا داری کے مقابلہ میں حق مقدم ہے اور اس حق کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود کو مانا ہے۔ اس لیے آپ نے قصر خلافت سے آ کر از خود بیعت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے ایک کتاب بلائے دمشق بھی لکھی ہے جس میں حضرت مسیح موعود کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ خلیفہ قادیان غیر صالح ہے۔ اس کا اشتہار اس کتاب کے صفحہ 80 پر ملاحظہ کریں۔ خان صاحب کا حلیہ بیان درج ذیل ہے:

### شہادت نمبر 7 (حلیہ شہادت)

میں شرعی طور پر پورا پورا اطمینان حاصل کرنے کے بعد خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب یعنی مرزا محمود احمد کا چال چلن نہایت خراب ہے۔ اگر وہ مہلہ کے لیے آمادگی کا اظہار کریں تو میں خدا کے فضل سے ان کے مد مقابل مہلہ کے لیے

ہر وقت تیار ہوں۔ (عبدالرب خاں برہم)

### شہادت نمبر 8 (حلیفہ شہادت)

میری قادیانی جماعت سے علیحدگی کی وجوہات منجملہ دیگر دلائل و براہین کے ایک وجہ اعظم جناب خلیفہ صاحب کی سیاہ کاریاں اور بدکاریاں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خلیفہ صاحب مقدس اور پاکیزہ انسان نہیں بلکہ نہایت ہی سیاہ کار اور بدکار ہیں۔ اگر خلیفہ صاحب اس امر کے تصفیہ کے لیے مبالغہ کرنا چاہیں تو میں بطیب خاطر میدان مبالغہ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ فقط (خاکسار عتیق الرحمان فاروق، سابق مبلغ جماعت احمدیہ (قادیان)

### شہادت نمبر 9 (حلیفہ شہادت)

میں خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس کی قسم کھا کر جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، مندرجہ ذیل شہادت لکھتا ہوں۔ بیان کیا مجھے میری والدہ نے کہ میں حضرت خلیفہ مرزا محمود احمد صاحب کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب جوان نامحرم لڑکیوں پر عمل مسمریزم کر کے انہیں سلا دیا کرتے تھے۔ پھر آپ ان کو کئی جگہ سے ہاتھ سے کاٹتے۔ تب بھی انہیں ہوش نہ ہوتی تھی۔

(2) ایک دفعہ حضرت صاحب کے گھر میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اوپر سے حضرت صاحب انہیں سیڑھیوں پر اترتے آرہے تھے۔ جب میرے مقابل پہنچے تو انہوں نے میری چھاتی پکڑ لی۔ میں نے زور سے چھڑائی۔ (خاکسار علی حسین)

### شہادت نمبر 10

جناب ملک عزیز الرحمن صاحب جنرل سیکرٹری احمدیہ حقیقت پسند پارٹی لاہور قادیانی جماعت کے مشہور و معروف سرگرم مبلغ ملک عبدالرحمن صاحب خادم گجراتی مصنف احمدیہ پاکٹ بک کے حقیقی برادر ہیں۔ آپ وقف زندگی ہو کر ربوہ میں عرصہ تک قیام پذیر رہے اور دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں بطور سپرنٹنڈنٹ کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور آپ فارن مشن اکاؤنٹس کے انچارج بھی تھے۔ ان کی شہادت پیش خدمت ہے:

### حلیفہ شہادت

میں اس قہار خدا کی قسم کھا کر جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے یہ بیان کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض واقف زندگی ربوہ (حال راولپنڈی) نے میرے سامنے میرے مکان واقعہ لاہور پر کئی ایک ایسے واقعات بیان کیے جن سے خلیفہ صاحب ربوہ کے اول درجہ بدکار ہونے کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اس نے میرے اور چند دوستوں کے سامنے بالوضاحت یہ بیان دیا کہ خلیفہ صاحب ربوہ معہ اپنی بیویوں کے باقاعدہ پروگرام کے تحت بدکاری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید فرمایا کہ میں نے اس تمام بدکاری کو چشم خود دیکھا۔ اگر ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض اس بیان مذکورہ بالا سے انحراف کریں تو میں ان سے حلف موکد بعداب کا مطالبہ کروں گا۔ مزید برآں مجھے چونکہ خلیفہ صاحب کے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں بطور سپرنٹنڈنٹ کام کرنے اور خلیفہ صاحب کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں بھی خلیفہ صاحب سے اس ضمن میں اور ان کے جھوٹے دعویٰ مصلح موعود کے بارہ میں مباہلہ کرنے کو ہر وقت تیار ہوں۔ فقط

(ملک عزیز الرحمن جنرل سیکرٹری احمدیہ حقیقت پسند پارٹی لاہور)

## شہادت نمبر 11 (حلفیہ شہادت)

اگرچہ میں نے خلیفہ صاحب..... کا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان تحریروں میں کسی نقص کا جواز نکال لیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ کہیں میری زنا کاری کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس لیے مباہلہ نہیں کر سکتا۔ وقت کی بچت کی خاطر محمد یوسف صاحب ناز کا بیان ہدیہ ناظرین ہے۔

## محمد یوسف ناز کا حلفیہ بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمداً عبده ورسوله۔  
میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ خدا کے نبی اور خاتم النبیین اور اسلام سچا مذہب ہے۔ میں احمدیت کو برحق سمجھتا ہوں اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعویٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور مسیح موعود ماننا ہوں اور اس کے بعد میں موکد بعداب حلف اٹھاتا ہوں۔ میں اپنے علم مشاہدہ اور روایت عینی اور آنکھوں دیکھی بات کی بنا پر خدا کو حاضر و

ناظر جان کر اس پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ربوہ نے خود اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا۔ اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ اس بات پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ بالمقابل حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔

(دستخط محمد یوسف ناز معرفت عبدالقادر تیرتھ سنگھ جے ملوائی روڈ عقب شالیمار ہوٹل کراچی، از حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود کی تحریر میں مرزا محمود احمد کی تصویر)

## شہادت نمبر 12

خلیفہ صاحب کے رفیق کار جن کو 1924ء میں انگلستان ہمراہ لے گئے تھے یعنی فاضل اجل حضرت شیخ عبدالرحمن صاحب مصری مولوی فاضل بی۔ اے کا مکمل بیان آگے لے گا۔ آپ کی خلیفہ صاحب سے بیعت کی علیحدگی کے اسباب کا بیان درج ہے:

”موجودہ خلیفہ سخت بد چلن ہے۔ یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔“ (دور حاضر کا مذہبی آمر)

جناب عبدالحمید صاحب اکبر احمدی مخلص نوجوان ہیں۔ قادیان کی مقدس سرزمین میں آپ پیدا ہوئے اور مختلف طریق سے جماعت کی خدمت میں منہمک رہے۔ اس خدمت کی وجہ سے آپ اس قدر مقبول ہو گئے۔ آپ کو سیکرٹری خدام الاحمدیہ حلقہ مسجد اقصیٰ منتخب کر لیا گیا۔ آپ ہر کس و ناکس سے متانت اور سنجیدگی سے پیش آتے تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے مزید مقبولیت حاصل ہو گئی اور ممبر مجلس عاملہ خدام الاحمدیہ لاہور کی رکنیت بھی خدمت کے اصول کے پیش نظر اعزازی طور پر قبول فرمائی۔ ان کا حلیہ بیان پیش خدمت ہے:

## شہادت نمبر 13 (حلیہ شہادت)

قسم ہے مجھ کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی، قسم ہے مجھ کو قرآن پاک کی سچائی کی، قسم ہے مجھ کو حبیب کبریا کی معصومیت کی کہ میں اپنے قطعی علم کی بنا پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ ربوہ کو ایک ناپاک انسان سمجھنے میں حق الیقین پر قائم ہوں۔ نیز مجھے اس بات پر بھی

شرح صدر حاصل ہے کہ آپ جیسے شعلہ بیان یعنی (سلطان البیان) مقرر سے قوت بیان کا چمن جانا اور دیگر بہت سے امراض کا شکار ہونا مثلاً نسیان، فالج وغیرہ یقیناً خدائی عذاب ہیں، جو کہ خدائے عزیز کی طرف سے اس کی قدیم سنت کے مطابق مفتریان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔

علاوہ دیگر واسطوں کے آپ کے مخلص ترین مریدوں کی زبانی وقتاً فوقتاً آپ کے گھناؤنے کردار کے بارہ میں عجیب و غریب انکشافات اس عاجز پر ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک مخلص مرید جناب محمد صدیق صاحب ٹنٹس نے بارہا میرے سامنے جناب خلیفہ صاحب کے چال چلن اور غیر شرعی افعال کے مرتکب ہونے کے بارہ میں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ صاحب کے پرائیویٹ خط پیش کیے۔

اس جگہ میں احتیاطاً یہ لکھ دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگر محترم صدیق صاحب کو میرے بیان بالا کی صحت کے بارہ میں کوئی اعتراض ہو تو میں ہر دم ان کے ساتھ اپنے اس بیان کی صداقت پر مبالغہ کے لیے تیار ہوں۔

(احقر العباد عبد المجید اکبر، مکان نمبر 5، بلاک ڈی ٹمپل روڈ لاہور)

### شہادت نمبر 14 (حلیہ شہادت)

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو جبار و قہار ہے، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتی اور مردود کا کام ہے، حسب ذیل شہادت دیتا ہوں۔

میں 1932ء سے لے کر 1936ء تک مرزا گل محمد صاحب رئیس قادیان کے گھر میں رہا۔ اس دوران میں کئی مرتبہ ایک عورت مسماۃ عزیز بیگم صاحبہ کے خطوط خفیہ طریقہ سے ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کہ ان خطوں کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، خلیفہ محمود کے پاس لے جاتا رہا۔ خلیفہ مذکور بھی اس طریقہ سے اور ہدایت بالا کو دہراتے ہوئے جواب دیتا رہا۔ خطوط انگریزی میں تھے۔

اس کے علاوہ اس عورت کو رات کے دس بجے بیرونی راستہ سے لے جاتا رہا، جب کہ اس کا خاوند کہیں باہر ہوتا۔ عورت غیر معمولی بناؤ سنگھار کر کے خلیفہ کے دفتر میں آتی تھی۔ میں بموجب ہدایت اسے گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد لے آتا تھا۔

ان واقعات کے علاوہ بعض اور واقعات سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلیفہ صاحب کا چال چلن خراب ہے اور میں ہر وقت ان سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔

(حافظ عبدالسلام، پسر حافظ سلطان حامد خان صاحب استاد میاں ناصر احمد)

### شہادت نمبر 15 (حلیفہ شہادت)

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اور اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھ سے حضرت صاحب (یعنی مرزا محمود احمد) کو صادقہ کے ساتھ زنا کرتے دیکھا۔ اگر میں جھوٹ لکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو۔ (غلام حسین احمدی)

### شہادت نمبر 16 (حلیفہ شہادت)

مجھے دلی یقین ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان نہایت بدچلن لوز کریکٹر انسان ہے۔ بے شمار یعنی شہادتیں جو مجھ تک پہنچ چکی ہیں جن کی بنا پر میں یہ جاننے کے لیے تیار ہوں کہ واقعی خلیفہ صاحب قادیان زانی اور اغلام باز (فاعل و مفعول) بھی ہیں۔ اس دلی یقین کا ثبوت میں یہاں تک دے سکتا ہوں اگر خلیفہ صاحب قادیان اپنے کریکٹر چال چلن کی صفائی کے لیے مبالغہ کرنے کو تیار ہوں تو ہر طرح اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ (مرزا منیر احمد نصیر)

### شہادت نمبر 17 (حلیفہ شہادت)

میں خداوند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو پچشم خود زنا کرتے دیکھا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہوں۔ (شیخ بشیر احمد مصری)

### مرزا محمود کی اپنی گواہی

حکیم عبدالعزیز صاحب (سابق پریزیڈنٹ انجمن انصار احمدیہ قادیان پنجاب) نے خلیفہ صاحب کی بدچلنی کے پیش نظر مسجد اقصیٰ میں جب خلیفہ صاحب مجمع عام کے سامنے تقریر کر رہے تھے، علی الاعلان لکھ کر دیا کہ آپ زنا کار اور بدچلن ہیں۔ اس لیے میں آپ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ پر بھی 1937ء پر حملہ کروایا گیا۔ پندرہ بیس دن ہسپتال میں رہے اور خلیفہ صاحب کو لٹکارتے رہے۔ آپ نے مرزا محمود احمد صاحب کو ایک خط لکھا، جس میں آپ نے تحریر کیا کہ ”سنا ہے کہ آپ نے چار گواہوں کا ذکر لوگوں سے کیا ہے اگرچہ ہم سے تو نہیں کیا۔“

اگر یہ بات درست ہے تو پھر آپ اسی کے لیے تیاری فرمائیں۔ ہم صرف چار ہی نہیں بلکہ بہت سی شہادتیں علاوہ عورتوں، لڑکیوں اور لڑکوں کی شہادت کے خود جناب والا کی اپنی شہادت بھی پیش کریں گے۔ اگر ہم ثبوت نہ دے سکے تو آپ کی بریت ہو جائے گی اور ہم ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے کے علاوہ ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حکیم صاحب موصوف کا حلفیہ بیان درج ذیل ہے:

### شہادت نمبر 18 (حلفیہ شہادت)

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کی قسم کھا کر جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، یہ تحریر کرتا ہوں کہ میں مرزا محمود احمد صاحب کی بیعت سے اس لیے علیحدہ ہوا تھا کہ میرے پاس ان کے خلاف احمدی لڑکوں، لڑکیوں اور عورتوں کے صحیح واقعات پہنچے تھے، جن کے ساتھ مرزا محمود احمد نے بدکاری کی تھی۔ اسی بنا پر میں نے مرزا محمود احمد صاحب کو لکھا تھا کہ آپ کے خلاف احمدی لڑکے، لڑکیاں اور عورتیں اپنے واقعات بیان کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں آپ یا جماعتی کمیشن کے سامنے معاملہ پیش ہونے دیں، یا میدان مباحلہ کے لیے تیار ہوں یا حلف موکد بعد اب اٹھائیں یا ہمیں عمود دین کہ ہم تمام واقعات پیش کر کے جلسہ سالانہ کے موقع پر تمام احمدیوں کی موجودگی میں آپ کے سامنے حلف موکد بعد اب اٹھائیں گے تاکہ روز بروز کا جھگڑا ختم ہو کر حق کا بول بالا ہو لیکن مرزا محمود احمد صاحب کو کسی طریق پر بھی عمل پیرا ہونے کی جرأت نہیں ہوئی۔ سوائے کفار والا حربہ بائیکاٹ مقاطع استعمال کرنے کے۔

37ء سے لے کر آج تک میں اسی عقیدہ پر علی وجہ البصیرت قائم ہوں کہ میاں محمود احمد ایک زانی اور بدچلن انسان ہے، جس کو خدا، رسول اور اس کے خادم حضرت مسیح موعود سے کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں۔ اگر میں اپنے اسی عقیدہ میں باطل پر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو۔ (حکیم عبدالعزیز سابق پریزیڈنٹ انجمن انصار احمدیہ قادیان)

### شہادت نمبر 19 (حلفیہ شہادت)

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر جس کی جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، یہ تحریر کرتا ہوں کہ میں نے حضرت مرزا محمود احمد صاحب قادیان کو اپنی آنکھ سے زنا کرتے دیکھا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بھی بد فعلی کی ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی



لعت ہو۔ میں بچپن سے وہیں رہتا ہوں۔ (منیر احمد)

### شہادت نمبر 20 (حلفیہ شہادت)

مصری عبدالرحمن صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیر احمد نے میرے ساتھ ہاتھ میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہے، خدا تعالیٰ مجھے پارہ پارہ کر دے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب نے میرے ساتھ بد فعلی کی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر یہ واقعہ لکھ رہا ہوں۔ (بقلم خود محمد عبداللہ احمدی، سینٹ فرنیچر ہاؤس مسلم ٹاؤن لاہور)

### شہادت نمبر 21 (حلفیہ شہادت)

مرزا گل محمد صاحب مرحوم (آپ قادیان کے رئیس اعظم تھے اور وہاں بڑی جائداد کے مالک تھے) اور مرزا غلام احمد صاحب کے خاندان کے رکن تھے، ان کی دوسری بیوہ (چھوٹی بیگم) نے مجھے بیان کیا کہ خلیفہ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی صاحبزادی اور بعض دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے خلیفہ صاحب سے ایک دفعہ عرض کی، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟

آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس کو عوام میں پھیلانے کی ممانعت ہے۔ (نعوذ باللہ من ذالک)!!!

میں خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ بیان تحریر کر رہی ہوں۔ شاید میری مسلمان بہنیں اور بھائی اس سے کوئی سبق حاصل کریں۔ فقط

(سیدہ ام صالحہ بنت سید ابرار حسین، سمن آباد لاہور)

### شہادت نمبر 22 (حلفیہ شہادت)

چودھری علی محمد صاحب واقف زندگی اپنے خاندان میں صرف اکیلے ہی احمدی ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے احمدیت جیسی نعمت کو پالیا۔ آپ ملٹری میں حوالدار تھے اور حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی کتب کے مطالعہ کے بعد آپ نے احمدیت قبول کی۔ اللہ بخش صاحب تسنیم کے برادر میر محمد بخش، ایڈووکیٹ امیر جماعت احمدیہ گوجرانوالہ کے ذریعہ 30 مارچ 1945ء کو جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے اور کچھ دن بعد اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا۔ مئی 1945ء میں قادیان سے بلاوا آیا تو آپ بلا حیل و حجت پورے

اخلاص و عقیدت مندی کے ساتھ قادیان تشریف لے گئے اور خدمت کی ابتدا دفتر وکیل  
الصنعت تحریک جدید سے کی اور پھر مختلف شعبہ جات میں متعین کیے گئے مثلاً

سندھ جنگ فیکٹری کنڑی میں بطور اکاؤنٹ مقرر کیا گیا۔ پھر اس دوران میں  
نمائندہ خصوصی بنا کر دی ایشیو افریقین لمیٹڈ کراچی سینٹرل آڈٹ کرنے کی غرض سے بھیجا گیا اور  
منڈی گوجرہ میں تحریک جدید کے حصول کی نگرانی کے لیے نمائندہ خاص مقرر کیا گیا۔ لاہور میں  
انڈسٹریل کمرشل ڈویلپمنٹ کمپنی کے دفتر میں اکاؤنٹ مقرر کیا گیا۔ تجارت اور صنعت کے  
دفتر میں ہیڈ اکاؤنٹ مقرر کیا گیا اور دی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سیکرٹری مرزا محمود احمد کی ذاتی  
منظوری سے کیا گیا جس کا چیئرمین مرزا مبارک احمد ہے۔ بدستور سالہا سال سندھ کی زمینوں  
..... سلسلہ کے تجارتی کارخانوں اور فضل عمر انسٹیٹیوٹ کا حساب آڈٹ کرتے رہے۔  
بسا اوقات قیام ربوہ میں اکثر مالی خیانتوں کے قصوں پر آپ کو بطور کمیشن مقرر کیا جاتا اور بعض  
دفعہ دار القضا بھی فیصلوں کے لیے آپ کو ہی بطور کمیشن مقرر کرتے۔ آپ بطور محاسب خدام  
الاحمدیہ مرکزی میں بھی کام کرتے رہے اور خلیفہ صاحب چودھری صاحب موصوف سے خاص  
ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حافظ عبدالسلام وکیل اعلیٰ نے جب کسی بات پر چودھری صاحب کی  
شکایت خلیفہ صاحب سے کی، خلیفہ صاحب نے بالوضاحت جواب میں کہا جو درج ذیل ہے:

”میرے نزدیک تو یہ محنت اور دیانت داری سے کام کرتے ہیں۔“

الغرض چودھری صاحب موصوف نے مختلف شعبہ جات میں اکاؤنٹ اور بطور  
نائب آڈیٹر کے کام کیے، ان کے علم اور یقین کے پیش نظر ان کو تمام مخفی راز از بر بھی یاد ہیں کہ  
روپیہ پیسے کیسے اور کنس طریق سے ہضم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک کتاب میں حساب بنا کر  
پیش کیا ہے اور چیکنج بھی دیا ہے کہ یہاں مالی بد عنوانیوں، خیانتوں اور دھاندلیوں کے ریکارڈ کی  
رُو سے میں عینی شاہد ہوں۔

بہر حال چودھری صاحب موصوف کی خدمت جلیلہ قابل قدر ہیں۔ ضرورت پڑنے  
پر وقت کے تقاضوں کو ضرور پورا کریں گے۔ قیام ربوہ میں ان سے جو حالات پیش آئے، اس  
کے ذرائع سے ان کا حلیہ بیان پیش خدمت ہے:

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس پاک ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم  
کھانا لعینوں کا کام ہے کہ صوفی روشن دین صاحب جو ربوہ میں انجمن کی چکی پر عرصہ تک بطور

مستری کام کرتے رہے اور وہ قادیان کے پرانے رہنے والوں میں سے ہیں اور مخلص احمدی ہیں اور جن کے مرزا محمود احمد صاحب اور ان کے خاندان کے بعض افراد سے قریبی تعلقات تھے اور خصوصاً مرزا حنیف احمد ابن مرزا محمود احمد کے صوفی صاحب موصوف کے ساتھ نہایت عقیدت مندانہ مراسم تھے اور قلبی عقیدت کی بنا پر مرزا حنیف احمد گھنٹوں صوفی صاحب کے پاس روزانہ ان کے گھر جا کر بیٹھتے اور بسا اوقات صوفی صاحب کو قصر خلافت میں اپنے ایک کمرہ خاص میں بھی لے جا کر ان کی خاطر مدارات کرتے۔ انہوں نے مجھ سے بارہا بیان کیا کہ مرزا حنیف احمد خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس کو تم لوگ خلیفہ اور مصلح الموعود سمجھتے ہو، وہ زنا کرتا ہے اور یہ کہ مرزا حنیف نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو ایسا کرتے دیکھا۔ صوفی صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کئی دفعہ حنیف احمد سے کہا کہ تم ایسا سنگین الزام لگانے سے قبل اچھی طرح اپنی یادداشت پر زور ڈالو۔ کہیں ایسا تو نہیں جس کو تم کوئی غیر سمجھے ہو، وہ دراصل تمہاری کوئی والدہ ہی تھیں۔ مبادا خدا کے قہر و غضب کے نیچے آ جاؤ تو اس پر مرزا حنیف احمد اپنی رویت عینی پر حلفاً مُصر رہے کہ ان کا والد پاک سیرت نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے والد کی کبھی کوئی کرامت مشاہدہ نہیں کی۔ البتہ یہ تڑپ شدت کے ساتھ پائی ہے کہ کسی طرح انہیں جلد از جلد دنیاوی غلبہ حاصل ہو جائے۔

اگر میں اس بیان میں جھوٹا ہوں اور افراد جماعت کو اس سے محض دھوکا دینا مقصود ہے تو خدا تعالیٰ مجھ پر اور میری بیوی بچوں پر ایسا عبرتناک عذاب نازل فرمائے جو مخلص اور ہر دیدہ بینا کے لیے از یاد ایمان کا موجب ہو۔

ہاں اس نام نہاد خلیفہ کی مالی بد عنوانیوں، خیانتوں اور دھاندلیوں کے ریکارڈ کی رُو سے میں یقینی شاہد ہوں، کیونکہ خاکسار نے ساڑھے نو سال تحریک جدید اور انجمن احمدیہ کے مختلف شعبوں میں اکاؤنٹ اور نائب آڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے۔

(خاکسار، چودھری علی محمد عفی عنہ، واقف زندگی حال نمائندہ خصوصی کوہستان، لائل پور)

### شہادت نمبر 23 (حلیفہ شہادت)

جناب مولوی محمد صالح نور واقف زندگی سابق کارکن وکالت، تحریک جدید ربوہ مولانا محمد یامین صاحب تاجر کتب کے چشم و چراغ ہیں۔ صحابی ہونے کے علاوہ سلسلہ احمدیہ کا

بے شمار لٹریچر شائع کرتے ہیں۔ آپ قادیان کی مقدس سرزمین میں 1929ء میں پیدا ہوئے اور مولوی فاضل تک تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں مختلف شعبہ جات میں آپ نہایت خوش اسلوبی سے خدمت سرانجام دیتے رہے مثلاً:

- (1) قادیان میں مسجد خدام الاحمدیہ کے جنرل سیکرٹری کے عہدہ پر فائز رہے۔
- (2) زعیم مجلس خدام الاحمدیہ دارالصدر ربوہ۔
- (3) نائب منتظم تبلیغ مرکز خدام الاحمدیہ ربوہ۔
- (4) سندھ ویجی ٹیبل اور پروڈکٹس کے ہیڈ آفس میں کام کیا۔
- (5) رسالہ ریویو آف ریپبلیکن اور سن رائز اخبار کے منیجر بھی رہے۔
- (6) محتسب امور عامہ کا معتمد خاص ربوہ بھی رہے۔ ان شعبہ جات کے علاوہ بھی جماعتی طور پر جس خدمت پر بھی مامور کیا گیا، آپ نے دیانت اور تقویٰ کی راہ پر چل کر صحیح معنوں میں خدمت کی۔ آپ میاں عبدالرحیم احمد جو خلیفہ صاحب کے داماد ہیں، ان کے پرسنل اسٹنٹ وکیل التعلیم تحریک جدید ربوہ بھی تھے۔ آپ جس جانفشانی، اخلاص اور محنت سے کام کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کے ذمہ مزید کام سپرد کیے جاتے تھے۔ آٹھ دس شعبہ جات کی کارکردگی آپ کی مقبولیت کی شاہد ہے اور گہرے تعلقات کا اندازہ بھی اس سے لگایا جاسکتا ہے۔ آپ کا حلیہ بیان ہدیہ ناظرین ہے:

### حلیہ شہادت

میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر مندرجہ ذیل سطور محض اس لیے سپرد قلم کر رہا ہوں کہ جو لوگ اب بھی مرزا محمود احمد صاحب خلیفہ ربوہ کے تقدس کے قائل ہیں، ان کے لیے راہنمائی کا باعث ہو۔ اگر میں درج ذیل بیان میں جھوٹا ہوں تو خدا تعالیٰ کا عذاب مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر نازل ہو۔

میں پیدائشی احمدی ہوں اور 57ء تک میں مرزا محمود احمد صاحب کی خلافت سے وابستہ رہا۔ خلیفہ صاحب نے مجھے ایک خود ساختہ فتنہ کے سلسلہ میں جماعت ربوہ سے خارج کر دیا۔ ربوہ کے ماحول سے باہر آ کر خلیفہ صاحب کے کردار کے متعلق بہت ہی گھناؤنے

حالات سننے میں آئے۔ اس پر میں نے خلیفہ صاحب کی صاحبزادی امۃ الرشید بیگم، بیگم میاں عبدالرحیم احمد سے ملاقات کی۔ انہوں نے خلیفہ صاحب کے بدچلن اور بدقماش اور بدکردار ہونے کی تصدیق کی۔ باتیں تو بہت ہوئیں لیکن خاص بات قابل ذکر یہ تھی کہ جب میں نے امۃ الرشید بیگم سے کہا کہ آپ کے خاوند کو ان حالات کا علم ہے تو انہوں نے کہا کہ صالح نور صاحب آپ کو کیا بتلاؤں کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ اگر وہ تمام واقعات میں اپنے خاوند کو بتلا دوں تو وہ مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر میں بسانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ اس واقعہ پر امۃ الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ لرزہ خیز بات سن کر میں بھی ضبط نہ کر سکا اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت میں ان واقعات کی بنا پر جو میں ڈاکٹر نذیر احمد ریاض، محمد یوسف ناز، راجہ بشیر احمد رازی سے سن چکا ہوں، حق الیقین کی بنا پر خلیفہ صاحب کو ایک بدکردار اور بدچلن انسان سمجھتا ہوں اور اسی کی بنا پر وہ آج خدا کے عذاب میں گرفتار ہیں۔

(خاکسار محمد صالح نور، واقف زندگی سابق کارکن وکالت تعلیم تحریک جدید ربوہ)

## شہادت نمبر 24 (حلیہ شہادت)

حضرت ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض کی شہادت

### خلیفہ صاحب کا اصول

حضرت ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض، مولوی فاضل واقف زندگی خلیفہ ربوہ کے خاص ڈاکٹر تھے اور خلیفہ صاحب نے از خود سلسلہ کے خرچ سے حکمت اور ڈاکٹر کی تعلیم دلوائی۔ ڈاکٹر صاحب موصوف علاج مخصوصہ میں کافی سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور عرصہ دراز تک خلافت مآب کے چرنوں میں رہے۔ آپ نے حضرت مولوی شیر علی صاحب کی سوانح حیات مرتب کر کے شائع کی ہے جو تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ جمعہ البشرین میں پروفیسر بھی تھے۔ آپ اپنی خداداد دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے خلیفہ صاحب کی آلودہ زندگی سے ہی نہیں بلکہ اندرون خانہ کے ہر شعبہ سے پوری طرف واقف راز بھی ہیں۔ یعنی بہت سے پچشم خود راز دار خصوصی کے علاوہ آپ خلیفہ صاحب کے اصول کے متعلق فرماتے ہیں:

آپ کو یاد ہوگا جب تک ہم ربوہ میں رہے، ہماری آپس میں کچھ ایسی قلبی مجانست

رہی کہ باہم مل کر طبیعت بے حد خوش ہوتی تھی۔ کبھی شعر و شاعری کے سلسلہ میں، تو کبھی مخلص کے مصنوعی تقدس پر نکتہ چینی کرنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ دارا صل خلیفہ صاحب کا اصول ہے کہ

مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں

اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں

اور خود خوب رنگ زلیاں مناؤ۔ عیش و عشرت میں بسر کرو۔ ہم نے تو بھائی خلوص

دل سے وقف کیا تھا۔ خدا ہمیں ضرور اس کا اجر دے گا۔ انہیں یہ خلوص پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ

بہتر حکم و عدل سے خود فیصلہ کر دے گا کہ ٹھکرائے ہوئے ہیرے کتنے قیمتی اور کتنے عزیز تھے۔

شروع شروع میں میرے دل کی عجیب کیفیت تھی۔ ہر وقت دل مختلف افکار کی

آماج گاہ بنا رہتا تھا۔ ماں باپ کی یاد، عزیزوں کی جدائی کا احساس، دوستوں کے پھڑنے کا غم

اور حاسدوں کے تیروں کی چھین سبھی کچھ تھا لیکن

## ہر داغ تھا اس دل میں بجز داغِ ندامت

سب سے بڑا معلم انسان کی فطرت صحیحہ ہے جس کی روشنی میں انسان اپنے قدموں

کو استوار رکھتا ہے اور ہر افتاد پر ڈگمگانے سے بچاتا ہے۔ اگر یہ کلی طور پر مسخ ہو جائے تو پھر کسی

بے راہ روی کا احساس دل میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا کی راہوں

پر چلائے! آمین! آپ کا ریاض

اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر

## شہادت نمبر 25 (حلیفہ شہادت)

جناب غلام حسین صاحب احمدی فرماتے ہیں:

میں نے اپنی شہادت کے علاوہ حبیب احمد کا بھی ذکر کیا تھا۔ وہ مجھے قادیان میں مل

گئے۔ میں نے ان سے قسم دے کر دریافت کیا تو انہوں نے قسم کھا کر مجھے بتلایا کہ حضرت

صاحب (مرزا محمود) نے دو مرتبہ ان سے لواطت (یعنی لوٹھے بازی) کی ہے۔ ایک دفعہ قصر

خلافت میں اور دوسری دفعہ ڈلہوزی میں۔ میں نے اس سے تحریری شہادت مانگی تو پوری تفصیل

کے ساتھ نہیں لکھی بلکہ نامکمل لکھ کر دی۔ حبیب احمد صاحب اعجاز اس کی پوری پوری تصدیق

فرما رہے ہیں جو درج ذیل ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ عَلٰی عَبْدِہِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْدِ. نَحْمَدُہٗ  
وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلہِ الْکَرِیْمِ. بخدمت شریف جناب بھائی غلام حسین صاحب، السلام علیکم  
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد التماس ہے کہ میں نے آپ کو..... جو بات بتائی تھی، میں خدا کو  
حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کی لعنت ہو  
مجھ پر۔.....

میں علی وجہ البصیرت شاہد ناطق ہوں۔ (خاکسار حبیب احمد اعجاز)

## شہادت نمبر 26

راجہ بشیر احمد صاحب رازی (خلف)

مکرمی و محترمی راجہ علی محمد صاحب ریٹائرڈ افسر مال امیر جماعت احمدیہ گجرات کے  
چشم و چراغ ہیں۔ آپ نے خدمت دین کے لیے 1945ء میں اپنے آپ کو وقف کیا اور  
پورے اخلاص کے ساتھ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا اور خلیفہ ربوہ کے بلاوے پر آپ  
ربوہ تشریف لے آئے اور نائب آڈیٹر صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے کام پر مامور کیا گیا۔ آپ  
نے اس کام کو یا جو کام بھی آپ کے سپرد کیے جاتے، نہایت ہی استقلال اور محنت اور دیانت  
داری سے سرانجام دیتے رہے۔ آپ ربوہ کے کچے کوارٹروں میں رہائش پذیر تھے اور دوستوں  
کے علاوہ آپ کے مراسم جناب شیخ نورالحق صاحب احمدیہ سنڈیکیٹ سے ہوئے تو انہوں نے  
خلیفہ صاحب کی آلودہ زندگی کا ایسا بھیانک منظر پیش کیا، آپ ششدر رہ گئے۔ آپ کا ذہن  
اس آلودہ زندگی کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ ایسا مقدس انسان بدکار نہیں ہو سکتا۔ بالآخر رفتہ رفتہ آپ  
کے مراسم رازدار خصوصی ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض سے ہو گئے تو انہوں نے بھی اس ناپاک  
انسان کے عشرت کدہ کی رنگین مجالسوں کا ذکر فرمایا اور ان کی مزید پچھتگی کے لیے اس رنگین اور  
رنگین مجالس تک لے جانے کا وعدہ کر کے اس مجلس میں شامل کر لیا۔ رازی صاحب موصوف  
نے جب اس مجالس خاص میں عملاً رسائی حاصل کر لی اور اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تو  
آپ محو حیرت ہو گئے۔ بعد ازیں آپ نے علی الاعلان پوری دیانت داری سے اس نقشہ خصوصی  
کو جو علی وجہ البصیرت پورے اطمینان کے ساتھ دیکھ چکے تھے، اپنے دوستوں سے کھلم کھلا اظہار

کرتے رہے۔ رازی صاحب موصوف کا بجواب خط بیان درج ذیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں:  
 ارشاد گرامی پہنچا۔ خلیفہ صاحب سے عدم وابستگی کی اصل وجہ تو وہی ہے جو ہمارے  
 مکرم بھائی مرزا محمد حسین صاحب بی کام فرمایا کرتے ہیں کہ جو سفر ہم نے ماموریت سے  
 شروع کیا، اسے آمریت پر ختم کرنا ہمیں گوارا نہیں۔

مگر یہ اجمال شاید آپ کے لیے وجہ تسلی نہ بن سکے۔ لیجئے مختصراً ہماری روئیداد بھی  
 سن لیجئے۔ یہ اُن دنوں کی بات ہے جب ہم ربوہ کے کچے کوارٹروں میں خلیفہ صاحب ربوہ  
 کے کچے قصر خلافت کے سامنے رہائش پذیر تھے۔ قرب مکانی کے سبب شیخ نورالحق احمد "احمدیہ  
 سنڈیکیٹ" سے راہ رسم بڑھی تو انہوں نے خلیفہ صاحب کی زندگی کے ایسے مشاغل کا تذکرہ  
 کیا، جن کی روشنی میں ہمارا وقف کارِ احمقاں نظر آنے لگا۔ اتنے بڑے دعویٰ کے لیے شیخ  
 صاحب کی روایت کافی نہ تھی۔ خدا بھلا کرے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض کا جن کی ہم رکابی  
 میں مجھے خلیفہ صاحب کے ایک ذیلی عشرت کدہ میں چند ایسی ساعتیں گزارنے کا موقع ہاتھ آیا  
 جس کے بعد میرے لیے خلیفہ صاحب ربوہ کی پاک دامنی کی کوئی سی بھی تاویل و تعریف کافی  
 نہ تھی اور میں اب بفضل ایزدی علی وجہ البصیرت خلیفہ صاحب ربوہ کی بد اعمالیوں پر شاہد ناطق  
 ہو گیا ہوں۔ میں صاحب تجربہ ہوں کہ یہ سب بد اعمالیاں ایک سمجھی سوچی ہوئی سکیم کے تحت  
 وقوع پذیر ہوتی ہیں اور ان میں اتفاق یا بھول کا کوئی دخل نہیں۔ جن دنوں ہم تھے۔

## محاسب کا گھڑیال

ان رنگین مجالس کے لیے سٹینڈرڈ ٹائم (Standard Time) کی حیثیت رکھتا  
 تھا۔ اب نہ جانے کون سا طریقہ رائج ہے۔ میرے اس بیان کو اگر کوئی صاحب مذکور چیلنج  
 کرے تو میں حلف موکد بعد اب اٹھانے کو تیار ہوں۔ والسلام  
 (بشیر رازی بی کام، سابق نائب آڈیٹر صدر انجمن احمدیہ، ربوہ)

## شہادت نمبر 27

چوہدری صلاح الدین صاحب بنگالی (خلف)

خاں بہادر ابوالہاشم خاں مرحوم چوہدری صاحب موصوف کے والد محترم نے بنگال  
 میں جماعت احمدیہ کی قیادت کی اور آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ حضرت مسیح موعود کی



تعلیم کو اجاگر کیا اور آپ نے مرزا محمود کی تفسیر کا انگریزی میں ترجمہ بطور خدمت کے کیا، اور آپ جب ریٹائر ہوئے تو آپ مع اہل و عیال قادیان تشریف لے آئے اور محلہ دارالانوار میں ایک بہترین کوٹھی رہائش کے لیے تعمیر کی اور آپ کے خاندان کو خلیفہ صاحب کے خاندان سے والہانہ عقیدت تھی۔ اس قریبی تعلقات کی وجہ سے آپ خصوصیت سے واقف راز ہو گئے۔ چودھری صاحب صدر انجمن کے شعبہ جات میں بھی کام کرتے رہے اور آپ کی انتھک مساعی محض دین کی خاطر شامل حال رہی۔ آپ بھی ربوہ میں کچے کوارٹروں میں عرصہ تک رہائش پذیر رہے۔ لیکن جب آپ کو مرزا محمود کی ناپاک سیرت کا بخوبی علم ہو گیا اور علی وجہ البصیرت حق الیقین تک پہنچ گئے تو آپ نے ربوہ کو خیر باد کرنے کا تہیہ کر لیا۔ موقع پا کر آپ خفیہ طور سے مع ہمشیرگان اور والدہ محترمہ کو رات کی تاریکی میں لے کر لاہور روانہ ہو گئے اور پھر علی الاعلان خلیفہ صاحب کی ناپاک سیرت پر اخباروں اور لیکچروں میں بلا خوف اظہار فرماتے رہے۔ چودھری صاحب موصوف حقیقت پسند پارٹی کے پہلے جنرل سیکرٹری رہے۔ آپ نے اس کام کو بھی اپنی صلاحیتوں کے پیش نظر حسب دستور مستعدی اور جانفشانی سے انجام دیا۔ اس بدکار اور بد اعمال کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا اور اس کی ناپاک سیرت پر الارم دینا اپنا فرض اولین تصور کرتے ہیں۔ چودھری صاحب گہرے رازداروں میں سے واقع ہوئے ہیں۔ لکھتے ہیں:

”قادیانی جماعت کے اندر فدائیان احمدیت کے نام کی خفیہ تنظیم کو بے نقاب کیا جائے، جو ایک نقاب پوش خطرناک قسم کی نوجوانوں کی تنظیم ہے، جو عملی طور پر تشدد کی حامی ہے اور اپنے کسی راز کو افشا کرنے والے کا کام تمام کر دیتی ہے اور ذیل کے احمدی حضرات کو عدم آباد تک پہنچا چکی ہے۔“ (”نوائے پاکستان“ 28 مارچ 1957ء)

چودھری صاحب کی مجاہدانہ سرگرمیوں کا اندازہ بہت سے اخباروں کے علاوہ مذکورہ بالا عبارت سے ظاہر ہے، جس میں آپ نے طویل لسٹ مختلف لوگوں کی دی ہے، جن کو راز افشا کرنے کے جرم میں ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ طوالت کے خوف سے مثال کے طور پر صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ چودھری صاحب نے اپنی ہمشیرہ عابدہ بیگم بنت خاں بہادر ابوالہاشم خاں صاحب آف بنگال کے اہم واقعہ کا ذکر بھی فرمایا ہے، کہ ان کو بھی بذریعہ بندوق مار کر اچانک موت سے منسوب کیا گیا۔ ان کے خیال کے مطابق کہ کہیں راز افشانہ کر دے۔

بہر حال چودھری صاحب صحیح معنوں میں حقیقت پسند واقع ہوئے ہیں۔ ان کا ہر کام دیانتدارانہ اور اخلاص پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو مزید استقامت بخشے۔ علاوہ ازیں جب گجرات میں جلسہ ہوا تو آپ نے اس وقت بھی صداقت کو پورے طور سے روشن کیا کہ ہم نے تقدس کے پردے میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی ہماری اس سے علیحدگی کا باعث ہوا۔ چنانچہ چودھری صاحب فرماتے ہیں:

بعد ازاں چودھری صلاح الدین صاحب نے جو مشرقی پاکستان کے رہنے والے ہیں، بنگالی میں تقریر کی اور بتایا کہ ہم نے تقدس کے پردے میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہماری اس جماعت سے علیحدگی اس کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا میں مشرقی پاکستان کے ایک معزز خاندان کا نوجوان ہوں اور امام جماعت احمدیہ کی دھاندلیوں کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا ہوں اور دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف آمریت کا ایک واضح نمونہ ہے۔

(”نوائے پاکستان“ 28 مارچ 1957ء)

## شہادت نمبر 28

امام جماعت احمدیہ (قادیان) ربوہ کے متعلق

حضرت ڈاکٹر سید میر محمد اسماعیل صاحب مرحوم

## سول سرجن کی شہادت

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب، خلیفہ صاحب کے ماموں اور خسر بھی ہیں۔ آپ کی قطعی رائے ہے کہ خلیفہ عیاش ہو تو میں ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ عیاشی کی وجہ سے نہ دماغ کام کرتا ہے اور نہ عقل اور نہ ہی حرکات صحیح طور پر کر سکتا ہے۔ سب قوی برباد ہو جاتے ہیں جس کو انگریزی میں Wreck کہتے ہیں۔ زنا انسان کو بنیاد سے نکال دیتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب موصوف فرماتے ہیں۔ بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ خلیفہ عیاش ہے۔ اس کے متعلق میں کہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو چند دن بھی عیاشی میں پڑ جائیں، وہ وہ ہو جاتے ہیں، جنہیں انگریزی میں Wreck کہتے ہیں۔ ایسے انسان کا دماغ کام کارہتا ہے نہ عقل درست رہتی ہے، نہ حرکات صحیح طور پر کرتا ہے۔ غرض سب قوی اس کے برباد ہو جاتے ہیں اور سر سے لے کر پیر تک اس پر نظر ڈالنے سے فوراً معلوم ہو جاتا

ہے کہ وہ عیاشی میں پڑ کر اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں:

الزنا ینخرج البناء

زنا انسان کو بنیاد سے نکال دیتا ہے۔ ("الفضل" 10 جولائی 1937ء)

## حق پسند اصحاب کی توجہ کے لیے

اپنی طرف سے نہایت اختصار کے ساتھ کچھ حوالہ جات حضرت مسیح موعود پیش کر دیے ہیں تاکہ فیصلہ میں آسانی رہے۔ اہل دانش اور طالبان حق کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ٹھنڈے دل سے ان تمام واقعات کو جو خلیفہ کے چال چلن پر سالہا سال سے بیان کیے جا رہے ہیں اور وہ انہیں ٹال رہے ہیں۔ آپ نے دلائل کی روشنی میں موازنہ کر کے خلیفہ صاحب کا احتساب کرنا ہے تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اصول جو بد چلن اور بدکار کے متعلق موجود ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اگر آپ نے اس اصول کو جرأت مندانہ اقدام سے اجاگر کر دیا تو آنے والی نسلیں آپ کی اس جسارت کو جو اصول کے لیے برتی جائے گی، قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھیں گی۔

علاوہ ازیں انسان غلطی کا پتلا ہے، بھول جانا کوئی بات نہیں ہوتی چونکہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے مصنفہ جو اہر پارے دیگر تنخواہ دار علما اس امر کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ اس خلافت کو مضبوطی سے پکڑو اور بعض حوالے ان پر چسپاں کیے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت اقدس نے زانی، بدکار، عیاش کے متعلق ایک قطعی فیصلہ دیا ہے جو درج ذیل ہے:

(1) مبالغہ صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔ ("الحکم" 24 مارچ 1902ء)

(2) یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کہے کہ میں نے اسے پچشم خود زنا کرتے دیکھا یا پچشم خود شراب پیتے دیکھا۔ اگر میں اس بے بنیاد افترا کے لیے مبالغہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ ("تبلیغ رسالت" جلد دوم صفحہ نمبر 2)

تو اس کی طرف آنے میں ہچکچاہٹ کیوں! جب آپ کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ صاحب سے خدا خلوت میں باتیں کرتا ہے اور جلوت میں باتیں کرتا ہے۔ اس عدالت میں حضرت اقدس کا حوالہ بھی یہی مطالبہ کرتا ہے، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت

اقدس کا قطعی فیصلہ ہے یا آپ کی نگاہ میں حضرت اقدس کا کتابوں میں ایسا حوالہ موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بدکار عیاش بھی مصلح موعود ہو سکتا ہے تو خدا کی قسم اگر یہ حوالہ میرے علم اور سمجھ میں آ گیا تو میں سر تسلیم خم کروں گا۔ ورنہ بصورت دیگر آپ کا فرض ہوگا کہ حضرت اقدس کے ان حوالوں کی موجودگی میں جو بدکار کے لیے آپ نے لکھا ہے عمل کرنا ہوگا اور جماعت کے ہر فرد کو احتساب کرنا پڑے گا۔

## بدکردار مصلح موعود نہیں ہو سکتا

یہ بات اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ خلیفہ صاحب بدکار، عیاش، بدچلن انسان ہیں۔ بدکردار مصلح موعود نہیں ہو سکتا اور اپنی اس بد معاشی کو چھپانے کی خاطر مختلف بہانے اور حیل و حجت، قتل و غارت و بائیکاٹ اور صدر انجمن احمدیہ کا روپیہ مقدمے میں ضائع کیا جاتا ہے۔ پھر ”الفضل“ میں یوں کہا جاتا ہے کہ زنا کرنا جرم نہیں، اس کی تشہیر جرم ہے۔ زنا تو آپ عین شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے اس کا تو جرم نہیں۔ مگر مہابہ حضرت اقدس کے فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے۔ وہ جرم ہے۔ خلیفہ صاحب نے حضرت اقدس کی تعلیم کو پلے پست ڈال کر اپنا سکہ جمانے کی کوشش کی۔ مقدس اصطلاحوں سے اپنے آپ کو نوازا۔ کبھی صحابہ کرام کے متعلق بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا اور کبھی آنحضرت ﷺ سے بھی آگے بڑھنے کا قدم اٹھایا۔ انشاء اللہ ایسے شخص کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کو اس دنیا میں جو سزا مل رہی ہے، وہ ایک زندہ نشان ہے۔ چلنے پھرنے سے عاری ہے۔ دماغ کسی قدر ماؤف ہو چکا ہے، فالج نے اس کو اپنا شکار بنا لیا ہے۔ (”الفضل“ 4 اگست 1956ء)

ایسے شخص کو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے قادیان کی مقدس سرزمین میں بھی جگہ نصیب نہیں ہوئی۔ دراصل اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گندی مچھلی سب کو خراب کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک وجود کو وہاں سے نکال کر مقدس بستی کو محفوظ کر لیا۔

میں عرض کر رہا تھا کہ اب حاشیہ بردار اس کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ کبھی ٹیکہ کے زور سے اس کو ہوش میں لایا جاتا ہے، کبھی ٹیپ ریکارڈ سنا کر جماعت کو تسلی دی جاتی ہے۔ بارہا طریق سے اس میں پیوند لگائے گئے، لیکن جب ایک عمارت بوسیدہ ہو جاتی ہے اس کے پیوند کہاں تک سہارا دے سکتے ہیں۔ بالآخر اس بوسیدہ عمارت کو تہس نہس کر کے از سر نو بنانی

پڑتی ہے۔ یہی حال خلیفہ کا ہے۔ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے قعرندلت میں گر چکا ہے۔ اس وقت سہارا بے سود ہے۔ یہ غلط ملط سہارے دیکھنے والوں کے لیے اس شخص کی بد کرداری کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ ناپاک وجود ختم ہو کر رہے گا اور حضرت اقدس کا اصول بڑی آب و تاب سے چمکے گا۔ خدا کے گھر میں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں۔

میرے احمدی بزرگو! بھائیو اور بہنو! جماعت احمدیہ کا ہر فرد جو حضرت مسیح موعود کے اصولوں کو اپنانے کے لیے بے تاب ہے، ان سے استدعا ہے کہ خلیفہ صاحب اس وقت زندہ ہیں۔ ان کی موجودگی میں جس اسلامی شریعت کو آپ پسند فرمائیں، فیصلہ کی راہ نکالیں۔ انسان کی سوجھ بوجھ کے مطابق تین ہی صورتیں قابل عمل ہیں:-

(1) عدالت

(2) کمیشن

(3) مہابہ

## اظہار واقعہ کو بد زبانی نہیں کہا جاسکتا

حضرت اقدس ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں:

”دشنام دہی اور چیز ہے اور بیان واقعہ کا گو وہ کیسا ہی تلخ اور سخت ہو، دوسری شے ہے۔ ہر ایک محقق اور حق گو کا یہ فرض ہوتا ہے کہ سچی بات کو پورے پورے طور پر مخاطب گم گشتہ کے کانوں تک پہنچا دے۔ پھر اگر وہ سچ سن کر برا فروختہ ہو تو ہوا کرے۔“

(ازالہ اوہام، صفحہ 20)

خلیفہ صاحب کی بد اعمالیوں کے متعلق اقوال اور مسیح موعود کے حوالہ جات اور

شہادتیں درج ہیں:

میں انصاف پسند اور فہمیدہ اصحاب سے درخواست کرتا ہوں۔ تینوں صورتیں پیش کر دی ہیں جو صورت آپ کے لیے آسان ہو، اس پر عمل کریں ورنہ بصورت دیگر اگر اس میں لیت وعل کیا گیا تو وہ اپنے متعلق شکوک میں اضافہ کریں گے لیکن یاد رکھیں خلیفہ صاحب اپنی بد کرداری اور کرتوتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کبھی بھی مہابہ کے لیے میدان میں نہیں نکلیں گے۔

حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں بھی مرزا محمود احمد صاحب پر کمیشن مقرر کیا گیا اور سنا

ہے کہ جرم ثابت ہے مگر بدنامی کے خوف سے اس کو درگزر کیا گیا۔ اگر ہمارے بزرگانِ ملت اُس وقت اس خوف کو بالائے طاق رکھ کر اس کو گندے چیتھڑے کی طرح نکال دیتے تو آج اس بدنامی اور لعنت سے محفوظ رہتے۔

بس آپ اپنے فرضوں کو پہچانیں۔ اس بدنامی کو مہابہ کی صورت میں خدا کی عدالت میں لائیں تاکہ تقدس اور پاکبازی الم نشرح ہو کر جماعت احمدیہ کے لیے خصوصاً ہدایت کا موجب ہو۔ (طالب دعا، خادم ملت مظہر ملتانی)

### انتباہ!

جس قدر شہادتیں اور حلفیہ بیان کتاب ہذا میں درج ہیں، ان کی اصل تحریرات موجود ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو اصل تحریرات کے عکس شائع کر دیے جاویں گے۔ تاہم اگر کوئی صاحب کسی دباؤ کے ماتحت یا جماعت احمدیہ ربوہ کے سربراہ یا بالخصوص مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے ”قمر الانبیا“ (ان کے کریکٹر کے متعلق بھی شہادتیں موجود ہیں جو کسی وقت منظر عام پر لائی جاسکتی ہیں) اپنے حکیمانہ اور فلسفیانہ لاطائل انداز میں ان بیانات کی تردید کرنے کی جرأت کریں تو اس موقع پر بھی انہیں قہار و جبار کی عدالت میں آنا ہوگا اور موکد بعداب حلف اٹھانا ہوگا۔ جو صاحب تردید کریں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بالمقابل کم از کم دو صد اشخاص کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو کر بروئے اشہاد مندرجہ ذیل موکد بعداب حلف اٹھائیں۔

میں اس خدائے ذوالجلال حنی و قیوم اور قہار و جبار کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتوں کا کام ہے، اور میں اپنے بیٹوں، بیٹیوں، بیوی، بہنوں، ماں، باپ، لکھتے وقت بھی رشتہ دار زندہ یا موجود نہ ہوں، ان کا نام کاٹ دیا جائے، سر پر ہاتھ رکھ کر موکد بعداب حلف اٹھاتا ہوں کہ جناب مرزا محمود احمد صاحب امام جماعت احمدیہ ربوہ نے کبھی زنا یا لواطت نہیں کی۔ اور میری طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ میں نے ان کے دامن کو ایسی بدکاری سے داغ دار قرار دیا ہے، بالکل غلط ہے۔ میں نے کبھی نہ انہیں بدکار اور زانی سمجھا اور نہ کہا اور نہ ہی کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب کی اور نہ ہی میں نے کوئی تحریر لکھ کر دی۔

اے میرے خدا میں تجھے حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ بیان بالکل سچ

اور واقعات کے مطابق ہے اور میں نے کسی ترغیب و ترہیب یا کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت یہ بیان نہیں دیا، میں جانتا ہوں کہ تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں۔ تیری قوت سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں، تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔

اے میرے خدا اگر میں اوپر کے سارے بیان میں جھوٹا ہوں اور فریب، دعا، مکاری، چال بازی، لفظوں کے ہیر پھیر، فقرہ بازی اور خیانت سے کام لے رہا ہوں تو تیرا قہر تلوار کی مانند مجھ پر پڑے۔ تیرا غضب مجھے بھسم کر دے۔ ذلت، تباہی، غربت، بیماری، عزیزوں، رشتہ داروں، بیوی بچوں کی موت اور مصائب و آلام کی مار مجھ پر مار اور اپنے ہیبت ناک ہاتھ کے ساتھ مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ میرے درو دیوار پر آگ برسے۔ میرے دشمنوں کو خوش کر دے۔ میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں اور میری اور میرے باپ کی نسل منقطع ہو جائے اور ابدلاً باد کے لیے مجھ پر لعنتیں برستی رہیں اور غنوک کی چادر مجھے کبھی نہ ڈھانپے۔

لعنة الله على الكاذبين ۝

## فیصلہ عدالت عالیہ ہائی کورٹ لاہور

### بہ نگرانی شیخ عبدالرحمن مصری قادیان

ڈپٹی کمشنر گورداسپور نے جو حکم شیخ عبدالرحمن مصری کی اپیل کے خلاف دیا ہے، اس پر نظر ثانی کے لیے موجودہ درخواست ہے۔ شیخ عبدالرحمن مصری سے میجسٹریٹ فسٹ کلاس کے حکم کے ماتحت 14 مارچ 1938ء کو ضمانت حفظ امن طلب کی گئی تھی اور اس حکم کے خلاف ڈپٹی کمشنر نے 24 مئی 1938ء کو اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ لہذا اب وہ عدالت ہذا میں نظر ثانی کی درخواست دے رہا ہے۔ چنانچہ اس عدالت کے ایک فاضل جج نے حکومت کو حاضری کا نوٹس دیا۔ موجودہ کارروائی کی تحریک کا اصل باعث وہ اختلاف ہے جو جماعت احمدیہ قادیان کے اندر رونما ہوا ہے۔ درخواست کنندہ اس انجمن کا صدر ہے جو خلیفہ سے شدید اختلاف کے باعث علیحدہ ہو چکی ہے۔ درخواست کنندہ کے خلاف اصل الزام یہ ہے کہ اس نے دو پوسٹر شائع کیے۔ اولاً پی۔ اے۔ اگزیٹ جو مورخہ 29 جون 1937ء کو شائع ہوا اور ثانیاً اگزیٹ پی۔ جی جو 13 جولائی 1937ء کو شائع کیا گیا۔ ان پوسٹروں کے ذریعے درخواست کنندہ نے اپنا مافی الضمیر

بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ پوسٹر بجائے خود قابل اعتراض نہیں ہیں۔ مدعی نے اگزبرٹ پی۔ جے میں سے ایک پیرا کی بنا پر اپنا دعویٰ قائم کیا ہے جو اس طرح شروع ہوتا ہے:

”میرے عزیزو، میرے بزرگو آپ نے اپنے ایک بے تصور بھائی، ہاں اس بھائی کو جس نے محض آپ لوگوں کو ایک خطرناک ظلم کے پنچہ سے چھڑانے کے لیے اپنی عزت اپنے مال، اپنے ذریعہ معاش اور اپنے آرام کو قربان کر دیا ہے۔۔۔۔۔“

مدعی کا دارومدار ایک اور پیرا بھی ہے جس کا خلاصہ یوں دیا جاسکتا ہے کہ موجودہ خلیفہ میں ایسے سخت عیوب ہیں کہ اسے معزول کرنا ضروری ہے اور میں نے اپنے آپ کو جماعت سے اس لیے علیحدہ کیا ہے تاکہ میں ایک نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے جدوجہد کر سکوں۔“

میری رائے میں متذکرہ بالا قسم کے بیانات بجائے خود ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بنا پر کسی شخص کی حفظ امن کی ضمانت طلب کی جائے۔ مگر عدالت میں درخواست کنندہ نے ایک تحریری بیان دیا ہے، جس کے دوران میں اس نے کہا ہے۔

”موجودہ خلیفہ سخت بدچلن ہے۔ یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔“

درخواست کنندہ نے آگے چل کر بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم کو اس قسم کے گندے شخص سے آزاد کرائے۔

اب اگر پوسٹر کو جس کا خلاصہ میں نے اوپر بیان کیا ہے، درخواست کنندہ کے اس بیان کی روشنی میں جو اس نے عدالت میں دیا ہے، پڑھا جائے، جیسا کہ بہت سے پڑھنے والے ایسا کریں گے تو ان کا رنگ کچھ اور ہی ہو جائے گا اور میری رائے میں یہ امر قابل اعتراض ہو جاتا اور حفظ امن کی ضمانت طلبی کا متقاضی ہے۔

اس خطبہ میں خلیفہ نے جماعت سے علیحدہ ہونے والوں شخصوں پر حملے کیے ہیں اور ایسے الفاظ ان کی نسبت استعمال کیے ہیں جن کی نسبت میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ Unfortunate اور افسوس ناک تھے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر الدین نے جو اس انجمن کا سیکرٹری تھا، جس کے صدر



عبدالرحمن مصری ہیں، ان کا جواب لکھا جس میں اس نے یہ کہا۔ ”اسی لیے تو ہم بار بار جماعت سے آزاد کمشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ اس کے روبرو تمام امور اور شہادتوں اور مخفی در مخفی حقائق پیش ہو کر اس قضیہ کا جلد فیصلہ ہو جائے کہ کس کا خاندان ”فحاشی کا مرکز“ یا بالفاظ دیگر وہ ہے جو خلیفہ نے بیان کیا۔“

اب اس بیان میں خلیفہ کے خطبہ کے بیان کی طرف اشارہ ہے جس میں اس نے اپنے دشمنوں اور مخربین کے خاندانوں کے متعلق یہ کہا تھا کہ ان میں سے حیا اور پاکیزگی جاتی رہے گی اور وہ فحاشی کا اڈا بن جائیں گے۔ میری رائے میں فخر الدین کے اس پوسٹر کا مطلب صاف اور واضح ہے اور ایسا ہی قادیان میں اس کا مطلب سمجھا گیا۔ کیونکہ صرف دو دن بعد سات اگست کو ایک متعصب مذہبی مجنون نے فخر الدین کو مہلک زخم لگایا۔

میاں محمد امین خان نے جو درخواست کنندہ کا وکیل ہے، اس امر پر زور دیا ہے کہ شیخ عبدالرحمان مصری اس آخری پوسٹر کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ واقعات یہ ہیں کہ انجمن ایک مختصر سی حیثیت رکھتی تھی جس کا صدر عبدالرحمن اور سیکرٹری فخر الدین تھے۔ اصل پوسٹر ہاتھ کا لکھا ہوا تھا جو اب دستیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کی نقل ایک کانسٹیبل نے کی تھی، جس کا یہ بیان ہے کہ اس کے نیچے فخر الدین سیکرٹری مجلس احمدیہ کے دستخط تھے مگر اس امر کے برخلاف فخر الدین کے لڑکے نے اصل مسودہ پیش کیا ہے جو اس کے باپ نے اس کی موجودگی میں لکھا تھا اور جس کے نیچے صرف اس قدر دستخط ہیں۔ فخر الدین ملتانی۔ میں کانسٹیبل کے بیان کو قابل قبول سمجھتا ہوں، کیونکہ اسے جھوٹ کہنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی جو وجہ صفائی کے گواہ میں پائی جاتی ہے یعنی یہ کہ اس کا مقصد اپنے لیڈر کو چھڑانا ہے۔

یہ امر کہ فخر الدین نے اصل مسودہ پر ”سیکرٹری“ کے الفاظ نہ لکھے تھے، ظاہر نہیں کرتا کہ صاف کردہ اور شائع کنندہ کاپی پر بھی یہ الفاظ نہیں لکھے گئے تھے۔ میری رائے میں شیخ عبدالرحمن پر بھی اس پوسٹر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ خصوصاً اس بیان کے سامنے جو انہوں نے عدالت میں دیا ہے۔

ان حالات میں مقامی حکام نے شیخ عبدالرحمان کے برخلاف جو کچھ کارروائی حفظ امن کی ضمانت کی کی، وہ مناسب تھی۔

ایک ہزار روپیہ کی ضمانت کچھ بھاری ضمانت نہیں ہے اور یہ ضمانت دی جا چکی ہے

اور نصف سے زائد عرصہ گزر بھی چکا ہے۔ لہذا درخواست مسترد کی جاتی ہے۔

دستخط

ایف ڈبلیو سکیمپ جج

(عدالت عالیہ ہائیکورٹ لاہور مورخہ 23 ستمبر 1938ء)

(تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی) (عکس صفحہ نمبر 651 تا 684 پر)

## مرزائیوں کی روحانی شکار گاہ

عبدالرزاق مہتہ پاکستان بھر کے قادیانیوں میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے خاندان نے قادیانیت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ شب و روز قادیانیت کی خدمت میں جت گئے۔ ان کی یہ قربانیاں رنگ لائیں اور وہ ”خاندان“ سے قریب تر ہوتے گئے۔ ان کے اخلاص میں حماقت کی حد تک اضافہ ہو گیا تو وہ مرزا محمود کی خلوتوں کے ساتھی بن گئے۔ مرزا محمود کی بیگمات و صاحبزادیوں سے چھوڑے اڑاتے اور احمدیت کی برکات کے ترانے گاتے رہے۔ ایک مرتبہ خود خلیفہ جی سے عہدومیت کا بدیشی شوق بھی فرمایا۔ فوٹو گرانی کے رسیا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ”اجنٹا“ اور ”ایلوورا“ کے غاروں کے مناظر کو کیمرے کی گرفت میں لے کر ہمیشہ کے لیے انہیں محفوظ کر لیا اور خود غیر محفوظ ہو گئے۔ مگر ان کی ہمت مردانہ پر قربان جائے کہ یہ سب دیکھنے، کرنے اور کرانے کے باوجود بھی احمدیت کی صداقت پر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ ان رنگین تصویروں اور سنگین لمحات کی یادوں کو ان سے واپس حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر پر متعدد بار شب خون مارا گیا، حملے کرائے گئے، تلاشی لی گئی۔ ان مظالم سے عاجز آ کر انہوں نے جماعت کے سربراہ کو خط لکھا کہ مجھے ان کے مظالم سے نجات دلوائی جائے۔ اس درخواست میں مظالم کے جو اسباب اور واقعات بیان کیے، انہیں پڑھ کر ایک شریف النفس انسان لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ عصمت و عفت کو بازوچھ اطفال بنانے میں مرزائیت نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جسے بڑے سے بڑا بدکار بھی نہیں توڑ سکتا۔ خود مصنف کا بیان ہے کہ مرزا محمود نے میرے ساتھ مل کر اپنی لڑکی کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ الف ننگے ایک چارپائی پر باہم دیگر تینوں ”مصروف بکار خاص“ تھے کہ مؤذن نے نماز کے لیے بلایا، اسی حالت میں غسل و وضو تو درکنار کسی عضو کو دھوئے بغیر مصلیٰ پر چڑھ گئے اور پھر پھرتی میں واپس

آکر بیٹی کے سینے پر سوار ہو گئے۔ لعنت ہو قادیانیت پر۔  
مرزائیت ایسی گندگی ہے جسے صاف کرنا چاہیں تو اس گندگی کا وجود پانی پڑنے سے  
ختم ہوتا جائے گا مگر یہ پاک نہ ہوگی۔ اسے پاک کرنے والوں کو کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ اسے ختم  
کر دینا ہی، اصل اس کا علاج ہے۔

## روحانی شکار گاہ

(199) ”ایک خاندان کی بیماری، دوسرے خاندان میں (یعنی اولاد وغیرہ) میں آجاتی سنی  
ہوگی۔ دودھ کو ایک دفعہ جاگ لگا دی جائے تو پھر وہی جاگ کام آتی رہتی ہے۔ بعینہ اسی طرح  
اب یہ جاگ آخر (یعنی عیاشوں کی رنگ رلیاں) انہی مغلیہ خاندان کی نسل ہوتے اس خاندان  
میں بھی لگنی ضروری تھی، سو لگی اور خوب لگی اور غالباً ان کی طرز عیاشوں کو بھی مات کر دیا ہوگا۔  
جناب سیکرٹری صاحب ہوشیار باش جاگتے رہیے، نظارہ جلوہ قریب آ رہا ہے۔ دل  
مضبوط کر لیجیے۔ ہوش و حواس قائم رکھیے گا۔ قادیان کے عوام ہماری اس خاندان سے وابستگی  
چولی دامن کا ساتھ سمجھتے تھے۔ ایک دن ہوتا کیا ہے غور فرمائیے گا۔ حضرت خلیفہ ثانی حکم  
فرماتے ہیں عشا کے بعد ام طاہر کے صحن والی سیڑھیوں کی طرف سے آنا۔ چنانچہ حاضر ہو کر  
دستک دی۔ حضور خود دروازہ کھول کر اپنے ساتھ صحن میں لے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو بڑی  
چارپائیاں ہیں جن پر بستر لگے ہیں جن کی پوزیشن یوں تھی۔ سرہانہ شمال قبلہ رخ والی چارپائی  
کے پاس لے جا کر اس پر بیٹھنے کا حکم دیا تو دوسری پر حضور لیٹ گئے۔ مقام خلیفہ کے تقدس کے  
خیال سے کبھی برابری میں بیٹھنے کا وہم و خیال بھی نہ ہوتا تھا۔ اسی شش و پنج میں حیران پریشان  
کھڑا بت بنا رہا۔ الہی کیا شامت اعمال ہے، کیا مصیبت آنے والی ہے۔ اتنے میں حضور  
تشریف لائے۔ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے فرمایا فکر نہ کرو، شرناؤ نہیں۔ جس کے چند ہی سکینڈ بعد  
چارپائی پر کبھی چادر کے نیچے سے کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ سکڑا، سنبھلا کہ ایک چٹکی پیٹھ پر کھتی  
ہے۔ کھیرایا ہوش و حواس گم ہی تھے کہ اب چادر کے نیچے سے کوئی ذرا زیادہ ہلتا معلوم ہوا  
دراصل کروٹ لی گئی تھی کروٹ لیتے پھر دو چار چٹکیاں کھتی ہیں پھر بھی ”صم بکم“ بنا بیٹھا تھا کہ  
پھر حضور آئے شرناؤ نہیں، لیٹ جاؤ فرماتے چادر کے اندر منہ کر کے اس صاحبہ سے کچھ کہا جس

نے نصف اٹھتے ہوئے اپنے بازو میری کمر کے گرد جامل کرتے کھینچ کر اپنے اوپر لٹا لیا، اس کھینچنے کے نتیجے میں سر ہاتھ اچانک جو اس جسم نفیس پر لگے تو حیرانی ہوئی کہ محترمہ الفنگلی پڑی ہیں۔ ادھر میں بے حس و حرکت پتھر بنا پڑا تھا، مجھے علم نہ ہو سکا کس وقت میرے بھی کپڑے اتار پھینکے اور کیسے پوری طرح اپنے اوپر لٹانے لگیں بد مستی کی شرارتیں کرتے ”آخر جیت ان کی ہوئی ہار میری“ گویا ان ٹرینڈ کو ٹرینڈ کر کے مستقل ممبر سر روحانی (یہ نام میرا دیا ہوا ہے) کا اعزاز بخشا گیا۔ ہاں یہ صاحبہ آخر کون تھیں آپ جستجو تو ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن فی الحال بغیر نام بتائے اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ صاحبہ حضور خلیفہ ثانی کی بیٹی تھیں بس پھر کیا تھا پانچوں گھی میں سر کڑا ہی میں والا معاملہ۔ آئے دن بلاوے دن ہو یا رات وفتریا چوکیدار گو پہلے بھی روک ٹوک نہ تھی مگر اب تو بالکل ہی ختم سیدھے اوپر بیٹیوں سے بڑھتے اب بیگمات کے پیش ہونے یا کیے جانے لگے۔ پہلے پہل تو گھروں میں پھر قصر خلافت کے ایک کمرہ ملحقہ ہاتھ روم جو دراصل مستقل داد عیش کی رنگ رلیوں کے لیے مخصوص فرمایا ہوا تھا۔ جہاں بیک وقت ایک ہی بیٹی اور یا بیگم صاحبہ سے خود بھی اکثر شریک رنگ رلیاں ہو جاتے گویا تینوں ایک ہی چار پائی پر پڑے مجھ مستیاں ہوتے (محترم سیکرٹری صاحب امور عامہ اسلام میں پردہ کا حکم سخت بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کا امور عامہ، خلیفہ کے اس پردہ زادہ پر کیا نوٹس لیتا ہے، کونسی جماعت سے خارج کرتا ہے) خیر یہ آپ کی درد سوری ہے۔

ناراض تو نہیں ہو گئے ابھی تو ابتدائے عشق ہے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بقول کہاوت ”پانہ ٹریا متھا سڑیا“ ابھی تو سنسنی خیز جلوؤں کی روشنائی ہونی باقی ہے لہذا دل قابو میں رکھیے جناب ہو غیار رہیں غور فرمائیں ایک عرصہ جب کہ ایک بیٹی سے دونوں ہی رنگ رلیاں مناتے مجھ مستیاں تھے کہ موزن نے آکر نماز کی اطلاع دی مجھے یوں فرمایا تم مزے کرتے رہو، میں نماز پڑھا کر ابھی آیا۔ چنانچہ اسی حالت میں جب کہ پسینہ میں شرابور تھے، وضو تو درکنہ اعضا بھی نہ دھوئے نماز پڑھی اور سنتیں نوافل، پھر بیٹی کے سینہ پر پڑے غرق عیش و عشرت ہو گئے۔ کیا خوب کہا ہے:

”تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں“

(جس کسی نے بھی یہ کہا خوب باموقع اور اغلباً انہی کی ذات مبارک کا نقشہ اللہ نے کھینچوایا ہے) مختصر کرنے کے لیے اللہ کو حاضر ناظر کرتے جن سے یہ رنگ رلیاں منائی منوائی

گئیں فی الحال تعداد لکھ دیتا ہوں بوقت کارروائی اسمائے گرامی سے مطلع کروں گا۔ بیگمات تین، صاحبزادیاں بھی تین۔ ان دو صاحبزادیوں سے دو دفعہ ایک تو قریباً مستقل۔

یہاں لگے ہاتھوں ایک بیگم صاحبہ (بڑی) ام ناصر کی حسرت جو قبر میں ساتھ لے گئے یوں فرمایا دیکھو ام ناصر ہیں کہ یہ شریک محفل نہیں ہوتیں تبھی تو موٹی بھینس ہوتی جاتی ہیں۔ اس کے مقابل غور فرمایا جائے۔ ام مظفر کو دیکھو کیسی خوبصورت نازک سی چلتی پھرتی ہیں کیونکہ یہ کرواتی رہتی ہیں گویا بھاوجوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ یہ خیال ذہن نشین ہونا ضروری ہے جن سے یا صاحب مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ وہ پاک و صاف ہیں اور الفاظ ”رنگ یا مطلب“ جس کی نسبت بیان کیے یا کہے گئے وہی تحریر ہذا کر رہا ہوں کسی کا بلاوجہ مبالغہ قطعاً قطعاً اشارہ بھی نہ کروں گا انشاء اللہ۔

انسان گنہگار ہے اور ضرور ہے لیکن حد سے تجاوز ارکان اسلام سے استہزا شاید کوئی نام کا مسلمان بھی نہ کرے گا۔ چہ جائیکہ جو خود کو مقام خلیفہ پر کھڑا کرے استغفر اللہ ربی جناب عالی یہ تو رہی نماز اور اس کا احترام اب ذرا اچھی طرح سنبھل کر اپنی غیرت کے جوش کو دبا کر قرآن پاک کی عظمت پر اس اولوالعزم خلیفہ کے اس چاند سے مکھڑے کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے بولے ہوئے خواہ ایک دفعہ دوسرے کی نسبت کہ وہ یوں کہتا ہے اول تو اگر کسی نے ان کے سامنے کہے بھی تو غیرت کا تقاضا اس کو ڈانٹ تھا، چہ جائیکہ ان الفاظ کو اپنی زبان مبارک سے نہ صرف ایک دفعہ بلکہ ڈھٹائی کی حد یوں کہ پھر دوسری دفعہ وہی دہرائے جاتے ہیں۔ جناب عالی یقین جانیں ان کے لکھنے کی مجھ میں نہ ہمت نہ ہی سکت ہے، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن پاک کا نام لیتے ہیں میں اس کو اپنے..... پر مارتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ شرم کے مارے میری آنکھیں زمین پر گڑ گئیں کاٹو تو جسم میں خون کا قطرہ نہیں۔ کیا یہی مقام خلیفہ ہے اور یہی وہ بلند بانگ پرچار ہے کہ ہم ہی ہیں جو خدمت قرآن فلاں فلاں زبانوں میں کر رہے ہیں اور ادھر اسی قرآن کی فضیلت و عظمت کا عمل بجا اورہ ”صورت مومنوں کو قوت کافراں“ سے دیا جاتا ہے توبہ توبہ۔

یہ بھی بتائے جاؤں کہ یہ کس موڈ میں کہے گئے۔ ایک بیگم صاحبہ کو حضور کے ہر طرح کے قرب، صلاح مشورے وغیرہ وغیرہ کی بنا پر چہیتی کہا جاتا اور مانا جاتا تھا اور اہل قادیان کی مستورات خصوصاً جانتی تھیں، بعد منانے رنگ رلیاں حضور کی خوشنودی کے لیے کھڑے محو گفتگو

تھے کہ اُن بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے سینہ سے لگاتے کہا ”آپ مجھے اپنی چھیتی کہتے ہیں، یہ میرا چھیتا ہے۔“ باموقع خوب مذاق ہوا جس میں نعوذ باللہ وہ الفاظ دو مرتبہ کہے گئے یہ الفاظ پنجابی میں نام لیتے کہے گئے جو ان کی خلافت کی جھتی جاگتی حقیقت و اصلیت اسلام اور رسول مقبول ﷺ سے وابستگی کی نمایاں جھلک دیتی ہے۔ اب ان کی اصلیت ضمیر کی نصیحت و وصیت بھی لگے ہاتھوں ملاحظہ فرما ہی لیجیے۔ فرمایا:

”میں نے تمام بچوں کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جس کے اولاد نہ ہو، ایک دوسرے سے کر لی جائے۔ سبحان اللہ کیا یہ نصیحت و وصیت خلیفہ کو زیب دیتی ہے۔ گویا اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ یہ رنگ رلیاں صرف حضور کی ذات مبارک تک ہی محدود نہیں بلکہ کل اولاد کیا لڑ کے اور کیا لڑکیاں جن کو پہلے ہی استعمال کرنا کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔

تو بھلا اس صورت میں لڑ کے کہاں متقی و پرہیزگار ہو سکتے ہیں تبھی تو یہ رونا حق بجانب ہے کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھادجوں کی عزت و ناموس ہر وقت خطرے میں ہے۔ اب ان ملفوظات میں سے ایک اور عرمان ملاحظہ فرمایا جائے:

فرمایا لوگ باہر سے تیرک کے لیے اپنی بیویاں، بیٹیاں، بہویں بھیجتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی جنون عشق بازی سے تسلی نہیں ہوتی۔ مجبوراً پنجابی کہاوت ”جنے لائی کوئی، کرے کی کوئی“، کے مطابق بے شرموں کے ساتھ بے شرم ہونا ہی پڑے گا۔ مجبوراً حقیقت حال بیان کرنا پڑے گی۔ وہ یہ کہ لوٹنے بازی کروانے کا بھی شوق باقی تھا۔ چنانچہ یہ چکر میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے لیکن چونکہ مجھے اس قبیح عادت سے نفرت تھی مجبوراً خود ہی کروٹ لیتے اعضا پکڑ کے اپنے میں ڈالنے کی ناکام عیاشی۔

تو اس پر ایک دفعہ یوں فرمایا کہ خلیفہ صلاح الدین کا (جو رشتہ میں سالا تھا) ..... (وہی پنجابی لفظ اعضا) کتنا موٹا اور لمبا ہے۔ اب اس سے غور کریں کہ ان کی عادات رنگ رلیاں اور عشق مزاجی میرے اس لفظ ممبر محفل سیر روحانی سے بالکل صحیح اور صحیح ثابت ہو گیا، ابھی اور بھی ممبر اور ممبرات محفل ہیں جن کی تعداد جو میرے علم میں ہے، پندرہ بیس ہے اور ان سے آگے جاگ لازمی لگے گی، جاگ کا کام ہی یہی ہے۔ اب واقعات کرچین استانیوں کے، ایک کا ذکر لاہور کے اخبارات میں ہوا، خبر یوں لگی کہ ”مرزا قادیانی ہوٹل سے

ایک لڑکی لے اڑے“ یہ بریکنگ ہاٹل لاہور کا واقعہ ہے ایک دوسرے کو بھیجنے پر ناکامی کے بعد مجھے حکم ملا، بعد کامیابی شاہلی الغرض اسے لے کر سینما جو ملکہ کے بت کے پاس ریڈ کر اس آفس کے بالمقابل ہے (پلازہ سینما ناقل) مع عملہ گئے انٹروں کے قریب یکدم بھاگ بھاگ کاروں میں بیٹھ یہ جاوہ جابعد میں علم ہوا کہ کیبن میں یہ کرچین لڑکی بغل میں لیے ہوئے پیار وغیرہ کرتے تھے۔ باہر سے کسی کی نظر کا نظارہ ہو گیا گویا نام کو استانی اندر خانہ عیاشی۔

اب یہاں اصل معاملہ یوں بیٹھتا ہے کہ قادیان پہنچ کر سینما بنی میں کل دنیا جہان کی خرابیاں گنوائیں۔ خطبہ جمعہ کے سٹیج سے اخبارات رسائل تقاریر کے ذریعہ سینما بنی سے سختی سے منع فرمایا جاتا ہے مگر اس سے پہلے جب بھی لاہور گئے سینما ضرور دیکھا جاتا، آیا خیال شریف میں۔

جناب سیکرٹری صاحب امور عامہ معلوم ہوتا ہے سینما بنی سختی سے منع ہونے پر آپ کا حلق خشک ہو گیا ہے فکر نہ کریں میرے پاس تری کا بھی سامان موجود ہے۔ سو محترم من وہ یوں قادیان سے کار لاہور جاتی وہاں سے محترم شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ بعد حج کے ذریعہ شراب کار کی پھیلی سیٹ کے نیچے چھپا کر لائی جاتی تاکہ عیاشی میں کوئی کمی نہ رہ سکے (حلق ٹھیک ہو گیا ہوگا) مگر صاحب میں معافی چاہوں گا اوپر لکھا تو ”وجہ مظالم“ تھا لیکن مظالم کی بجائے عیاشیوں کی داستانوں میں پڑ گئے مگر جناب مجبور ہوا تھا سو چلیے میرے ساتھ قصر خلافت کے اس مخصوص کمرہ رنگینیوں میں جسے اس اولوالعزم خلیفہ نے مغلوں کی عیاشیوں کا گوارہ بنا رکھا تھا ملاحظہ ہو بحیثیت فن فوٹو گرافی ایسے ایسے رنگین نظاروں سے بھلا نظر کیونکر چوک سکتی تھی۔ لہذا ہر ہی پہلو سے اچھی طرح محفوظ ہوئے بس اور بس یہی 42 سالہ وجہ مظالم ہے جن کی تلاش کے لیے چوریاں خانہ تلاشیاں تالے ڈکٹیٹری میں توڑے توڑے گئے۔ سرتوڑ کوشش فرماتے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے، ناکام و نامراد ہوتے، ذلت کے اتھاہ گڑھے میں ڈبکیاں ہی کھاتے رہے۔ اب جب کہ خاموش بیٹھے بھی صبر نہ آیا مجبور کر دیا ”تم صبر کرو وقت آنے دو“، سو وقت آ گیا ہے ڈبکیوں کی بجائے ڈوبنے کا۔ بھلا ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے ایسی ایسی رنگینیوں کی تصاویر بھلا کوئی گھروں میں رکھتا ہے۔ خصوصاً جب کہ تلاش میں ہر قسم کی ذلالت کے حربے استعمال کیے کروائے جاتے ہوں۔ اب وقت آیا ہے ان کے مظہر عام پر لانے کا جو پیش کیے جائیں گے تاکہ ان کی عیاشیوں کو حقیقی رنگ میں ننگا کرنے

کے لیے بوقت کارروائی ممدومعاون ہوں۔“

(مرزائیوں کی روحانی شکارگاہ، صفحہ 21 تا 30 از عبدالرزاق مہتہ قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 685 تا 694 پر)

اس حوالے کی موجودگی میں سمجھ نہیں آتا، قادیانی مذہب کس طرح باقی ہے؟ یقیناً یہ اعتراف روکنے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اے کاش! قادیانی حضرات قادیانیت کے چنگل سے نکل کر اسلام کی آغوش میں آجائیں۔

## بے نقاب

(200) مرزا بشیرالدین محمود کا اپنا ایک شعر ہے جس میں اس نے مندرجہ بالا برائیوں کا اقبال جرم کرتے ہوئے کہا:

”کیا بتاؤں کس قدر کمزوریوں میں ہوں پھنسا

سب جہاں بیزار ہو جائے جو ہوں میں بے نقاب“

(کلام محمود از مرزا بشیرالدین محمود صفحہ 78) (عکس صفحہ نمبر 695 پر)

## مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں

(201) ”جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ ان

پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا،

پرفرشتے نازل ہوں گے۔ یہ ایک خاص نکتہ ہے کہ کیوں حضرت صاحب کی کتابیں پڑھنے

ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں اور جب پڑھو جب ہی خاص نکات اور برکات کا نزول

ہے۔ براہین احمدیہ خاص فیضان الہی کے ماتحت لکھی گئی ہے۔ اس کے متعلق میں نے دیکھا ہے

جب کبھی میں اس کو لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ دس صفحے بھی نہیں پڑھ سکا کیونکہ اس قدر

نئی باتیں اور معرفت کے نکتے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دماغ انہیں میں مشغول ہو جاتا ہے۔“

(ملائکہ اللہ صفحہ نمبر 30 مندرجہ انوار العلوم جلد 5 صفحہ 560 از مرزا بشیرالدین محمود)

(عکس صفحہ نمبر 696)



## مرزا قادیانی کی کتابوں میں قرآن مجید والا نور اور ہدایت ہے

(202) ”اصلاح نفس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کی کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ باقاعدہ حضرت صاحب کی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر ہر ایک احمدی یہ فیصلہ کر لے کہ حضرت صاحب کی کسی کتاب کا روزانہ کم از کم ایک صفحہ کا مطالعہ کیا کروں گا تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود کی کتب میں وہ روشنی اور وہ معارف ہیں جو قرآن کریم میں مخفی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے ان کی اپنی کتب میں تشریح فرمائی ہے حتیٰ کہ ایک ادنیٰ لیاقت کا آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی کتب میں بھی وہ نور اور ہدایت ہے جو قرآن کریم میں ہے۔“

(تقریر دلپذیر صفحہ 25 مندرجہ انوار العلوم جلد 10 صفحہ 92، 93 از مرزا بشیر الدین محمود)  
(عکس صفحہ نمبر 697 پر)

## مرزا قادیانی کی کتابیں قرآن کی تفسیر ہیں

(203) ”تم بے شک ظاہری علوم پڑھو مگر دین کا علم ضرور حاصل کرو اور اپنے اندر دین کی باتیں سمجھنے اور اخذ کرنے کا ملکہ پیدا کرو۔ اس کے لیے ایک تو قرآن کریم سیکھو اور دوسرے حضرت صاحب کی کتابیں پڑھو اور خوب یاد رکھو کہ حضرت صاحب کی کتابیں قرآن کی تفسیر ہیں۔ کل میں ان کے متعلق ایک خاص نکتہ بتاؤں گا، آج صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ قرآن کی تفسیر ہیں، ان کو پڑھو۔“

(اصلاح نفس صفحہ 95 مندرجہ انوار العلوم جلد 5 صفحہ 447 از مرزا بشیر الدین محمود)  
(عکس صفحہ نمبر 699 پر)

## مرزا قادیانی کا طرز تحریر

(204) ”حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے 10، جولائی 1931ء کو جماعت کے مصنفوں، اخبار نویسوں اور مضمون نگاروں کو یہ اہم تحریک فرمائی کہ وہ حضرت مسیح موعود کی طرز تحریر اپنائیں تا ہمارے جماعتی لٹریچر ہی میں اس کا نقش قائم نہ ہو بلکہ دنیا کے ادب کا رنگ ہی اس میں ڈھل جائے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا:

”حضرت مسیح موعود کے وجود سے دنیا میں جو بہت سی برکات ظاہر ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی برکت آپ کا طرز تحریر بھی ہے۔ جس طرح حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے الفاظ جو ان کے حواریوں نے جمع کیے ہیں یا کسی وقت بھی جمع ہوئے، ان سے آپ کا ایک خاص طرز انشا ظاہر ہوتا ہے اور بڑے بڑے ماہرین تحریر اس کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود کا طرز تحریر بھی بالکل جداگانہ ہے اور اس کے اندر اس قسم کی روانی، زور اور سلاست پائی جاتی ہے کہ باوجود سادہ الفاظ کے، باوجود اس کے کہ وہ ایسے مضامین پر مشتمل ہے جن سے عام طور پر دنیا ناواقف نہیں ہوتی اور باوجود اس کے کہ انبیاء کا کلام مبالغہ، جھوٹ اور نمائشی آرائش سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا جذب اور کشش پائی جاتی ہے کہ جوں جوں انسان اسے پڑھتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے الفاظ سے بجلی کی تاریں نکل نکل کر جسم کے گرد لپٹی جا رہی ہیں اور یہ انتہا درجہ کی ناشکری اور بے قدری ہوگی، اگر ہم اس عظیم الشان طرز تحریر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے طرز تحریر کو اس کے مطابق نہ بنائیں۔“

نیز فرمایا:

”پس میں اپنی جماعت کے مضمون نگاروں اور مصنفوں سے کہتا ہوں کہ کسی کی فتح کی علامت یہ ہے کہ اس کا نقش دنیا میں قائم ہو جائے۔ پس جہاں حضرت مسیح موعود کا نقش قائم کرنا جماعت کے ذمہ ہے، آپ کے اخلاق کو قائم کرنا اس کے ذمہ ہے۔ آپ کے دلائل کو قائم رکھنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کی قوت قدسیہ اور قوت اعجاز کو قائم کرنا جماعت کے ذمہ ہے۔ آپ کے نظام کو قائم کرنا جماعت کے ذمہ ہے وہاں آپ کے طرز تحریر کو قائم رکھنا بھی جماعت کے ذمہ ہے۔“

اس ضمن میں حضور نے اپنا تجربہ بتایا کہ:

”میں نے ہمیشہ یہ قاعدہ رکھا ہے۔ خصوصاً شروع میں جب مضمون لکھا کرتا تھا۔ پہلا مضمون جو میں نے تشہید میں لکھا، وہ لکھنے سے قبل میں نے حضرت مسیح موعود کی تحریروں کو پڑھا، تاکہ اس رنگ میں لکھ سکوں اور آپ کی وفات کے بعد جو کتاب میں نے لکھی، اس سے پہلے آپ کی تحریروں کو پڑھا اور میرا تجربہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس سے میری تحریر میں ایسی برکت پیدا ہوئی کہ ادیبوں سے بھی میرا مقابلہ ہوا اور اپنی قوت ادبیہ کے باوجود انہیں نچا دیکھنا پڑا۔“ (روزنامہ الفضل 16 جولائی 1931ء صفحہ 5)

(قادیانی روزنامہ الفضل چناب نگر، 8 ستمبر 2007ء) (عکس صفحہ نمبر 700 پر)



ثبوت حاضر ہیں!

مرزا قادیانی  
بجائت  
ایک طیب



آنجمانی مرزا قادیانی مدعی نبوت و رسالت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طبیب ہونے کا دعوے دار بھی تھا۔ جس طرح اس کی پنجمبری ہر قسم کے پیغام سے خالی تھی، اسی طرح اس کی طب بھی ہر قسم کی حکمت سے خالی تھی۔ ”نیم حکیم خطرہ جاں“ کی ضرب المثل اس پر پوری طرح صادق آتی تھی۔ بالکل اس شخص کی طرح جس نے اپنے دوست سے کہا تھا: یارا! میری بھینس بہت بیمار ہے۔ دوست نے جواب دیا: اسے ایک بوتل مٹی کا تیل پلا دو۔ وہ شخص اپنے گھر گیا اور بھینس کو مٹی کا تیل پلا دیا۔ چند منٹوں بعد بھینس مر گئی۔ وہ شخص بھاگ بھاگ اپنے دوست کے پاس واپس آیا اور پریشانی کے عالم میں بولا: یارا! میں نے تمہارے تجویز کردہ نسخہ کے مطابق بھینس کو مٹی کا تیل پلایا لیکن وہ تو منٹوں میں مر گئی۔ دوست نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا: ”میری بھینس بھی اسی طرح مر گئی تھی۔“

مرزا قادیانی ایک دائم المرض آدمی تھا جسے بیسیوں بیماریاں لاحق تھیں جو اس کے جسم پر ناسور بن کر ہمہ وقت کرکٹ میچ کھیلتی رہتی تھیں۔ بھلا سوچیے! ایسا شخص دوسروں کا کیا علاج کر سکتا ہے؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے اور دوسروں کے علاج میں استعمال ہونے والی اشیاء وغیرہ میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا تھا۔ جبکہ شافع محشر حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”حرام چیزوں سے علاج نہ کیا جائے۔“ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے: ”اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی جنہیں تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔“ یاد رہے مرزا قادیانی جو ادویات استعمال کرتا، ان میں شراب، افیون، بھنگ اور دھتورہ وغیرہ کا خوب استعمال ہوتا۔ بقول مرزا قادیانی طب کا علم اس نے اپنے والد غلام مرتضیٰ سے حاصل کیا جو نہایت حاذق طبیب تھا۔ ظاہر ہے جیسا سوتا، ویسا ہی دھارا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا طریقہ علاج کیا تھا؟

## حکمت کی کتابیں، تفسیر قرآن ہیں

مرزا قادیانی اپنے ایک کشف میں لکھتا ہے:

(205) ”ایک دفعہ مجھے بعض محقق اور حاذق طبیبوں کی بعض کتابیں کشفی رنگ میں دکھلائی گئیں جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ اور اصول علمیہ اور ستہ ضروریہ وغیرہ کی بحث پر مشتمل اور متضمن تھیں، جن میں طبیب حاذق قرشی کی کتاب بھی تھی۔ اور اشارہ کیا گیا کہ یہی تفسیر قرآن ہے..... اور جب میں نے ان کتابوں کو پیش نظر رکھ کر جو طب جسمانی کی کتابیں تھیں، قرآن شریف پر نظر ڈالی تو وہ عمیق در عمیق طب جسمانی کے قواعد کلیہ کی باتیں نہایت بلیغ پیرایہ میں قرآن شریف میں موجود پائیں۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 628، 629 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 701 پر)

## مرزا قادیانی کی علم طب میں دسترس

مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے:

(206) ”خاکسار عرض کرتا ہے، کہ طبابت کا علم ہمارا خاندانی علم ہے اور ہمیشہ سے ہمارا خاندان اس علم میں ماہر رہا ہے۔ دادا صاحب نہایت ماہر اور مشہور حاذق طبیب تھے۔ تایا صاحب نے بھی طب پڑھی تھی۔ حضرت مسیح موعود بھی علم طب میں خاصی دسترس رکھتے تھے۔ اور گھر میں ادویہ کا ایک ذخیرہ رکھا کرتے تھے۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 44 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 703 پر)

## کچلہ کوئین فولاد

(207) ”مفتی محمد صادق صاحب نے بیان کیا:

حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں ایک صاحب جو غالباً ریاست جیپہ کے رہنے والے تھے، بیمار ہو کر علاج کے واسطے قادیان آئے، اور پیر سراج الحق صاحب کے مکان پر انہوں نے قیام کیا۔ پیر صاحب نے ان کی سفارش حضرت صاحب سے کی کہ یہ بیمار رہتے

ہیں۔ حضور ان کے لیے دعا کریں۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی تو حضور کو الہام ہوا:  
 ”کچلہ کونین فولاد یہ ہے دوائے ہمزاد“  
 (تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 674 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 704 پر)  
 یعنی کچلہ کھائیں اور قبرستان جائیں!

## نیم حکیم، خطرہ جان

مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی کتاب میں لکھتا ہے:  
 (208) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ علاج کے معاملہ میں حضرت مسیح موعود کا طریق تھا کہ کبھی ایک قسم کا علاج نہ کرتے تھے، بلکہ ایک ہی بیماری میں انگریزی دوا بھی دیتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ یونانی بھی دیتے جاتے تھے۔ پھر جو کوئی شخص مفید بات کہہ دے اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ اور اگر کسی کو خواب میں کچھ معلوم ہوا تو اس پر بھی عمل فرماتے تھے۔ پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے تھے۔ اور ایک ہی وقت میں ڈاکٹروں اور حکیموں سے مشورہ بھی لیتے تھے اور طب کی کتاب دیکھ کر بھی علاج میں مدد لیتے تھے۔ غرض علاج کو ایک عجیب رنگ کا مرکب بنا دیتے تھے۔ اور اصل بھروسہ آپ کا خدا پر ہوتا تھا۔“  
 (سیرت الہدی جلد سوم صفحہ 270 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 705 پر)  
 عجیب مماثلت ہے۔ مرزا قادیانی کے دعاوی بھی مرکب، خاندان بھی مرکب، اور اب طب بھی مرکب۔ میرے خیال میں یہ طریقہ علاج نہیں بلکہ چوں چوں کا ”مرکب“ ہے۔ ایک ایسا شخص جسے (نعوذ باللہ) سب نبیوں اور رسولوں سے افضل ہونے کا دعویٰ ہے، فن طبابت میں بالکل ناکام ہے۔ معمولی علم رکھنے والا ہر شخص بھی یہ بات جانتا ہے کہ کسی مریض کا ایک ہی وقت میں ایلو پیتھک اور یونانی علاج نہیں کیا جاتا۔ اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے اس کے بغیر بھینس مرتی بھی تو نہیں۔

## پنجمیری ادویات

(209) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مفصلہ ذیل ادویات

حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) ہمیشہ اپنے صندوق میں رکھتے تھے اور انہی کو زیادہ استعمال کرتے تھے۔ انگریزی ادویہ میں کونین، ایسٹن سیرپ، فولاد، ارگٹ، وائیکیم اپی کاک، کوکا اور کولا کے مرکبات، سپرٹ ایمنو، بیدمشک، سٹرنس وائن آف کاڈلور آئل، کلوروڈین کاکل پل سلفیورک ایسڈ ایروٹیک۔ سکاٹس ایملشن رکھا کرتے تھے اور یونانی میں سے مشک، عنبر، کافور، ہنگ، جدوار، اور ایک مرکب جو خود تیار کیا تھا یعنی تریاق الہی رکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ہنگ غربا کی مشک ہے اور فرماتے تھے کہ افیون میں عجیب و غریب فوائد ہیں۔ اسی لیے اسے حکمانے تریاق کا نام دیا ہے۔ ان میں سے بعض دوائیں اپنے لیے ہوتی تھیں اور بعض دوسرے لوگوں کے لیے۔ کیونکہ اور لوگ بھی حضور کے پاس دوا لینے آیا کرتے تھے۔

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 284 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 706 پر)

### ممنوعہ چیزیں ”بھنگ و دھتورہ افیون“ سب جائز

(210) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے سل وق کے مریض کے لیے ایک گولی بنائی تھی۔ اس میں کونین اور کافور کے علاوہ افیون، بھنگ اور دھتورہ وغیرہ زہریلی ادویہ بھی داخل کی تھیں اور فرمایا کرتے تھے کہ دوا کے طور پر علاج کے لیے اور جان بچانے کے لیے ممنوع چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 111 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 707 پر)

### افیون

(211) ”مجھے اس وقت اپنا سرگزشت قصہ یاد آتا ہے اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض وقت سو دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آتا ہے بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے، کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ



ہمدردی فرمائی۔ لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی اور دوسرا افیونی۔“  
 (”نسیم دعوت“ صفحہ 67، روحانی خزائن صفحہ 434، 435 جلد 19 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 708 پر)

□ افیون دواؤں میں اس کثرت سے استعمال ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) فرمایا کرتے تھے کہ بعض اطبا کے نزدیک وہ نصف طب ہے۔ پس دواؤں کے ساتھ افیون کا استعمال بطور دوا نہ کہ بطور نشہ کسی رنگ میں بھی قابل اعتراض نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص نے علم کے ساتھ یا بغیر علم کے ضرور کسی نہ کسی وقت افیون کا استعمال کیا ہوگا۔  
 حضرت مسیح موعود نے تریاق الہی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا ایک بڑا جزو افیون تھا اور یہ دوا کسی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول (حکیم نور الدین صاحب) کو حضور (مرزا قادیانی) چھ ماہ سے زائد تک دیتے رہے اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے۔  
 (مضمون میاں محمود احمد صاحب، خلیفہ قادیان، مندرجہ اخبار ”الفضل“ جلد 17 نمبر 6 صفحہ 2 مورخہ 19 جولائی 1929ء)

(212) ”مجھے بچپن میں بیماری کی وجہ سے افیون دیتے تھے۔ چھ ماہ متواتر دیتے رہے۔“  
 (”منہاج الطالبین“ صفحہ 74، مندرجہ انوار العلوم جلد 9 صفحہ 220، از مرزا بشیر الدین محمود)  
 (عکس صفحہ نمبر 710 پر)

### سنگھیا

□ ”جب مخالفت زیادہ بڑھی اور حضرت مسیح موعود کو قتل کی دھمکیوں کے خطوط موصول ہونے شروع ہوئے تو کچھ عرصے تک آپ نے سنگھیا کے مرکبات استعمال کیے تاکہ خدا نخواستہ آپ کو زہر دیا جائے تو جسم میں اس کے مقابلے کی طاقت ہو۔“  
 (ارشاد میاں محمود احمد صاحب، خلیفہ قادیان، مندرجہ اخبار ”الفضل“ قادیان، جلد 22، نمبر 99، صفحہ 4، مورخہ 5 فروری 1935ء)

## دو بوتل برانڈی

□ ”حضور (مرزا قادیانی) نے مجھے لاہور سے بعض اشیاء لانے کے لیے ایک فہرست لکھ کر دی۔ جب میں چلنے لگا تو پیر منظور محمد صاحب نے مجھے روپیہ دے کر کہا کہ دو بوتل برانڈی کی میری اہلیہ کے لیے پلومر کی دکان سے لیتے آئیں۔ میں نے کہا کہ اگر فرصت ہوئی تو لیتا آؤں گا۔ پیر صاحب فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور مہدی حسین میرے لیے برانڈی کی بوتل نہیں لائیں گے۔ حضور ان کو تاکید فرما دیں۔ حقیقتہً میرا ارادہ لانے کا نہ تھا۔ اس پر حضور اقدس (مرزا قادیانی) نے مجھے بلا کر فرمایا کہ میاں مہدی حسین! جب تک تم برانڈی کی بوتلیں نہ لے لو، لاہور سے روانہ نہ ہونا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب میرے لیے لانا لازمی ہے۔ میں نے پلومر کی دکان سے دو بوتلیں برانڈی کی غالباً چار روپیہ میں خرید کر پیر صاحب کو لادیں۔ ان کی اہلیہ کے لیے ڈاکٹروں نے بتلائی ہوں گی۔“

(اخبار ”الحکم“ قادیان، جلد 39، نمبر 25، مورخہ 7 نومبر 1936ء)

## ٹانک وائٹن

مجی اخویم حکیم محمد حسین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

(213) ”اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیا خریدنی خود خریدیں اور ایک بوتل ٹانک وائٹن کی پلومر کی دکان سے خریدیں مگر ٹانک وائٹن چاہیے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام (مرزا غلام احمد)

(خطوط امام بنام غلام، صفحہ 5، مجموعہ مکتوبات، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، بنام حکیم محمد حسین قریشی صاحب قادیانی، مالک دو خانہ رفیق الصحت لاہور) (عکس صفحہ نمبر 711 پر)

□ ”ٹانک وائٹن کی حقیقت لاہور میں پلومر کی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب جواباً تحریر فرماتے ہیں حسب ارشاد پلومر کی دکان سے دریافت کیا گیا، جواب حسب ذیل ملا:

”ٹانک وائٹن ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سر بند

ہوتوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت ڈیڑھ روپیہ ہے۔“ (21 ستمبر 1933ء)  
 (“سودائے مرزا، صفحہ 39، حاشیہ، طبع دوم، مصنفہ حکیم محمد علی صاحب، پرنسپل طبیہ کالج امرتسر)

## ٹانک وائٹن کا فتویٰ

□ ”پس ان حالات میں اگر حضرت مسیح موعود براہی اور رم کا استعمال بھی اپنے مریضوں سے کرواتے یا خود بھی مرض کی حالت میں کر لیتے تو وہ خلاف شریعت نہ تھا۔ چہ جائیکہ ٹانک وائٹن جو ایک دوا ہے۔ اگر اپنے خاندان کے کسی ممبر یا دوست کے لیے جو کسی لمبے مرض سے اٹھا ہو اور کمزور ہو یا بالفرض محال خود اپنے لیے بھی منگوائی ہو اور استعمال بھی کی ہو تو اس میں کیا حرج ہو گیا۔ آپ کو ضعف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے، نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود ایسی حالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ نبض کا پتہ نہیں ملتا تھا تو اطبا یا ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹانک وائٹن کا استعمال اندریں حالات کیا ہو تو عین مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام تمام دن تصنیفات کے کام میں لگے رہتے تھے۔ راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ بڑھاپا بھی پڑتا تھا تو اندریں حالات اگر ٹانک وائٹن بطور علاج پی بھی لی ہو تو کیا قباحت لازم آگئی۔“

(از ڈاکٹر بشارت احمد صاحب قادیانی، فریق لاہوری، مندرجہ اخبار ”پیغام صلح“ جلد 23، نمبر 15، مورخہ 4 مارچ 1935ء، جلد 23، نمبر 65، مورخہ 11 اکتوبر 1935ء)

## حالتِ مردی

(214) ”ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا، اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا، میری حالتِ مردی کا عدم تھی، اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا کہ آپ باعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے..... غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی، اور مجھے اس نے دفع مرض کے لیے اپنے الہام کے

ذریعہ سے دوائیں بتلائیں۔ اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ وہ دوا میں نے طیار کی اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلی یقین سے معلوم کیا کہ وہ پڑ صحت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے، وہ مجھے دی گئی اور چار لڑکے مجھے عطا کیے گئے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 98، 99 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 712 پر)

## قادیانی ویانگرا

(215) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حافظ حامد علی صاحب خادم حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) بیان کرتے تھے کہ جب حضرت صاحب نے دوسری شادی کی تو ایک عمر تک تجرد میں رہنے اور مجاہدات کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے قویٰ میں ضعف محسوس کیا۔ اس پر وہ الہامی نسخہ جو ”زوجام عشق“ کے نام سے مشہور ہے، بنوا کر استعمال کیا۔ چنانچہ وہ نسخہ نہایت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت خلیفہ اول بھی فرماتے تھے کہ میں نے یہ نسخہ ایک بے اولاد امیر کو کھلایا تو خدا کے فضل سے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس پر اس نے ہیرے کے کڑے ہمیں نذر دیئے۔“

نسخہ زوجام عشق یہ ہے جس میں ہر حرف سے دوا کے نام کا پہلا حرف مراد ہے۔  
زعفران، دارچینی، جائقفل (جند بیدستر) انیون، مشک، عقرقرحہ، شکر، قزقل  
یعنی لونگ، ان سب کو ہم وزن کوٹ کر گولیاں بناتے ہیں اور روغن سم الفار میں چرب کر کے رکھتے ہیں اور روزانہ ایک گولی استعمال کرتے ہیں۔

الہامی ہونے کے متعلق دو باتیں سنی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ نسخہ ہی الہام ہوا تھا۔ دوسرے یہ کہ کسی نے یہ نسخہ حضور کو بتایا، اور پھر الہام نے اسے استعمال کرنے کا حکم دیا۔  
واللہ اعلم!“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 50، 51 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 714 پر)

## داماد اور قوت باہ

(216) ”بھی عزیز می اخویم نواب صاحب سلمہ تعالیٰ! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! کسی قدر تریاق جدید کی گولیاں ہمدست مرزا خدا بخش صاحب آپ کی خدمت میں ارسال ہیں اور کسی قدر اس وقت دے دوں گا جب آپ قادیان آئیں گے۔ یہ دوا تریاق الہی سے فوائد میں بہت بڑھ کر ہے۔ اس میں بڑی بڑی قابل قدر دوائیں پڑی ہیں۔ جیسے مشک، عنبر، زنبی، مروارید، سونے کا کشتہ، فولاد، یاقوت احمر، کونین، فاسفورس، کہربا، مرجان، صندل، کیوڑہ، زعفران۔ یہ تمام دوائیں قریب سو کے ہیں اور بہت سا فاسفورس اس میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ دوا علاج طاعون کے علاوہ مقوی دماغ، مقوی جگر، مقوی معدہ، مقوی باہ اور مراق کو فائدہ کرنے والی مصفی خون ہے۔ مجھ کو اس کے تیار کرنے میں اول تامل تھا کہ بہت سے روپیہ پر اس کا تیار کرنا موقوف تھا لیکن چونکہ حفظ صحت کے لیے یہ دوا مفید ہے، اس لے اس قدر خرچ گوارا کیا گیا۔ چالیس تولہ سے کچھ زیادہ اس میں یاقوت احمر ہے۔ اگر خریدا جاتا تو شاید کئی سو روپیہ سے آتا.....“

خوراک اس کی اول استعمال میں دورتی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ گرمی نہ کرے۔ نہایت درجہ مقوی اعصاب ہے اور خارش اور شجورات اور جذام اور ذیابیطس اور انواع و اقسام کے خطرناک امراض کے لیے مفید ہے اور قوت باہ میں اس کا ایک عجیب اثر ہے۔“

(خاکسار مرزا غلام احمد 29 اگست 1899ء)

(مرزا قادیانی کا اپنے داماد نواب محمد علی کے نام، مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ 250 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 716 پر)

## بھنگ، افیون شراب کے بہن بھائی ہیں

(217) ہر ایک شے کے لیے چالیس دن ہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ شراب اور اُس کے بہن بھرا (بھنگ، افیون وغیرہ) ایسی خراب شے ہیں کہ ان سے مٹی پلید ہوتی ہے۔“  
(ملفوظات جلد دوم صفحہ 423 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 717 پر)

## ”دست شریف“ میں دودھ کا استعمال

(218) ”دودھ کا استعمال آپ اکثر رکھتے تھے اور سوتے وقت تو ایک گلاس ضرور پیتے تھے اور دن کو بھی پچھلے دنوں میں زیادہ استعمال فرماتے تھے کیونکہ یہ معمول ہو گیا تھا کہ ادھر دودھ پیا اور ادھر دست آ گیا۔ اس لیے بہت ضعف ہوتا جاتا تھا۔ اس کے دور کرنے کو دن میں تین چار مرتبہ تھوڑا تھوڑا دودھ طاقت قائم کرنے کو پی لیا کرتے تھے۔“

(سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 134 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 718 پر)

علم طب کی رُو سے دستوں کے دوران دودھ استعمال کرنا نہایت مضر صحت ہے۔ مگر مرزا قادیانی تو دست بہ دست ”جنگ مقدس“ کا ماہر تھا۔

## سوڈا وغیرہ

(219) ”زمانہ موجودہ کے ایجادات مثلاً برف اور سوڈا لیمنیڈ جنہر وغیرہ بھی گرمی کے دنوں میں پی لیا کرتے تھے بلکہ شدت گرمی میں برف بھی امر تسر لاہور سے خود منگوا لیا کرتے تھے۔“

(سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 134 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 719 پر)

## تریاق الہی؟

(220) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود نے طاعون کے ایام میں ایک دوائی تریاق الہی تیار کرائی تھی۔ حضرت خلیفہ اول نے ایک بڑی تھیلی یا قوتوں کی پیش کی۔ وہ بھی سب پسوا کر اس میں ڈلوادیے۔ لوگ کوٹھے پیستے تھے۔ آپ اندر جا کر دوائی لاتے اور اس میں ملواتے جاتے تھے۔ کونین کا ایک بڑا ڈبہ لائے اور وہ بھی سب اسی کے اندر لٹا دیا۔ اسی طرح وائیکیم اپنی کاک کی ایک بوتل لا کر ساری الٹ دی۔ غرض دیکھی اور انگریزی اتنی دوائیاں ملا دیں کہ حضرت خلیفہ اول فرمانے لگے کہ طبی طور پر تو اب اس مجموعہ میں کوئی جان اور اثر نہیں رہا۔ بس روحانی اثر ہی ہے۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 218 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 720 پر)

اور جہاں تک روحانی اثر کا تعلق ہے، مندرجہ ذیل حوالہ ملاحظہ فرمائیں:

## شربت کی جگہ تیل

(221) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کی اولاد میں آپ کی لڑکی عصمت ہی صرف ایسی تھی جو قادیان سے باہر پیدا ہوئی اور باہر ہی فوت ہوئی۔ اس کی پیدائش انبالہ چھاؤنی کی تھی اور فوت وہ لدھیانہ میں ہوئی۔ اسے ہیضہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کو شربت پینے کی عادت پڑ گئی تھی، یعنی وہ شربت کو پسند کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود اس کے لیے شربت کی بوتل ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ رات کو وہ اٹھا کرتی تو کہتی ابا شربت پینا۔ آپ فوراً اٹھ کر شربت بنا کر اسے پلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز لدھیانہ میں اس نے اسی طرح رات کو اٹھ کر شربت مانگا۔ حضرت صاحب نے اسے شربت کی جگہ غلطی سے چنبیلی کا تیل پلا دیا۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 259 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 721 پر)

حالانکہ مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(222) ”اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پر ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا، اور مجھے ہر ایک غلط بات سے محفوظ رکھتا ہے۔“

(نور الحق صفحہ 86 مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 272 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 722 پر)

## کھانسی کا علاج

(223) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کو سخت کھانسی ہوئی۔ ایسی کہ دم نہ آتا تھا۔ البتہ منہ میں پان رکھ کر قدرے آرام معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے اس حالت میں پان منہ میں رکھے رکھے نماز پڑھی، تاکہ آرام سے پڑھ سکیں۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 103 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 723 پر)

## گنے سے کھانسی کا علاج

(224) ”سفر گورداسپور میں 1903ء میں ایک دفعہ حضرت صاحب کو کھانسی کی شکایت تھی۔ میں نے عرض کی کہ میرے والد مرحوم اس کا علاج گرم کیا ہوا گنا بتلایا کرتے تھے۔ تب حضور کے فرمانے سے ایک گنا چند پوریاں لے کر آگ پر گرم کیا گیا اور اس کی گنڈیریاں بنا کر حضور کو دی گئیں اور حضور نے چوسیں۔“

(ذکر حبیب صفحہ 111 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 724 پر)

## پھوڑے کا علاج

(225) ”حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے ٹخنے کے پاس پھوڑا ہو گیا تھا۔ جس پر حضرت صاحب نے اس پر سکہ یعنی سیسہ کی ٹکیا بندھوائی تھی جس سے آرام آ گیا۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 28 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 725 پر)

## بال بڑھانے کی دوا

(226) ”آخری عمر میں حضور کے سر کے بال بہت پتلے اور ہلکے ہو گئے تھے۔ چونکہ یہ عاجز ولایت سے ادویہ وغیرہ کے نمونے منگوا یا کرتا تھا۔ غالباً اس واسطے مجھے ایک دفعہ فرمایا۔ مفتی صاحب سر کے بالوں کے اگانے اور بڑھانے کے واسطے کوئی دوائی منگوائیں۔“

(ذکر حبیب صفحہ 173 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 726 پر)

## مفت بر

(227) ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!“

جزاکم اللہ خیراً کثیراً فی الدنیا والآخرۃ۔ دوا پہنچ گئی۔ ایک اشتہار بالوں کی کثرت کا شاید لندن میں کسی نے دیا ہے، اور مفت دوا بھیجتا ہے۔ آپ وہ دوا بھی منگوائیں



تاکہ آزمائی جائے۔ لکھتا ہے کہ اس سے منجے بھی شفا پاتے ہیں۔ والسلام“  
 مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ“  
 (ذکر حبیب صفحہ 360 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 727 پر)

## چچا زاد بھائی سے علاج

(228) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کا ایک چچیرا بھائی مرزا کمال الدین تھا۔ یہ شخص جوانی میں فقرا کے پھندے میں پھنس گیا تھا۔ (شکر ہے آپ کے دھندے میں نہیں پھنسا۔ ناقل) اس لیے دنیا سے کنارہ کش ہو کر بالکل گوشہ گزین ہو گیا۔ مگر وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح حضرت صاحب سے پر خاش نہ رکھتا تھا۔ علاج معالجہ اور دم تعویذ بھی کیا کرتا تھا، اور بعض عمدہ عمدہ نسخے اس کو یاد تھے۔ چنانچہ ہماری والدہ صاحبہ میاں محمد اسحاق کے علاج کے لیے ان سے ہی گولیاں اور ادویہ وغیرہ منگایا کرتی تھیں اور حضرت صاحب کو بھی اس کا علم تھا۔ آپ بھی فرماتے تھے کہ کمال الدین کے بعض نسخے اچھے ہیں۔“  
 (سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 234 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 728 پر)  
 یعنی گھروالے بھی مرزا قادیانی کی طبابت پر یقین نہ رکھتے تھے اور دوسروں سے علاج کرواتے تھے۔ اور جب کبھی کوئی طبیب نہ ملتا تو پھر مجبوراً وہ مرزا قادیانی سے علاج کرواتے۔ اور مرزا قادیانی کس طرح علاج کرتا تھا، ملاحظہ فرمائیں:

## مرغاذخ کر کے.....

(229) ”حضرت والدہ صاحبہ یعنی ام المؤمنین اطال اللہ بقائہا نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مرزا نظام الدین صاحب کو سخت بخار ہوا، جس کا دماغ پر بھی اثر تھا۔ اس وقت کوئی اور طبیب یہاں نہیں تھا۔ مرزا نظام الدین صاحب کے عزیزوں نے حضرت صاحب کو اطلاع دی اور آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور مناسب علاج کیا۔ علاج یہ تھا کہ آپ نے مرغاذخ کرا کے سر پر باندھا، جس سے فائدہ ہو گیا۔ اس وقت باہمی سخت مخالفت تھی۔“  
 (سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 27 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 729 پر)

زیادہ بہتر تھا زندہ مرغ ہی سر پر بندھوا دیتے تاکہ بے چارے مرغ کی جان تونج جاتی..... نیز اس بہانے مرزا نظام الدین کی سماعتیں مرغ کی بانگ سے بھی مستفیض ہو جاتیں۔ قربان جائیں ایسی طبابت پر!

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بو العجیبست

## رسوا کن باتیں

(230) ”لا ابقی لک فی المنجزیات ذکراً“

اور اس (اللہ تعالیٰ) نے مجھے بشارت دی اور فرمایا، میں تیرے متعلق

رسوا کن باتوں کا ذکر تک نہیں چھوڑوں گا۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 371 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 730 پر)



نبوت حاضر ہیں!

مرزا قادیانی  
اور  
شاعری



مرزا قادیانی کی ادبی لیاقت بالکل زیرِ تہی۔ شعر و نثر میں مخالفین کو موٹی موٹی گالیاں دینا اس کی ”سلطانِ القلمی“ کا شرمناک نمونہ ہے۔ قواعد، عروض اور محاورات کا موصوف کو کچھ خیال نہ تھا۔ اس کی کوئی نظم کسی بھی معمولی شاعر کے سامنے رکھی جائے تو تخلیقیت کے وصف اور ادبیت کے جوہر کے لحاظ سے بالکل شاخ بے برگ نظر آتی ہے۔ اس نے شاعری کے میدان میں ایسے ایسے گل کھلائے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اس کے پیروکار ہمیشہ شرمندہ نظر آئیں گے۔ مرزا قادیانی نے شاعری کا وہ ستیاناس کیا کہ علم عروض کے ماتھے پر یہ جناب کلنگ کا ٹیکہ ہیں۔

یہ بات مسلمہ اصول میں شامل ہے کہ نبی شاعر نہیں ہوتا۔

جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

□ ”وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (یسین: 69)

(ترجمہ): اور نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شعر اور نہ یہ ان کے شایانِ شان ہے۔

اور اسی طرح قرآن کے بارے میں فرمایا:

□ ”وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ“ (الحاقہ: 41)

”اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔“

لیکن مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرنے کے باوجود شاعر تھا۔ اس کی شاعری ”فحش

ادب“ کا ایک اہم تر نمونہ ہے۔ وہ اپنی ”ناموزوں“ شاعری میں عورت کو خواہ مخواہ برہنہ کر کے

اپنی شاعری میں گھسیٹ لاتا ہے اور یہ سب کچھ اس کے خبیث باطن کا کرشمہ ہے۔ مرزا قادیانی

ایک آوارہ مزاج اور بدقماش شاعر تھا جو اپنی پوری رذالتوں کے ساتھ خیر کے نام پر شر پھیلاتا

رہا۔ اس کی شاعری ہر قادیانی گھرانے میں موجود ہے جسے بڑی محبت اور شوق سے پڑھا جاتا

ہے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والے قادیانی لڑکے اور لڑکیاں پاکیزگی اور ناپاکی میں کیا

فرق کر سکتے ہیں۔ بصیرت سے محروم یہ نسل، جہالت کی تاریکی میں مخصوص ”قادیانی کارنامے“ انجام دے کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔

مرزا قادیانی ”شاعر اور شاعری“ کے بارے میں لکھتا ہے:

(231) ”کوئی شاعر اس بات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا کہ اس کا کلام ہر ایک قسم کے کذب اور ہزل اور غیر ضروری باتوں سے پاک اور ضروری اور لابدی امور پر احاطہ رکھتا ہے۔ پھر جبکہ شاعروں کی فضول باتوں کو وہ مراتب حاصل نہیں ہیں کہ جو خدائے تعالیٰ کے پاک کلام کو حاصل ہیں اور نہ اس بارے میں شاعر کچھ دم مارتے ہیں اور نہ ذمہ دار بنتے ہیں، بلکہ اپنے عجز کے آپ ہی اقراری ہیں تو کلام الہی کے مقابلہ پر ان کا ناچیز کلام پیش کرنا کیسی سفاہت اور نادانی ہے۔ شاعر تو اگر مر بھی جاویں تو صداقت اور راستی و ضرورتِ حقہ کا اپنے کلام میں التزام نہ کر سکیں۔ وہ تو بغیر فضول گوئی کے بول ہی نہیں سکتے اور ان کی ساری کل فضول اور جھوٹ پر ہی چلتی ہے۔ اگر جھوٹ نہیں یا فضول گوئی نہیں تو پھر شعر بھی نہیں۔ اگر تم ان کا فقرہ فقرہ تلاش کرو کہ کس قدر جقائق دقائق ان میں جمع ہیں۔ کس قدر راستی اور صداقت کا التزام ہے۔ کس قدر حق اور حکمت پر قیام ہے۔ کس ضرورتِ حقہ سے وہ باتیں ان کے منہ سے نکلی ہیں اور کیا کیا اسرارِ بیمثل و مانند ان میں لپٹے ہوئے ہیں تو تمہیں معلوم ہو کہ ان تمام خوبیوں میں سے کوئی بھی خوبی ان کی مردہ عبارات میں پائی نہیں جاتی۔ ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جس طرف قافیہ ردیف ملتا نظر آیا، اسی طرف جھک گئے اور جو مضمون دل کو اچھا لگا وہی جھک ماری۔ نہ حق اور حکمت کی پابندی ہے اور نہ فضول گوئی سے پرہیز ہے اور نہ یہ خیال ہے کہ اس کلام کے یولنے کے لیے کوئی سخت ضرورت درپیش ہے اور اس کے ترک کرنے میں کونسا سخت نقصان عائد حال ہے۔ ناحق بے فائدہ فقرہ سے فقرہ ملاتے ہیں۔ سر کی جگہ پاؤں، پاؤں کی جگہ سر لگاتے ہیں۔ سراب کی طرح چمک تو بہت ہے پر حقیقت دیکھو تو خاک بھی نہیں۔ شعبدہ باز کی طرح صرف کھیل ہی کھیل، اصلیت دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ نادار، ناطاقت اور ناتوان اور گئے گزرے ہیں۔ آنکھیں اندھی اور اس پر عشوہ گری ان کی نسبت نہایت ہی نرمی کیجیے تو یہ کہیے کہ وہ سب ضعیف اور ہیچ ہونے کی وجہ سے عنکبوت کی طرح ہیں اور ان کے اشعار بیب عنکبوت ہیں۔ ان کی نسبت خداوند کریم نے خوب فرمایا ہے وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.“

ترجمہ: رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر دادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔“

(الشعراء: 224، 226)

(براہین احمدیہ جلد اول صفحہ 467 تا 469 مندرجہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 467 تا 469 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 731 تا 733 پر)

ان ساری باتوں کے برعکس مرزا قادیانی کی عشقیہ شاعری ملاحظہ فرمائیں:

(232) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ مرزا سلطان احمد صاحب سے مجھے حضرت مسیح موعود کی ایک شعروں کی کاپی ملی ہے جو بہت پرانی معلوم ہوتی ہے۔ غالباً نوجوانی کا کلام ہے۔ حضرت صاحب کے اپنے خط میں ہے جسے میں پہچانتا ہوں۔ بعض شعر بطور نمونہ درج ذیل ہیں۔“

عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا

ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے

کچھ مزا پایا مرے دل! ابھی کچھ پاؤ گے

تم بھی کہتے تھے کہ اُلفت میں مزا ہوتا ہے

ہائے کیوں ہجر کے الم میں پڑے

مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے

اس کے جانے سے صبر دل سے گیا

ہوش بھی ورطہٴ عدم میں پڑے

سبب کوئی خداوند بنا دے

کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے

کرم فرما کے آ او میرے جانی

بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے

کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر

دلا اک بار شور و غل مچا دے

نہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ پا کی  
 سمجھ ایسی ہوئی قدرت خدا کی  
 مرے بت اب سے پردہ میں رہو تم  
 کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی

.....  
 نہیں منظور تھی گر تم کو اُلفت  
 تو یہ مجھ کو بھی جتلیا تو ہوتا  
 مری دسوزیوں سے بے خبر ہو  
 مرا کچھ بھید بھی پایا تو ہوتا  
 دل اپنا اس کو دوں یا ہوش یا جاں  
 کوئی اک حکم فرمایا تو ہوتا

.....  
 اس کاپی میں کئی شعر ناقصی ہیں۔ یعنی بعض جگہ مصرع اول موجود ہے۔ مگر دوسرا  
 نہیں ہے اور بعض جگہ دوسرا ہے مگر پہلا ندارد۔ بعض اشعار نظر ثانی کے لیے بھی چھوڑے ہوئے  
 معلوم ہوتے ہیں۔ اور کئی جگہ فرخ تخلص استعمال کیا ہے۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 332، 333 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ 734، 735 پر)

### بھینی بھینی خوشبو

(233) ”حضرت مسیح موعود کے اردو اشعار جن کی تمام اردو لٹریچر میں کوئی نظیر موجود نہیں،  
 جس کی بھینی بھینی خوشبو دل و دماغ کو حیات تازہ بخشتی اور روح کو فرحت پہنچاتی ہے۔“  
 (پیش لفظ در شین از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 736 پر)



## قادریانی ترانہ

(234) ”چپکے چپکے حرام کروانا  
 آریوں کا اصول بھاری ہے  
 زن بیگانہ پر یہ شیدا ہیں  
 جس کو دیکھو وہی شکاری ہے  
 غیر مردوں سے مانگنا نطفہ  
 سخت خبث اور نابکاری ہے  
 غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے  
 وہ نہ بیوی زن بزاری ہے  
 نام اولاد کے حصول کا ہے  
 ساری شہوت کی بے قراری ہے  
 بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط  
 یار کی اس کو آہ و زاری ہے  
 دس سے کروا چکی زنا لیکن  
 پاک دامن ابھی بچاری ہے  
 گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو  
 ایسی جوڑو کی پاسداری ہے  
 اس کے یاروں کو دیکھنے کے لیے  
 سر بازار ان کی باری ہے  
 ہے قوی مرد کی تلاش انہیں  
 خوب جوڑو کی حق گذاری ہے“

(آریہ دھرم صفحہ 75، 76 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 75، 76 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ 737، 738 پر)

## مرزا قادیانی کی شاعری سے قبض دور ہو جاتا ہے

مرزا قادیانی اپنی شاعری کے بارے میں لکھتا ہے:

□ ”اشعار میں اپنے مضامین کو بیان کرنے کی ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض طبائع اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کو نثر عبارت میں ہزار پیرایہ لطیف میں کوئی صداقت بتائی جائے، وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن اسی مفہوم کو اگر ایک برجستہ شعر میں منظوم کر کے سنایا جاوے تو شعر کی لطافت ان پر بہت کچھ اثر کر جاتی ہے۔ شعر کو سن کر پھڑک اٹھتے ہیں اور حق کو شعر کے ذریعہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال طبیب کے اس معالجہ جسمانی کی طرح ہے کہ جب طبیب دیکھتا ہے کہ مریض کو منہ کی راہ سے اب دوا مفید نہیں ہوگی تو پھر بیمار کے لیے حقہ تجویز کرتا ہے اور اس ذریعہ سے بیمار کی قبض دور ہو جاتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سو یہی حال ہمارے شعر و سخن کا ہے۔ اور تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ بعض طبائع کے لیے مضامین شعریہ بہ نسبت مضامین نثر کے زیادہ موثر ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن شریف مقفی اور مسجع عبارت میں نازل ہوا ہے۔ اگر یہ باعث نہ ہوتی تو ہمیں اشعار کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اکثر لوگوں کو بہت کچھ دلائل دے کر سمجھایا گیا مگر کارگر نہ ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے اشعار پڑھے تو یہ اشعار انہی منکرین پر بہت اثر کر گئے۔ اور فوراً انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔“

(الحکم قادیان 28 اگست 7 ستمبر 1938ء صفحہ 2)

## پاکیزہ جذباتِ عشق میں ڈوبا ہوا کلام

مرزا قادیانی کی شاعری کے متعلق قادیانی جماعت کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر کا

کہنا ہے:

□ ”ایک شعر، ایک مصرعہ، ایک ایک لفظ سچائی میں ڈوبا ہوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کا کلام ہی آپ کی سچائی کی دلیل ہے۔ کوئی سعید فطرت انسان اگر اس کلام کو سنے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کلام کے کہنے والے کے حق میں اس سچائی کی گواہی نہ دے۔ حیرت انگیز طور پر پاکیزہ جذباتِ عشق میں ڈوبا ہوا یہ کلام سن کر روح پر وجد طاری ہو جاتا ہے..... حضرت مسیح موعود کا کلام یاد کریں اور درویشوں کی طرح گاتے ہوئے قریہ قریہ

پھر اس کلام کی منادی کریں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے تمہاری نجات وابستہ ہے۔“

(روزنامہ الفضل 28 جون 1983ء)

## حیا سوز شاعری

مرزا قادیانی کی مخرب اخلاق اور حیا سوز شاعری کا مزید نمونہ ملاحظہ فرمائیں:

(235) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیح موعود کو کئی دفعہ یہ شعر پڑھتے سنا ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ زبان کے لحاظ سے یہ بڑا فصیح و بلیغ شعر ہے۔

یا تو ہم پھرتے تھے ان میں یا ہوا یہ انقلاب  
پھرتے ہیں آنکھوں کے آگے کوچہ ہائے لکھنؤ  
(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 253 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 739 پر)

مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(236) ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو  
اس سے بہتر غلام احمد ہے  
(دافع البلاء صفحہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 240 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ 740 پر)

چہ نسبت خاک را با عالم پاک  
کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک  
فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات مرزا قادیانی کا مذکورہ بالا شعر اس طرح پڑھتے تھے۔

ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو  
اس سے بدتر غلام احمد ہے  
یاد رہے کہ ابن ملجم حضرت علی کا قاتل تھا۔

## نسلیں ہیں میری بے شمار

(237) میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں

نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار

(درمبین صفحہ 123 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 741 پر)

اس شعر میں ”نسلیں ہیں میری بے شمار“ سے مراد، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میری اتنی نسلیں ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دعویٰ مرزا قادیانی کے علاوہ شاید کسی نے نہ کیا ہو۔ قادیانیوں سے سوال ہے کہ براہ کرم وہ مرزا قادیانی کی چند نسلیں ضرور بتادیں۔ مگر قادیانی خطرات شاید اس لیے شرماتے ہیں کہ وہ سب ”او اس نسلیں“ ہیں۔ (عبداللہ حسین نے معذرت کے ساتھ)۔

## ہوں بشر کی جائے نفرت.....

(238) ”کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عاز“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 97 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 127 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 742 پر)

اس شعر میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خاک کا کیترا ہوں اور میں کسی انسان کی اولاد نہیں ہوں۔ البتہ میں بشر کی نفرت اور شرم والی جگہ ہوں۔ یاد رہے کہ ہر انسان کی جائے نفرت عقب اور پیش ہے۔ میں یہ فیصلہ قادیانیوں پر چھوڑتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ مرزا قادیانی کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ قادیانی اس شعر پر اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس شعر میں مرزا قادیانی نے نہایت عاجزی و انکساری کا اظہار کیا ہے۔ قادیانیوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں کا عجز و انکسار ہے کہ ایک آدمی، آدم زادہ ہونے سے انکار کر دے اور یہ اعلان کرنا پھرے کہ میں بشر کی جائے نفرت اور عار والی جگہ ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک جگہ تو مرزا قادیانی خود کو آدمیت سے خارج کر دے اور دوسری جگہ اپنے آپ کو نبیوں سے افضل قرار

دے۔ قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی مرزا قادیانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کے باہر دروازوں پر موٹے حروف سے مرزا قادیانی کا مذکورہ بالا شعر لکھوائیں تاکہ اس کی عاجزی اور انکساری عام ہو جائے۔ ہے کوئی قادیانی یہ جرأت کرنے والا؟ جبکہ مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

### خدا کا کلام

(239) ”یہ کلام جو میں سنا تا ہوں، یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے۔“

(کشتی نوح صفحہ 7 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 95 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 743 پر)





تعمیرت حاضر ہیں!

مرزا قادیانی  
ایک ڈپوکے اور  
بڑے شخص





نبوت کی شرائط میں ہے کہ نبی انتہائی بہادر اور ٹڈر ہوتا ہے۔ وہ فولادی اور مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ وہ اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کی شجاعت و بہادری کے قصے زبان زد عام ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ایسے جانکسل کارنامے سرانجام دیتا ہے کہ اپنے تو اپنے مخالفین بھی عس عس کراٹھتے ہیں۔ لیکن خفقان زدہ قادیان کا جھوٹا مدعی نبوت و رسالت مرزا غلام احمد قادیانی انتہائی بزدل، کمزور دل اور ڈرپوک شخصیت کا مالک تھا۔ مگر اُسے شیخ چلی کی طرح بہادر بننے کا بہت شوق تھا۔ مراق اور مانجھ لیا کے بخارات جب اس کے دماغ کو چڑھتے تو وہ حیطِ عظمت میں مبتلا ہو جاتا اور اسے جو بھی نام یا خطاب یاد آ جاتا، اسے الہام کا جامہ پہنا کر اپنے اوپر فٹ کر لیتا۔ ایسے ہی ناموں میں ان کا ایک نام ”امین الملک بے سنگھ بہادر“ بھی ہے۔ شاید اس نے اپنا یہ نام آئینہ دیکھ کر رکھا ہو۔ مرزا قادیانی ایک جگہ لکھتا ہے:

### میرا نام غازی ہے

(240) ”اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے۔“

(نشان آسمانی صفحہ 15 مندرجہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 375 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ 744 پر)

### غازی نام رکھنا رسول کریم ﷺ کی نافرمانی ہے

جبکہ دوسری جگہ لکھتا ہے:

(241) ”اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے، وہ اس

رسول کریم ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 408 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 745 پر)

## ہم موت سے نہیں ڈرتے

مرزا قادیانی اپنے بہادر ہونے کے سلسلہ میں لکھتا ہے:

(242) ”اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ کوئی موت ہمیں خدا کی راہ سے ہٹا دے اور اگرچہ خدا کی

راہ میں ہم مجروح ہو جائیں یا ذبح کیے جائیں۔“

(برائین احمدیہ حصہ پنجم (ضمیمہ) صفحہ 153 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 321 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ 746 پر)

## بزدلی ایمان کی کمزوری ہے

(243) ”ہم خدا کے مرسلین اور مامورین کبھی بزدل نہیں ہوا کرتے، بلکہ سچے مومن بھی

بزدل نہیں ہوتے۔ بزدلی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ 286 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 747 پر)

(244) مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے:

”انی لا ینخاف لدی المرسلون۔ میرے قرب میں میرے رسول کسی دشمن

سے نہیں ڈرا کرتے۔“

(حقیقت الوحی صفحہ 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 75 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 748 پر)

## مجھے للکارنا اچھا نہیں

مرزا قادیانی کا ایک شعر ہے:

(245) جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں

ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے رو بہ زار و نزار

(برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 101 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 131، از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ 749 پر)

مرزا قادیانی کا ایک اور الہام ملاحظہ فرمائیں:  
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مرزا

(246) ”ارید ماتریدون. میں وہی ارادہ کروں گا جو تمہارا ارادہ ہے۔“

(حقیقت الوحی صفحہ 109 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 109 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 750 پر)

مرزا قادیانی کہتا ہے:

(247) ”اور میرے ساتھ تو خدا تعالیٰ کے پاسبان ہیں کہ وہ میری میرے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔“

(خطبہ الہامیہ صفحہ 64 مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 110، 111 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 751 پر)

(248) مرزا قادیانی نے مزید کہا:

”برائین احمدیہ میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی یہ پیش گوئی ہے کہ قتل وغیرہ کے منصوبوں سے میں بچایا جاؤں گا۔“

(ہقیقۃ الوحی صفحہ 234 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 234 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 753 پر)

(249) مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے:

”اور خدا کی طرف سے آپ کو ایک رعب عطا ہوا تھا جس کے سامنے دلیر سے دلیر دشمن بھی کاٹنے لگ جاتا تھا اور آپ ایک معجز نما حسن و احسان سے آراستہ کیے گئے تھے۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 138 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ 754 پر)

مذکورہ بالا حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ:

- (1) مرزا قادیانی سکھوں کی طرح بہادر تھا۔
- (2) مرزا قادیانی کا ایک نام ”غازی“ بھی تھا۔
- (3) مرزا قادیانی کو دنیا کی کوئی طاقت کسی کام سے ہٹا نہیں سکتی تھی خواہ وہ مجروح ہوتا یا

ذبح کیا جاتا۔

(4) مرزا قادیانی بزدل نہیں تھا کیونکہ بزدلی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔

(5) مرزا قادیانی شیر تھا اور شیر کو لکارنا اچھا نہیں۔

(6) مرزا قادیانی سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں وہی کروں گا جو تیرا ارادہ ہے۔

(7) مرزا قادیانی سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ تھا کہ وہ قتل وغیرہ کے منصوبوں سے بچایا

جائے گا۔

(8) خدا کے پاسباں مرزا قادیانی کی حفاظت کرتے تھے۔

(9) بقول مرزا بشیر احمد، مرزا قادیانی کو خدا کی طرف سے ایسا رعب عطا ہوا تھا کہ بڑے

سے بڑے دشمن بھی اس کے سامنے کاہنے لگ جاتے تھے۔

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی واقعی بہادر، دلیر اور نڈر تھا؟ کیا اسے اپنے

الہامات پر پورا یقین تھا؟ اور کیا وہ جو کہتا تھا، اس پر پورا بھی اترتا تھا؟

سب سے پہلے میں قارئین کرام سے پُر زور درخواست کروں گا کہ وہ مرزا قادیانی

کی بہادری کے سلسلہ میں اس کا تحریر کردہ کتابچہ ”ستارہ قیصرہ“ کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

ستارہ قیصرہ ایک خط ہے جو مرزا قادیانی نے ملکہ وکٹوریہ (والیہ برطانیہ) کو لکھا۔ مرزا قادیانی

نے اس خط میں ملکہ وکٹوریہ کی مبالغہ آمیز خوشامد کر کے اس کی شان میں زمین و آسمان کے

قلا بے ملائے ہیں۔ ملکہ برطانیہ کی قصیدہ گوئی میں مرزا قادیانی اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ

اسے پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے۔ چالیوسی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اس خط کا ایک ایک لفظ

قادیانیت کی ذلت و رسوائی پر خدائی مہر ہے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مرزا

قادیانی نبی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ درجے کا جمہولی چک اور میراثی تھا۔ اگر وہ اس تملق بھرے

کتابچے کا نام ”ستارہ قیصرہ“ کی بجائے ”بھاگ لگے رہن!“ رکھ لیتا تو زیادہ بہتر تھا۔

## پادریوں کی حمایت

قادیانی اکثر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اسلام کی حقانیت ثابت

کرنے کے لیے عیسائیت کے غلط عقائد کا جواب دیا اور اس طرح اسے کسری صلیب کا اعزاز

حاصل ہوا۔ لیجیے دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی عیسائیت کے غلط عقائد کے خلاف کام کرنے والوں کو کیا مشورہ دیتا ہے:

(250) ”یہ بھی تو سوچو کہ پادری صاحبوں کا مذہب ایک شاہی مذہب ہے۔ لہذا ہمارے ادب کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مذہبی آزادی کو ایک طفیلی آزادی تصور کریں، اور اس طرح پر ایک حد تک پادری صاحبوں کے احسان کے بھی قائل رہیں۔ گورنمنٹ اگر ان کو باز پرس کرے تو ہم کس قدر باز پرس کے لائق ٹھہریں گے۔ اگر سبز درخت کاٹے جائیں تو پھر خشک کی کیا بنیاد ہے۔ کیا ایسی صورت میں ہمارے ہاتھ میں قلم رہ سکے گی؟ سو ہوشیار ہو کر طفیلی آزادی کو غنیمت سمجھو اور اس محسن گورنمنٹ کو دعائیں دو جس نے تمام رعایا کو ایک ہی نظر سے دیکھا۔“

(البلاغ صفحہ 24 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 392 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 755 پر)

## زلزلہ

مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے:

(251) ”میں ہر ایک کو جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، بچالوں گا۔ کوئی ان میں سے طاعون یا بھونچال سے نہیں مرے گا۔“

(حقیقت الوحی صفحہ 97 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 97 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 756 پر)

لیکن ہوا کیا؟ مرزا قادیانی کے بیٹے کی زبانی سنئے!

(252) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب 1905ء کا زلزلہ آیا تو میں بچہ تھا اور نواب محمد علی خان صاحب کے شہر والے مکان کے ساتھ ملحق حضرت صاحب کے مکان کا جو حصہ ہے، اس میں ہم دوسرے بچوں کے ساتھ چار پائیوں پر لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو ہم سب ڈر کر بے تحاشا اٹھے اور ہم کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صحن میں آئے تو اوپر سے کنگر روڑے برس رہے تھے۔ ہم بھاگتے ہوئے بڑے مکان کی طرف آئے وہاں حضرت مسیح

موعود اور والدہ صاحبہ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ہم نے جاتے ہی حضرت مسیح موعود کو پکڑ لیا اور آپ سے لپٹ گئے۔ آپ اس وقت گھبرائے ہوئے تھے اور بڑے صحن کی طرف جانا چاہتے تھے۔ مگر چاروں طرف بچے چمٹے ہوئے تھے۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 26 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 757 پر)

دوسرا بیان مرزا قادیانی کا اپنا ہے:

(253) ”اور جس آنے والے زلزلہ سے میں نے دوسروں کو ڈرایا، ان سے پہلے میں آپ ڈرا اور اب تک قریباً ایک ماہ سے میرے خیمے باغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں واپس قادیان میں نہیں گیا۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 649 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 758 پر)

## انگریزی عدالت میں

مرزا قادیانی نے عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 26 فروری 1899ء کو ایک اشتہار شائع کیا جس کا عنوان تھا۔ ”اپنے مریدوں کی اطلاع کے لیے۔“ اس اشتہار میں مرزا قادیانی لکھتا ہے:

### اپنے مریدوں کی اطلاع کے لیے

(254) جو پنجاب اور ہندوستان اور دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور نیز دوسروں کے لیے اعلان جو کہ ایک مقدمہ زبردفعہ 107 ضابطہ فوجداری مجھ پر اور مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ پر عدالت ہے۔ ایم ڈوئی صاحب ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور میں دائر تھا۔ بتاریخ 24 فروری 1899ء بروز جمعہ اس طرح پر اس کا فیصلہ ہوا کہ فریقین سے اس مضمون کے نوٹسوں پر دستخط کرائے گئے کہ آئندہ کوئی فریق اپنے کسی مخالف کی نسبت موت وغیرہ دل آزار مضمون کی پیشگوئی نہ کرے۔ کوئی کسی کو کافر اور دجال اور مفتری اور کذاب نہ کہے۔ کوئی کسی کو مبالغہ کے لیے نہ بلاوے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 299 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 759 پر)

اسی اشتہار میں مزید لکھتا ہے:

## آئندہ پیش گوئی سے میری توبہ

(255) ”اور ہم تو ایک عرصہ گزر گیا کہ اپنے طور پر یہ عہد شائع بھی کر چکے کہ آئندہ کسی مخالف کے حق میں موت وغیرہ کی پیشگوئی نہیں کریں گے۔“  
(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 300 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 760 پر)

## حج نہ کرنے کی وجہ

ایک موقع پر مرزا قادیانی پر اعتراض ہوا کہ اگر آپ مسیح موعود ہیں تو آپ حج کے لئے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موقع پر لوگ مجھے قتل کر دیں۔ لہذا جان بچانی فرض ہے۔ مزید کہا:

(256) ”تمام مسلمان علماء اول ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ اگر ہم حج کر آویں تو وہ سب کے سب ہمارے ہاتھ پر توبہ کر کے ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے مرید ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا لکھ دیں اور اقرار حلفی کریں تو ہم حج کر آتے ہیں۔“  
(ملفوظات جلد 5 صفحہ 248، طبع جدید، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 761 پر)

## پولیس کا پہرہ

(257) ”حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت صاحب شروع دعویٰ مسیحیت میں دہلی تشریف لے گئے تھے اور مولوی نذیر حسین کے ساتھ مباحثہ کی تجویز ہوئی تھی، اس وقت شہر میں مخالفت کا سخت شور تھا۔ چنانچہ حضرت صاحب نے افسران پولیس کے ساتھ انتظام کر کے ایک پولیس مین کو اپنی طرف سے تنخواہ دینی کر کے مکان کی ڈیوڑھی پر پہرہ کے لیے مقرر کرا لیا تھا۔ یہ پولیس مین پنجابی تھا۔ اس کے علاوہ ویسے بھی مردانہ میں کافی احمدی حضرت صاحب کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔“

(سیرت الہدی جلد دوم صفحہ 64 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 762 پر)

## کتا محافظ

(258) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک دفعہ ایک گدی کتابھی رکھا تھا۔ وہ دروازے پر بندھا رہتا تھا اور اس کا نام شیر و تھا۔ اس کی نگرانی بچے کرتے تھے یا میاں قدرت اللہ خان صاحب مرحوم کرتے تھے جو گھر کے دربان تھے۔“

(سیرت الہدی جلد سوم صفحہ 298 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 763 پر)

## مناظرہ سے فرار

مرزا قادیانی نے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑویؒ کو مناظرے کا چیلنج دیا تو پیر صاحب نے اس چیلنج کو مرزا قادیانی کی تمام شرائط پر قبول کر لیا۔ لیکن جب مرزا قادیانی کو پتہ چلا کہ جناب پیر صاحب مناظرہ کے لیے لاہور تشریف لا رہے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور مقررہ تاریخ کو وہ اس مناظرہ میں نہ آیا اور پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا۔ بعد میں اس نے مندرجہ ذیل عذر کیا:

(259) ”اور میں بہر حال لاہور پہنچ جاتا مگر میں نے سنا ہے کہ اکثر پشاور کے جاہل سرحدی پیر صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور ایسا ہی لاہور کے اکثر سفلہ اور کمینہ طبع لوگ گلی کوچوں میں مستوں کی طرح گالیاں دیتے پھرتے ہیں اور نیز مخالف مولوی بڑے جوشوں سے وعظ کر رہے ہیں کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ تو اس صورت میں لاہور میں جانا بغیر کسی احسن انتظام کے کس طرح مناسب ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 461 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 764 پر)





قیوت حاضر ہیں!

قادیان



معروف قادیانی مصنف، مورخ احمدیت، دوست محمد شاہد ”قادیان کی گمنام حالت“ کے عنوان سے لکھتا ہے:

”اُس زمانہ میں قادیان ایک انتہائی بے رونق گاؤں تھا۔ چنانچہ پیر سراج الحق نعمانی کی چشم دید شہادت ہے کہ جب آپ 1882ء میں قادیان گئے تو یہ بستی ویران پڑی تھی جس کے بازار خالی پڑے تھے اور بہت کم آدمی چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ بعض دکانیں ٹوٹی پھوٹی اور بعض غیر آباد خالی پڑی تھیں اور دو تین یا کم و بیش دکانیں نون مرچ کی تھیں، وہ بھی ایسی کہ اگر چار پانچ آنے کا مصالحہ خریدنے کا اتفاق ہو تو ان دکانوں سے بجز دو چار پیسہ کے نہیں مل سکتا تھا، اور تھوڑی تھوڑی ضرورتوں کے واسطے بٹالہ جانا پڑتا تھا۔ علیٰ ہذا القیاس اور چیزوں کا بھی یہی حال تھا۔ دو دکان حلوائیوں کی بھی تھی لیکن ان کی بے رونقی اور کم مائیگی کا یہ حال تھا کہ شاید دو تین پیسہ کی ریوڑیاں گڑ کی جن سے دانتوں کے بھی ٹوٹنے کا احتمال ہو، اگر کوئی خرید لے تو خریدے، ورنہ اور مٹھائی کے لیے مصالحہ کی طرح بٹالہ ہی یاد آئے۔ مجھے اب تک وہ دکان یاد ہے کہ جس میں کسی قدر نون مرچ اور کچھ تیل کے علاوہ دو چار تھان کپڑے کے بھی رکھے تھے، ایک تھان گاڑھے اور ادھوتر کا جس کو پنجابی میں کھدر کہتے ہیں اور ایک دو تھان کھٹیل قد سرخ کے جس کو الوان بھی کہتے ہیں اور شاید ایک دو تھان نکمی سی سوی اور بھدی سی چینٹ کے بھی رکھے ہوئے تھے جن کو جٹیوں کے سوا اور کوئی خریدنے کا نام تک نہ لے۔ اناج کی منڈی، سبزی کی منڈی یا اور کسی قسم کے فواکہ اور میوے کا تو ذکر کیا، گھی چاول دودھ کیاب اور دیگر اشیائے ضروری مفقود۔ قصائی کی ایک دکان ایسی تھی کہ اگر قصاب کبھی شامت سے ایک بکرا ذبح کر لیتا تھا تو وہ بکرا اس کی جان کا وبال ہو جاتا تھا۔ اگر گرمیوں کا موسم ہے تو گل سڑ کر خراب ہو گیا اور جو سردیاں ہوئیں تو چار پانچ روز تک رکھ کر کچھ یہاں کچھ دیہات میں اناج کے بدلے بمشکل تمام بیچ کھوچ کر پورا کیا، جس میں نفع نقصان برابر برابر..... جس

طرف دیکھو کچے مکان اور بے مرمت مکان پڑے تھے۔ ہاں مرزا قادیانی کا مکان پختہ تھا یا آپ کے بڑے بھائی کا لیکن وہ کچے مکانوں کی طرح مکان تھے، جو بعض حصہ ان کا زمین دوز تھا۔ اندر کا پانی باہر جانا برسات میں دشوار تھا جس کا نمونہ اب تک موجود ہے کہ مرزا قادیانی کے مکان کے ملحق مرزا غلام قادر قادیانی کا مکان ہے۔ مرزا قادیانی جس مکان میں جلوہ افروز تھے وہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا اور اب بھی ہے۔ اس میں دس پندرہ آدمیوں کے سوا زیادہ نہیں آسکتے تھے، اس حجرہ کا نام بیت الفکر ہے۔ اس حجرے کے آگے ایک دالان تھا اور نیچے کے مکان میں بھی ایک دالان تھا اور ایک دو مکان اور مختصر سے تھے۔ اور ایک طرف کی عمارت خام تھی اور ایک گول کمرہ تھا جس کو تیار کرایا جاتا تھا یعنی کچھ حصہ اس کا بن چکا تھا اور کچھ بن رہا تھا، اور مسجد مبارک بھی اس وقت ناتمام تھی۔ معمار مزدور لگ رہے تھے اور اب تو اس مکان میں بہت سے مکان بھارت پختہ عالی شان بن گئے ہیں۔ آپ کے ہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی یہاں تک کہ بعض دو دو چار چار یا دس دس کوس کے آدمی بھی آپ سے کم واقفیت رکھتے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس وقت دو چار نمازی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اکثر مرزا قادیانی نماز پڑھایا کرتے تھے اور کبھی میں ایک ہی مقتدی ہوتا تھا اور آپ امام، اور کبھی میں امام اور آپ مقتدی۔ سیر کا بھی یہی حال تھا کہ کبھی ایک دو آدمی ساتھ ہوتے تھے اور کبھی آپ اکیلے ہی سیر کو تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دو ہندو اُس زمانہ میں آیا کرتے تھے۔ وہ ہندو آپ کے الہامات کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے لکھا کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کی پیشگوئیوں کی تک و دو میں لگے رہتے تھے کہ آیا یہ پیشگوئی پوری ہوئی یا نہیں۔“ (الحکم 30 اپریل 1902ء صفحہ 9) غرضیکہ اس وقت قادیان ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہا تھا جس پر چاروں طرف غار کی سی تاریکی اور خاموشی مسلط تھی۔“

(تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ 207، 208 از دوست محمد شاہد قادیانی)

اس کے برعکس مرزا قادیانی کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ قادیان کسی نہ کسی طرح ایک

عظیم الشان شہر بن جائے۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی نے کہا:

## کشف کا قادیان

(260) ہم نے کشف میں دیکھا کہ قادیان ایک بڑا عظیم الشان شہر بن گیا اور انتہائی نظر سے بھی پرے تک بازار نکل گئے۔ اونچی اونچی دو منزلی یا چومنزلی یا اس سے بھی زیادہ اونچی اونچی چبوتروں والی دوکانیں عمدہ عمارت کی بنی ہوئی ہیں اور موٹے موٹے سیٹھ، بڑے بڑے پیٹ والے، جن سے بازار کو رونق ہوتی ہے، بیٹھے ہیں اور ان کے آگے جواہرات اور لعل اور موتیوں اور ہیروں، روپوں اور اشرافیوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور قسما قسم کی دوکانیں خوبصورت اسباب سے جگمگا رہی ہیں۔ یکے، بگھیاں، ٹم ٹم، فٹن، پالکیاں، گھوڑے، شکر میں، پیدل اس قدر بازار میں آتے جاتے ہیں کہ موٹے سے موٹے ہا بھڑ کر چلتا ہے اور راستہ بمشکل ملتا ہے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 343 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 765 پر)

معروف مصنف جناب پروفیسر محمد اسلم (سابق صدر شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی لاہور) اپنے ”سفر نامہ ہند“ میں قادیان کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دو سال کے بعد مجھے دوبارہ امرتسر، بٹالہ اور قادیان جانے کا اتفاق ہوا۔ اس بار میں نے اکیلے ہی قادیان میں گھوم پھر کر قصبے کا جائزہ لیا۔ وہاں اس وقت تیرہ صد قادیانی آباد تھے۔ ان میں اکثریت بہاریوں کی تھی۔ انہوں نے گزر بسر کے لیے تھوڑا بہت کام شروع کیا ہوا تھا۔ کوئی ریڈیو مرمت کرتا تھا۔ کسی نے بجلی کے سامان کی دکان کھولی ہوئی تھی۔ کوئی معمولی سا چائے کارپسٹورنٹ چلا رہا تھا۔ ایک شخص بازار میں بیٹھا آئس کریم بیچ رہا تھا۔ ایک مرزائی سائیکلوں کو پچھرا لگا رہا تھا۔ غربت و افلاس کی جھلک ان کے چہروں سے نمایاں تھی۔ ان کا فقط یہی ”کارنامہ“ تھا کہ وہ قادیان میں آباد تھے۔ قادیان کی آبادی پندرہ ہزار نفوس پر مشتمل ہے جس میں تیرہ صد مرزائی ہیں اور وہ سمٹ سمٹا کر قادیان کے ایک گوشے میں آ بسے ہیں۔ گلیوں اور بازاروں میں ہو کا عالم تھا۔ کوئی ویرانی سی ویرانی تھی۔ مرزا قادیانی نے بر بنائے الہام یہ بھی کہا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ لوگ لاہور کے بارے میں استفسار کریں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ اب وہ قادیان کا ایک محلہ ہے۔ میں قادیان کے ویران بازار میں کھڑا اس الہام پر غور کر رہا تھا تو اس الہام کے تار و پود تار عنکبوت کی طرح ہوا میں ہچکولے کھاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہاں بڑی بڑی توندوں والے جواہرات کا کاروبار کرنے والے سیٹھ

تو کجا، خالی شکم مرجھائے ہوئے چہروں والے لٹ پونچھے دکاندار نظر آ رہے تھے جو قادیاں کے ایک گوشے میں سمٹ آئے تھے۔ قادیاں پھیلنے کی بجائے اب سمٹ چکا تھا..... بہشتی مقبرے سے نکل کر میں سیدھا بس سٹینڈ کی طرف روانہ ہوا، راستے میں ایک اور بات مشاہدہ میں آئی کہ گلیوں میں موٹے تازے چوہے مرے پڑے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید اس مقہور بستی میں کوئی وبا پھوٹنے والی ہے کیونکہ طاعون پھیلنے سے پہلے چوہے مرنے لگتے ہیں۔ بس سٹینڈ پر پہنچتے ہی مجھے بس مل گئی اور میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں امرتسر پہنچ گیا۔“

## خواب میں قادیان

(261) ”مجھے یاد ہے اس میدان سے جاتے ہوئے حضرت مسیح موعود نے اپنا ایک رویا سنایا تھا کہ قادیان بیاس تک پھیلا ہوا ہے اور مشرق کی طرف بھی بہت دور تک اس کی آبادی چلی گئی ہے۔ اس وقت یہاں صرف آٹھ دس گمراہوں کے تھے اور وہ بھی بہت تنگدست۔ باقی سب بطور مہمان آتے تھے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 666 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 766 پر)

دریائے بیاس قادیان سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے۔ 22 جنوری 1886ء کو ہوشیار پور جاتے ہوئے مرزا قادیانی نے بذریعہ کشتی اس دریا کو عبور کیا تھا۔ اب اس پر پختہ پل تعمیر ہو چکا ہے۔ مرزا قادیانی کی خواہش تھی کہ قادیان، شیطان کی آنت کی طرح پھیل کر دریائے بیاس تک جا پہنچے مگر مرزا قادیانی کا یہ رویا بھی پورا نہ ہوا۔

۔ اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

## لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا

(262) ”حضرت مسیح موعود نے ایک دفعہ طاعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”ابھی کیا ہے۔ ابھی وہ دن آئیں گے جبکہ لوگ کہیں گے کہ ”لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا۔“

لاہور کی تباہی کی پیشگوئی جو حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں شائع ہو چکی تھی۔ وہ یہ ہے: ”لاہور کی نسبت کہا جاتا تھا کہ اس کی سر زمین میں ایسے اجزا ہیں کہ اس میں طاعونی کیڑے زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن وہاں بھی طاعون نے آن ڈیرا ڈالا ہے۔ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن سالہا سال کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ کئی لوگ اور دیہات بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور ان کے آثار تک باقی نہ رہیں گے۔ لیکن یہ حالت قادیان پر وارد نہ ہوگی۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 676 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 767 پر)

مرزا قادیانی کا یہ خواب بھی اس کے جھوٹے مدعی نبوت ہونے کی بین دلیل ہے۔ مرزا قادیانی نے لاہور شہر کی تباہی کے بارے میں یہ پیش گوئی 1908ء میں کی تھی۔ پیش گوئی کے 2 ماہ بعد وہ لاہور میں ہی عبرتناک موت سے ہمکنار ہو کر سوئے جہنم واصل ہوا۔ مرزا قادیانی کی اس پیشگوئی کو تقریباً 100 سال پورے ہونے کو ہیں مگر لاہور ہے کہ پھلتا پھولتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے! یہاں کئی جید اولیائے کرام کے علاوہ بے شمار نیک اور متقی آدمی استراحت فرما رہے ہیں۔ ان شاء اللہ یہ شہر ہمیشہ قائم رہے گا، اس کے برعکس قادیان و ربوہ، شہر سدوم، عمورہ اور ادمہ کی طرح جلد ہی حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔

شہر لاہور تحفظ ختم نبوت کا مضبوط گڑھ ہے۔ 1953ء کی مقدس تحریک ختم نبوت میں 10 ہزار سے زائد زندہ دلان لاہور اپنے سروں کی نصل کٹوا کر یمامہ کے شاہسواروں کے ہم رکاب ہوئے اور اس طرح بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں باریاب ہوئے۔ لاہور کی فضاؤں میں اس کی بوئے جتناں آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی موت حیات جاوداں ہے۔ یہ لوگ فتح و ظفر کے روشن باب ہیں۔ ان کی قربانیوں کے نتیجہ میں قادیانی کبر و غرور کی ایسی کمر ٹوٹی کہ وہ 7 ستمبر 1974ء کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ زندہ دلان شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب آنجنابی مرزا قادیانی 26 مئی 1908ء کو لاہور میں جہنم واصل ہوا تو انہوں نے اس گستاخ رسول جھوٹے مدعی نبوت کے جنازہ پر تاریخی کوڑا پاشی کی۔







نبوت حاضر ہیں!

قادیانی  
برہمنی مقبرہ



بہشتی مقبرہ قادیانیوں کا ایک ایسا منافع بخش ادارہ ہے جو آنجہانی مرزا قادیانی نے اپنی نسل در نسل کے شاہانہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قادیان میں قائم کیا۔ بعد میں پاکستان بننے کے بعد جب قادیانیوں نے چنیوٹ ضلع جھنگ کے قریب اپنا الگ شہر ”ربوہ“ بسایا تو بہشتی مقبرہ کی ایک براچ یہاں بھی کھول دی گئی۔ معتبر ذرائع کے مطابق اب یورپ میں بھی اس کی براچیں کھولنے پر غور ہو رہا ہے۔ نام نہاد بہشتی مقبرہ کی تقدیس کے متعلق مرزائیوں کے عقائد درج ذیل ہیں:-

## بہشتی مقبرہ بہشتی لوگ

(263) ”فرمایا کہ نماز (نجر) سے کوئی بیس یا پچیس منٹ بیشتر میں نے خواب دیکھا کہ گویا ایک زمین خریدی سے کہ اپنی جماعت کی معینیں وہاں دفن کیا کریں تو کہا گیا کہ اس کا نام مقبرہ بہشتی ہے۔ یعنی جو ا میں دفن ہوگا، وہ بہشتی ہوگا۔“  
(تذکرہ مجموعہ وحی و انہامات صفحہ 360 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 768 پر)

## جنت ارضی

(264) ”فأوحى الی ربی و اشار الی ارض و قال انہا ارض تحتہا الجنة فمن دفن فیہا دخل الجنة و انه من الامنین۔“  
ترجمہ: خدا تعالیٰ نے مجھے وحی کی اور ایک زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے جس کے نیچے جنت ہے۔ پس جو شخص اس میں دفن ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوا اور

وہ امن پانے والوں میں سے ہے۔

(حقیقۃ الوحی ضمیمہ الاستفتاء صفحہ 51 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 675 از مرزا قادیانی  
(عکس صفحہ نمبر 769 پر)

(265) ”پھر بعد اس کے کشتی رنگ میں وہ مقبرہ مجھے دکھلایا گیا جس کا نام خدا نے بہشتی مقبرہ رکھا ہے اور پھر الہام ہوا۔

”کل مقابر الارض لا تقابل هذا الارض

یعنی ہند کے تمام قبرستان اس زمین سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اس زمین کو جو برکتیں دی گئیں، وہ برکتیں تمام پنجاب اور ہندوستان میں کسی اور قبرستان کو نہیں دی گئیں۔“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 599، 600 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 770 پر)

## مرزا اور اس کے اہل و عیال کے لیے کوئی فیس نہیں

(266) ”میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثنا رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد یا عورت ان کو ان شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔“  
(الوصیت صفحہ 29 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 327 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 772 پر)

آپ مرزا قادیانی کی لالچی ذہنیت کا اندازہ کیجیے کہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے استثنا تراش لیا، مبادا اپنی جائیدادوں کا 1/10 مرکز کو نہ دینا پڑ جائے۔ گویا ذرا بھی حوصلہ نہیں ہے وگرنہ قادیانی خزانہ عامرہ ”خاندان نبوت“ کے ہی تصرف میں رہا ہے۔

## بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کی وصیت نہ کرنے والا منافق

(267) ”حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے جو وصیت نہیں کرتا، وہ منافق ہے اور وصیت کا کم از کم چندہ 1/10 حصہ مال کا رکھا ہے جس میں عام چندہ جو وقتاً فوقتاً کرنا پڑے، شامل نہیں۔“  
(منہاج الطالبین صفحہ 16 مندرجہ انوار العلوم جلد 9 صفحہ 166 از مرزا بشیر الدین محمود)  
(عکس صفحہ نمبر 773 پر)

## بہشت سے اخراج، چندہ ضبط

□ ”بموجب ارشاد حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایده اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مومن وصیت کا چندہ واجب ہونے کی تاریخ کے چھ ماہ بعد تک رقم وصیت ادا نہ کرے گا۔ نہ دفتر سے اپنی معذوری بتا کر مہلت حاصل کرے گا۔ اس کی وصیت انجمن کار پردازان مصالح قبرستان کو منسوخ کرنے کا کامل اختیار ہے اور جس قدر روپیہ وہ وصیت میں ادا کر چکا ہے۔ اس کے واپس لینے کا موصی کو حق نہ ہوگا۔“ (سیکرٹری مقبرہ بہشتی قادیان)

(اخبار الفضل قادیان جلد 24 نمبر 62 مورخہ 11 ستمبر 1936ء)

## دائمی جنت

□ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو آدم کے وقت سے اس وقت تک کے لوگ ترستے مر گئے۔ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم اول کو جب شیطان نے ایک عارضی بہشت سے نکالا تھا تو اس کی تلافی کے لیے چھ ہزار سال بعد پھر آدم ثانی کی معرفت یہ محکمہ دائمی جنت میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے کھولا ہے۔ (فردوس اعلیٰ عارضی جنت، بہشتی مقبرہ دائمی جنت نعوذ باللہ) اگلے زمانہ میں انبیاء اپنے بعض خاص خاص مقبروں کو بہشت میں داخل ہونے کی بشارت دیا کرتے تھے اور یہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ بہشت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ صرف ذرا کھڑا ہونے اور قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔“

(اخبار الفضل قادیان جلد 24 نمبر 65، 15 ستمبر 1936ء)

## ابوبکرؓ و عمرؓ کی سی فضیلت

□ آج تمہارے لیے ابوبکرؓ و عمرؓ کی سی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے اور وہ بہشتی مقام موجود ہے جہاں تم وصیت کر کے اپنے پیارے آقاؐ المسیح الموعود کے قدموں میں دفن ہو سکتے ہو۔ اور چونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود رسول کریمؐ کی قبر میں دفن ہوگا اس لیے تم اس مقبرہ میں دفن ہو کر خود رسول اکرمؐ کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ اور تمہارے لیے اس خصوصیت

میں ابو بکرؓ کے ہم پلہ ہونے کا موقع ہے۔“

(اعلان مندرجہ الفضل قادیان جلد سوم نمبر 99، 2 فروری 1915ء)

## بہشتی مقبرہ

(268) ”خدا نے مجھے میری وفات سے اطلاع دی ہے اور مجھے مخاطب کر کے میری زندگی کی نسبت فرمایا کہ بہت تھوڑے دن رو گئے ہیں اور فرمایا کہ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرور ہے کہ میری وفات سے پہلے دنیا پر کچھ حوادث پڑیں اور کچھ عجائبات قدرت ظاہر ہوں تا دنیا ایک انقلاب کے لیے طیار ہو جائے اور اس انقلاب کے بعد میری وفات ہو اور مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی۔ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ تب سے ہمیشہ مجھے یہ فکر رہی کہ جماعت کے لیے ایک قطعہ زمین قبرستان کی غرض سے خریدا جائے لیکن چونکہ موقع کی عمدہ زمینیں بہت قیمت سے ملتی تھیں۔ اس لیے یہ غرض مدت دراز تک معرض التوا میں رہی۔ اب اخویم مولوی عبدالکریم صاحب کی وفات کے بعد جب کہ میری وفات کی نسبت بھی متواتر وحی الہی ہوئی، میں نے مناسب سمجھا کہ قبرستان کا جلدی انتظام کیا جائے، اس لیے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے باغ کے قریب ہے جس کی قیمت ہزار روپیہ سے کم نہیں اس کام کے لیے تجویز کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے۔“

(الوصیت صفحہ 17 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 316 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 774 پر)

مرزا قادیانی کی یہ انوسٹ منٹ بے حد کامیاب رہی ہے..... قادیانیو! گلٹ کٹاؤ! لین بناؤ..... کئے کئے جانا، بہشتی مقبرہ!!! انسانی کمزوریوں کو Exploit کرنے کی ایسی مثال مذہب کی تاریخ میں کہیں کم ہی ملے گی۔

## بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کی شرائط

(269) ”رسالہ الوصیت کے متعلق چند ضروری امر قابل اشاعت ہیں جو ذیل میں لکھے جاتے ہیں:

(1) اول یہ کہ جب تک انجمن کا رپرڈاز مصالح قبرستان اس امر کو شائع نہ کرے کہ قبرستان باعتبار لوازم ضروری کے من کل الوجوہ طیار ہو گیا ہے اس وقت تک جائز نہ ہوگا کہ اس کی میت جس نے رسالہ الوصیت کی شرائط کی پابندی کی ہے، قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لائی جائے بلکہ پل وغیرہ لوازم ضروریہ کا پہلے طیار ہو جانا ضروری ہوگا اور اس وقت تک میت ایک صندوق میں امانت کے طور پر رکھی اور قبرستان میں رکھی جائے گی۔

(2) ہر ایک صاحب جو شرائط رسالہ الوصیت کی پابندی کا اقرار کریں ضروری ہوگا کہ وہ ایسا اقرار کم سے کم دو گواہوں کی مثبت شہادت کے ساتھ اپنے زمانہ قائمی ہوش و حواس میں انجمن کے حوالہ کریں اور تصریح سے لکھیں کہ وہ اپنی کل جائداد منقولہ و غیر منقولہ کا دسواں حصہ اشاعت اغراض سلسلہ احمدیہ کے لیے بطور وصیت یا وقف دیتے ہیں۔ اور ضروری ہوگا کہ وہ کم سے کم دو اخبار میں اس کو شائع کرا دیں۔

(3) انجمن کا یہ فرض ہوگا کہ قانونی اور شرعی طور پر وصیت کردہ مضمون کی نسبت اپنی پوری تسلی کر کے وصیت کنندہ کو ایک سرٹیفکیٹ اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ دے دیں اور جب قواعد مذکور بالا کی رو سے کوئی میت اس قبرستان میں لائی جائے تو ضروری ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ انجمن کو دکھلا دیا جائے اور انجمن کی ہدایت اور موقع نمائی سے وہ میت اس موقع میں دفن کی جائے جو انجمن نے اس کے لیے تجویز کیا ہے۔

(4) اس قبرستان میں بجز کسی خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے، نابالغ بچے دفن نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بہشتی ہیں اور نہ اس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسرا عزیز دفن ہوگا جب تک وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالہ الوصیت کو پورا نہ کرے۔

(5) ہر ایک میت جو قادیان کی زمین میں فوت نہیں ہوئی ان کو بجز صندوق قادیان میں لانا ناجائز ہوگا اور نیز ضروری ہوگا کہ کم سے کم ایک ماہ پہلے اطلاع دیں تاکہ انجمن کو اگر

اتفاقی موانع قبرستان کے متعلق پیش آگئے ہوں، ان کو دور کر کے اجازت دے۔

(6) اگر کوئی صاحب خدا نخواستہ طاعون کی مرض سے فوت ہوں جنہوں نے رسالہ

الوصیت کے تمام شرائط پورے کر دیئے ہوں ان کی نسبت یہ ضروری حکم ہے کہ وہ

دو برس تک صندوق میں رکھ کر کسی علیحدہ مکان میں امانت کے طور پر دفن کیے

جائیں اور دو برس کے بعد ایسے موسم میں لائے جائیں کہ اس فوت ہونے کے

مقام اور قادیان میں طاعون نہ ہو۔ (گویا طاعون سے متوفی پر دو برس تک بہشتی

مقبرہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتیں۔ مرتب)

(7) یاد رہے کہ صرف یہ کافی نہ ہوگا کہ جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کا دسواں حصہ دیا

جائے بلکہ ضروری ہوگا کہ ایسا وصیت کرنے والا جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے،

پابند احکام اسلام ہو اور تقویٰ طہارت کے امور میں کوشش کرنے والا ہو اور

مسلمان، خدا کو ایک جاننے والا اور اس کے رسول پر سچا ایمان لانے والا ہو اور نیز

حقوق عباد و غصب کرنے والا نہ ہو۔

(8) اگر کوئی صاحب دسویں حصہ جائیداد کی وصیت کریں اور اتفاقاً ان کی موت ایسی ہو

کہ مثلاً کسی دریا میں غرق ہو کر ان کا انتقال ہو یا کسی اور ملک میں وفات پادیں

جہاں سے میت کو لانا محذور ہو تو ان کی وصیت قائم رہے گی اور خدا تعالیٰ کے

نزدیک ایسا ہی ہوگا کہ گویا وہ اسی قبرستان میں ایک کتبہ اینٹ یا پتھر پر لکھ کر نصب

کیا جائے اور اس پر واقعات لکھے جائیں۔

(9) انجمن جس کے ہاتھ میں ایسا روپیہ ہوگا، اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ بجز اغراض سلسلہ

احمدیہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ خرچ کرے۔ اور ان اغراض میں سے سب سے

مقدم اشاعت اسلام ہوگی اور جائز ہوگا کہ انجمن باتفاق رائے اس روپیہ کو تجارت

کے ذریعہ ترقی دے۔

(10) انجمن کے تمام ممبر ایسے ہوں گے کہ جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں اور پارسطح اور

دیانتدار ہوں اور اگر آئندہ کسی کی نسبت یہ محسوس ہوگا کہ وہ پارسطح نہیں ہے یا یہ

کہ وہ دیانت دار نہیں ہے یا یہ کہ وہ ایک چال باز ہے اور دنیا کی ملوٹی اپنے اندر رکھتا ہے

تو انجمن کا فرض ہوگا کہ بلا توقف ایسے شخص کو اپنے مجمع سے خارج کرے اور اس کی



جگہ کوئی اور مقرر کرے۔

(11) اگر وصیتی مال کے متعلق کوئی جھگڑا پیش آئے تو اس جھگڑے کی پیروی میں جو اخراجات ہوں، وہ تمام وصیتی مالوں میں سے دیئے جائیں گے۔

(12) اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر اپنے کسی ضعف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے منکر ہو جائے یا اس سلسلے میں روگردان ہو جائے تو گوانجمن نے قانونی طور پر اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو۔ پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے، بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا۔ کیونکہ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں اور خدا کے نزدیک ایسا مال مکروہ اور رد کرنے کے لائق ہے۔

(13) چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے اس لیے اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہئیں۔

(14) جائز ہوگا کہ اس انجمن کی تائید اور نصرت کے لیے دور دراز ملکوں میں اور انجمنیں ہوں جو اس کی ہدایت کی تابع ہوں اور جائز ہوگا کہ اگر وہ ایسے ملک میں ہوں کہ وہاں سے میت کو لانا محذر ہے تو اسی جگہ میت کو دفن کر دیں اور ثواب سے حصہ پانے کی غرض سے ایسا شخص قبل از وفات اپنے مال کے دسویں حصہ کی وصیت کرے اور اس وصیتی مال پر قبضہ کرنا اس انجمن کا کام ہوگا جو اس ملک میں ہی ہے اور بہتر ہوگا کہ وہ روپیہ اسی ملک کے اغراضِ دینیہ کے لیے خرچ ہو اور جائز ہوگا کہ کوئی ضرورت محسوس کر کے وہ روپیہ اس انجمن کو دیا جائے جس کو ہیڈ کوارٹر یعنی مرکز مقامی قادیان ہوگا۔

(15) یہ ضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا ہمیشہ قادیان رہے کیونکہ خدا نے اس مقام کو برکت دی ہے اور جائز ہوگا کہ وہ آئندہ ضرورتیں محسوس کر کے اس کام کے لیے کوئی کافی مکان طیار کریں۔

(16) انجمن میں کم سے کم ہمیشہ ایسے دو ممبرز رہنے چاہئیں جو علم قرآن اور حدیث سے بخوبی واقف ہوں اور تحصیل علم عربی رکھتے ہوں اور سلسلہ احمدیہ کی کتابوں کو یاد رکھتے ہوں۔

(17) اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص جو رسالہ الوصیت کی رو سے وصیت کرتا ہے، مجذوم ہو جس کی جسمانی حالت اس لائق نہ ہو جو وہ اس قبرستان میں لایا جائے تو ایسا شخص حسب مصالح ظاہری مناسب نہیں ہے اس قبرستان میں لایا جائے لیکن اگر اپنی وصیت پر قائم ہوگا تو اس کو وہی درجہ ملے گا جیسا کہ دفن ہونے والے کو۔

(18) اگر کوئی جائداد منقولہ یا غیر منقولہ نہ رکھتا ہو اور بایں ہمہ ثابت ہو کہ وہ ایک صالح درویش ہے اور متقی اور خالص مومن ہے اور کوئی حصہ نفاق یا دنیا پرستی یا قصور اطاعت کا اس کے اندر نہ ہو تو وہ بھی میری اجازت سے یا میرے بعد انجمن کی اتفاق رائے سے اس مقبرہ میں دفن ہو سکتا ہے۔

(19) اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کی خاص وحی سے رو کیا جائے تو گو وصیتی مال بھی پیش کرے تاہم اس قبرستان میں داخل نہیں ہوگا۔

(20) میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثنا رکھا ہے۔ باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت اُن کو ان شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔“

(رسالہ الوصیت صفحہ 25 تا 29 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 323 تا 327 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 775 تا 779 پر)

جناب پروفیسر محمد اسلم ”بہشتی مقبرہ“ کے بارے میں آنکھوں دیکھا حال لکھتے ہیں:  
”تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان کے ساتھ والی گلی میں مہمان خانہ بھی ہے، جہاں مجھے گذشتہ سیر قادیان میں قیام کرنے کی دعوت ملی تھی۔ اسی گلی کے خاتمہ پر ایک بڑا سا جوہڑ ہے جسے عرف عام میں ”ڈھاب“ کہتے ہیں۔ اسی ڈھاب میں ہوس کا شکار معصوم لڑکیاں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی غرض سے خودکشی کیا کرتی تھیں یا ان کا گلا گھونٹ کر رات کے اندھیرے میں ڈھاب میں پھینک دیا جاتا تھا۔ میں اسی خونی ڈھاب کے کنارے چلتا ہوا بہشتی مقبرے کی طرف بڑھا۔ ڈھاب سے بہشتی مقبرے کا فاصلہ بمشکل ایک فرلانگ ہوگا۔ مقبرے کے ارد گرد ایک مضبوط اور بلند چار دیواری ہے۔ میں ایک آہنی پھانک سے گزر کر بہشتی مقبرے میں داخل ہوا۔ کلکتہ کے ایک مرزائی تاجر نے بہشتی مقبرے کی آرائش کے لیے کافی رقم خرچ

کی ہے۔ میں پھانگ سے گزر کر سیدھا جنازہ گاہ کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب ہی درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک پتھر نصب ہے جس پر ”ظہورِ قدرت ثانیہ“ کندہ ہے۔ اس پتھر پر منقوش ایک عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نماز جنازہ کے بعد اس مقام پر حکیم نور الدین بھیروی کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی تھی۔ اس روایت کے راوی ”بھائی عبدالرحمن قادیانی“ کا نام بھی پتھر پر درج ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مرزا غلام احمد قادیانی کو الہام ہوا تھا کہ وہ مسیح موعود ہے۔ بھائی عبدالرحمن پیدائشی سکھ تھا لیکن بعد میں مرزائی ہو گیا تھا۔ اس کا شمار مرزا قادیانی کے خواص میں ہوتا ہے۔ وہ اس بیعت کا عینی شاہد تھا، اس لیے اس کی روایت اور نشاندہی پر اس تاریخی مقام پر پتھر نصب کر دیا گیا ہے۔

بھائی عبدالرحمن آزادی کے بعد پاکستان آ گیا تھا۔ اس کا انتقال ربوہ میں ہوا اور اس کی میت تدفین کے لیے قادیان لے جانی گئی اور اسے بہشتی مقبرہ میں ”خواص“ کی صف میں دفن کیا گیا۔ یہ پہلی اور غالباً آخری مثال ہے کہ کسی مرزائی کی میت تدفین کے لیے پاکستان سے قادیان لے جانی گئی ہو، ورنہ مرزا بشیر الدین محمود اور ان کی ماں نصرت جہاں بھی اس ”سعادت“ سے محروم رہے ہیں۔ ربوہ میں بشیر الدین محمود کی قبر پر ایک تختی نصب ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے معتقدین کا یہ فرض ہے کہ جب بھی موقع ملے اس کا تابوت ربوہ سے قادیان پہنچا دیا جائے۔ بہشتی مقبرہ میں غلام احمد ہتھیتی کی قبر کے دائیں جانب حکیم نور الدین کی قبر ہے اور بائیں طرف نصرت کے لیے جگہ مخصوص ہے۔

نصرت سے یاد آیا۔ مولانا احمد سعید دہلویؒ بیان کیا کرتے تھے کہ جب نصرت کا غلام احمد کے ساتھ نکاح ہوا تو دلی والیاں اسے وداع کرنے آئیں۔ انہوں نے نصرت کو مخاطب کر کے کہا ”اری نصو سنا ہے کہ تمہارا نکاح کسی پنجابی نبی کے ساتھ ہوا ہے۔“ دلی میں پنجابی کو گنوار سمجھا جاتا ہے اور اس پر طرہ یہ کہ وہ ہتھیتی بھی ہے۔ مولانا احمد سعید کی کرخنداری زبان میں یہ دلچسپ جملہ سن کر جو لطف آتا تھا، وہ بیان سے باہر ہے۔

میں جنازہ گاہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کی طرف چلا۔ مرزا اور اس کے رشتہ داروں اور خاص خاص دوستوں اور حواریوں کی قبریں ایک مخصوص احاطے کے اندر ہیں۔ اس احاطے کے باہر ایک ہینڈ پمپ نصب ہے جس کا پانی مرزائیوں کے نزدیک کوثر و سلسبیل کے پانی کا حکم رکھتا ہے۔ مجھے اس وقت پیاس محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود میں نے اس

پمپ کا پانی پینا مناسب نہ سمجھا۔

مرزا غلام احمد اور حکیم نور الدین کی قبروں کے جانبِ غرب ایک ”مواجهہ“ بنایا گیا ہے اور ایک ایسا ہی مواجهہ جانبِ جنوب بھی ہے جسے میں اپنے پہلے سفرِ قادیان میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ جنوبی مواجهے کے قریب مرزا بشیر الدین محمود کی تین بیویاں دفن ہیں۔ ان میں سے ایک بیوی ام طاہر سابق قادیانی سربراہ مرزا طاہر کی ماں ہے۔ دوسری بیوی سارہ کے بطن سے طاہر احمد کا حریف مرزا رفیع احمد ہے۔ تیسری بیوی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا۔ وہ لجنہ امان اللہ کی سیکرٹری تھی۔

ان میں سے ایک بیوی کی لوحِ مزار پر بشیر الدین محمود نے ایک طویل عبارت کندہ کروائی ہے اور اس میں اس بات کا اوجا کیا گیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کے لیے اس کا انتخاب مرزا غلام احمد نے بذریعہ الہام کیا تھا۔ چند روز قبل میں نے اس کا ذکر مرزا شفیق سے کیا تو انہوں نے کہا کہ باپ کے لیے بذریعہ الہام جس خاتون (محمدی بیگم) کا انتخاب خالق کون و مکان نے کیا تھا، وہ تو اسے مل نہ سکی، بیٹے کو وحی کے ذریعہ کیسے مل گئی؟

بہشتی مقبرے میں مدفون لوگوں کی قبروں کے اندر جو حالت ہوگی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جس خطہٴ زمین کو شہرِ خموشاں کہتے ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں مدفون لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے تو لوگ مارے ڈر کے اپنے مردے وہاں لانے سے انکار کر دیں۔ بس ایسا ہی معاملہ بہشتی مقبرہ میں دفن مردوں کے ساتھ پیش آ رہا ہوگا۔“ (سفر نامہ ہند از پروفیسر محمد اسلم سابق صدر شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی لاہور)



تعمیرت و ترمیم

مرزا قادیانی  
کے  
اُستاد



ہر طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے استاد کا ادب و احترام کرے۔ جس طرح مریض طبیب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس طرح ہر طالب علم استاد کے سامنے تواضع کا مظاہرہ کرے۔ اگر کسی شاگرد کے دل میں اپنے استاد کے خلاف نفرت و بغض ہوگا تو وہ علم تو ورکنار، تزکیہ نفس بھی حاصل نہ کر سکے گا۔ مشہور کہاوت ہے: با ادب، با نصیب، بے ادب بے نصیب! آنجہانی مرزا قادیانی ہمیشہ بے ادب اور بے نصیب رہا۔ وہ علم کے میدان میں ”تیس مارخاں“ تھا۔ ڈینگیں مارنا، بے پرکیاں اڑانا، شیخیاں بگھارنا، لاف زنی کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے کئی اساتذہ تھے۔ مگر وہ ان سب کا انکاری ہے۔ بلکہ اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ بھی بڑی حقارت سے کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اپنے اساتذہ کے بارے مرزا قادیانی کا طرز عمل!

### مہدی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا

(270) ”مہدی کے مفہوم میں یہ معنی ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کا علم دین میں شاگرد یا مرید نہ ہو۔ اور خدا کی ایک خاص تجلی تعلیم لدنی کے نیچے دائمی طور پر نشوونما پاتا ہو جو روح القدس کے ہر ایک تمثیل سے بڑھ کر ہے اور ایسی تعلیم پانا صفت محمدی ہے۔“  
(اربعین نمبر 2 صفحہ 19 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 360، 361 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 780 پر)

### مہدی کے لیے ضروری ہے.....

(271) ”مہدی کے لیے ضروری ہے کہ آدم وقت ہو اور اس کے وقت میں دنیا بکلی بگڑ گئی

ہو اور نوع انسان میں سے اس کا دین کے علوم میں کوئی استاد اور مرشد نہ ہو بلکہ اس لیاقت آدمی کوئی موجود ہی نہ ہو اور محض خدا نے اسرار اور علوم آدم کی طرح اس کو سکھائے ہوں۔“  
(اربعین نمبر 2 صفحہ 18 مندرجہ روحانی خزائن، جلد 17 صفحہ 360 از مرزا قادیانی  
(عکس صفحہ نمبر 781 پر)

مذکورہ تحریر میں مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ ”مہدی کے لئے ضروری ہے کہ وہ آدمی وقت ہو۔“ اس تحریر کی روشنی میں مرزا قادیانی مہدی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ آدم زاد نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے:

(272) ”کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عاز“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 97 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 127 از مرزا قادیانی  
(عکس صفحہ نمبر 782 پر)

### نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا

(273) ”لاکھ لاکھ حمد اور تعریف اس قادر مطلق کی ذات کے لائق ہے کہ جس نے سارے ارواح اور اجسام بغیر کسی مادہ اور ہیولی کے اپنے ہی حکم اور امر سے پیدا کر کے اپنی قدر عظیمہ کا نمونہ دکھلایا اور تمام نفوس قدسیہ انبیا کو بغیر کسی استاد اور اتالیق کے آپ ہی تعلیم تادیب فرما کر اپنے فیوض قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا۔“

(دیباچہ براہین احمدیہ جلد اول صفحہ 7 مندرجہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 16 از مرزا قادیانی  
(عکس صفحہ نمبر 783 پر)

### میرے کئی استاد تھے

(274) ”جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لیے نوکر رکھا



جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا۔“

(کتاب البریہ صفحہ 162 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 180، 181 [حاشیہ] از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 784، 785 پر)

## بیٹے کی تصدیق

(275) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے حضرت مسیح موعود کی زندگی کے مندرجہ ذیل واقعات ذیل کے سنین میں وقوع پذیر ہوئے ہیں:- واللہ اعلم!

1836ء یا 1837ء۔ ولادت حضرت مسیح موعود۔

1842ء یا 1843ء۔ ابتدائی تعلیم از منشی فضل الہی صاحب۔

1846ء یا 1847ء۔ صرف و نحو کی تعلیم از مولوی فضل احمد صاحب۔

1852ء یا 1853ء۔ حضرت مسیح موعود کی پہلی شادی (غائباً)۔

1853ء یا 1854ء۔ نحو و منطق و حکمت و دیگر علوم مروجہ کی تعلیم از مولوی گل علی شاہ

صاحب اور اسی زمانہ کے قریب بعض کتب طب اپنے والد ماجد سے۔“

(میرت المہدی جلد دوم صفحہ 150 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 786 پر)

## حلفاً کہتا ہوں میرا کوئی استاد نہیں

(276) ”سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا۔ اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔“ (ایام اصلاح صفحہ 168 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 394 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 787 پر مرزا قادیانی نے مذکورہ عبارت میں حلفاً یعنی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں۔ قسم کے بارے میں مرزا قادیانی کا کہنا ہے۔

## قسم کی اہمیت

(277) ”والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تاويل فيه ولا استثناء والإفاى فائدة كالت في ذكر القسم.“  
ترجمہ: ”قسم اس امر کی دلیل ہے کہ خبر اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ اس میں نہ تاویل ہے نہ استثناء۔ ورنہ قسم سے بیان کرنے کا کیا فائدہ۔“

(حاشیہ حماۃ البشریٰ صفحہ 26 مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 192 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 788 پر)

اس عبارت کی رو سے کوئی قادیانی اپنے گرو گھنٹال مرزا قادیانی کے اساتذہ کے حوالے سے کوئی تاویل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں اور بقول مرزا قادیانی جب کوئی بات قسم اٹھا کر کہی جائے تو اس میں کوئی تاویل نہیں کرنی چاہیے۔  
قارئین کرام! آپ مرزا قادیانی کی تحریروں سے خود اندازہ لگالیں کہ ایک طرف وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں کیونکہ نبی یا مہدی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مرزا قادیانی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے کئی اساتذہ سے علم حاصل کیا۔

## اپنے استاد کی تعریف

(278) ”ہمارے استاد ایک شیعہ تھے۔ گل علی شاہ ان کا نام تھا۔ کبھی نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ مذہب نہ دھوتے تھے۔“ (یقیناً مرزا قادیانی نے ایسے ہی لوگوں سے ٹیوشن پڑھی ہوگی۔ مرتب۔) (ملفوظات جلد اول صفحہ 583 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 789 پر)

□ ”آج سے تیس سال قبل بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق کہتے تھے انھیں اردو بھی نہیں آتی اور عربی دوسروں سے لکھا کر اپنے نام سے شائع کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے مولوی نور الدین آپ کو کتابیں لکھ کر دیتے ہیں۔ خود حضرت مسیح موعود کو بھی یہ دعویٰ نہ تھا کہ آپ نے ظاہری علوم کہیں پڑھے۔ آپ فرمایا کرتے میرا ایک استاد تھا جو انیم کھایا کرتا تھا اور حقہ لے کر بیٹھ رہتا تھا۔ کئی دفعہ پنک میں اس سے اس کے حقہ کی چلم ٹوٹ جاتی۔ ایسے استاد نے پڑھانا کیا تھا۔ غرض آپ کو لوگ جاہل اور بے علم سمجھتے تھے۔“ (تقریر مرزا بشیر الدین محمود، خلیفہ قادیان، مندرجہ اخبار ”الفضل“ قادیان، جلد 16، نمبر 62، صفحہ 8، مورخہ 5 فروری 1929ء)

دیکھیے کس طرح تصدیق پر تصدیق ہو رہی ہے کہ مرزا قادیانی کے ٹیوٹرز بھی اس جیسے تھے۔ لیکن شاید نہیں۔

گرو جو کہ تھا وہ تو گرو ہو گیا  
ولے اس کا چیلہ شکر ہو گیا  
جو ”ناموری“ مرزا قادیانی کے حصے میں آئی ہے، استاد بے چارے تو بہت پیچھے رہ گئے۔

## شاگرد، استاد کی مانند ہوتا ہے

□ ”شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو۔“

(متی باب 10 فقرہ 24، 25)





ثبوت حاضر ہیں!

مرزا قادیانی

اور  
اس کے "فیض یافتہ" مرید



قادیان کے جھوٹے مدعی نبوت آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ”خطبہ الہامیہ“ میں لکھا ہے کہ جو شخص میری جماعت میں داخل ہوا، درحقیقت وہ ”صحابہ“ کی جماعت میں داخل ہوا۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ 171 مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 258 از مرزا قادیانی) ظاہر ہے جب کوئی آدمی کسی جماعت کا پیروکار بن جاتا ہے تو وہ اس سے اثر لیتا ہے۔ اردو کی ایک کہاوت ہے کہ گوہ کا کیڑا گوہ ہی میں خوش رہتا ہے۔ یعنی بری صحبت میں رہنے والا اس محفل کا ضرور اثر لیتا ہے اور اس میں خوش رہتا ہے۔ ایک اور مثل مشہور ہے: ”جیسا راجا ویسی پر جا۔“ جس طرح سونے کا کھوٹا اور کھرا پن کسوٹی پر پرکھنے سے معلوم ہوتا ہے، اس طرح ہم مرزا قادیانی کے نام نہاد ”صحابہ“ کو بھی اخلاقیات کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس قماش کے لوگ تھے۔

گرو جہاں دے ٹپنے۔ چیلے انہاں دے شڑپ۔ (یعنی جن کے گروتیز رو ہوں، ان کے چیلے چانٹے اس سے بھی تیز چلنے والے ہوتے ہیں)۔ صفحات کی کمی کے پیش نظر صرف چند حوالے بطور نمونہ مشتمل از خردارے پیش خدمت ہیں:-

### نماز میں نامناسب تکلیف

(279) ”قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت اقدس حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے ساتھ اس کوٹھڑی میں نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے جو مسجد مبارک میں بجانب مغرب تھی مگر 1907ء میں جب مسجد مبارک وسیع کی گئی تو وہ کوٹھڑی منہدم کر دی گئی۔ اس کوٹھڑی کے اندر حضرت صاحب کے کھڑے ہونے کی وجہ اغلباً یہ تھی کہ قاضی یار محمد صاحب حضرت اقدس کو نماز میں تکلیف دیتے تھے۔“

خاکسار عرض کرتا ہے کہ قاضی یار محمد صاحب بہت مخلص آدمی تھے مگر ان کے دماغ میں کچھ خلل تھا جس کی وجہ سے ایک زمانہ میں ان کا یہ طریق ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب کے جسم (خاص حصہ) کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے۔“

(سیرت الہدی، جلد سوم صفحہ 265 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 790 پر)

### اللہ کا بچہ

(280) ”اسی طرح میری کتاب اربعین نمبر 4 صفحہ 19 میں بابوالہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے..... یعنی بابوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے۔ ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔“

(تمہ حقیقت الوحی صفحہ 581، مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 581 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 791 پر)

کم بخت بابوالہی بخش کو سوچھی بھی تو کیا سوچھی اور دیکھا بھی تو کیا دیکھا! مرزا قادیانی کا حیض و نفاس اور وہ بھی کن دنوں میں جبکہ مرزا قادیانی ایام ماہواری کی مصیبت میں دوچار تھا۔

یا  
منظہر العجائب  
بچہ معہ زچہ کے غائب

### اللہ مرد، مرزا عورت؟

(281) ”حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔“

(اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34، صفحہ 12 از قاضی یار محمد قادیانی مرید مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 792 پر)



## جسم پر نامناسب ہاتھ پھیرنا

(282) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ قدیم مسجد مبارک میں حضور (مرزا قادیانی) نماز میں ہمیشہ پہلی صف کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آج کل موجودہ مسجد مبارک کی دوسری صف شروع ہوتی ہے۔ یعنی بیت الفکر کی کوٹھڑی کے ساتھ ہی مغربی طرف۔ امام اگلے حجرہ میں کھڑا ہوتا تھا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص پر جنون کا غلبہ ہوا اور وہ حضرت صاحب کے پاس کھڑا ہونے لگا اور نماز میں آپ کو تکلیف دینے لگا اور اگر کبھی اس کو پچھلی صف میں جگہ ملتی۔ تو ہر سجدہ میں وہ صفیں پھلانگ کر حضور کے پاس آتا اور تکلیف دیتا اور قبل اس کے کہ امام سجدہ سے سر اٹھائے، وہ اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا۔ اس تکلیف سے تنگ آ کر حضور (مرزا قادیانی) نے امام کے پاس حجرہ میں کھڑا ہونا شروع کر دیا مگر وہ بھلامانس حتی المقدور وہاں بھی پہنچ جایا کرتا اور ستایا کرتا تھا مگر پھر بھی وہاں نسبتاً امن تھا۔ اس کے بعد آپ وہیں نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مسجد کی توسیع ہو گئی۔ یہاں بھی آپ دوسرے مقتدیوں سے آگے امام کے پاس ہی کھڑے ہوتے رہے۔ مسجد اقصیٰ میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر آپ صف اول میں عین امام کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ معذور شخص جو ویسے مخلص تھا، اپنے خیال میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا تھا۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 268، 269 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 793، 794 پر)

جناب افتخار احمد صاحب (جرمنی) اس حوالہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”غور طلب بات یہ ہے کہ عرصہ دراز تک ایک شخص دوران نماز، نبوت کے دعویدار کے ساتھ انتہائی فحش اور نازیبا حرکات کرتا رہا اور جسم کے حصوں پر ہاتھ پھیرتا رہا اور پچھلی صف میں جگہ پانے کی صورت میں ہر سجدے کے دوران چھلانگیں لگا لگا کر یہ حرکتیں کرتا رہا اور نمازیوں کے آگے سے گزر کر ان کی نمازیں خراب کرتا رہا، مگر بجائے اس شخص کو مسجد میں آنے سے منع کرنے کے تحریر میں بھی اسے مخلص اور بھلامانس لکھا گیا۔ دوران نماز ایسی حرکتیں جب بار بار ہو رہی ہوں تو یقیناً کوئی بھی شخص ایسی بے ہودہ حرکات دیکھ کر اپنی نماز توجہ سے ادا نہیں

کر سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کم اور تماشا دیکھنے زیادہ آتے ہوں۔ اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاق کے حامل نبی کے دعویدار اور اس کے امتی کے اخلاق کا اندازہ مندرجہ بالا تحریر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔“ (ہفت روزہ لولاک، ملتان ستمبر 2009ء)

### قادیان اور سجدہ

(283) ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت مسیح موعود نے پسر موعود کی پیشگوئی شائع فرمائی تو آپ کی زندگی میں ہی ایک شخص نور محمد نامی جو پٹیالہ کی ریاست میں کبیر و گاؤں کا رہنے والا تھا، پسر موعود ہونے کا مدعی بن بیٹھا اور بعض جاہل طبقہ کے لوگ اس نے اپنے مرید کر لیے۔ سنا ہے یہ لوگ قادیان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور ایک دفعہ ان کا ایک وفد قادیان بھی آیا تھا۔ انہوں نے حضرت صاحب کو سجدہ کیا مگر حضرت صاحب نے سختی سے منع فرمایا۔ وہ لوگ چند روزہ کر واپس چلے گئے اور پھر نہیں دیکھے گئے۔“  
(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 232 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 795 پر)

### کفن چور

(284) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میاں ابہ دین فلاسفر اور پھر اس کے بعد مولوی یار محمد صاحب کو ایک زمانہ میں قبروں کے کپڑے اتار لینے کی دھت ہو گئی تھی یہاں تک کہ فلاسفر نے ان کو بیچ کر کچھ روپیہ بھی جمع کر لیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس طرح ہم بدعت اور شرک کو مٹاتے ہیں۔ حضرت صاحب نے جب یہ سنا تو اس کام کو ناجائز فرمایا، تب یہ لوگ باز آئے اور وہ روپیہ اشاعت اسلام میں دے دیا۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 264 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 796 پر)

ظاہر ہے کفن چوری کی رقم ”اشاعت اسلام“ کے لیے مرزا قادیانی کی خدمت میں ہی پیش کی۔ گویا غریبوں کے کفنوں کی کمائی بھی نہ چھوڑی موصوف نے۔

## تھیٹر

(285) ”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے امر تسر جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آ گئے۔ چنانچہ کپور تھلہ سے محمد خاں صاحب اور منشی ظفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھہرے رہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ اور منشی صاحب اور میں ہر دو نحیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چار پائی پردوں لیٹ جاتے تھے۔ ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا، جو مکان کے قریب ہی تھا۔ اور تماشہ ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا۔ صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا۔ منشی ظفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ میں تو حضرت صاحب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ حضرت صاحب آپ کو بلا کر تنبیہ کریں گے مگر حضور نے تو صرف یہی فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔“

(ذکر حبیب صفحہ 18 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 797 پر)

## ضرور بدکاری کرے گا

(286) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ایک دفعہ کسی شخص کا ذکر سنانے لگے کہ وہ کسی عورت پر سخت عاشق ہو گیا اور باوجود ہزار کوشش کے وہ اس عشق کو دل سے نہ نکال سکا۔ آخر حضرت صاحب کے پاس آیا اور طالب دعا ہوا۔ حضرت صاحب نے مولوی صاحب نے فرمایا کہ مجھے خدا کی طرف سے معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص اس عورت کے ضرور بدکاری کرے گا۔ مگر میں بھی پورے زور سے اس کے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص قادیان ٹھہرا رہا اور حضور دعا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اس نے ایک روز مولوی صاحب سے کہا کہ آج رات خواب میں میں نے اس عورت کو دیکھا اور خواب میں ہی اس سے مباشرت کی اور میں نے اس دوران میں اس کی شرمگاہ کو جہنم کے گڑھے کی طرح دیکھا۔ جس سے مجھے اس سے اس قدر خوف اور نفرت پیدا ہوئی کہ یکدم وہ آتش عشق

ٹھنڈی ہوگئی اور وہ محبت کی بے قراری سب دل سے نکل گئی۔ بلکہ دل میں دوری پیدا ہوگئی۔ اور خدا کے فضل اور حضور کی دعا کی برکت سے میں بدکاری سے بھی محفوظ رہا اور وہ جنون بھی جاتا رہا۔ اور حضور نے جو بات میری بابت کہی تھی وہ ظاہری رنگ سے بدل کر خدا نے خواب میں پوری کرا دی۔ یعنی میں نے اس سے تعلق بھی کر لیا اور ساتھ ہی مجھے گناہ سے بھی بچا لیا۔ غالباً یہ شخص سیالکوٹ کا رہنے والا تھا اور متمول آدمی تھا اور اس نے حضرت صاحب کی بیعت بھی کی تھی۔ مگر تعلق کو آخر تک نہیں نبھایا۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 298 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 798 پر)

## قوت رجولیت بالکل معدوم

(287) ”ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میاں معراج الدین صاحب عمر کے ساتھ ایک نو مسلمہ چوہڑی لاہور سے آئی۔ اس کے نکاح کا ذکر ہوا۔ تو حافظ عظیم بخش صاحب مرحوم پٹیالوی نے عرض کی کہ مجھ سے کر دیا جائے۔ حضرت مسیح موعود نے اجازت دے دی اور اور نکاح ہو گیا۔ دوسرے روز اس مسماۃ نے حافظ صاحب کے ہاں جانے سے انکار کر دیا اور خلع کی خواہش مند ہوئی۔ خلیفہ رجب دین صاحب لاہوری نے حضرت صاحب کی خدمت میں مسجد مبارک میں یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی نہیں۔ ابھی صبر کرے۔ پھر اگر کسی طرح گزارہ نہ ہو تو خلع ہو سکتا ہے۔ اس پر خلیفہ صاحب نے جو بہت بے تکلف آدمی تھے، حضرت صاحب کے سامنے ہاتھ کی ایک حرکت سے اشارہ کر کے کہا کہ حضور وہ کہتی ہے کہ حافظ صاحب کی یہ حالت ہے۔ (یعنی قوت رجولیت بالکل معدوم ہے) اس پر حضرت صاحب نے خلع کی اجازت دے دی۔“

(سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ 227 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 799 پر)

عجیب بات ہے نا ”زدجام عشق“ کے ہوتے ہوئے خلع کی اجازت!

قادیان میں بڑے بڑے خبیث، شریر،

ناپاک طبع، کذاب اور مفتری رہتے ہیں

(288) ”جیسا کہ اُس نے فرمایا کہ لَوْ لَا الْاَشْرَامُ. لَهْلَكَ الْمَقَامُ یعنی اگر مجھے تمہاری عزت ظاہر کرنا ملحوظ نہ ہوتا تو میں اس مقام کو یعنی قادیان کو طاعون سے فنا کر دیتا یعنی اس گاؤں میں بھی بڑے بڑے، خبیث اور شریر اور ناپاک طبع اور کذاب اور مفتری رہتے ہیں اور وہ اس لائق تھے کہ قہر الہی سب کو ہلاک کر دیوے۔“

(نزدول اسح صفحہ 18 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 394 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 800 پر)

## مرزا قادیانی کی بیعت کا ”فیض“

(289) ”مجملہ ان نشانوں کے جو پیشگوئی کے طور پر ظہور میں آئے۔ وہ پیشگوئی ہے جو میں نے اخویم قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوئی ضلع گوجرانوالہ کے متعلق کی تھی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس جگہ خود ان کے خط کی عبارت نقل کر دوں جو اس پیشگوئی کے بارے میں انہوں نے میری طرف بھیجا ہے اور وہ یہ ہے:

”مجھے یقینی یاد ہے کہ حضور (مرزا قادیانی) نے بمابہ مارچ 1888ء جبکہ اس عاجز نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی تو ایک لمبی دعا کے بعد اسی وقت آپ نے فرمایا تھا کہ قاضی صاحب آپ کو ایک سخت ابتلا پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے بعد اس عاجز نے کئی اپنے عزیز دوستوں کو اس سے اطلاع بھی دے دی کہ حضور نے میری نسبت اور میرے حق میں ایک ابتلائی حالت کی خبر دی تھی۔ اب اس کے بعد جس طرح پر وہ پیشگوئی پوری ہوئی وہ وقوعہ بعینہ عرض کرتا ہوں کہ میں حضرت اقدس سے روانہ ہو کر ابھی راستہ میں ہی تھا کہ مجھے خبر ملی کہ میری اہلیہ بعارضہ درد گردہ و قونج و قے مفرط سخت بیمار ہے۔ جب میں گھر پہنچا اور دیکھا تو واقع میں ایک نازک حالت طاری تھی اور عجیب تر یہ کہ شروع بیماری وہی رات تھی، جس کی شام کو حضور نے اس ابتلاء سے اطلاع دی تھی۔ شدت درد کا یہ حال تھا کہ جان ہر

دم ڈوبتی جاتی تھی اور بے تابی ایسی تھی کہ باوجود کثیر الحیاء ہونے کے، مارے درد کے بے اختیار ان کی چیخیں نکلتی تھیں اور گلی کوچے تک آواز پہنچتی تھی۔ اور ایسی نازک اور دردناک حالت تھی کہ اجنبی لوگوں کو بھی وہ حالت دیکھ کر رحم آتا تھا۔ شدت مرض تخمیناً تین ماہ تک رہی۔ اس قدر مدت میں کھانے کا نام تک نہ تھا۔ صرف پانی پیتیں اور تے کر دیتیں۔ دن رات میں پچاس ساٹھ دفعہ متواتر تے ہوتی۔ پھر درد قدرے کم ہوا۔ مگر نادان طبیبوں کے بار بار فصد لینے سے ہزال مفرط کی مرض مستقل طور پر دامنگیر ہو گئی۔ ہر وقت جان بلب رہتیں۔ دس گیارہ دفعہ تو مرنے تک پہنچ کر بچوں اور عزیز اقربا کو پورے طور پر الوداعی غم و الم سے زلایا۔ غرض گیارہ مہینے تک طرح طرح کے دکھوں کی تختہ مشق رہ کر آخر کشادہ پیشانی بہوش تمام کلمہ شریف پڑھ کر 28 برس کی عمر میں سفر جاودانی اختیار کیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اس حادثہ جانکاه کے درمیان ایک شیرخوار بچہ رحمت اللہ نام بھی دودھ نہ ملنے کے سبب سے بھوکا پیاسا راہی ملک بچا ہوا۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ عاجز کے دو بڑے بیٹے عبدالرحیم و فیض رحیم تپ محرقہ سے صاحب فراش ہوئے۔ فیض رحیم کو تو ابھی گیارہ دن پورے نہ ہونے پائے کہ اس کا پیالہ عمر کا پورا گیا۔ اور سات سالہ عمر میں داعی اجل کو لبیک کہہ کر جلدی سے اپنی پیاری ماں کو جا ملا، اور عبدالرحیم تپ محرقہ اور سرشام سے براہر دو ڈھائی مہینے بہوش میت کی طرح پڑا رہا۔ سب طبیب لاعلاج سمجھ چکے۔ کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ بچے گا۔ لیکن چونکہ زندگی کے دن باقی تھے، بوڑھے باپ کی مضطربانہ دعائیں خدا نے سن لیں اور محض اس کے فضل سے صحیح سلامت بچ نکلا۔ اگرچہ پٹھوں میں کمزوری اور زبان میں لکنت ابھی باقی ہے۔ یہ حوادث جانکاه تو ایک طرف ادھر مخالفوں نے اور بھی شور مچا دیا تھا۔ آبروریزی اور طرح طرح کے مالی نقصانوں کی کوششوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ غریب خانہ میں نقب زنی کا معاملہ بھی ہوا۔ اب تمام مصیبتوں میں یکجائی طور پر غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ عاجز راقم کس قدر بلیہ دل دوز سینہ سوز میں مبتلا رہا۔“

راقم مسکین ضیاء الدین عفی عنہ قاضی کوئی ضلع گوجرانوالہ“

(تریاق القلوب صفحہ 153 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 472 تا 475 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 801 تا 804 پر)

## کثرت قبولیت دعا کا نشان

(290) ”میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں تیس ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے۔“  
(ضرورۃ الامام صفحہ 27 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 497 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 805 پر)

(291) ”پس یہ اصول نہایت صحیح اور سچا ہے کہ جن نبیوں کو قبولیت دی جاتی ہے اور ہر ایک قدم میں حمایت اور نصرت الہی اُن کے شامل حال ہو جاتی ہے۔“  
(چشمہ معرفت صفحہ 378 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 378 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 806 پر)

قادیانیو! آپ کبھی تنہائی میں غور کرنا کہ آخر مرزا قادیانی کے خدا نے اسے اس قدر سوا کر کے کیوں رکھ دیا؟ کیا اتنی سی بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا قادیانی جو کچھ کہتا تھا، نتیجہ ہمیشہ الٹ نکلا، ایک بار بھی تائید خداوندی اس کے شامل حال نہیں ہوئی، مطلب کتنا واضح ہے کہ سچے خدا نے مرزا قادیانی سے حق عداوت ادا کر کے مرزا قادیانی کے کذب کو دو اور دو چار کی طرح دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ گویا مرزا قادیانی کے دعویٰ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ خدا کا سچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا کرتا۔

مسلمہ پنجاب اور مسلمہ کذاب میں کئی باتوں میں مماثلت ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دونوں کی کرامات الٹ ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسلمہ کذاب کے بعض پیروکاروں نے اس سے کہا کہ فلاں کنویں میں تھوک دیجیے تاکہ پانی تبرک بن جائے چنانچہ اس نے کنویں میں تھوک دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی نجاست سے سارے کنویں کا پانی خراب اور نمکین ہو گیا۔ اسی طرح ایک بار اس کے کسی چیلے چانٹے نے مسلمہ سے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھوا دیا۔ نتیجہ میں وہ بچہ ایسا گنجا ہوا کہ عمر بھر اس کی کھوپڑی پر ایک بال بھی نہیں نکلا (اور اس کے ہاتھ کی ناپاکی اسے ہمیشہ لیے لے ڈوبی) اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے دو بچوں کے لیے اس سے برکت کی دعا کرائی مگر مسلمہ سے دعا کرا کے جب وہ شخص اپنے گھر

پہنچا تو معلوم ہوا کہ دونوں بچوں میں سے ایک کنویں میں گر کر ہلاک ہو چکا ہے اور دوسرے کسی درندے نے پھاڑ کھایا۔ ایک بار اس کے ایک پیروکار کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہو اس غریب نے شفا کی امید میں مسیلمہ کا ہاتھ اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر لیا مگر اس کا انجام ہوا کہ اس کی دونوں آنکھیں بالکل سفید اور بے رونق و بے نور ہو گئیں۔





ثبوتِ حاضرین!

قادیانی جماعت  
قادیانی قیادت کی نظر میں



فارسی مقولہ مشہور ہے:

”اس خانہ تمام آفتاب است“! یعنی اس حمام میں سب ہی ننگے ہیں۔ ہر بات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجاتی۔ خرابی اور بگاڑ دونوں جانب سے ہوتا ہے۔ قادیانی قیادت اور ان کے پیروکار دونوں بدزبانی و بد عملی، فتنہ و فساد اور بدی و شرارت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ آئیے! ملاحظہ فرمائیں!

### درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے

□ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔“ یہ ایک خدا کے صادق نبی کا قول ہے اور درحقیقت ایک بہت سچی بات ہے۔ اگر ایک شخص خود راستی پر نہیں بلکہ وہ کذاب اور مفتری ہے، اور اس میں خود قوت قدسی نہیں، بلکہ وہ ایک گمراہ اور گندہ آدمی ہے، جو مکر و فریب سے لوگوں کا مال کھاتا ہے، اور خدا پر گند کے افترا پر منہ مارتا ہے تو وہ دوسروں میں راستی کی روح کیونکر پھونک سکتا ہے؟ اور ان کو گندوں سے کیونکر پاک کر سکے گا؟ مرزا قادیانی کی صداقت یا غیر صداقت پر کھنے کے لیے آسان نسخہ یہی راہ ہے کہ جس جماعت کو وہ تیار کر کے چھوڑ گئے ہیں، اس جماعت کو دیکھ لو کہ اس کی کیا حالت ہے؟“

(مسٹر محمد علی ایم اے، مندرجہ ریویو آف ریلیجنز قادیان جون، جولائی 1908ء)

### قادیان؟

(292) ”قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ

”اخرج منه الیذیبون“

یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 141 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 807 پر)

## بھیڑیوں کی جماعت

(293) ”بعض حضرات جماعت میں داخل ہو کر اور اس عاجز سے بیعت کر کے اور عہد توبہ نصوح کر کے پھر بھی ویسے کج دل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بھیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ مارے تکبر کے سیدھے منہ سے السلام علیک نہیں کر سکتے چہ جائیکہ خوش خلقی اور ہمدردی سے پیش آویں اور انہیں سفلہ اور خود غرض اس قدر دیکھتا ہوں کہ وہ ادنیٰ ادنیٰ خود غرضی کی بنا پر لڑتے اور ایک دوسرے سے دست بدامن ہوتے ہیں اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات گالیوں تک نوبت پہنچتی ہے اور دلوں میں کینے پیدا کر لیتے ہیں اور کھانے پینے کی قسموں پر نفسانی بحثیں ہوتی ہیں۔“

(شہادت القرآن صفحہ 99 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 395 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 808 پر)

## درندے، قادیانیوں سے اچھے

(294) ”خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے اور بدی کائنکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں اور غصہ کو کھالینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجہ کی جو انمردی ہے۔“

مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری جماعت کے بعض لوگوں میں نہیں بلکہ بعض میں ایسی بے تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی ضد سے اس کی چارپائی پر بیٹھا ہے تو وہ سختی سے اس کو اٹھانا چاہتا ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو چارپائی کو الٹا دیتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر دوسرا بھی فرق نہیں کرتا اور وہ اس کو گندی گالیاں دیتا ہے اور تمام بخارات نکالتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو اس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ تب دل کہاب ہوتا اور جلتا ہے اور بے اختیار دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا ہے۔ پھر میں کس

خوشی کی امید سے لوگوں کو جلسہ کے لیے اکٹھے کروں۔“

(شہادت القرآن صفحہ 2 (آخر) مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 396 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 809 پر)

## قادیانی جلسہ، اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ

(295) ”اس اجتماع میں بعض دفعہ باعث تنگی مکانات اور قلت وسائل مہمانداری ایسے نالائق رنجش اور خود غرضی کی سخت گفتگو بعض مہمانوں میں باہم ہوتی دیکھی ہے کہ جیسے ریل میں بیٹھنے والے تنگی مکان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور اگر کوئی بیچارہ عین ریل چلنے کے قریب اپنی گٹھڑی کے سمیت مارے اندیشہ کے دوڑتا دوڑتا ان کے پاس پہنچ جاوے تو اس کو دھکے دیتے اور دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ ہم میں جگہ نہیں، حالانکہ گنجائش نکل سکتی ہے مگر سخت دلی ظاہر کرتے ہیں اور وہ ٹکٹ لیے اور بقیہ اٹھائے ادھر ادھر پھرتا ہے اور کوئی اس پر رحم نہیں کرتا مگر آخر ریل کے ملازم جبراً اس کو جگہ دلاتے ہیں۔ سو ایسا ہی یہ اجتماع بھی بعض اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔“

(شہادت القرآن صفحہ ”ز“ مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 394 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 810 پر)

## کج دل لوگوں کی جماعت

(296) ”میں اس وقت کج دل لوگوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ خدایا یہ کیا حال ہے۔ یہ کونسی جماعت ہے جو میرے ساتھ ہے۔ نفسانی لالچوں پر کیوں ان کے دل گرے جاتے ہیں اور کیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ستاتا اور اس سے بلندی چاہتا ہے۔“

(شہادت القرآن صفحہ 99 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 395 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 811 پر)

## تہذیب اور پرہیزگاری سے عاری جماعت

(297) ”اخی مکرم حضرت مولوی نورالدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بارہا مجھ سے یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت اور تہذیب اور پاک دلی اور پرہیزگاری اور للہی محبت باہم پیدا نہیں کی۔ سو میں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب موصوف کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے۔“

(شہادت القرآن صفحہ 99، مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 395 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 812 پر)

## مختوں کی جماعت

(298) ”اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں اور اگر وہ اس گورنمنٹ کے سب قوموں سے بڑھ کر خیر خواہ ہو جائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت ہو جائیں۔ لہٰذا اگر وہ مجھے قبول کر لیں اور مخالفت نہ کریں تو یہ سب کچھ انھیں حاصل ہوگا اور ایک نیکی اور پاکیزگی کی روح ان میں پیدا ہو جائے گی، اور جس طرح ایک انسان خوجہ (مخٹ) ہو کر گندے شہوات کے جذبات سے الگ ہو جاتا ہے اسی طرح میری تعلیم سے ان میں تبدیلی پیدا ہوگی (گویا مرزا قادیانی کی تعلیم پر عمل کرنے والی قادیانی جماعت اب خوجوں یعنی مختوں پر مشتمل ہے۔ مرتب)

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 357، 358 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 813، 814 پر)

## اکیلا کسی جنگل میں ہوتا تو بہتر تھا

(299) ”میں کہتے کہتے ان باتوں کو تھک گیا کہ اگر تمہاری یہی حالتیں ہیں تو پھر تم میں اور غیروں میں فرق ہی کیا ہے لیکن یہ دل کچھ ایسے ہیں کہ توجہ نہیں کرتے اور ان آنکھوں سے مجھے بینائی کی توقع نہیں لیکن خدا اگر چاہے اور میں تو ایسے لوگوں سے دُنیا اور آخرت میں بیزار ہوں۔ اگر میں صرف اکیلا کسی جنگل میں ہوتا تو میرے لیے ایسے لوگوں کی رفاقت سے بہتر تھا

جو خدا تعالیٰ کے احکام کو عظمت سے نہیں دیکھتے۔“

(شہادت القرآن صفحہ 101 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 397 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 815 پر)

## جیسے کتا مردار کی طرف

(300) ”بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں جو صرف زبان سے ہوتی ہے اور دل اس سے غافل بلکہ روگردان ہے۔ بیعت کے معنی بچ دینے کے ہیں۔ پس جو شخص درحقیقت اپنی جان اور مال اور آبرو کو اس راہ میں بیچتا نہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک بیعت میں داخل نہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک ظنی کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں اور ایک کمزور بچہ کی طرح ہر ایک ابتلا کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں اور بعض بد قسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کتا مردار کی طرف۔ پس میں کیونکر کہوں کہ وہ حقیقی طور پر بیعت میں داخل ہیں۔ مجھے وقتاً فوقتاً ایسے آدمیوں کا علم بھی دیا جاتا ہے مگر اذن نہیں دیا جاتا کہ ان کو مطلع کروں۔ کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کیے جائیں گے اور کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کیے جائیں گے۔ پس مقام خوف ہے۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 87 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 114 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 816 پر)

## شوق پورا نہیں ہوا

(301) ”میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ کبھی وہ بھی دن ہو کہ اپنی جماعت میں بکثرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے درحقیقت جھوٹ چھوڑ دیا اور ایک سچا عہد اپنے خدا سے کر لیا کہ وہ ہر ایک شر سے اپنے تئیں بچائیں گے اور تکبر سے جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے، بالکل دور جا پڑیں گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے۔ مگر ابھی تک بجز خاص چند آدمیوں کے ایسی شکلیں مجھے نظر نہیں آتیں۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 364 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 817 پر)

## جلنے والی لکڑیاں

(302) ”اور میں اس جگہ اس بات کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جس قدر لوگ میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہیں، وہ سب کے سب ابھی اس بات کے لائق نہیں کہ میں ان کی نسبت کوئی عمدہ رائے ظاہر کر سکوں۔ بلکہ بعض خشک ٹہنیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ جن کو میرا خداوند جو میرا متولی ہے، مجھ سے کاٹ کر جلنے والی لکڑیوں میں پھینک دے گا۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ اول ان میں دلسوزی اور اخلاص بھی تھا مگر اب ان پر سخت قبض وارو ہے اور اخلاص کی سرگرمی اور مریدانہ محبت کی نورانیت باقی نہیں رہی۔ بلکہ صرف بکلم کی طرح مکاریاں باقی رہ گئی ہیں اور بوسیدہ دانت کی طرح اب بجز اس کے کسی کام کے نہیں کہ منہ سے اکھاڑ کر پیروں کے نیچے ڈال دیئے جائیں۔ وہ تھک گئے اور در ماندہ ہو گئے۔ اور نابکار دنیا نے اپنے دام تزویر کے نیچے انہیں دبا لیا۔ سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عنقریب مجھ سے کاٹ دیئے جائیں گے۔“  
(فتح اسلام صفحہ 68 مندرجہ روحانی خزائن جلد سوم صفحہ 40 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 818 پر)

## خصی جماعت

□ ”ہمیں تو حضرت مسیح موعود (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) نے خصی کر دیا ہے۔“  
(تقریر مرزا محمود سابق خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار ”الفضل“ قادیان جلد 22 نمبر 87، صفحہ 7، 20 جنوری 1935ء)

□ ”حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے: ”سچا مومن خصی ہو جاتا ہے۔“ پس حکومت کے افسروں کو، پولیس اور سول کے حکام کو اور احراریوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ باوجود ان اشتعال انگیزیوں کے جو وہ کر رہے ہیں، ہم بالکل پرامن ہیں، کیونکہ ہم سچے مومن ہیں اور مومن خصی ہو جاتا ہے۔“  
(تقریر مرزا محمود سابق خلیفہ قادیان مندرجہ ”الفضل“ قادیان جلد 22، نمبر 87، صفحہ 5، مورخہ 20 جنوری 1935ء)



## سُوروں کی جماعت

(303) ”مجھے نہایت ہی افسوس سے معلوم ہوا کہ ”جامعہ احمدیہ“ میں جو طلبا تعلیم پاتے ہیں، انہیں کنوؤں کے مینڈکوں کی طرح رکھا گیا ہے۔ ان میں کوئی وسعت خیال نہ تھی۔ ان میں کوئی شاندار منگیں نہ تھیں اور ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھی۔ میں نے کرید کرید کر ان کے دماغ میں داخل ہو جانا چاہا۔ مگر مجھے چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ سوائے اس کے کہ انہیں کہا جاتا ہے۔ وفات مسیح کی یہ آیتیں رٹ لو یا نبوت کے مسئلہ کی یہ دلیلیں یاد کر لو، انہیں اور کوئی بات نہیں سکھلائی جاتی..... میں نے جس سے بھی سوال کیا، معلوم ہوا کہ اس نے اخبار کبھی نہیں پڑھا، اور جب بھی میں نے ان سے امنگ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تبلیغ کریں گے، اور جب سوال کیا کہ کس طرح تبلیغ کرو گے، تو یہ جواب دیا کہ: ”جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے۔“ یہ الفاظ کہنے والوں کی ہمت تو بتاتے ہیں مگر عقل تو نہیں بتاتے۔ الفاظ سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والا ہمت رکھتا ہے مگر یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہنے والے میں عقل نہیں اور نہ وسعت خیال ہے۔ ”جس طرح ہوگا“ تو سُور کیا کرتا ہے۔ اگر سُور کی زبان ہوتی اور اس سے پوچھا جاتا کہ تُو کس طرح حملہ کرے گا تو وہ یہی کہتا کہ: ”جس طرح ہوگا کروں گا۔ پس سور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیدھا چل پڑتا ہے۔ آگے نیزہ لے کر بیٹھو تو نیزہ پر حملہ کر دے گا۔ بندوق لے کر بیٹھو تو بندوق کی گولی کی طرف دوڑتا چلا آئے گا۔ پس یہ تو سُوروں والا حملہ ہے کہ سیدھے چلے گئے اور عواقب کا کوئی خیال نہیں کیا۔“

(تقریر مرزا محمود خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار ”الفضل“ جلد 22 نمبر 89 صفحہ 8 مورخہ 24 جنوری 1935ء)

(عکس صفحہ نمبر 819 پر)

کیا خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اپنے سادہ لوح مریدوں کو! ویسے خلیفہ صاحب اگر غور کرتے تو اسی نتیجے پر پہنچتے کہ اگر ان کے فدائیوں میں عقل و شعور نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ قادیانیت سے وابستہ ہی کیوں رہتے..... چنانچہ ایسے ہی بے سمجھوں سے انہیں استفادہ کرنا چاہیے تھا جو خیر سے سوا صدی سے برابر ہو بھی رہا ہے۔ جس گاؤں میں بے وقوف نہیں ہوتے، اس کے ٹھگ بھوکے مر جاتے ہیں جناب!

## جماعت میں بہت کمی ہے

(304) ”بیان کیا مجھ سے مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب نے کہ ایک دفعہ کسی کام کے متعلق میر صاحب یعنی میر ناصر نواب صاحب کے ساتھ مولوی محمد علی صاحب کا اختلاف ہو گیا۔ میر صاحب نے ناراض ہو کر اندر حضرت صاحب کو جا اطلاع دی۔ مولوی محمد علی صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ ہم لوگ یہاں حضور کی خاطر آئے ہیں کہ تا حضور کی خدمت میں رہ کر کوئی خدمت دین کا موقع مل سکے لیکن اگر حضور تک ہماری شکایتیں اس طرح پہنچیں گی تو حضور بھی انسان ہیں۔ ممکن ہے کسی وقت حضور کے دل میں ہماری طرف سے کوئی بات پیدا ہو تو اس صورت میں ہمیں بجائے قادیان آنے کا فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میر صاحب نے مجھ سے کچھ کہا تو تھا۔ مگر میں اس وقت اپنی فکروں میں اتنا محو تھا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میر صاحب نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چند دن سے ایک خیال میرے دماغ میں اس زور کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے کہ اس نے دوسری باتوں سے مجھے بالکل محو کر ڈیا ہے۔ بس ہر وقت اٹھتے بیٹھتے وہی خیال میرے سامنے رہتا ہے۔ میں باہر لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں اور کوئی شخص مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس وقت بھی میرے دماغ میں وہی خیال چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص سمجھتا ہوگا کہ میں اس کی بات سن رہا ہوں مگر میں اپنے اس خیال میں محو ہوتا ہوں۔ جب میں گھر جاتا ہوں تو وہاں بھی وہی خیال میرے ساتھ ہوتا ہے غرض ان دنوں یہ خیال اس زور کے ساتھ میرے دماغ پر غلبہ پائے ہوئے ہے کہ کسی اور خیال کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ خیال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے آنے کی اصل غرض یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جو سچی مومن ہو اور خدا پر حقیقی ایمان لائے اور اس کے ساتھ حقیقی تعلق رکھے اور اسلام کو اپنا شعار بنائے اور آنحضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ پر کار بند ہو اور اصلاح و تقویٰ کے رستے پر چلے اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ قائم کرے تاکہ پھر ایسی جماعت کے ذریعہ دنیا ہدایت پائے اور خدا کا منشا پورا ہو پس اگر یہ غرض پوری نہیں ہوتی تو اگر دلائل و براہین سے ہم نے دشمن پر غلبہ بھی پالیا اور اس کو پوری طرح زیر بھی کر لیا تو پھر بھی ہماری کوئی فتح نہیں کیونکہ اگر ہماری بعثت کی اصل غرض پوری نہ ہوئی تو گویا ہمارا سارا کام

رائیگاں گیا۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ دلائل و براہین کی فتح کے تو نمایاں طور پر نشانات ظاہر ہو رہے ہیں اور دشمن بھی اپنی کمزوری محسوس کرنے لگا ہے لیکن جو ہماری بعثت کی اصل غرض ہے۔ اس کے متعلق ابھی تک جماعت میں بہت کمی ہے اور بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ پس یہ خیال ہے جو مجھے آج کل کھا رہا ہے اور یہ اس قدر غالب ہو رہا ہے کہ کسی وقت بھی مجھے نہیں چھوڑتا۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 254 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 821 پر)

## میں کسی کو حساب نہیں دوں گا

(305) ”میں ایک مدت سے بیماریوں میں رہا اور اب بھی ان کا بقیہ باقی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے جواب لکھوں مگر باعث بیماری کے لکھ نہ سکا۔ آپ کے پہلے خط کا ما حاصل جس قدر مجھ کو یاد ہے، یہ ہے کہ میری نسبت..... کی جماعت کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ روپیہ کے خرچ میں بہت اسراف ہوتا ہے آپ اپنے پاس روپیہ جمع نہ رکھیں اور یہ روپیہ ایک کمیٹی کے سپرد ہو جو حسب ضرورت خرچ کیا کریں اور یہ بھی ذکر تھا کہ اس روپیہ میں سے باغ کے چند خدمتگار بھی روٹیاں کھاتے ہیں اور ایسا ہی اور کئی قسم کے اسراف کی طرف اشارہ تھا جن کو میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنی نیک نیتی سے جو کچھ لکھا بہتر لکھا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کا رد لکھوں میں آپ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس کی قسم کو پورا کرنا مومن کا فرض ہے اور اس کی خلاف ورزی معصیت ہے کہ آپ..... کی تمام جماعت کو اور خصوصاً ایسے صاحبوں کو جن کے دلوں میں یہ اعتراض پیدا ہوا ہے، بہت صفائی اور اور کھول کر سمجھا دیں کہ اس کے بعد ہم..... کا چندہ بجلی بند کرتے ہیں اور ان پر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے اور مثل گوشت خنزیر ہے کہ ہمارے کسی سلسلہ کی مدد کے لئے اپنی تمام زندگی تک ایک حبة بھی بھیجیں۔ ایسا ہی ہر شخص جو ایسے اعتراض دل میں مخفی رکھتا ہے، اس کو بھی ہم یہی قسم دیتے ہیں۔“

یہ کام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جس طرح وہ میرے دل میں ڈالتا ہے خواہ وہ کام لوگوں کی نظر میں صحیح ہے یا غیر صحیح، درست ہے یا غلط، میں اسی طرح کرتا ہوں۔ پس جو شخص کچھ مدد دے کہ مجھے اسراف کا طعنہ دیتا ہے وہ میرے پر حملہ کرتا ہے۔ ایسا حملہ قابل

برداشت نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ مجھے کسی کی بھی پروا نہیں۔ اگر تمام جماعت کے لوگ متفق ہو کر چندہ بند کر دیں یا مجھ سے منحرف ہو جائیں تو وہ جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اور جماعت ان سے بہتر پیدا کر دے گا جو صدق اور اخلاص رکھتی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے **يَنْصُرَكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ. يَنْصُرَكَ رِجَالُ نُوحَى الْيَهُم مِنَ السَّمَاءِ۔** یعنی خدا تیری اپنے پاس سے مدد کرے گا۔ تیری وہ مدد کریں گے جن کے دلوں میں ہم آپ وحی کریں گے اور الہام کریں گے۔ پس اس کے بعد میں ایسے لوگوں کو ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح بھی نہیں سمجھتا جن کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ انہیں جبکہ میں ایسے خشک دل لوگوں کو چندہ کے لیے مجبور نہیں کرتا جن کا ایمان ہنوز نا تمام ہے۔ مجھے وہ لوگ چندہ دے سکتے ہیں جو اپنے سچے دل سے مجھے خلیفۃ اللہ سمجھتے ہیں اور میرے تمام کاروبار خواہ ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان پر ایمان لاتے اور ان پر اعتراض کرنا موجب سلب ایمان سمجھتے ہیں۔ میں تاجر نہیں کہ کوئی حساب رکھوں، میں کسی کمیٹی کا خزانچی نہیں کہ کسی کو حساب دوں۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ 249، 250، طبع جدید، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 822 پر)

## بے حیا اور بزدل جماعت

(306) ”کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک سخت بد لگام دشمن کا جواب دے کر اس سے حضرت مسیح (یعنی مرزا قادیانی) کو گالیاں دلواتے ہو اور پھر خاموشی سے گھروں میں بیٹھ رہتے ہو۔ اگر تم میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی حیا ہے اور تمہارا سچ سچ یہ عقیدہ ہے کہ دشمن کو سزا دینی چاہیے تو پھر یا تم دنیا سے مٹ جاؤ یا گالیاں دینے والوں کو مٹا ڈالو۔ مگر ایک طرف تم جوش اور بہادری کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف بزدلی اور ڈوں ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہو۔“

(تقریر مرزا محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 25 نمبر 129، صفحہ 6 مورخہ 5 جون 1937ء)

(عکس صفحہ نمبر 824، 825 پر)

## جہنم کی آگ کی حامل جماعت

(307) ”رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ میں سے اگر ایک رائی کے برابر

آگ بھی ساری دنیا پر ڈالی جائے تو دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ جہنم کی آگ تمہارے اندر پیدا کروں جو پہاڑوں کے برابر ہو۔ اگر جہنم کی راکھ بھر آگ ساری دنیا کو جلانے کے لیے کافی ہے تو جو آگ میں تمہارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، اگر پیدا ہو جائے تو ایک دنیا نہیں، ہزاروں دنیاؤں کو تم جلانے کے قابل ہو جاؤ گے (یہ آگ قادیانیوں کے اندر اسی وقت پیدا ہو گئی تھی جب انہوں نے محمد عربی ﷺ سے رشتہ توڑ کر مرزا غلام احمد قادیانی سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ یہ آگ انہیں دنیا میں بھی جلائے گی اور آخرت میں بھی وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ مرتب)“

(تقریر مرزا محمود مندرجہ اخبار "الفضل" قادیان مورخہ 12 دسمبر 1935ء جلد 23 نمبر 139 صفحہ 9)  
(عکس صفحہ نمبر 826، 827 پر)

### بددیانت جماعت

(308) ”جیسا کہ سب کو معلوم ہے، یہاں (یعنی قادیان میں) ایک سٹور قائم کیا گیا تھا۔ جماعت کے کچھ افراد نے اس میں روپیہ دیا تھا..... میرے نام ایک خط آیا ہے..... یہ بات کہ یہ کسی احمدی کہلانے والے کا ہے، اس سے معلوم ہوتی ہے کہ میرا نام خلیفۃ المسیح لکھا ہے..... وہ یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کی دیانت کا حال ہے، جو دنیا میں بڑے بڑے دینداری کے دعویدار ہیں۔ اس کے بعد اس نے پہلے میری سٹور کے متعلق سفارش نقل کی ہے کہ ”جہاں تک میرا علم ہے، سٹور کے کارکن دیانت دار ہیں۔“ اس کو نقل کر کے (خط میں) کہا ہے کہ یہ ایک پھندا تھا، جب روپیہ لوگوں نے دیا تو پھر روپیہ کھانا شروع کر دیا اور کھاتے کھاتے یہاں تک پہنچایا کہ (اس دور کے) ساٹھ ہزار میں سے صرف اٹھارہ ہزار باقی رہ گیا۔“

(تقریر مرزا محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 10 نمبر 41، 42 صفحہ 6 مورخہ 23 تا 27 نومبر 1942ء)  
(عکس صفحہ نمبر 828، 829 پر)

### گالیاں کھلوانے والی جماعت

(309) ”گندے سے گندے الفاظ حضرت مسیح موعود (یعنی مرزا قادیانی) کے متعلق کہے جاتے

ہیں۔ تم خود دشمن سے وہ الفاظ کہلواتے ہو اور پھر تمہاری تنگ و دوہیں تک آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ سے کہتے ہو، وہ تمہاری مدد کرے، گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے؟“ (مرزا محمود کا خطبہ مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 25، نمبر 129، صفحہ 6 مورخہ 5 جون 1937ء) (عکس صفحہ نمبر 830 پر)

## کتے

(310) ”وہ مفسد لوگ جو میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کر اور یہ کہہ کر کہ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ پھر وہ اپنے گھروں میں جا کر ایسے مفاسد میں مشغول ہو جائیں کہ صرف دنیا ہی دنیا ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ نہ ان کی نظر پاک ہے، نہ ان کا دل پاک ہے۔ اور نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی نیکی ہوتی ہے اور نہ ان کے پیر کسی نیک کام کے لیے حرکت کرتے ہیں اور وہ اس چوہے کی طرح ہیں جو تاریکی میں ہی پرورش پاتا ہے اور اسی میں رہتا اور اسی میں مرتا ہے۔ وہ آسمان پر ہمارے سلسلہ میں سے کاٹے گئے ہیں۔ وہ عبث کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت میں داخل ہیں کیونکہ آسمان پر وہ داخل نہیں سمجھے جاتے۔ جو شخص میری اس وصیت کو نہیں مانتا کہ درحقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے اور درحقیقت ایک پاک انقلاب اس کی ہستی پر آ جائے اور درحقیقت وہ پاک دل اور پاک ارادہ ہو جائے اور پلیدی اور حرام کاری کا تمام چولہ اپنے بدن پر سے پھینک دے اور نوع انسان کا ہمدرد اور خدا کا سچا تابع بعد از ہو جائے اور اپنی تمام خود روی کو الوداع کہہ کر میرے پیچھے ہولے۔ میں اُس شخص کو اُس کتے سے مشابہت دیتا ہوں جو ایسی جگہ سے الگ نہیں ہوتا جہاں مردار پھینکا جاتا ہے اور جہاں سڑے گلے مردوں کی لاشیں ہوتی ہیں۔ کیا میں اس بات کا محتاج ہوں کہ وہ لوگ زبان سے میرے ساتھ ہوں اور اس طرح پر دیکھنے کے لیے ایک جماعت ہو۔“

(تذکرہ الشہادتین صفحہ 78 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 78 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 832 پر)

”سلطان القلم“ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تابع دار، تابع رکھنے والے کو کہتے ہیں، جیسے

تھانے دار، جمع دار وغیرہ..... یہاں اسے تابع فرمان لکھنا چاہیے تھا۔

## احتمق جماعت

(311) ”میں نے دیکھا ہے، قادیان کی لوکل جماعت کے پریزیڈنٹ (صدر یا امیر) چونکہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے متعلق یہ بات خوب نظر آتی ہے، ایک وقت جب ایک شخص پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو دوسرا آ کر کہتا ہے: دیکھیے کیا اندھیر نگری ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں، ہر کوئی اپنی حکومت جتاتا ہے۔ لیکن جب دوسرے وقت وہی شخص خود پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے تو شکایت کرتا ہے: پبلک (یعنی قادیانی) بالکل جاہل اور احمق ہے، وہ تو کام کرنے ہی نہیں دیتی، گویا جب خود پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو (قادیانی) پبلک کو احمق قرار دیتا ہے اور جب پبلک میں شامل ہو جاتا ہے تو (اپنے) پریزیڈنٹ کو احمق کہنے لگ جاتا ہے۔“ (گویا پوری قادیانی جماعت ہی احمق ہے۔ اس حساب سے بہشتی مقبرے کا نام ”جنت الحمقا“ ہونا چاہیے تھا۔ مرتب)

(خطبہ جمعہ از مرزا محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 20، نمبر 143، صفحہ 7 مورخہ یکم جون 1933ء)  
(عکس صفحہ نمبر 833، 834 پر)

## انگاروں والی جماعت

(312) ”میں چاہتا ہوں کہ جو جو مظالم تم پر کیے جاتے ہیں، وہ تمہارے دلوں میں انکار نے بن بن کر جمع ہوتے چلے جائیں لیکن ان کا دھواں باہر نہ نکلے، یہاں تک کہ تم ان انگاروں سے جل کر اندر ہی اندر راگھ ہو کر بھسم ہو جاؤ۔“

(خطبہ جمعہ از مرزا محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 23، نمبر 139، صفحہ 9 مورخہ 12 دسمبر 1935ء)  
(عکس صفحہ نمبر 335، 836 پر)

## جھگڑالو جماعت

(313) ”مجھے ان (قادیانی) لوگوں کو ڈھیل دیتے دیتے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور اب بھی میں انہیں کچھ نہیں کہتا مگر میں انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سوچیں ان کا اپنا طریق عمل کیا ہے۔ ان کی اپنی تو یہ حالت ہے کہ وہ اس بات پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کہ ہمیں فلاں عہدہ

کیوں نہیں دیا گیا؟ فلاں کیوں دیا گیا؟ فلاں کے ماتحت ہم رہنا نہیں چاہتے۔ کبھی تنخواہ پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں بتلاتی ہیں کہ ان کے دماغ کی کل بگڑی ہوئی ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود (یعنی مرزا قادیانی) کو اگر برا بھلا کہا جائے تو انھیں غصہ نہیں آتا لیکن اپنی کوئی بات ہو تو جھگڑے بغیر رہ نہیں سکتے۔“

(اخبار الفضل قادیان جلد 22، نمبر 94، صفحہ 9 مورخہ 5 فروری 1935ء) (عکس صفحہ نمبر 837، 838 پر)

کسی ماہر نفسیات کے لیے یہ بہت بڑی Assignment ہے کہ وہ گہرائی میں جا کر مفصل علمی تجزیہ کرے، آخر مرزا قادیانی کے لیے قادیانیوں کے دلوں میں غیرت کا اس قدر فقدان کیوں ہے؟ مرزا قادیانی کو نبی کہتے ہوئے ان کا منہ سوکتا ہے مگر جب موقع آتا ہے، اپنے اس ”سیح موعود“ کی عزت کے لیے تو ان کی حمیت نہیں جاگتی۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟

### غیر مہذب اور غیر شائستہ جماعت

(314) ”بعض دفعہ (میری) بغل کے نیچے سے کوئی ہاتھ نمودار ہو رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ میں آگے ہوتا ہوں اور کوئی پیچھے سے میرے ہاتھ کو مروڑ رہا ہوتا ہے اور میں قیاس سے سمجھتا ہوں کہ کوئی مصافحہ کرنا چاہتا ہے، پھر میں نے کئی بار دیکھا ہے بعض لوگ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں..... پھر میری یہ حالت ہے کہ اگر میرے بدن پر ہاتھ رکھ دیا جائے تو میری حالت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے..... وہ تو برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں مگر مجھے ایسی گدگدی اور کھجلی ہوتی ہے کہ طبیعت میں سخت انقباض پیدا ہوتا ہے پھر کئی لوگ ہیں کہ وہ دبانے لگتے ہیں مگر دو چار بازو ہا کر پھر کر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو برابر کے دوست کے لیے بھی معیوب بات ہے، چہ جائیکہ امام جماعت کے لیے ہو۔ ہماری مجالس میں باہر سے غیر احمدی بلکہ غیر مسلم بھی آ کر بیٹھتے ہیں اور عام طور پر ہماری جماعت کو مہذب اور شائستہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسی حالت دیکھ کر ان لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ (ظاہر ہے کہ وہ قادیانیوں کو غیر مہذب اور غیر شائستہ ہی سمجھیں گے۔ مرتب)“

(خطبہ جمعہ از مرزا محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 21، نمبر 149، صفحہ 7۵5 مورخہ 14 جون 1934ء)

(عکس صفحہ نمبر 839 تا 841 پر)



## نفس پرور جماعت

(315) ”پس جو لوگ دنیا میں نفسا نفسی میں ہی پڑے رہتے ہیں، قیامت کے روز ان سے بھی نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی تازہ مثال ہم میں موجود ہے۔ ایک (قادیانی) شخص کی لڑکی فوت ہوگئی۔ وہ اکیلا اس کا جنازہ لے کر گیا اور راستہ میں دو ایک آدمی اور مل گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میں بوجہ بیماری کے اس جنازے کے ساتھ نہ جاسکا۔“  
(خطبہ جمعہ از مرزا محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 8، نمبر 10، صفحہ 8 مورخہ 12 اگست 1920ء)  
(عکس صفحہ نمبر 842، 843 پر)

## ایک پیسے سے بھی کم حیثیت جماعت

(316) ”اگر ہزاروں احمدیوں کی جانیں بھی چلی جائیں تو پھر بھی ان کی اتنی حیثیت بھی نہ ہوگی، جتنی ایک کروڑ پتی کے لیے ایک پیسہ کی ہوتی ہے۔“  
(خطبہ جمعہ از مرزا محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 22، نمبر 72، صفحہ 8 مورخہ 13 دسمبر 1934ء)  
(عکس صفحہ نمبر 844، 845 پر)

## لومڑی، سوڑ اور سانپ

مرزا قادیانی کا اپنی جماعت کے بارے میں ”ارشاد“ ہے:  
(317) ”بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آدمی کوئی ہے روباہ کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار“  
(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 108 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 138، از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 846 پر)

مرزا قادیانی کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے قادیان کے رہنے والو! تم ہرگز انسان نہیں ہو۔ تم میں کوئی اپنی منافقت اور مکر و فریب کی وجہ سے لومڑی ہے۔ کوئی بے حیا اور پلید ہونے کی وجہ سے سوڑ ہے اور کوئی اپنی زہرناکیوں کی وجہ سے سانپ ہے۔

ان القابات کے جواب میں قادیانی بھی اپنے ”حضرت صاحب“ کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر ہم لومڑی، سور اور سانپ ہیں تو آپ بھی انسان نہیں ہیں کیونکہ مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا کہ

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں  
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 97 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 127 از مرزا قادیانی)



ثبوت حاضر ہیں!

سرزاد قادیانی  
کی  
بیماریاں



انبیائے کرام انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا بہترین انتخاب ہوتے ہیں۔ انھیں نبوت و رسالت ایسے عظیم ترین منصب سے سرفراز اور ممتاز کیا جاتا ہے۔ وہ عند اللہ بے حد مقبول اور محبوب ہوتے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ پوری انسانیت میں سے بلند ہوتا ہے۔ انھیں جہاں دیگر اعلیٰ ترین اوصاف حمیدہ سے نوازا جاتا ہے، وہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ انبیائے کرام کی صحت نہایت قابل رشک ہوتی ہے کیونکہ بار نبوت اٹھانے اور نباہنے کے لیے ان کا تندرست اور صحت مند ہونا لازمی امر ہے۔ وہ کسی خاص مرض کا نشانہ نہیں بنتے۔ انھیں کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوتی جو ان کے عظیم مشن میں رکاوٹ بن سکے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی نبی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو یہ دائمی اور ابدی نہیں ہوتی بلکہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے برعکس آنجہانی مرزا قادیانی پوری زندگی جسمانی اور دماغی بیماریوں کا شکار رہا۔ وہ بیمار نہیں بلکہ ”بیماری“ تھا۔ سستی نامردی سے لے کر مراق تک ہر بیماری اسے ”جاناں“ سمجھ کر چمٹی ہوئی تھی۔ مرزا قادیانی چلتا پھرتا بیماریوں کا ہسپتال تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آنجہانی مرزا قادیانی کو کون کون سی پیچیدہ بیماریاں لاحق تھیں:

### مردانہ حسن کا نمونہ

(318) ”آپ مردانہ حسن کے اعلیٰ نمونہ تھے۔“

(سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 120 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 847 پر)

## صحت کا ٹھیکہ

مرزا قادیانی کو الہام ہوا کہ

(319) ”ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے؟“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 685 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 848 پر)

## انبیا اور خبیث امراض

(320) ”انبیا خبیث امراض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔“

(ملفوظات جلد اول صفحہ 397 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 849 پر)

## دائم المرض اور طرح طرح کی بیماریاں

(321) ”اس عاجز کی عمر اس وقت پچاس برس سے کچھ زیادہ ہے اور ضعیف اور دائم المرض

اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہے۔“

(سراج منیر صفحہ 15 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 17 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 850 پر)

## آنکھوں کی نسبت خاص الہام

(322) ”ایسا ہی خدا تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی خبیث مرض دامن گیر ہو جائے جسے

کہ جذام اور جنون اور اندھا ہونا اور مرگی، تو اس سے یہ لوگ نتیجہ نکالیں گے کہ اس پر غضب

الہی ہو گیا۔ اس لیے پہلے سے اس نے مجھے براہین احمدیہ میں بشارت دی کہ ہر ایک خبیث

عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا۔ اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا۔ اور بعد اس کے آنکھوں کی

نسبت خاص کر یہ بھی الہام ہوا۔ تنزل الرحمة علی ثلث العین و علی الاخرتین۔

رحمت تین عضووں پر نازل ہوگی۔ ایک آنکھیں کہ پیرانہ سالی ان کو صدمہ نہیں پہنچائے گی اور

نزول الماء وغیرہ سے جس سے نور بصارت جاتا رہے محفوظ رہیں گی اور دو عضو اور ہیں جن کو

خدا تعالیٰ نے تصریح نہیں کی۔ ان پر بھی یہی رحمت نازل ہوگی اور ان کی قوتوں اور طاقتوں میں فتور نہیں آئے گا۔“

(تحفہ گولڈویہ | ضمیمہ | صفحہ 31 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 67 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 851 پر)

### مائی اوپیا

(323) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کی آنکھوں میں مائی اوپیا تھا، اسی وجہ سے پہلی رات کا چاند نہ دیکھ سکتے تھے۔“  
(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 119 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 852 پر)

### چشم نیم باز

(324) ”مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب مع چند خدام کے فوٹو کھنچوانے لگے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آنکھیں کھول کر رکھیں ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلف کے ساتھ آنکھوں کو کچھ زیادہ کھولا بھی مگر وہ پھر اسی طرح نیم بند ہو گئیں۔“  
(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 77 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 853 پر)

### الٹا جوتا پہننا

(325) ”ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لیے گرگابی لے آیا آپ نے پہن لی مگر اس کے اُلٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا، کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی۔ بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر فرماتے ان کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے واسطے اُلٹے سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان لگا دیے تھے مگر باوجود اس کے آپ الٹا سیدھا پہن لیتے تھے اس لیے

آپ نے اسے اتار دیا۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 67 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 854 پر)

## کس کی چھڑی ہے؟

(326) ”بیان کیا مجھ سے مولوی ذوالفقار علی خان صاحب نے کہ جن دنوں میں گورداسپور میں کرم دین کا مقدمہ تھا، ایک دن حضرت صاحب کچھری کی طرف تشریف لے جانے لگے اور حسب معمول پہلے دعا کے لیے اس کمرہ میں گئے جو اس غرض کے لیے پہلے مخصوص کر لیا تھا۔ میں اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ باہر انتظار میں کھڑے تھے اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں اس وقت حضرت صاحب کی چھڑی تھی۔ حضرت صاحب دعا کر کے باہر نکلے تو مولوی صاحب نے آپ کو چھڑی دی۔ حضرت صاحب نے چھڑی ہاتھ میں لے کر اسے دیکھا اور فرمایا۔ یہ کس کی چھڑی ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضور ہی کی ہے جو حضور اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اچھا! میں تو سمجھا تھا کہ یہ میری نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ چھڑی مدت سے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔“ (کیا سجاہل عارفانہ ہے! مرتب)۔

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 245 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 855 پر)

## گھڑی

(327) ”بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت صاحب کو ایک جیبی گھڑی تحفہ دی۔ حضرت صاحب اس کو رومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجیر نہیں لگاتے تھے، اور جب وقت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کر ایک کے ہند سے یعنی عدد سے گن کر وقت کا پتہ لگاتے تھے اور انگلی رکھ رکھ کر ہند سے گنتے تھے اور منہ سے بھی گنتے جاتے تھے اور گھڑی دیکھتے ہی وقت نہ پہچان سکتے تھے۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 180 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 856 پر)



## ”انہوں کچھ دیدا ہے“

(328) ”حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، وہاں ایک کونے میں کھرا تھا، جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے۔ وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور تنگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی۔ حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آنکلی۔ اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کے کمرے میں اور موجودگی کے وقت ٹونے کیا حرکت کی؟ تو اس نے ہنس کر جواب دیا، انہوں کچھ دیدا ہے؟ یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے؟“ (اسے کہتے ہیں: دیوانہ بکار خویش ہوشیار۔ مرتب)

(ذکر حبیب صفحہ 38 از مفتی محمد صادق قادریانی) (عکس صفحہ نمبر 857 پر)

## ذیابیطس، سوسودفعہ پیشاب

(329) ”مجھے اس وقت ایک اپنا سرگذشت قصہ یاد آتا ہے اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے۔ اور بعض وقت سوسودفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آیا ہے اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے، کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے ایفون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ ایفون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے ایفون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا، اور دوسرا ایفونی۔“

(نسیم دعوت صفحہ 74، 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 434، 435 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 858 پر)

## حالتِ مردی کا لعدم

(330) ”میرادل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا اور دو

مرضیں یعنی ذیابیطس اور درد سر مع دوران سر، قدیم سے میرے شامل حال تھیں جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا۔ اس لیے میری حالت مروی کا لحد تھی۔“

(تریاق القلوب صفحہ 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 203 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 859 پر)

## سر درد، کمی خواب، تشنج دل، ذیابیطس، کثرت پیشاب

(331) ”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور وہ دو زرد چادریں جن کے بارے میں

حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چادروں میں سحج نازل ہوگا، وہ دو زرد چادریں میرے شامل

حال ہیں، جن کی تعبیر علم تعبیر الرؤیا کے رُو سے دو بیماریاں ہیں۔ سو ایک چادر میرے اوپر کے

حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی

ہے اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے، وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت

سے دامنگیر ہے، اور بنا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرت

پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔“

(ضمیمہ اربعین نمبر 4 صفحہ 4 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 470، 471 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 860 پر)

## سر درد، کثرت پیشاب و دست

(332) ”مجھے دو مرض دامن گیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سر درد اور دوران

سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا، نبض کم ہو جانا، دوسرے جسم کے نیچے کے حصہ

میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں قریباً بیس برس

سے ہیں۔ کبھی دعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دُور ہو گئیں۔ مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔

ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ یہ بیماریاں بالکل دُور کر دی جائیں تو جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا۔“

(نسیم دعوت صفحہ 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 435 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 862 پر)

## سر اور دستوں کی بیماری

(333) ”احادیث میں ہے کہ مسیح موعود دو زرد رنگ چادروں میں اترے گا۔ ایک چادر بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی اور دوسری چادر بدن کے نیچے کے حصہ میں۔ سو میں نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود دو بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا کیونکہ تعبیر کے علم میں رد کپڑے سے مراد بیماری ہے۔ اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں یعنی ایک سر کی بیماری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری۔“

(تذکرہ الشہادتین صفحہ 44 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 46 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 863 پر)

## دست

(334) ”مجھے اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی دست آتے ہیں۔“  
(ملفوظات جلد اول صفحہ 565 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 864 پر)

## دورے

(335) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اوائل میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کو سخت دورہ پڑا۔ کسی نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کو بھی اطلاع دے دی اور وہ دونوں آگئے۔ پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ مرزا سلطان احمد تو آپ کی چار پائی کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ مگر مرزا فضل احمد کے چہرہ پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا اور وہ کبھی ادھر بھاگتا تھا اور کبھی ادھر۔ کبھی اپنی پگڑی اتار کر حضرت صاحب کی ٹانگوں کو باندھتا تھا اور کبھی پاؤں دبانے لگ جاتا تھا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ کاٹتے تھے۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 28 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 865 پر)

## دورے اور روزے

(336) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود کو دورے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سارے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ دوسرا رمضان آیا تو آپ نے روزے رکھنے شروع کیے مگر آٹھ نو روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا اس لیے باقی چھوڑ دیے اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آپ نے دس گیارہ روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ کی وجہ سے روزے ترک کرنے پڑے اور آپ نے فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا تیرہواں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور آپ نے روزہ توڑ دیا اور باقی روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جتنے رمضان آئے آپ نے سب روزے رکھے مگر پھر وفات سے دو تین سال قبل کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے اور فدیہ ادا فرماتے رہے۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتدا دوروں کے زمانہ میں روزے چھوڑے تو کیا پھر بعد میں ان کو قضا کیا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں صرف فدیہ ادا کر دیا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب شروع شروع میں حضرت مسیح موعود کو دوران سر اور برد اطراف کے دورے پڑنے شروع ہوئے تو اس زمانہ میں آپ بہت کمزور ہو گئے تھے اور صحت خراب رہتی تھی، اس لیے جب آپ روزے چھوڑتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر دوسرے رمضان تک ان کے پورا کرنے کی طاقت نہ پاتے تھے۔ مگر جب اگلا رمضان آتا تو پھر شوق عبادت میں روزے رکھنے شروع فرمادیتے تھے لیکن پھر دورہ پڑتا تھا تو ترک کر دیتے تھے اور بقیہ کا فدیہ ادا کر دیتے تھے۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 65، 66 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 866، 867 پر)

## مرگی

(337) ”مجھے دو بیماریاں مدت دراز سے تھیں۔ ایک شدید دردِ سر جس سے میں نہایت بیتاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے اور یہ مرض قریباً پچیس برس تک دامنگیر رہی اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا اور طبیعوں نے لکھا کہ ان عوارض کا آخر نتیجہ مرگی ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر قریباً دو ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو

کر آخر مرض صرع میں مبتلا ہو گئے اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا۔“  
(حقیقۃ الوحی صفحہ 363 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 376 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 868 پر)

مرزا قادیانی کی عادت تھی کہ اپنی تقریر میں ایک بات کو کم از کم تین دفعہ عموماً دہراتا تھا اور یہ غالباً مراق کا اثر تھا کیونکہ جس قدر کسی کو مراق ہوتا ہے۔ اس قدر اپنا سلسلہ کلام لمبا کرتا ہے اور ایک بات کو بار بار دہراتا ہے۔ انبیائے علیہم السلام میں یہ کمزوری نہیں پائی جاتی بلکہ وہ قلیل الکلام ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے مراق کا خود اقرار کرتا ہے:

### ہسٹریا

(338) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے یکدم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا یا ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے یا کسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیرہ ذلک۔ یہ اعصاب کی ذکات جس یا نکان کی علامات ہیں اور ہسٹریا کے مریضوں کو بھی ہوتی ہیں اور انہیں معنوں میں حضرت صاحب کو ہسٹریا یا مراق بھی تھا۔“

(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 55 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 869 پر)

### ہسٹریا کے دورے

(339) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود کو پہلی دفعہ دوران سر اور ہسٹریا کا دورہ بشیر اول (ہمارا ایک بڑا بھائی ہوتا تھا جو 1888ء میں فوت ہو گیا تھا) کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کو اتھو آیا اور پھر اس کے بعد طبیعت

خراب ہو گئی۔ مگر یہ دورہ خفیف تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لیے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرما گئے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ حامد علی (حضرت مسیح موعود کے ایک پرانے مخلص خادم تھے۔ اب فوت ہو چکے ہیں) نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جلدی پانی کی ایک گاگر گرم کر دو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھو میاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ شیخ حامد علی نے کہا کہ کچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں پردہ کرا کے مسجد میں چلی گئی، تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ میں جب پاس گئی تو فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے۔ پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کی سی حالت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ اس کے بعد سے آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ خاکسار نے پوچھا: دورہ میں کیا ہوتا تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے کھج جاتے تھے، خصوصاً گردن کے پٹھے۔ اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس حالت میں آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے۔ شروع شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ تو دوروں کی ایسی سختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی۔ خاکسار نے پوچھا اس سے پہلے تو سر کی کوئی تکلیف نہیں تھی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا پہلے معمولی سر درد کے دورے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا کیا پہلے حضرت صاحب خود نماز پڑھاتے تھے؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں مگر پھر دوروں کے بعد چھوڑ دی۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 16، 17 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 870، 871 پر)

## اگر ہسٹریا ثابت ہو جائے.....

□ ”ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا یا مانیٹو لیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔“

(ریویو آف ریپبلکنز قادیان اگست 1926ء مضمون شاہنواز قادیانی)

## مراق

(340) ”آج کل میری مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا رہتا ہوں حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دوران سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کیے جاتا ہوں۔“

(ملفوظات جلد دوم صفحہ 565 طبع جدید، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 872 پر)

## ہسٹریا اور مراق

(341) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے یکدم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا یا ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم لگتا ہے یا کسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیر ذلک۔“

(سیرت الہدی جلد دوم صفحہ 55 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 873 پر)

## مراق اور کثرت بول

(342) ”دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیشگوئی کی تھی جو اسی طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی یعنی مراق اور کثرت بول۔“

(ملفوظات جلد پنجم صفحہ 32، 33 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 874 پر)

مسح موعود کی صداقت کے لیے اس کا دائم المرض ہونا کیا ضروری تھا؟ یقیناً یہ مرزا قادیانی کا ذہن رسا ہے جو دو زرد چادروں کو علامت قرار دے کر پھر اسے ”ڈی کوڈ“ کر دیا کہ دراصل یہ دو بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق ہیں۔ مسح کا کام مسیحائی ہے نہ کہ خود امراض کا مجموعہ ہونا۔

## ہر نبی کو مراق

(343) ”سیٹھی غلام نبی صاحب نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے حضرت مسح موعود سے فرمایا کہ حضور غلام نبی کو مراق ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رنگ میں سب نبیوں کو مراق ہوتا ہے اور مجھ کو بھی ہے۔ طبیعتوں کی مناسبت ہے۔ جس قدر ایسے آدمی ہیں کچھ چلے آویں گے۔“  
(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 304 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 876)

## سہل

(344) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت صاحب کو سہل ہو گئی اور چھ ماہ تک بیمار رہے اور بڑی نازک حالت ہو گئی، حتیٰ کہ زندگی سے ناامیدی ہو گئی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے چچا آپ کے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ دنیا میں یہی حال ہے۔ سبھی نے مرنا ہے۔ کوئی آگے گزر جاتا ہے۔ کوئی پیچھے جاتا ہے اس لیے اس پر ہراساں نہیں ہونا چاہیے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تمہارے دادا خیر حضرت صاحب کا علاج کرتے تھے اور برابر چھ ماہ تک انہوں نے آپ کو بکرے کے پائے شوربا کھلایا تھا۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 55، 56 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 877)

## خونی تے

(345) ”پھر آپ نے فرمایا میں کیا کروں میں نے تو خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں



تیرے دین کی خاطر اپنے ہاتھ اور پاؤں میں لوہا پہننے کو تیار ہوں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تجھے ذلت سے بچاؤں گا اور عزت کے ساتھ بری کروں گا۔ پھر آپ محبت الہی پر تقریر فرمانے لگے اور قریباً نصف گھنٹہ تک جوش کے ساتھ بولتے رہے۔ لیکن پھر یکلخت بولتے بولتے آپ کو ابکائی آئی اور ساتھ ہی تے ہوئی، جو خالص خون کی تھی، جس میں کچھ خون جما ہوا تھا اور کچھ بننے والا تھا۔ حضرت نے تے سے سر اٹھا کر رومال سے اپنا منہ پونچھا اور آنکھیں بھی پونچھیں، جو تے کی وجہ سے پانی لے آئیں تھیں۔ مگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ تے میں کیا نکلا ہے کیونکہ آپ نے یکلخت جھک کر تے کی اور پھر سر اٹھا لیا۔ مگر میں اس کے دیکھنے کے لیے جھکا تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ حضور تے میں خون نکلا ہے۔ تب حضور نے اس کی طرف دیکھا۔ پھر خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب اور دوسرے لوگ بھی کمرے میں آگئے اور ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر انگریز تھا۔ وہ آیا اور تے دیکھ کر خواجہ صاحب کے ساتھ انگریزی میں باتیں کرتا رہا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح خون کی تے آنا خطرناک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ آرام کیوں نہیں کرتے؟ خواجہ صاحب نے کہا آرام کس طرح کریں۔ مجسٹریٹ صاحب قریب قریب کی پیشیاں ڈال کر تنگ کرتے ہیں، حالانکہ معمولی مقدمہ ہے جو یونہی طے ہو سکتا ہے۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 97 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 879 پر)

## قونج زحیری

(346) ”ایک مرتبہ میں قونج زحیری سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن پاخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 234 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 246 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 880 پر)

## کیچڑ اور ریت سے علاج

(347) ”بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم

اے کہ ایک دفعہ والد صاحب سخت بیمار ہو گئے اور حالت نازک ہو گئی اور حکیموں نے ناامیدی کا اظہار کر دیا اور نبض بھی بند ہو گئی۔ مگر زبان جاری رہی۔ والد صاحب نے کہا کہ کچھڑ لا کر میرے اوپر اور نیچے رکھو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور اس سے حالت رُو بہ اصلاح ہو گئی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے کہ یہ مرض قونج زحیری کا تھا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تھا کہ پانی اور ریت منگوا کر بدن پر ملی جاوے۔ سو ایسا کیا گیا تو حالت اچھی ہو گئی۔“ (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 221، 222 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 881 پر)

## خارش

(348) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو غالباً 1892ء میں ایک دفعہ خارش کی تکلیف بھی ہوئی تھی۔ اس واقعہ کے بہت عرصہ بعد ایک دفعہ ہنس کر فرمانے لگے کہ خارش والے کو کھجانے سے اتنا لطف آتا ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہر بیماری کا اجر انسان کو آخرت میں ملے گا، سوائے خارش کے۔ کیونکہ خارش کا بیمار دنیا میں ہی اس سے لذت حاصل کر لیتا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کو خارش کی تکلیف مرزا عزیز احمد صاحب کی پیدائش پر ہوئی تھی جو غالباً 1891ء کا واقعہ ہے۔“ (سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 53 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 883 پر)

## لکنت

(349) ”قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے مجھ سے بذریعہ خط بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی زبان میں کسی قدر لکنت تھی اور آپ پر نالے کو پنالہ فرمایا کرتے تھے۔“ (سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 25 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 884 پر)

## دانتوں کو کیڑا

(350) ”دندان مبارک آپ کے آخر عمر میں کچھ خراب ہو گئے تھے، یعنی کیڑا بعض ڈاڑھوں کو لگ گیا تھا جس سے کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک ڈاڑھ کا سرا

ایسا نوکدار ہو گیا تھا کہ اس سے زبان میں زخم پڑ گیا تو ریتی کے ساتھ اس کو گھسوا کر برابر بھی کرایا تھا۔ مگر کبھی کوئی دانت نکلوا یا نہیں۔“

(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 125 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 885 پر)

## ایڑیاں پھٹ گئیں

(351) ”پیر کی ایڑیاں آپ کی بعض دفعہ گرمیوں کے موسم میں پھٹ جایا کرتی تھیں۔“  
(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 125 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 886 پر)

## بال سفید

(352) ”فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بال تیس سال کی عمر میں سفید ہونے شروع ہوئے تھے (البتہ دل آخری وقت تک سیاہ رہا۔ ناقل) اور پھر جلد جلد سب سفید ہو گئے۔“  
(ذکر حبیب صفحہ 38 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 887 پر)

## دایاں بازو

(353) ”بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کہ ایک دفعہ والد صاحب اپنے چوبارے کی کھڑکی سے گر گئے اور دائیں بازو پر چوٹ آئی۔ چنانچہ آخر عمر تک وہ ہاتھ کمزور رہا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ آپ کھڑکی سے اترنے لگے تھے سامنے سٹول رکھا تھا وہ الٹ گیا اور آپ گر گئے اور دائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ ہاتھ آخر عمر تک کمزور رہا۔ اس ہاتھ سے آپ لقمہ تو منہ تک لے جا سکتے تھے مگر پانی کا برتن وغیرہ منہ تک نہیں اٹھا سکتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ نماز میں بھی آپ کو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے سہارے سے سنبھالنا پڑتا تھا۔“  
(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 216، 217 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 888 پر)

## حافظہ خراب

(354) ”میرا حافظہ بہت خراب ہے۔ اگر کئی دفعہ کسی کی ملاقات ہو، تب بھی بھول جاتا ہوں۔ یاد دہانی عمدہ طریقہ ہے۔ حافظہ کی یہ اہتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔“  
(مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ 483 (طبع جدید) از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 890 پر)

## سرعت انزال

(355) ”ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوظ بکلی جاتا رہتا تھا۔ شاید قلت حرارت غریزی اس کا موجب تھی۔ وہ عارضہ بالکل جاتا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا حرارت غریزی کو بھی مفید ہے اور منی کو بھی غلیظ کرتی ہے۔“  
(مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ 20 (طبع جدید) از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 891 پر)

قارئین کرام! آپ نے آنجہانی مرزا قادیانی کو لاحق مختلف بیماریوں کا مطالعہ کیا۔ ان بیماریوں میں ایک اہم بیماری مراق ہے جس کے متعلق دنیا بھر کے مستند ڈاکٹروں اور حکیموں کا کہنا ہے کہ یہ مانجھو لیا کی ایک قسم ہے۔ یہ مرض، تیز سودا سے جو معدہ میں جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے، اس سے فضلات اور آنتوں کے سیاہ بخارات اُٹھ کر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، مریض اس کی ظلمت سے پر اگندہ خاطر ہو جاتا ہے اور یہی چیز مراق ہوتی ہے۔

ماہرین طب نے مراق کی علامات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مرض میں مریض کے افکار و خیالات، حالت طبعی سے بدل جاتے ہیں اور بالعموم اس میں انسانیت یعنی خودی، تکبر اور تعالیٰ یعنی اپنی بڑائی کے قاسد خیالات سما جاتے ہیں۔ وہ ہر بات میں مبالغہ کرتا ہے۔ اس کے دماغی حواس درست نہیں رہتے۔ وہ ہر وقت ست متفکر اور خودی کے خیالات میں مست رہتا ہے۔ اگر مریض پڑھا لکھا ہو تو پیغمبری اور معجزات و کرامات کا دعویٰ کرتا ہے۔ خدائی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ مرض کبھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ مریض گمان کرنے لگتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ حد تک پہنچ جاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ بعض مریضوں میں گاہے گاہے یہ مرض اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب دان سمجھتا ہے اور بعض میں یہ مرض یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ اس کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے اور کبھی اپنے آپ کو بادشاہ اور کبھی پیغمبر سمجھتا ہے۔

ثبوت حاضر ہیں!

مرزا قادیانی

کا

عبرتناک انجام



جھوٹے مدعی نبوت آنجنہانی مرزا قادیانی کو درجنوں بیماریاں لاحق تھیں اور یہ بیماریاں ساری زندگی اس کے ساتھ چمٹی رہیں۔ بالآخر اس کی زندگی کا عبرتناک انجام قریب آ گیا۔ روزنامہ الفضل قادیان، مرزا قادیانی کی اہم تحریروں میں سے درج ذیل اقتباس نقل کرتا ہے جو ہر قادیانی کے لیے دعوتِ فکر ہے:-

### بہت بری موت

□ ”اور جو شخص کہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں حالانکہ وہ نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے، وہ بہت بری موت مرتا ہے اور اس کا انجام نہایت ہی بد اور قابلِ عبرت ہوتا ہے۔“  
(روزنامہ الفضل قادیان جلد 28، نمبر 50، صفحہ 1 مورخہ 2 مارچ 1940ء)

اب اس معیار پر مرزا قادیانی کو جانچ لیتے ہیں۔ یعنی اگر مرزا قادیانی اپنے دعوؤں میں سچا تھا تو اس کا انجام اچھا ہونا چاہیے تھا، اور اگر اپنے دعوؤں میں جھوٹا تھا تو ”نہایت ہی بد اور قابلِ عبرت انجام“ ہونا چاہیے تھا۔ مزید براں خود مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(356) ”غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں، بلکہ نہایت شریر اور بد ذات آدمیوں کا کام ہے۔“

(آریہ دھرم صفحہ 13 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 13 از مرزا غلام احمد قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 892 پر)

(357) ”واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور

کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 288، مندرجہ روحانی خزائن، جلد 5 صفحہ 288 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 893 پر)

(358) ”مولوی ثناء اللہ سے آخری فیصلہ“ میں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے لکھوایا تھا:

”بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب۔ السلام علی من اتبع الهدی! مدت سے آپ کے پرچہ الحمدیٹ میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور دجال اور کذاب ہے اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افترا ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں اور آپ بہت سے افترا میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں..... اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں، آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک!..... اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افترا ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افترا کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک! میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت



کو خوش کر دے۔ آمین! مگر اے میرے کامل اور صادق خدا! اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی ہی میں ان کو نابود کر۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے۔ بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین!

میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے..... تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص (مرزا قادیانی) درحقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے..... میں دیکھتا ہوں مولوی ثناء اللہ ان ہی تہمتوں کے ذریعہ سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں پلٹتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں درحقیقت مفسد اور کذاب ہے، اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے۔ یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو جتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک! تو ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین! ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔

بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

(مرزا غلام احمد قادیانی کا اشتہار مورخہ 5 اپریل 1907ء، مجموعہ اشتہارات، جلد دوم، صفحہ 705، 706 طبع جدید)

(عکس صفحہ نمبر 894، 895 پر)

اس اشتہار کی اشاعت کے ہفتہ عشرہ بعد ہی 25 اپریل 1907ء کو اخبار بدر قادیان

میں مرزا قادیانی کی روزانہ ڈائری میں شائع ہوا کہ:

## یہ خدا کی طرف سے ہے

(359) ”ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا یہ دراصل ہماری (یعنی مرزا قادیانی کی) طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔“

(ملفوظات جلد پنجم صفحہ 206 طبع جدید، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 896 پر)

اس پیش گوئی کے تقریباً ایک سال بعد مرزا قادیانی کی موت نے ”آخری فیصلہ“ کر دیا کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا کیونکہ اس کی موت مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں بقول اس کے ”خدا کی ہاتھوں کی سزا“ سے ہوئی۔ ہر شخص دم بخود رہ گیا کہ خود مرزا قادیانی کی دعا پر قدرت حق نے عجب فیصلہ کیا۔

25 مئی 1908ء کو شام کھانے کے بعد اس کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ اسے مسلسل اسہال شروع ہو گئے۔ ایک دو دفعہ رفع حاجت کے لیے لیٹرین گیا، بعد ازاں ضعف کی وجہ سے نڈھال ہو گیا۔ اس کے جسم کا پانی اور نمک ختم ہو گیا تھا۔ بلڈ پریشر کم ہونے سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آنکھیں اندر کھودھنس گئیں اور نبض اتنی کمزور ہو گئی کہ محسوس کرنا مشکل ہو گئی۔ مرزا بشیر احمد ایم، اے ابن مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے:

## حالت دیگر گوں

(360) ”حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا۔ مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا، تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے، اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا: تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا۔ نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا۔ مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ

پاخانہ نہ جاسکتے تھے۔ اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا۔ اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے۔ پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی۔ مگر ضعف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک تے آئی۔ جب آپ تے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے۔ اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔“

(سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 11 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 897 پر)

□ بقول حکیم نورالدین ”معدہ کے اندر کی تمام سوزشیں، آنتوں کی سوزشیں اور پیٹ کی تھلیوں کی سوزشیں تے کا باعث بنتی ہیں۔ ہیضہ کی صورت میں جب آنتیں متاثر ہوتی ہیں تو تے کے ساتھ اسہال ہوتے ہیں۔ تے کا آنا بذات خود کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ متعدد بیماریوں کی علامت ہے۔ آنتوں کے فالج اور رکاوٹ میں غذا ہی تے کا باعث بنتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد شراب یا افیون کے استعمال سے بھی تے ہوتی ہے۔ اگر اسہال کے ساتھ تے بھی شامل ہو تو مرض اسہال کے بجائے ہیضہ بن جاتا ہے۔“ (بیاض نورالدین ص 209)

□ مسلسل اسہال اور تے کی وجہ سے مرزا قادیانی کے جسم، بستر اور کمرے میں سخت بدبو اور تعفن پھیل گیا تھا۔ اس کی حالت دگرگوں ہو گئی اور نورالدین کو بلانے کے لیے کہا۔ حکیم نورالدین آیا تو مرزا قادیانی نے اسے کہا ”مجھے اسہال کا دورہ ہو گیا ہے۔ آپ کوئی دوائی تجویز کریں۔“ (ضمیمہ الحکم 28 مئی 1908ء)

حکیم نورالدین نے چند مقوی ادویات کھانے کو دیں مگر مرزا قادیانی نے تے کر دیں۔ اس کے بعد اس کی نبض ڈوبنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک انگریز ڈاکٹر آیا مگر وہ نہایت عبرتناک حالت دیکھتے ہی چلا گیا۔ بعض عینی شاہدین کے مطابق مرزا قادیانی کے منہ سے پاخانہ نکل رہا تھا۔ ایسی ہی بھیانک حالت میں مرزا قادیانی 26 مئی 1908ء کو صبح ساڑھے دس بجے جہنم داخل ہو گیا۔

لکھا تھا کاذب مرے گا بیشتر  
قول کا پکا تھا پہلے مر گیا

قادیانی کہتے ہیں کہ: مرزا قادیانی کی موت ہیضہ سے نہیں ہوئی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی موت کس عارضہ سے ہوئی؟ اس کے لیے کسی ڈاکٹری رپورٹ کی احتیاج نہیں، بلکہ مرزا قادیانی کے ”نام نہاد صحابی“ اور خسر میر ناصر نواب کی ثقہ روایت سے خود مرزا قادیانی کا اپنا ”اقرارِ صالح“ موجود ہے، میر ناصر نواب لکھتا ہے:

## میر صاحب! مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے

(361) ”حضرت (مرزا) صاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا، جب آپ کو سخت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا، جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا: ”میر صاحب! مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔“ اس کے بعد کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں آپ نے نہیں فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے روز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔“

(حیات ناصر صفحہ 14، از شیخ یعقوب علی عرفانی قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 898 پر)

لیجئے! بہت ”بری موت“ کے تینوں مرحلے اللہ تعالیٰ نے خود مرزا قادیانی کی زبان سے قلم سے طے کرادیئے، یعنی پہلے اس سے لکھوایا کہ مفتری بہت ہی بری موت مرتا ہے، پھر اس کی تعین و تشخیص بھی اسی کے قلم سے کرا دی کہ طاعون اور ہیضہ کی موت ہی وہ ”بری موت“ ہے، جو بطور سزا ”خدا تعالیٰ کے ہاتھوں“ سے کسی سرکش مفتری کو دی جاتی ہے، اور پھر خود اسی کی زبان سے یہ اقرار بھی کرا دیا کہ وہ ”وبائی ہیضہ“ سے ”بہت بری موت“ مرتا ہے، اور یہ اقرار ریکارڈ پر موجود ہے۔

قادیانیوں کی نفسیات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو ”مسح موعود“ مانتے ہیں مگر اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا ”سیحا“ کہتا ہے ”..... مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔“ مگر قادیانی مصر ہیں کہ حضرت صاحب کا کہنا درست نہیں ہے۔

۔ کوئی بھی کام سیحا تیرا پورا نہ ہوا

تا مرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

## میں نجاست کے کیڑے سے بھی بدتر ہوں

(362) ”مگر مجھے ایسے مفتزی اور بدگو لوگوں کی کچھ پروا نہیں۔ کیونکہ اگر جیسا کہ مجھے اس نے دغا باز، حرام خور، مکار، فریبی اور جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے اور طریق اسلام اور دیانت اور پیروی آنحضرت ﷺ سے باہر مجھے کرنا چاہا ہے اور میرے وجود کو محض فضول اور اسلام کے لیے مضر ٹھہرایا ہے بلکہ مجھے محض شکم پرور اور دشمن اسلام قرار دیا ہے۔ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو میں اس کیڑے سے بھی بدتر ہوں جو نجاست سے پیدا ہوتا اور نجاست میں ہی مرتا ہے۔“  
(ملفوظات جلد 8 صفحہ 428 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 899، 900 پر)

## دوزخ کا الہام

(363) ”اتنے میں الہام ہوا: یاتیک من کل فج عمیق۔ پھر دوزخ دکھایا گیا۔ وہ سخت مکروہ اور پاخانہ کی شکل کا تھا۔“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 281 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 901 پر)

## جھوٹے مدعی کو خدا ہلاک کرتا ہے

(364) ”جھوٹے مدعی کو خدا ہلاک کرتا ہے اور اس کو مہلت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ خدا پر افتراء کرتا ہے اور حق و باطل میں گڑبڑ ڈالنا چاہتا ہے۔“  
(ملفوظات جلد پنجم صفحہ 554 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 902 پر)

## خدا جھوٹوں کو ہلاک کرتا ہے

(365) ”اے بد قسمت بدگمانو! کیا ممکن ہے کہ کوئی خدا پر جھوٹ باندھے اور پھر اس کے دست قہر سے بچ رہے۔ خدا جھوٹوں کو ہلاک کرے گا اور وہ جو اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے، وہ ہلاک کیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دلیری کر کے خدا پر بہتان باندھا۔“

(ایام اصلاح صفحہ 115 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 341 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 903 پر)

## دوزخ کا وعدہ

(366) ”آج سے چھبیس برس پہلے خدائے عزوجل براہین احمدیہ میں فرما چکا ہے، میں اپنی چکار دکھلاؤں گا۔ میں اس کو گھسیٹوں گا اور اس کو دوزخ دکھلاؤں گا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 84 مندرجہ روخانی خزائن جلد 22 صفحہ 520 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 904 پر)

کسی زندہ دل شاعر نے مرزا قادیانی آنجہانی کی تاریخ وفات لکھی ہے۔  
یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے اور  
اور تو زندہ ہیں خود ہی مر گیا  
اس کے بیماروں کا ہو گا کیا علاج  
کارہ سے خود میجا مر گیا  
مرزا قادیانی کی تاریخ وفات ہے:

لَقَدْ دَخَلَ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ. ۱۳۲۶ھ



ثبوتِ حاضرین!







# تذکرہ

مجموعہ

الہامات، کشوف و رویا

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسبح موعود و مرہدی مہربود علیہ السلام


بن الحیمة



بن الحیمة

وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ أَوَّلِ مَا خَلَقْتُ

الْحَيَاةِ



مُتَّقِبَةً

حضرت صاحبزادہ میرا بشیر احمد صاحب ایم۔ اے سلمہ اللہ تعالیٰ

حسب ما یستوعب

مولانا اکرم معظم مولوی محمد امین صاحب مولوی قاضی منشی قاضی اول مدرسہ مدرسہ قادریان

محمد فخر الدین (دقانی) مستتم احمد کتاب گھر قادریان کو شائع کرنا فرمایا۔

بصرہ، ہجری ۱۳۸۰

قیمت فی جلد چھ روپے

۱۳۸۰

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

# شیر المہدی

حصہ دوم

تالیف لطیف حضرت صبا جنزادہ منیرا بشیر احمد صاحب ایم

جے

مینجر ہاؤس ڈپو تالیف و اشاعت دیان واران

نے

ماہ دسمبر ۱۹۲۶ء میں شائع کیا

اسلامی ریویو سن ۱۹۰۷ء میں باہتمام لکچر لائن پبلشرز

وَعَلَىٰ هَيْدَرِ الْمَسِيحِيِّ

# شیر احمدی

حفظہ سوم

(مرتب فرمودہ)

حضرت مرزا بشیر احمد رضا ایم اے

جسے

خا

پہر ڈیسرا محمد اہل مولوی فاضل و منشی فاضل قادیان دارالامان

شائع کیا

اپریل ۱۹۳۹ء صفر ۱۳۵۸ھ ایڈیشن اول

# ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیخ مودود مہدی بہو

باقی جماعت احمدیہ

# ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

شیخ مودود مہدی بہود

بانی جماعت احمدیہ

جلد دوم

# ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیح موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جلد سوم

# ملفوظات

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی

سیخ موعود و مہدی مہوود

بانی جماعت احمدیہ

آغاز مئی ۱۹۰۳ء تا اواخر ۱۹۰۵ء

جلد چہارم



# ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیخ موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جنوری ۱۹۰۶ء تا مئی ۱۹۰۸ء

جلد پنجم

مجموعه

# اشتهارات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی مہرود علیہ السلام

جلد اول

مجموعه

# اشتهارات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی مہربود علیہ السلام

جلد دوم

# مکتوبات احمد

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی معبود علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے

خطوط اور مکاتیب

جلد دوم

# دعوة الامير

از

سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد  
خلیفۃ المسیح الثانی

ان هذا الكتاب يدفع وساوس الخناس - وفيه  
شفاء للناس - وهو يهب السكينة  
ويجلب الكروب - وسميته -

# ترياق القلوب

تصنيف

امام رباني حضرت ميرزا غلام احمد صاحب قادياني  
مسح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوٰۃ والسلام -

بسم اللہ الرحمن الرحیم... (Decorative header text)

بسم اللہ الرحمن الرحیم... (Main body text, partially obscured by the central box)

بسم اللہ الرحمن الرحیم  
 شہر مضافہ خانقاہ بنیہ انصاریہ  
 جمادی الثانی ۱۳۹۸ھ  
 کتاب البریۃ  
 مع  
 آیات البریۃ  
 مطبع ضیاء الاسلام قادیان  
 تعداد جلد ۷۰۰

ہر عمل خالص کی بنا پر کثرت سے ہونے لگتا ہے۔ ہر عمل خالص کی بنا پر کثرت سے ہونے لگتا ہے۔

... (Vertical text on the left margin)

... (Vertical text on the right margin)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 بِرَازِیَاتِ اَفْئَاتِ اللّٰهِ الْخَوْفِیَّةِ لَاحِقِیْنَ  
 عَلَیْهِمُ الرِّجْسُ الَّذِیْ لَمْ یَغْسِلُوْا  
 رُءُوسَهُمْ لَیْسَ لَیْسَ لَیْسَ لَیْسَ

# عظا مجدد

یعنی

سوانح عمری حضرت مرزا غلام احمد رضا قادیانی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ

مسح کوٹو دو ہندی ہو مجد و صد چہار دم

## حصہ اول

از ابتدا تا جون سنہ ۱۹۰۰ء

مؤلفہ

جناب ڈاکٹر بشارت احمد صاحب

بماہ ذیقعد ۱۳۵۸ھ مطابق دسمبر ۱۹۳۹ء

احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے

شائع کیا

قیمت بلادین روپے ۱۰۰/-



برائیل

تعداد اشاعت ۱۰۰۰



رہائیل بیچ بار اول

قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے۔ کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہو گئے

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجِبَارِ نَا الْمُرْسَلِينَ اِذْ هُمْ الْمُنصَرِفُونَ  
 وَرَاى جُنْدَنَا لَهْمُ الْفَالِيقِ (سورة صافات)   
 وَكَفَانِي مِمَّا اُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْوَحْيِ الْمُبَشِّرِ  
 قَالَ رَبِّكَ اِنَّهُ نَازِلٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُوْضِعُكَ وَمَا تَنْزِلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ  
 مَا اَرْسَلَ نَبِيًّا اِلَّا خَرِيًّا بِهٖ اَللّٰهُ قَوْمًا لَا يُؤْمِنُوْنَ. اِنَّ اَللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا  
 وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ. وَيُبَشِّرُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاَنَّ لَهُمْ الْفَتْحَ. وَاللّٰهُ مَعَهُم  
 نُورٌ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ كَتَبَ اللّٰهُ لِاٰخِلِيْنَ اَمَلًا وَّرَسُلًا لَا تَخْفٰ اَنْ يَّخٰنَ  
 —————  
 لَدِي الْمُرْسَلُوْنَ. 

## حقیقۃ الوحی

خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ یہ کتاب جامع جسمیں ہر ایک قسم کے  
 حقائق اور معارف اور بہت سے آسمانی نشان و راج ہیں محض اسی کے  
 فضل اور کرم اور خاص اسکی توفیق اور تائید سے مرتب و تالیف ہو

مطبع میگزین قادیان میں باہتمام میتجر مطبع کے چھپی

تقدیر ایک ہزار جلد تاریخ اشاعت ۱۵ اگست ۱۹۶۷ء

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً

آنانکہ برد علوی ماحملہ ہاکنند	وزراء جہل عربہ ہا برد ہاکنند
گریک نظر کنند دین نسخہ کتاب	ہست این نفس کہ تکھا روا ہاکنند
باورنی کنم کہ نیایند عذر خواہ	وین امر دیگر است کہ ترک ہاکنند

# برائین احمدیہ

حصہ پنجم (۱۵)

لقب

بکیر امین الاحمد علی حقیقہ کتاب اللہ القرآن والنبوۃ الاحمدیہ  
مؤلف

حضرت اقدس مرزا غلام احمد مسیح عوعالیہ السلام

إِنَّ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَنَا خِزْيَانَةٌ وَمَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ مَّعْلُومٍ

# تفسیر غیر

قرآن مجید

کا

اردو با محاورہ ترجمہ مع مختصر تفسیر

از

الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحبنا خلیفہ امیر المسیح الثانی رضی اللہ عنہ

ناشر

ادارۃ المصنفین ربوہ ضلع جھنگ

## نقل ٹائٹل بار اول

## حصہ اول

ازالہ اوہام

قیمہ بامس شدید و متافع لکناس

الحمد والمنت کریم مبارک ذی الحجۃ ۱۳۰۵ کتاب

جامع معارف قرآنی و شایع اسرار کلام ربانی از

تالیفات مرسل یزدانی و مامور رحمانی

جناب میرزا غلام احمد صاحب قادیانی

مطبع ہندسہ ہندوستانی شریف آباد  
مطبعہ کتب خانہ دارالعلوم دیوبند  
۲۰۰ جلد

قیمت فی جلد ۲۰۰

ذکرِ حبیبِ کم نہیں وصلِ حبیب سے

ذکرِ حبیب

مصنفہ

حضرت مفتی محمد صدیق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 مُحَمَّدٌ وَنَصَلَّى عَلٰی نَبِیِّہِ الْکَرِیْمِ

## حضرت شیخ محمد و مرزا غلام احمد قادیانی

مولف برائین احمدیہ کے مختصر حالات

(مرتبہ خاکسار معراج الدین عمر احمد)

اللہ تعالیٰ کا شکر جس زبان و قلم سے ادا ہو سکے جس نے قدرت کمال سے تمام جان کو پیدا فرمایا اور ہر شے کی جبلت اور فطرت کو ہی  
 بات پر متقاضی اور مفلور کیا کہ وہ اپنے اپنے ملک و وطن میں پیغمبر اہل سنت نبوی اور پیغمبر تقاضا سے جا بجا اور حاجت خواہ انسان ہی کی  
 کسی نوع کی صورت میں گھر میں اور انسان کو سپر شرف و کبریا کی قدرت کی لوح کو بدیع بیحد چاند کی طرح بنایا اور مانہ نعم و تمکین اور  
 جو عقل و عقل اور صفت و حکمت و خلافت بنی ہو امانت و امانت اور تمام مخلوقات  
 انسان یا اسلواہ تکلاک الفہام و انجلیح سمات عبودیت و ادائے فریض و ذمہ داری حقوق و تکلیف کے بارگراں کو ظلم و جور سے بچانے  
 سر پر رکھ دیا اسکی اس بھولی ہوائے خدا کی نظر میں گم کر دیا اور اُس نے کمال ترحم و شفقت اور فضل و لطف اسکی دستگیری کے لیے  
 پہنچلے گا ایک گروہ جعوث فرمایا جنہیں اپنے نکالنے کے شرف سے مستفیض ہو کر اپنے پیغام انسان کو پہنچانے اور انسان کی کڑویاں  
 اور دکھوں اور دردوں کو درمان کے لیے اپنے حضور پیش کرانے اور انسان کو اپنی رضا میں داخل کرنے اور اسکی کشتی کو ساحل نجات  
 پر لگانے کے لیے پیغام بر اور شفیع اور کشتیبان بنایا انہیں پر وہ علوم اور حقائق و معارف تہذیب کے جسے تمام اعلیٰ اصول تمدن و  
 تہذیب اور تمام تابعدار عایت و شناخت متوق خالق و مخلوق اور تمام علوم معرفت علایق ربوبیت و مربوبیت دنیا میں شایع ہوئے  
 انہیں کی بدولت نظم و نسق دنیا جو جس قدر پایا اور تمام عالمین جاوہ اعتدال و استقامت پر قائم ہوئے گویا صانع حقیقی سے

# سیرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

تصنیف

سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرقدہ

شائع کردہ: مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان

دائیں طبع اول

المحدث والمنقذ کہ بتائید و توفیق لکن نعم المولیٰ و نعم النصیر و عنایات  
اس ذات جلیل و عظیم و کبیر حصہ اولیٰ کتاب الجواب موسوم بہ

# ایضاح مکارم اسلام

جس کا رد و سرانام دافع الوسوس بھی ہے

بمآہ فروری سنہ ۱۸۹۳ء

مطبع ریاض ہند قادیان میں باہتمام شیخ نور احمد ہستم

و مالک مطبع طبع ہو کر شائع ہوا



نقل بائبل ص ۱۰۱  
 بغیر دستخط ہبتم کتاب خانہ کتاب مسروقہ سمجھی جاوے گی

قد فرغنا من الرد علی قوم یستون آریہ فالسمد یدلہ رب العالمین  
 انا اذا نزلنا بساۃ قوم نساء صباۃ المنذرین

ہم آریوں کا رد لکھنے سے فراغت کر چکے سو اس خدا کو سب تعریف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے  
 ہم جب ایک قوم پر چڑھائی کرتے ہیں اور انکے صحن میں اترتے ہیں تو وہ صبح ان کی ایک ٹہنی  
 صبح ہوتی ہے جو تباہی کی خبر دیتی ہے

صباح

یہ کتاب تہذیب صاحبوں کے اس مضمون کے جواب میں لکھی گئی ہے جو انہوں نے اپنے مذہبی جلسہ میں دسمبر ۱۹۰۷ء میں  
 ہوا جبہ چار سو معزز ہماری جماعت کے مسلمانوں کے خود انکو اپنے گھر میں لگا کر سنایا تھا جو ہمارے سید مولیٰ  
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور دشنام دہی سے پرتھا جس میں دین اسلام پر جا بجا توہین اور  
 ہنسی اور ٹھٹھا کیا گیا تھا اور نہایت شوخی سے گندی گالیاں دے کر اوبے بے جا ہمتیں ہمارے  
 مقدس ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا کر صدمہ مسلمانوں کو خود مدعو کر کے نہایت دکھ  
 دیا تھا اور اس کتاب کا نام ہے



از مولفات حضرت مرزا غلام احمد صاحب صبح کو

جو ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء کو

مطبع الوار احمدیہ پریس قادیان ضلع گورداسپور میں طبع ہوئی

باہتمام شیخ یعقوب علی قراب منیر

اگر قیمت مجلہ میں روپے

۵۰ ہزار چار قیمت فی جلد ہے

مائیل بیج باراقل

ان الباطل من زعموا

جاء الحق وذهب الباطل

بفضلہ تعالیٰ

یہ رسائل البجہ جن کے نام بہ تفصیل ذیل ہیں

# انجامِ اہم

خدائی فیصلہ - دعوتِ قوم

مکتوبِ عربی بنام علماء

مطبع ضیاء الاسلام میں طبع ہو کر عام فائدہ  
کے لئے شائع کئے گئے

قاریان

قیمت فی جلد چھ

بمقام



طیئیل بیچ بار اول

سورۃ تہائمیں یہ آیت (اللہم انزل علیہ من السماء طیئیرا من طیئیر النور) اور دوسرا ان (اللہم انزل علیہ من السماء طیئیرا من طیئیر النور) کے بارے میں اپنی جماعت کیلئے تیار کیا گیا۔

رسالہ آسمانی طیئیرا جو طاعون کے بارے میں اپنی جماعت کیلئے تیار کیا گیا۔

ما یفعل اللہ بعد ان یکفرکم فانتم

ولکن اللہ شاکر عظیم العزیز العلیم

اور دوسرا ان

دعوت الایمان

تفویض الایمان

اکیسوا فیہا یرسل اللہ من السماء طیئیرا من طیئیر النور

۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء

تعداد جلد ۵۰۰

مطبوعہ ضیاء اسلام

شائع ہوا

طیٹل بیچ طبع افضل

الحمد لله والمنة

کہ یہ رسالہ پیر مہر علی شاہ صاحب گورکھ پوری اور ان کے مریدوں  
اور سخیوں لوگوں پر اتمام حجت کے لئے معض نصیحتاً شائع کیا  
گیا ہے اور بغرض اس کے کہ عام لوگوں پر حق واضح ہو جائے  
اس رسالہ کے ساتھ پچاس روپیہ کے انعام کا اشتہار بھی  
دیا گیا ہے جو اسی ٹیٹل بیچ کے دوسرے صفحہ پر مندرج ہے اور  
یہ رسالہ موسوم ہے

شاہ گورکھ پوری

مطبع ضیاء الاسلام قادیان ضلع گورداسپور میں باہتمام  
حکیم حافظ فضل الدین صاحب بیسوی مالک مطبع حکیم سید محمد  
کوشانی پورا

دکھن ۱۲

جہد

تیت ۱۲

ٹائٹل طبع اول

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِذَا أَنْزَلَ فَتَكْرَأُ بِنُورٍ وَأَمَّا كَرْمُكَ فَتَكْرَأُ

خدا نے تعالیٰ کے بے انتہا احسانوں میں سے یہ بھی ایک عظیم الشان فضل و احسان ہے۔  
کہ کتاب مستطاب منبع الیقان و عرفان مسمیٰ بہ

مسلح ہندی برہمنے من کشادہ اند

صادقہ زلف مولانا شاہنا آقا

تذکرہ السیاح

ابن و شاہ اپنے تصدیق من استاد اند

فی آخر الزمان

اسلام بار و شاہ الوقت میگویند ہیں

خود سیح موعود علیہ السلام کے قلم سے نکلی ہوئی جس کا نزول جمالی اور جلالی  
رنگوں میں حضرت ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے  
مطابق (جو آخری زمانہ کے متعلق تھیں) اس وقت کے اولوالالباب اولوالابصا  
نے برآی العین مشاہد کیا

مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں چھپکر کتبوں جمہدی حسین مہتمم کتب خانہ حضرت سیح موعود  
علیہ السلام کے زیر نگرانی شائع ہوئی، ٹائٹل پرچہ مطبع میگزین قادیان میں چھپ کر طیارہ ہوا۔

بار اول تعداد اشاعت ۲۹۰۰

شعبان المعظم ۱۳۲۴ھ

ماہ اگست ۱۹۰۹ء

قیمت ۳۰۰

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ لَمَّا نَذَرْنَا لَهُمُ الْمَدِينَةَ لَمَّا جَاءَهَا قَتْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

# اصحاب احمد

جلد سیزدہم  
صحابہ فضیل گورداسپور

مؤلف


ملک صلاح الدین ایم کے

لناشر:- احمدیہ بک ڈپو ہنودہ

دسمبر ۱۹۶۷ء

بارہن

آؤ لو گو کہ ہیں نورِ خدا پاؤ گے ۛ تو تمہیں طورِ تسلی کا بتایا ہم نے



یعنی

دنیکہ مذاہب پر

نمبر سوم

پابت ماہ مارچ و اپریل ۱۹۱۵ء

جلد ۱

علم و طہارت

مطابق جمادی الاول و جمادی الثانی ۱۳۳۳ھ

نزدہ سالانہ

فہرست مضامین

۱۸۴ - ۹۱ کل تفصیل



إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

# تور القرآن

## اطلاع

یہ رسالہ تور القرآن باطل تین ماہ کے بعد یعنی چوتھے مہینے شائع ہو کرے گا  
 قدریہ نمبر تین ماہ یعنی جون جولائی اگست ۱۹۵۵ء کے بارے میں ہے  
 قیمت باطل وہی ایک روپیہ سالانہ ہے

راقم خاکسار سراج الحق جمالی نعمانی

تائیس طبع اول

الحمد لله  
والمنة که رساله ہذا  
از تصنیفات حضرت  
امام ہمام مسیح موعود و مہدی موعود  
جناب مرزا غلام احمد صاحب نصر اللہ وائید  
الموسوم بہ

مکتبہ  
حکومتیہ

۱۹۰۲ء

بماہ اکتوبر

مطبع ضیاء الاسلام قادیان ضلع  
گورداسپور میں باہتمام حکیم غلام  
فضل الدین صاحب  
بھیروی مالک مطبع  
چھپرک شالیج  
ہوا

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

تعداد اشاعت

۷۰۰

بیتل طبع اول حصہ اول

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا  
بفضل عظیم حضرت مادی عالم و عالمیاء و رحمت عظیمہ ہر سنا گمگشتہ کتاب اللہ جو اب موسوم بہ

# بِرَاهِمِينَ أَحْمَدِيَّةٌ

ملقب بہ  
البراهین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب التمدد القرآن والنبوة المحمدیہ

جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب میرزا غلام احمد صاحب اہل علم قادیان  
ضلع گورداسپور پنجاب دام اقبالہم نے کمال تحقیق اور ترقیق سے تالیف کر کے  
منکرین اسلام پر شجعت اسلام پوری کرنے کیلئے بوجہ العام دس ہزار روپیہ شائع کیا

امر سر پنجاب

سفیر ہند پریس میں دہلی ۱۹۰۸ء طبع ہوئی

امیر علی دولہ پرنٹر

طماٹیل باراؤل

الْبِسْرَانَةُ بِكَافٍ عَبْدُ اللَّهِ الْبِسْرَانَةُ بِكَافٍ عَبْدُ اللَّهِ الْبِسْرَانَةُ بِكَافٍ عَبْدُ اللَّهِ

المحدثو المنته كضميمه زول المسيح جسكے ساتھ  
 دس ہزار روپیہ کا اشتہار ہے  
 حسب استدعا مولوی شہزاد صاحب امرت سہری کے  
 محض پانچ دن میں ابتداء ۸ نومبر ۱۹۰۲ء سے

طیار ہو کر اس کا نام

انجمن

رکھا گیا

اور اس رسالہ میں پیر میر علی شاہ ضا و مولوی اصغر علی ضا  
 و مولوی علی حائری صاحب شیعہ وغیرہ بھی مخاطب ہیں جن کا نام

رسالہ میں مفصل درج ہے (تاریخ طبع ۱۵ نومبر ۱۹۰۲ء)

بقا آقا بیان باہتمام حکم فضل الدین صاحب مطبع ضیاء الاسلام مطبع ہوا

الْبِسْرَانَةُ بِكَافٍ عَبْدُ اللَّهِ الْبِسْرَانَةُ بِكَافٍ عَبْدُ اللَّهِ الْبِسْرَانَةُ بِكَافٍ عَبْدُ اللَّهِ

تعداد اشاعت ۲۵۰۰

(پہلے طبع اول)

الحمد لله والمنة

کہ یہ رسالہ مبارکہ میں ہیں اخوندزادہ سزاوار علماء  
 کابل اور شیخ اجل افغانستان اور رئیس اعظم  
 مولوی محمد عبداللطیف صاحب مرحوم کی شہادت کا  
 ذکر ہے اور نیز ان کے شاگرد رشید میاں عبدالرحمن کے  
 شہید ہونے کے حالات مذکور ہیں تالیف ہو کر  
 نام اس کا مندرجہ ذیل رکھا گیا یعنی

تذکرۃ الشہداء و تہذیب

مع رسالہ عربی و علامات المقرنین

اور یہ رسالہ مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام

حکیم مولوی فضل الدین صاحب مالک مطبع

اکتوبر کے مہینہ میں چھاپ کر شائع کیا گیا۔

قیمت فی جلد ۷

تعداد جلد ۸۰۰

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخَذْنَا خِرَآئِمَهُ وَمَا نَزَّلَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْنُومٍ (الجزء: ۲۲)

# تفسیر کبیر

مُصَنَّفٌ

حضرت ميرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود

رحمۃ اللہ علیہ

جلد نہم


سورتہائے شمس، ایل، الصغی، الم نشرح، التین، العلق، القدر

البینہ، الزلزال، العاویات، القارعہ، التکاثر، العصر، الہمزہ

◆◆◆

نظارت نشر و اشاعت قادیان

پیش از اہل



قیمت کی اجازت سے

سہ ماہی

(ڈائٹل پراونٹ)

وہ خدا جس نے تمام رُوحیں اور ذرہ ذرہ عالم علوی اور سفلی کا پیدا کیا اسی نے اپنے فضل و کرم سے اس رسالہ کا مضمون ہمارے دل میں پیدا کیا۔

اور

اس کا نام

ہے

# تسیم دعوت

آریوں کے لئے یہ رحمت ہے  
طالعوں کا یہ یارِ خلوت ہے  
ہر ورق اس کا جامِ صحت ہے  
یہ خدا کے لئے نصیحت ہے  
نہ تو سختی نہ کوئی شدت ہے  
آخر اس کی طرف ہی رحلت ہے  
سر پہ طاعون ہے پھر بھی شفقت ہے  
پھر بھی تو بہ نہیں یہ حالت ہے

نام اس کا تسیم دعوت ہے  
دلِ بیمبار کا یہ درماں ہے  
کفر کے زہر کو یہ ہے تریاق  
غور کر کے اسے پڑھو پیارو  
خاکساری سے ہم نے لکھا ہے  
قوم سے مت ڈرو خدا سے ڈرو  
سخت دل کیسے ہو گئے ہیں لوگ  
ایک دنیا ہے مچکی اب تک

مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب بھیروی  
بتاریخ ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء چھپ کر شائع ہوا



ما قبل بیچ بر اول

# حَجَّ اللَّهِ تَعَالَى

مطبعة مطبع ضیاء الاسلام

قادیان دارالامن والامان

۲۴ رزی الحجۃ

۱۳۱۴  
م

طائیف طبع اول

مطبوعہ ضیاء الاسلام

۱۳۱۲ھ

# سراج منیر

مشمول بر نشانیہائے رقبہ

قادیان ارا لامن و الامان

مئی ۱۸۹۷ء

(بسم حق منقول ہے)

وَلَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ وَإِن فَتَنَّا فَلَا تَعْقِلُونَ

المقام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تالیف: مولانا محمد امجد علی صاحب  
 تالیف: مولانا محمد امجد علی صاحب  
 تالیف: مولانا محمد امجد علی صاحب

# حیات

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سوانح حیات

## جلد اول

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سوانح حیات کے بارے میں ایک جامع اور مفصل کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے تمام اہم واقعات، ان کی تعلیمات، ان کی اصلاحی کارروائیوں اور ان کی شہادت کے بعد کی حالت کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کی زندگی کی عظمت اور ان کی تعلیمات کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا ایک جامع اور مفصل بیان ہے۔ اس کتاب میں ان کی زندگی کے تمام اہم واقعات، ان کی تعلیمات، ان کی اصلاحی کارروائیوں اور ان کی شہادت کے بعد کی حالت کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کی زندگی کی عظمت اور ان کی تعلیمات کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔

ابن موم کے ذکر کو چھوڑو  
 اس سے بہتر غلام احمد ہے  
**تذکرہ اللہ کی**

لوفت  
 انجمن اہل حق ماٹنجیانی ہلال السوی سراوی اٹوری

ماہ جون ۱۹۱۵ء

صوفیہ نائیل

میں مازالہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے اور اس کا  
 ایلم کا رسم علی سبب ازیر الحق وہی نے تالیف کیا  
 شای کیا

۶۳۰۸ واعظان کیں جسکوہ برحراہ و منبری کند  
چوں بخلوت می زند آن کار و گری کند

# تاریخ محرمیت

کے

کتاب نام = مگر = پوشیدہ اوراق!  
حصہ اول

LIBRARY A. I. I. LARORE.	
REGISTER NO.	.....
BOOK NO.	.....

خدا و کتابت و مستور نے لاہور قریہ

دفتر انصار احمدیہ  
حلقہ لاہور

قیمت تین روپے آٹھ آنے علاوہ محصول ڈاک.

پاپائے ربوہ کے خلاف ایک مرید کا استغاثہ



مرزاٹیوں کی

روحانی شکارگاہ

تحریر

عبدالرزاق مہتمم

ابن بہائی عبدالرحمن صاحب دہلی

۳۰

شائع

انجمن خادمان رسول لاہور

# کلام محمود

منقول کلام

حضرت میرزا بشیر الدین محمود احمد  
اصلاح الموعود

ملائکہ اللہ

از

سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی



# تقریر و پذیر

از

سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی

# مشاجح الطالبین

(فرمودہ ۱۹۲۷ء، ۲۸ دسمبر ۱۹۲۵ء بر موقع جلسہ سالانہ)

از

سیدنا حضرت میرزا بشیر الدین محمود احمد  
خلیفۃ المسیح الثانی

ڈیٹیل طبع اول

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْفَاتِحِينَ

الحمد لئلك زمانہ کی ضرورت کے موافق بہتوں کو طاعون سے نجات  
دینے کے لئے یہ رسالہ تالیف کیا گیا اور اس کا نام

←

دَافِعُ الْبَلَاءِ وَمَعْيَارُ أَهْلِ الْأَصْطِفَاءِ

بمقام

قاویان دارالامان

باہتمام حکیم فضل دین صاحب مطبع ضیاء الاسلام

میں چھپا

اپریل ۱۹۰۲ء

تعداد جلد ۵۰۰

پچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق اس ڈبکے کوئی بچے بس تمہا ہی ہے

”ور کلام تو چیز نیست کہ شعراء را در آں دخلے نیست“

# درکشتن

منظوم اردو کلام شیخ موعود علیہ السلام

مرتبہ

شیخ محمد اسبغیل پانڈی

ماثل ہیج اول

الحمد لله المنعم

کہ رسالہ شافیہ کافیہ جو مخالفوں پر حجت اور موافقوں کے لیے موجب دایمان و عرفان  
موسوم بہ

نشان آسمانی

جس کا دوسرا نام

شہادت المسلمین

بھی ہے

یا صوفی و خونی ابرو ملک و یا توبہ کینہ بدگمانی

ایست نشان آسمانی و شہادت نبی اگر توانی

از تالیفات مہدی زمان و مسیح دوران مجید الوقت حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی

جون ۱۸۹۲ء میں

بزرگوارانی خاکسار غلام احمد کاتب

ریاض ہند اتر میں چھپا

مايكل باراول

هذا هو الكتاب الذي اهتمت بحصته منه من رب العباد - في يوم عيد من الاعياد - لقرئته على الحاضرين -  
 بلنطاق الروح الامين - من غير مدد الترتيم والله دين - فلا شك انه آية من الآيات - وما كان لبشر ان  
 ينطق كشفاً مرتجلاً مستخفراً في مثل هذه العبارات - وكان الناس يركبون طبعه رغبة يوم العيد  
 ويستطلعون بصيرون المشتاق المريد - فالله الله الذي اراهم مقصودهم بعد الانتظار -  
 ووجدوا مطلبهم كبستان مذلة اغصانه من الثمار - وانه صنيعه احسن  
 المحفورة - ومطية تبليغ الناس الى السعادة وانه فيث من الله بعد ما  
 اتمختت البلاد وعم الفساد - ولن تجد هذه المعارف في الآثار المنتهية  
 المدونة من الثقات - بل هي عقائق اوحيت الى من رب  
 الكائنات - وانه اظهار تام - وهل بعد المسيوكم - وهل  
 بعد غاتم الخلق على السرختم - وليس من العجب  
 ان تسمع من غاتم الائمة - نكاتا ما سمعت من  
 قبل من علماء الامة - بل العجب كل العجب ان  
 يأتي المسيوالموعد والامام الملتظير وعكم  
 الناس وغاتم الخلقاء - ثم لا يأتي بعرفة  
 جديدة من حفرة كبرياء - وتكلم  
 كعكلم العامة من انظرو - ولا  
 يفرق فرقا بين الظلمة  
 والضياء - وان سميت  
 هذه الرسالة

# خُطْبَةُ الْعَامِيَّةِ

وَإِنِّي عَلِمْتُهَا الْهَامًا مَرِيًّا وَكَانَتْ آيَةً

تجدد الاشاعة  
٢١٠٠

وانها طبع في مطبع ضياء الاسلام قاريا باهتمام الحكيم فضل الدين  
 البهيروى في سنة ١٣١٩ من الهجرة القداسة

مکررہ و درجہ اولیٰ و ثانیہ  
و درجہ اولیٰ و ثانیہ

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

بِالْحَقِّ وَالْحَقِيمِ  
وَالْحَقِّ وَالْحَقِيمِ

# الْبَلَاغُ

جس کا دوسرا نام ہے

## فزیادہ

تصنیف منیف حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود والتسلام علیہ الصلوٰۃ

باجازت حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ

منیجرک پبلیکیشنز و اشاعت قادیان نے شائع کیا

۲۹ جون ۱۹۲۲ء تعداد ۱۰۰۰ ۱۳۴۰ھ

ماہنامہ تعلیم

(درستی اللہ)

دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسکو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے نذر کو در عمل سے

اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔

—+—

یہ رسالہ جگا

نہم

ہے

# الوصیۃ

کلام پاک

حضرت ختمہ اللہ مسیح موعود و مہدی معہود میرزا

غلام احمد چیرہ منور علیہ السلام

قادیانی

—+—

پہلا نمبر چودھری ابراہیم دین پور میں حضرت آقا کی فرمائش سے

۱۹۰۳ء کو طبع ہوا



الحمد لله والمنة

کہ تمام مخالفوں پر الہی حجت پوری کرنے کیلئے

یہ رسالہ

جس کا نام ہے

## البعین

لائسٹل الحاج محمد علی خان القزین

بمقام قادیان مطبع ضیاء الاسلام میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب

مالک مطبع چھپرہ

شائع ہوا

قیمت ۱۵

جلد ۰۰

۱۵- دسمبر ۱۹۰۰ء

ماہنامہ بارادول

الحمد لله والمنة کہ یہ رسالہ

موسومہ

# ایضاح

مطبعہ انوار اشاعت

مطبعہ نوری جلد عدد

مطبعہ ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم حافظ فضل الدین صاحب

بھیروی ملک مطبعہ کے مطبوع ہووا

یکم جنوری ۱۸۹۹ء

حامتنا تطير بربيش شوق      وفي منقارها تحف السلام  
الى وطن النبي حبيبتي      وسيد رسله خير الانام

### الرسالة

اللطيفة المشتملة على معارف القرآن ودقائقه المسماة

# حكمة البشري

الى  
اهل مكة وصلحاء أم القرى

لحضرة احمد المسيح الموعود والمهدي المعهود

عليه وعلى مطاعه الصلوة والسلام

الطبعة الاولى في رجب سنة الهجرية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(نحمدہ و نصلی علی محمد و آلیہ السلام)

تاریخ موسومہ

# تاریخ

۱۳۲۰ھ - (۱۹۰۲ء)

مؤلف

قاضی یار محمد صاحب سبزی - اورنگ پور

اورنگ پور

ضلع کانگرہ

۱۹۰۲ء

تیسرا جلد

ریاضت و ہند پر لکھی ہوئی تاریخیں

اورنگ پور

قاضی یار محمد صاحب نے یہ ضلع کانگرہ سے تیار کیا۔

طہا طبع اول

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا تَقَوُّا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْبِرَّ سُبُلًا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّسْتُ مُرْسَلًا  
 قُلْ كَفَىٰ بِشَاهِدٍ ابْنِي وَبَيْنَكُمْ وَتَوْحِيدًا كَأَعْلَمِ الْكِتَابِ -  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ

کہ یہ رسالہ جس کا نام ہے

# ضرورت الامام

صرف ڈیڑھ دن میں طیار ہو کر

مطبع

ضیاء الاسلام قادیان میں

قیمت ۲۰ محمول علاوہ جلد ۰۰۰ -

بایضاح حکیم فیض الدین صاحب لادھی ممالک و ہندوستان  
 بایضاح حکیم فیض الدین صاحب لادھی ممالک و ہندوستان

۲۹۵

(دومین بیچ طبع بارشانی)

الحمد لله والمنة لله رسالہ طیبہ مبارکہ

المسماۃ بہ

شہادۃ القرآن

نزول المسیح الموعود فی آخر الزمان

مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ میں

باہتمام

منشی غلام قادر صاحب

فصیح کے چھپا

مطبع اول

محمد شاہد المنتہرک رسالہ تالیف کردہ مجتہد و مولانا الزمان مزارعہ سوم

رئیس قادیان مہتموم بہ

الہامی جیکی تالیف خطبہ تیلویا: مولانا علی محمد صاحب

فتح اسلام

اور خدا تعالیٰ کے تجلی خاص کی بشارت

اور اسکی پیروی کی راہوں اور اسکی تائید کے

طریقوں کی طرف دعوت

جمادی الاول ۱۳۰۸ھ ہجری میں

باہتمام شیخ منور احمد مالک مطبع ریاض ہند میں طبع ہو کر پڑیت

تسلیم پیام اور تمام حجت کی غرض سے بامروا دن الہی شائع کیا گیا

دہلی ہجرت کا سوت

حضرت شیخ مولانا کے اصحاب کی سوانح حیات و سیرۃ کا سلسلہ

(نمبر اول)

پانچویں قسط کے نام نکلتے ہیں

# سیرت نامہ

یعنی

حضرت میرزا صاحب بنیرہ حضرت خواجہ میر درد  
رضی اللہ عنہما کے سوانح حیات و سیرۃ  
جسکو

حضرت مولانا صاحب قلیہ شیخ یعقوب علی غازی ایڈیٹر اخبار حکم و تادیب کے مرتب کیا  
اور

الوایٹر محمود احمد (مجاہد مصری) ناظم الوار احمدیہ بانک نے تعلیم پرینٹنگ  
میں چھپوا کر ترازاب منزل دارالامان آبادیا ہے کیا۔

۱۹۲۷ء

تعداد جلد ۵۰۰ - قیمت فی جلد ۱۰ روپے

بار اول



تھے۔ مگر حضرت صاحب کے چہرہ پر بالکل اطمینان تھا چنانچہ ہم سب قابو بان چلتے  
 بعد میں ہم نے سنا کہ بمسٹریٹ نے سرٹیفکیٹ پر بڑی جرح کی اور بہت تھملا یا اور ڈاکٹر  
 کو شہادت کے لیے بلایا مگر اس انگریز ڈاکٹر نے کہا کہ میرا سرٹیفکیٹ بالکل درست ہے۔  
 ریش اپنے فن کا ماہر ہوں اسپرہو کے فن کی رو سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا  
 اور میرا سرٹیفکیٹ تمام اعلیٰ عدالتوں تک چلتا ہے۔ بمسٹریٹ بڑبڑاتا رہا مگر کچھ  
 پیش نہ گئی۔ پھر اسی وقت میں اس کا گورنار سپور سے تبادلو ہو گیا۔ اور نیکر کسی ظاہر  
 نامعلوم وجہ سے اس کا تنزل بھی ہو گیا۔ یعنی وہ اسی۔ اے۔ سی سے منصف کر  
 دیا گیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ غالباً اس بمسٹریٹ کا نام چند ولال تھا اور وہ تاریخ  
 جس پر اس موقع پر حضرت صاحب نے پیش ہونا تھا۔ غالباً ۱۹ فروری ۱۹۰۳ء تھی۔  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے قاضی امیر حسین صاحب نے کہ ایک دفعہ  
 ہم نے حضرت صاحب سے دریافت کیا کہ حضور حدیث میں آتا ہے کہ سب نبیوں  
 نے بکریاں چرائی ہیں کیا کبھی حضور نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں  
 ایک دفعہ ہر کھیتوں میں گیا۔ وہاں ایک شخص بکریاں چرارہا تھا اس نے کہا کہ میں  
 ذرا ایک کام جاتا ہوں آپ میری بکریوں کا خیال رکھیں۔ گروہ ایسا گیا کہ بس  
 شام کو واپس آیا اور اس کے گنے تک ہمیں اسکی بکریاں چرائی پڑیں۔  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفہ اول فرماتے  
 تھے کہ میں نے فتح اسلام تو بیخ مرام شایع ہوئی۔ تو ابھی میرے پاس نہ پہنچی تھیں  
 اور ابھی مخالف شخص کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو  
 اب میں ہونو ایسا۔ سب کو یعنی مجھے مرزا صاحب سے علیحدہ کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ  
 میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ کہ مولوی صاحب! کیا نبی کریم صلعم کے بعد بھی کوئی نبی  
 ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں اس نے کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو پھر؟  
 میں نے کہا تو پھر ہم یہ دیکھینگے کہ کیا وہ صادق اور راستباز ہے یا نہیں۔ اگر  
 صادق ہے۔ تو پھر اسکی بات کو قبول کرینگے۔ میرا یہ جواب سنکر وہ بولا۔

جائیں۔

## آپ کے دعوے کے دلائل

آپ کے دعوے کو مختصر الفاظ میں بیان کر دینے کے بعد میں اصولاً اس امر کے متعلق کچھ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مأمور من اللہ کے دعوے کی صداقت کے کیا دلائل ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ ان دلائل کے ذریعہ سے آپ کے دعوے پر کیا روشنی پڑتی ہے کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص فی الواقع مأمور من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو پھر اجمالاً اس کے تمام وعادی پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ عقل سلیم اس امر کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کا مأمور بھی ہو اور لوگوں کو دعوہ کا دے کر حق سے دور بھی لے جاتا ہو اگر ایسا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک سخت حملہ ہو گا اور ثابت ہو گا کہ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ اس نے اپنے انتخاب میں سخت غلطی کی اور ایک ایسے شخص کو اپنا مأمور بنا دیا جو بدل کا ناپاک اور گندہ تھا اور بجائے حق اور صداقت کی اشاعت کے اپنی بوائی اور عزت چاہتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے ظن کو مقدم کرتا تھا۔

علاوہ اس کے کہ یہ عقیدہ عقل سلیم کے خلاف ہے قرآن کریم بھی اس کو باطل کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا تَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَوْلِيَاءَ إِنَّهُمُ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝<sup>۱۰</sup> یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکم اور نبوت دے کر بھیجے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ بسبب اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کو سکھاتے اور پڑھتے ہو اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا آدمی لوگوں سے یہ کہے کہ فرشتوں یا نبیوں کو رب سمجھ لو کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ وہ کوشش کر کے لوگوں کو مسلمان بنائے اور پھر ان کو کافر کر دے۔

غرض اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مدعی مأموریت فی الواقع سچا ہے یا نہیں؟ اگر اس کی

یہ حوالہ صفحہ 45 پر درج ہے

دعوة الامیر ص 49، 50 مندرجہ انوار العلوم ج 7 ص 376، 377 از مرزا بشیر الدین محمود

صداقت ثابت ہو جائے تو اس کے تمام دعاوی کی صداقت بھی ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے اور اگر اس کی سچائی ہی ثابت نہ ہو تو اس کے متعلق تفصیلات میں پڑنا وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ پس میں اسی اصل کے مطابق آپ کے دعوے پر نظر کرنی چاہتا ہوں تاکہ جناب والا کو ان دلائل سے مخمراً آگاہی ہو جائے جن کی بناء پر آپ نے اس دعوے کو پیش کیا ہے اور جن پر نظر کرتے ہوئے لاکھوں آدمیوں نے آپ کو اس وقت تک قبول کیا ہے

## پہلی دلیل

### ضرورت زمانہ

سب سے پہلی دلیل جس سے کسی مأمور کی صداقت ثابت ہوتی ہے وہ ضرورت زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بے محل اور بے موقع کوئی کام نہیں کرتا جب تک کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اسے نازل نہیں کرتا اور جب کسی چیز کی حقیقی ضرورت پیدا ہو جائے تو وہ اسے روک کر نہیں رکھتا۔ انسان کی جسمانی ضروریات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مہیا نہ کیا ہو چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اس کی پوری کر دی ہے پس جب کہ دنیاوی ضروریات کے پورا کرنے کا اس نے اس قدر اہتمام کیا ہے تو یہ اس کی شان اور اس کی رفعت کے منافی ہے کہ وہ اس کی روحانی ضروریات کو نظر انداز کر دے اور ان کے پورا کرنے کیلئے کوئی سامان پیدا نہ کرے حالانکہ جسم ایک فانی شے ہے اور اس کی تکالیف عارضی ہیں اور اس کی ترقی محدود ہے اور اس کے مقابلے میں انسانی روح کیلئے ابدی زندگی مقرر کی گئی ہے اور اس کی تکالیف ایک ناقابل شمار زمانے تک ممتد ہو سکتی ہیں اور اس کی ترقی کے راستے انسانی عقل کی حد بندی سے زیادہ ہیں۔

جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس روشنی کی مدد سے نظر ڈالے گا جو قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے وہ کبھی اس بات کو باور نہیں کرے گا کہ بنی نوع انسان کی روحانی حالت تو کسی مصلح کی محتاج ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا سامان نہ کیا جائے جس کے ذریعے سے

چھپر بکمال و تمام دورہ حقیقت آدمیہ ختم ہو۔ وہ خاتم الاولاد ہو۔ یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے۔ اب یاد رہے کہ اس بندہ حضرت احدیت کی پیدائش جسمانی اس پیشگوئی کے مطابق بھی ہوئی۔ یعنی میں تو ام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا۔ اور یہ الہام کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة جو آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ ۲۹۶ میں درج ہے۔ اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا۔ اور یہ لڑکی صرف سات ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہو گئی تھی۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آدم صغی اللہ سے مشابہت دی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ کہ اس قانون قدرت کے مطابق جو مراتب وجود و عوریت میں حکیم مطلق کی طرف سے چلا آتا ہے۔ مجھے آدم کی نحو اور طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ واقعات جو حضرت آدم پر گذرے۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی۔ اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی۔ یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا۔ اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا۔ اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا۔ اور میں ان کیلئے خاتم الاولاد تھا۔ اور یہ میری پیدائش کی وہ طرز ہے جس کو بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولاہیت کی علامتوں میں سے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد اور کوئی مہدی پیدا نہیں ہوگا۔ خدا سے براہ راست

زبان سے ما محمد الرسول پر ہوا تھا۔ غرض یہ پیشگوئی ایک دور دراز زمانہ سے چلی آتی ہے کہ آخری کامل انسان آدم کے قدم پر ہوگا۔ تا دائرہ حقیقت آدمیہ پورا ہو جائے۔ اور اس پیشگوئی کو شیخ محی الدین ابن العربی نے نصوص الحکم میں فص شیت میں لکھا ہے اور دراصل یہ پیشگوئی فص آدم میں رکھنے کے لائق تھی۔ مگر انہوں نے شیت کو الولد ستر لابیہ کا مصداق سمجھ کر اسی کے فص میں اسکو لکھ دیا ہے۔ ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس جگہ شیخ کی اصل عبارت نقل کر دیں اور وہ یہ ہے۔ "وعلى قدم شیت یکون آخر مولود یولد من هذا النوع الانسانی وهو حامل اسرارہ۔ و لیس بعدہ ولد فی هذا النوع فهو خاتم الاولاد۔ وتولد معہ اخت له فتخرج قبلہ ویخرج بعدہا یکون رأسہ عند رجليها۔ ویكون مولدہ بالصین ولغته لغت بلداہ۔ ویسری العقم فی الرجال والنساء فیکثر النکاح من غیر ولادۃ۔ ویدعوهم الی اللہ فلا یجاب" یعنی کامل انسانوں میں سے آخری کامل لڑکا ہوگا جو اصل مولد اس کا پتین ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم مغل اور ترک میں سے ہوگا۔ اور ضروری ہے کہ عجم میں سے ہوگا نہ عرب میں سے۔ اور اس کو وہ علوم اور ہنر دیئے جائیں گے جو شیت کو دیئے گئے تھے۔ اور اس کے بعد کوئی اور ولد نہ ہوگا اور وہ خاتم الاولاد ہوگا۔ یعنی اس کی وفات کے بعد کوئی کامل بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس فقرہ کے یہ بھی معنی ہیں کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی۔ اور وہ اس کے بعد نکلے گی۔ اس کا سر اس دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا۔ یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی کہ پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر۔ اور اس کے

۴۸۳

پیرول کے بعد بلا توقف اُس پسر کا سر نکلے گا (جیسا کہ میری ولادت اور میری توام ہمیشہ کی اسی طرح ظہور میں آئی)۔ اور پھر بقیہ ترجمہ شیخ کی عبارت کا یہ ہے کہ اُس زمانہ میں مردوں اور عورتوں میں بانجھ کا عارضہ سرایت کرے گا۔ نکاح بہت ہوگا۔ یعنی لوگ مباشرت سے نہیں رکھیں گے مگر کوئی صالح بندہ نہیں ہوگا اور وہ زمانہ کے لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا۔ مگر وہ قبول نہیں کریں گے۔ اور اس عبارت کے شارح نے جو کچھ اس کی شرح میں لکھا ہے وہ یہ ہے۔

پہلا مولود جو آدم کو بخشا گیا وہ شیث ہے۔ اور ایک لڑکی بھی تھی جو شیث کے ساتھ بعد اُسکے پیدا ہوئی۔ پس خدا نے چاہا کہ وہ نسبت جو اقل اور آخر میں ہوتی ہے۔ وہ نوع انسان میں متحقق کرے۔ اس لئے اُس نے ابتدا سے مقدر کر رکھا تھا کہ طرز دلالت پسر آخری پسر اقل سے مشابہت رکھے پس پسر آخر جو خاتم الخلفاء تھا۔ اور بموجب اس پیشگوئی کے جو شیخ نے اپنی کتاب عقائد مغرب میں لکھی ہے وہ خاتم الخلفاء اور خاتم الاولیاء عجم میں سے پیدا ہونے والا تھا نہ عرب سے۔ اور وہ حضرت شیث کے علوم کا حامل تھا۔ اور پیشگوئی میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اُس کے بعد یعنی اُسکے مرنے کے بعد نوع انسان میں علت عظم سرایت کرے گی یعنی پیدا ہونے والے حیوانوں اور وحشیوں سے مشابہت رکھیں گے۔ اور انسانیت حقیقی صنف عالم سے منقود ہو جائیں گے۔ وہ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے اور نہ حرام کو حرام۔ پس ان پر قیامت قائم ہوگی۔

اب واضح ہو کہ شیخ موصوف کی یہ پیشگوئی اگرچہ کسی صریح حدیث سے اب تک ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن اشارۃ النقص ہمیں اس بات کی طرف توجہ دیتی ہے کہ یہ پیشگوئی قرآن میں موجود ہے۔ کیونکہ اول تو قرآن نے بہت سے

۲۵۵

یہ حوالہ صفحہ 49 پر درج ہے

تریاق القلوب صفحہ 355 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 482، 483 از مرزا قادیانی

۱۱۔ عبداللہ آتھم صاحب کو ایک ہزار انعام کا وعدہ دیا گیا تھا۔ شرط یہ طور پر (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۲۔ عبداللہ آتھم صاحب کو دو ہزار روپیہ کے انعام کا وعدہ دیا گیا۔ ۱۳۔ ایضاً تین ہزار ایضاً۔ ۱۴۔ ایضاً چار ہزار ایضاً۔ ۱۵۔ انجام آتھم شائع کیا گیا (تسلیم ہوا) ۱۶۔ انجام آتھم میں مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ ۹ مولوی اور ۶۸ چھاپہ والے اگر ہمارے پر ایمان نہیں لادیں گے تو مرزا صاحب کے (مرزا صاحب نے اس کو تسلیم نہیں کیا)۔ ۱۷۔ اس پیش گوئی میں لیکچرارم کے مرنے کی بابت وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ مباہلہ کریں (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۸۔ گنگا کشن کو مباہلہ کے واسطے بلایا گیا (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۹۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کو مباہلہ کے واسطے بلایا گیا (تسلیم کیا گیا)۔ ۲۰۔ رائے جند سنگھ کو مباہلہ کے واسطے بلایا گیا (تسلیم کیا گیا)۔ ۲۱۔ پیشگوئی بابت مرنے لیکچرارم کی۔ (تسلیم کیا گیا)۔ ۲۲۔ نسبت

ساروں کے اپنی گروہ سے خرید کر دئے تھے اور آئندہ گورنمنٹ کو اس قسم کی مدد کا عند الضرورت وعدہ بھی دیا اور سرکار انگریزی کے حکام وقت سے جلد سے خدمات عمدہ عمدہ چٹھیا ت خوشنودی مزاج ان کو ملی تھیں۔ چنانچہ سرسپل گریفن صاحب نے بھی اپنی کتاب تاریخ میسان پنجاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ غرض وہ حکام کی نظر میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ اور بسا اوقات ان کی دلجوئی کے لئے حکام وقت ڈپٹی کمشنر کٹر ان کے مکان پر آکر ان کی ملاقات کرتے تھے۔ یہ مختصر میرے خاندان کا حال ہے میں خردی نہیں دیکھتا کہ اس کو بہت طویل دوں۔ اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں ۱۸۵۶ء میں سولہ برس کا یا ستر برس میں تھا۔ اور ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں تھا۔ میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے بڑے بڑے مصائب دیکھے ایک دفعہ ہندوستان کا پیادہ پاسیر بھی کیا۔ لیکن میری پیدائش

۱۷۔ نوٹ: میں توام پیدا ہوا تھا ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی وہ چند روز کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ میں

۱۸۔ خیال کرتا ہوں کہ اس طرح پر خدا تعالیٰ نے اشیاء کا مادہ مجھ سے بخل الگ کر دیا۔ منہ

۱۵۰

یہ فرماتے ہیں کہ میں تو خدا کے سارے رسولوں کو ماننا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا شانِ دلربائی ہے؟  
(۴۶۶) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے  
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے مندرجہ ذیل واقعات ذیل کے مسنین میں وقوع پذیر  
ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

۱۸۳۶ء یا ۱۸۳۷ء۔ ولادت حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔

۱۸۳۲ء یا ۱۸۳۳ء۔ ابتدائی تعلیم از منشی فضل آبی صاحب۔

۱۸۳۶ء یا ۱۸۳۷ء۔ صرف و نحو کی تعلیم از مولوی فضل احمد صاحب۔

۱۸۵۲ء یا ۱۸۵۳ء۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی شادی (غائباً)۔

۱۸۵۳ء یا ۱۸۵۴ء۔ نحو و منطق و حکمت و دیگر علوم مروجہ کی تعلیم از مولوی گل علی شاہ صاحب اور

اسی زمانہ کے قریب بعض کتب طب اپنے والد ماجد سے۔

۱۸۵۵ء یا ۱۸۵۶ء۔ ولادت خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب (غائباً)۔

۱۸۵۷ء یا ۱۸۵۸ء۔ ولادت مرزا فضل احمد صاحب (غائباً)۔

۱۸۶۳ء یا ۱۸۶۵ء۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیہا میں آنحضرت مسلم کی زیارت اور اشارات

مہوریت۔

۱۸۶۳ء یا ۱۸۶۸ء۔ ایام ملازمت بمقام سیالکوٹ۔

۱۸۶۸ء۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال۔

۱۸۶۸ء یا ۱۸۶۹ء۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے ساتھ بعض مسائل میں مباحثہ کی تیاری

اور الہام بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈینگے۔ جو غالباً سب سے پہلا الہام ہے۔

۱۸۷۵ء یا ۱۸۷۶ء۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آٹھ یا نو ماہ تک لگا تار روزے رکھنا (غائباً)

۱۸۷۶ء۔ تعمیر مسجد قطنی۔ الہام الیس اللہ بکاف عبدک۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے

والد ماجد کا انتقال۔

۱۸۷۷ء۔ اخبارات میں مضامین بجوانے کا آغاز (غائباً) مقدمہ از جانب محکمہ ڈاک خانہ (غائباً)

سفر سیالکوٹ۔



تاریخ محسن عیسوی	تاریخ چاند من بھری	دن	تاریخ ہندی مہینہ سون بکری
۹ فروری ۱۸۳۸ء	۲۰ ذیقعدہ ۱۲۵۳ھ	جمعہ	۶ پھالگن ۱۸۹۳ء بکرم
یکم فروری ۱۸۳۹ء	۱۵ ذیقعدہ ۱۲۵۴ھ	جمعہ	۲ پھالگن ۱۸۹۵ء بکرم
۲۱ فروری ۱۸۳۹ء	۱۴ ذی الحجہ ۱۲۵۵ھ	جمعہ	۳ پھالگن ۱۸۹۶ء بکرم

لاس کے لئے دیکھو توفیقات الہامیہ مصری اور تقویہ بھری ہندی

اس نقشہ کی رُو سے ۱۸۳۲ء عیسوی کی تاریخ بھی درست سمجھی جاسکتی ہے۔ مگر دوسرے قرائن کو جن میں سے بعض اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اور بعض آگے بیان کئے جائیں گے صحیح ہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش ۱۸۳۵ء عیسوی میں ہوئی تھی۔ پس ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء عیسوی مطابق ۱۴ شوال ۱۲۵۰ھ بھری بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے۔ اور اس حساب کی رُو سے وفات کے وقت جو ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ بھری راخبار الحکم ضمیمہ مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۰۶ء میں ہوئی۔ آپ کی عمر پورے ۷۵ سال ۶ ماہ اور ۵ دن کی بنتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب جبکہ حضرت مسیح موجود علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ معین طور پر معلوم ہو گئی ہے۔ ہمارے احباب اپنی تحریر و تقریر میں ہمیشہ اسی تاریخ کو بیان کیا کریں گے۔ تاکہ حضرت مسیح موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی ابہام اور اشتباہ کی صورت نہ رہے اور ہم لوگ اس بارہ میں ایک معین بنیاد پر قائم ہو جائیں۔

اس نوٹ کے ختم کرنے سے قبل یہ ذکر بھی ضروری ہے۔ کہ حضرت مسیح موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہام الہی میں یہ بتایا گیا تھا۔ کہ آپ کی عمر اسی یا اس سے پانچ چار کم یا پانچ چار زیادہ ہوگی (تقریباً ۱۹۶) اگر اس الہام الہی کے نقلی معنی لئے جائیں۔ تو آپ کی عمر پچتر چھتر۔ یا اسی یا۔ چودا اسی پچاشی سال کی ہونی چاہیئے۔ بلکہ اگر اس الہام کے معنی کرنے میں زیادہ نقلی پابندی اختیار کی جائے تو آپ کی عمر پورے ساڑھے پچتر (۱۷۵) یا اسی یا ساڑھے چوراسی (۱۸۵) سال کی ہونی چاہیئے۔ اور یہ ایک عجیب قدرت منافی ہے کہ مندرجہ بالا تحقیق کی رُو سے آپ کی عمر پورے ساڑھے پچتر (۱۷۵) سال کی بنتی ہے۔

اسی ضمن میں یہ بات بھی قابل نوٹ ہے۔ کہ ایک دوسری جگہ حضرت مسیح موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی پیدائش کے متعلق بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لیکر ہزار ششم میں سے ابھی گیارہ سال باقی رہتے تھے کہ مہری ولادت ہوئی۔ اور اسی جگہ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا

حضرت صاحب سے اس بارہ میں بات کروں گا۔ چنانچہ والد صاحب: حضرت صاحب سے ملے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیخ صاحب ہم نے آپ کے بیٹے کو یہاں رہنے کے لئے کہا ہے۔ کیونکہ میاں حامد علی کے والد نے بھی ان کو یہاں ہی پھوڑ دیا ہے۔ والد صاحب نے عرض کیا کہ جناب جس مکان میں چھ سات چراغ جل رہے ہوں اگر وہاں سے ایک اٹھا لیا جائے تو وہاں روشنی میں کوئی خاص کمی واقع نہ ہوگی اور جس گھر میں فقط ایک چراغ ہو۔ اور اس کو اٹھا دیا جائے تو بالکل اندھیرا ہو جائیگا۔ اس طرح میرے والد صاحب نے ہنس کر بات ٹال دی۔ کیونکہ میاں حامد علی کے پانچ چھ بھائی تھے۔ اور میں گھر میں اللہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ لیکن مجھ کو اس بات پر سخت آنسو س ہوا اور اب تک ہے۔ کہ والد صاحب نے حضرت کی بات کو قبول کیوں نہ کر لیا۔ اور مجھے اس موقع سے مستفید کیوں نہ ہونے دیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ پیدائش اور عمر بوقت وفات کا سوال ایک عرصہ سے زیر غور چلا آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تصریح فرمائی ہے۔ کہ حضور کی تاریخ پیدائش معین صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ کی عمر کا صحیح اندازہ معلوم نہیں (دیکھو ضمیمہ برائے ابن احمد یہ حصہ پنجم صفحہ ۱۹۳) کیونکہ آپ کی پیدائش سکوں کی حکومت کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ جبکہ پیدائشوں کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا۔ البتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض ایسے احوال بیان فرمائے ہیں جن سے ایک حد تک آپ کی عمر کی تعیین کی جاتی رہی ہے۔ ان اندازوں میں سے بعض اندازوں کے لحاظ سے آپ کی پیدائش کا سال ۱۸۳۰ء بتا ہے۔ اور بعض کے لحاظ سے ۱۸۳۱ء تک پہنچتا ہے۔ اور اسی لئے یہ سوال ابھی تک زیر بحث چلا آیا ہے۔ کہ مسیح تاریخ پیدائش کیا ہے!

میں نے اس معاملہ میں کئی جہت سے غور کیا ہے اور اپنے اندازوں کو سیرۃ المہدی کے مختلف حصوں میں بیان کیا ہے لیکن حق یہ ہے کہ گو مجھے یہ خیال غالب رہا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش کا سال ۱۸۳۰ء عیسوی یا اس کے قریب قریب ہے۔ مگر ابھی تک کوئی تاریخ معین نہیں کی جاسکتی ہے لیکن اب بعض حوالے اور بعض روایات ایسی ملی ہیں جن سے معین تاریخ کا پتہ لگ گیا ہے۔ جو بروز جمعہ ۳۱ شوال ۱۲۵۰ ہجری مطابق ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء عیسوی مطابق یکم پھاگن ۱۸۹۱ء بکرمی ہے اس تعیین کی وجوہ یہ ہیں۔

کا وقت تھا۔ اور قمری حساب سے چاند کی چودھویں رات تھی۔ یہی بات انہی مکی حضرت ڈاکٹر طغی  
محمد صادق صاحب نے اپنی کتاب "ذکر حبیب" کے صفحہ ۲۳۹ پر لکھی ہے۔ جس کو ناظرین دیکھ سکتے ہیں  
اگرچہ یہ بات مجھے یاد بھی تھی۔ لیکن حال میں "ذکر حبیب" کے مطالعہ سے مجھے حضرت مسیح موعود  
علیہ السلام کا وہ بیان مستحضر ہو گیا۔ اور میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ میرے دل میں تحقیق  
کرنے کی زور سے تحریک پیدا ہوئی۔ خوش قسمتی سے میری مرتبہ کتاب تقویم قمری جو ایک سو پچیس برس  
کی جبری کے نام سے بھی موسوم ہے۔ میرے سامنے آگئی اور میں نے خود سے اس کا مطالعہ کیا۔ کتاب  
بھی میں نے ان دنوں میں ہی چھپائی تھی۔ جب براہین احمدیہ چھپائی تھی۔ یہ اجتماع اور تطابق جو حضرت  
مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ولادت کے سال دو وقت کے متعلق فرمایا ہے۔ اس کی تلاش سے یہ  
نتیجہ حاصل ہوا کہ آپ کی ولادت جس مہینہ کو ہوئی تھی وہ ۱۴ ماہ رمضان المبارک ۱۱۳۳ ہجری کا دن  
تھا۔ اور بحساب سمت بکرمی یکم پھالگن ۱۸۸۸ء کے مطابق تاریخ تھی جو عیسوی سن کے حساب سے ۱۸  
فروری ۱۸۸۳ء کے مطابق ہوتی ہے۔ پس اس طریق سے حضور موصوف کی عمر ہر ایک حساب سے حسب  
ذیل ثابت ہوتی ہے۔

(الف) بحساب سمت ہندی بکرمی آپ یکم پھالگن ۱۸۸۸ء بکرمی کو پیدا ہوئے اور صیغہ سمت بکرمی  
کو آپ کا رنج ہوا۔ گویا ہندی بکرمی سالوں کی زد سے آپ کی عمر ۷ سال چار ماہ ہوئی۔

(ب) عیسوی سال، ۱۸ فروری ۱۸۸۳ء کو آپ کی ولادت ہوئی اور ۲۹ مئی ۱۹۰۰ء کو آپ اپنے  
خاتون حقیقی رفیق اعلیٰ سے ہمالے پس اس حساب سے آپ نے ۷ سال دو ماہ اور ۹ دن عمر پائی۔  
(ج) سن ہجری مقدس کے مطابق آپ ۱۴ ماہ رمضان المبارک ۱۱۳۳ء کو پیدا ہوئے اور ۹ ربیع الثانی  
۱۱۳۳ء کو خدا سے ہمالے۔ اس حساب سے آپ کی عمر ۷ سال ۵ ماہ اور ۲۵ دن ہوئے۔ یعنی پلہ  
سال ہوئی۔

اس سے اب صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ آنحضرت کی عمر الہی الہام کے مطابق ۸۰ سال کے  
قریب ہوئی۔

حاکم دعوٰی کرتا ہے کہ میں اپنی تحقیق روایت ۱۳۳۰ء میں درج کر چکا ہوں۔ یہاں معراج الدین  
صاحب عمر کی تحقیق اس سے مختلف ہے لیکن چونکہ دستوں کے سامنے ہر قسم کی رائے آجانی چاہئے

۱۹۴

سید احمد علی صاحب نے درج کیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ۱۸۳۵ء بنتی ہے اور مولوی شاد اللہ صاحب کے حوالوں سے ۱۸۲۹ء اور ۱۸۳۲ء پیدائش کے سن نکلتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک ان سے بڑھکر جس مخالف کا علم ہونا چاہیے۔ وہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں۔ جن کو بچپن سے ہی آپ سے ملنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ ان کے اشاعت السنہ ۱۸۴۲ء کے حوالے سے آپ کی پیدائش ۱۸۳۵ء کے قریب بنتی ہے۔

غرض ۱۸۳۵ء انتہائی حد ہے۔ اس کے بعد کا کوئی سن ولادت تجویز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مجموعی زیادہ تر میلان ۱۸۳۲ء اور ۱۸۳۳ء کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ شرف مکالمہ منابر کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ معین ہیں۔ ماوردیہ واقعی ایک اہم واقعہ ہے۔ جس پر تاریخ پیدائش کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ ۱۸۲۹ء ایک معین تاریخ ہے اور اس حساب سے ۱۸۳۵ء کی پیدائش ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا اہم واقعہ آپ کے والد ماجد کا انتقال کا ہے۔ انسانی قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے متعلق جو رائے ہے وہ بھی زیادہ وزن دار سمجھی جاسکتی ہے۔ اس کے متعلق آپ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ والد ماجد کی وفات کے وقت آپ کی عمر چالیس سال کے قریب تھی۔ اور اپنے والد صاحب کی وفات ۱۸۴۲ء میں معین فرمادی۔ غلام میر سے نزدیک یہ لکھا کہ ۱۸۳۲-۳۳ء صحیح سن ولادت قرار دیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس جگہ دیکھنا کامفہوم ختم ہوا۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مکرمی مولوی عبدالرحیم صاحب ورد ایم اے سے مبلغ لندن نے یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر اور تاریخ پیدائش کی تعیین کے متعلق لندن سے ارسال کیا تھا۔ یہ مضمون اخبار الفضل ۲۲ ستمبر ۱۹۲۳ء میں شائع ہو چکا ہے۔ مضمون بہت محنت اور تحقیق کے ساتھ لکھا ہوا ہے مگر جیسا کہ میں روایت ۱۹۱۳ء میں لکھ چکا ہوں مجھے اس تحقیق سے اختلاف ہے کیونکہ میری تحقیق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ۱۲ فروری ۱۸۳۵ء بنتی ہے۔ اور صاحب نے جو ہمارے دادا صاحب کی تاریخ وفات ۱۸۴۲ء لکھی ہے۔ یہ بھی میری تحقیق میں درست نہیں۔ بلکہ صحیح تاریخ ۱۸۴۶ء ہے جیسا کہ حضرت صاحب نے سرکاری ریکارڈ کے حوالے سے کشف القلم میں لکھی ہے۔ لیکن ایسے تحقیقی مضامین میں رائے کا اختلاف بھی بعض لحاظ سے مفید ہوتا ہے اس لیے

میں جو دو سنا اور همان یوازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے شہر کے غربا و ضعیفا کا خصومت سے خیال رکھتی تھیں۔ اور غربا کے مزدوروں کو کفن ان کے ہاں سے ملتا تھا۔

بن بھائی حضرت مرزا غلام احمد صاحب سب نامہ کرپانچ بن بھائی تھے۔ سب سے بڑی آپ کی ہمشیرہ مراد بی بی صاحبہ تھیں جن کی شادی مرزا محمد بیگ ہوشیار پوری سے ہوئی تھی۔ مگر وہ عین جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ وہ نہایت عابدہ اور زاہدہ تھیں اور تمام عمر یاد آئی میں گزار دی۔ ان سے بعض خوارق و کرامات کا ظہور بھی ہوا۔ مراد بی بی صاحبہ سے چھوٹے مرزا غلام قادر صاحب تھے ان سے چھوٹا ایک اور لڑکا تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ ان سے چھٹی بی بی تھی جو حضرت صاحب کے ساتھ قوام پیدا ہوئی تھیں اور پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ گویا بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے حضرت مرزا غلام احمد صاحب تھے۔

## ولادت طفولیت اور تکلیف

سنہ ولادت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنہ ولادت کے متعلق کوئی تحریری یادداشت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اس لئے اس امر میں اختلاف ہونا لازمی امر تھا۔ مگر تحقیقات سے سنہ ولادت ۱۸۳۵ء صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے کتاب البریہ میں اپنی پیدائش کا سنہ ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۷ء لکھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے یہ کسی تحریری یادداشت کی بنا پر نہیں لکھا جنس تخمینہ یا اندازہ سے قیاس کر کے ایسا لکھ دیا۔ اسی لئے کوئی سنہ متعین نہیں کیا۔ ورنہ ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۷ء کیا معنی؟ آپ کو ایک سنہ متعین کر کے لکھنا چاہئے تھا۔ اور پھر اسی کتاب البریہ میں اسی سلسلہ مضمون میں آگے چل کر آپ تحریر فرماتے ہیں: "غرض میری زندگی قریب قریب چالیس برس کے زیر سایہ والد بزرگوار کے گزری۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کی وفات ۱۸۴۶ء میں ہوئی تو اس سے پھر یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کا سنہ ولادت تخمیناً ۱۸۳۶ء تھا۔ دو مہریت اقدس مرزا صاحب نے کتاب التبلیغ آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی والدہ محترمہ آپ کو منی طلب کر کے فرمایا کرتی تھیں کہ تمہارے خاندان کے مشیت کے دن تیری ولادت کے ساتھ پھر گئے تھے اور فریخی میسر آگئی تھی۔" اور اسی لئے وہ آپ کی پیدائش کو مبارک سمجھا کرتی تھیں۔ اب یہ قطعی طور پر یقینی بات ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں اس خاندان کے مصائب کے دن دور ہو کر فریخی شروع ہوئی تھی۔ اور قادیان اور اس کے ارد گرد کے بعض موقعا

بالکل جھوٹ تھی۔ اور اس کا نام عبدالحمید تھا۔ نہ عبدالحمید جیسا اُس نے بیان کیا تھا۔ نہ وہ بٹلہ کا برہمن تھا۔ بلکہ پیداؤشی مسلمان علاقہ جہلم سے تھا۔ اس کا چچا برہان الدین غازی ایک مشہور مذہبی جنونی ہے۔ اور اُن کا تمام کا تمام خاندان میرزا قادیانی پر فدائی مرید ہے۔ یہ نوجوان عیسائی مذہب کے متلاشیوں کی طرح گجرات میں رہا تھا۔ اس نے اپنے چچا کے چالیس روپے چُرا کر بیسے کاموں میں خرچ کئے۔ جس پر اس کے چچا نے میرزا قادیانی کے پاس اُس کو بھیج دیا۔ میں خود بیاس گیا۔ اور پھر اس سے دریافت کیا۔ اور پانچ گواہوں کے سامنے اس نے کھلا کھلا اقرار کیا کہ اُسے میرزا غلام احمد نے میرے قتل کے لئے بھیجا ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ جب کبھی وہ مجھے سوزیا ہوا یا کسی اور حالت میں پائے تو میرے سر کو پتھر سے یا کسی اور ایسی چیز سے پھوٹے۔ اس نے یہ تمام واقعات اپنی مرضی سے لکھے۔ میں اس لکھے ہوئے کاغذ کو پیش کرتا ہوں جس پر اُس نے اٹھ گواہوں کے سامنے دستخط کئے۔ میری واقفیت میرزا صاحب سے

کا قائم مقام ہو جائے۔ تا اگر ایسی خوش بیانی سے کسی کا دقت خوش ہو تو اس سوانح نویس کی دنیا اور آخرت کی بہبودی کے لئے دعا بھی کرے۔ اور صفحات تاریخ پر نظر ڈالنے والے خوب جانتے ہیں کہ جن بزرگ محققوں نے نیک مٹی اور افادہ عام کے لئے قوم کے ممتاز شخصوں کے تذکرے لکھے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔

اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ چچا اور میرے بزرگوں کے

چچا سردار یا اٹھارہ برس کا ہوا کہ خدا تعالیٰ کے متواتر الہامات سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے باپ دادا سے فارسی الامل ہیں۔ وہ تمام الہامات میں نے ان ہی دلوں میں برہمن احمد کے حصہ و دم میں درج کر دئے تھے جن میں سے میری نسبت ایک یہ الہام ہے خذوا التوحید

۲۷۳

ایک شریف قوم سے جو سید تھے کیا۔ اور خود تمہاری نسب کو شریف بنایا۔ جو فارسی خاندان اور سادات سے مجھوں تکب ہے۔ اس پیشگوئی کو دوسرے الہامات میں اور بھی تصریح سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اُس شہر کا نام بھی لیا گیا تھا جو دہلی ہے۔ اور یہ پیشگوئی بہت لوگوں کو سنائی گئی تھی۔ جن میں سے ایک شیخ حامد علی اور میاں جان محمد اور بعض دوسرے دوست ہیں۔ اور ایسا ہی ہندوؤں میں سے شریعت اور ملا و اہل کھتریان ساکنانِ قادیان کو قبل از وقت یہ پیشگوئی بتلائی گئی تھی۔ اور جیسا کہ لکھا تھا ایسا ہی ظہور میں آیا۔ کیونکہ بغیر سابق تعلقاتِ قرابت اور شہرت کے دہلی میں ایک شریف اور مشہور خاندان سیادت میں میری شادی ہو گئی۔ اور خاندانِ خواجہ میر درد کی لڑکی کی اولاد میں سے ہے جو مشاہیر اکابر سادات دہلی میں سے ہے۔ جنکو سلطنتِ حفصائی کی طرف سے بہت دیہات بطور جاگیر عطا ہوئے تھے۔ اور اب تک اس

مہم کا شہید ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قوم کے برہمن منسل ہیں۔ اور ہمیشہ اس خاندان کے اکابر امیر اور والیان ملک رہے ہیں۔ وہ سمرقند سے کسی تفرقہ کی وجہ سے بابر بادشاہ کے وقت میں پنجاب میں آئے اور اس علاقہ کی ایک بڑی حکومت انکو ملی۔ اور کچھ سو دیہات انکی ملکیت کے تھے جو آخر کم ہوتے ہوتے ہر رہ گئے اور سکھوں کے زمانہ میں وہ بھی ماتہ سے جاتے رہے۔ اور پانچ گاؤں باقی رہ گئے۔ اور پھر ایک گاؤں ان میں سے جس کا نام بہادر حسین تھا۔ جس کو حسین نامی ایک بزرگ نے آباد کیا تھا۔ انگریزی سلطنت کے عہد میں ماتہ سے جاتا رہا۔ کیونکہ ہم نے خود اپنی عقل سے ایک مدت تک اس گاؤں سے کچھ وصول نہیں کیا تھا۔ اور جیسا کہ مشہور چلا آتا ہے۔ ہماری قوم کو سادات سے تعلق رہا ہے کہ بعض وہادیاں ہماری شریف اور مشہور خاندان سادات سے ہیں۔ لیکن منسل قوم کے ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ کے الہام نے مخالفت کی ہے۔ جیسا کہ براہین احمدیہ صفحہ ۲۴۲ میں یہ الہام ہے۔

خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارص۔ یعنی توحید کو پکڑو توحید کو پکڑو لے فارص کے بیٹو۔ اس الہام سے صریح طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ دراصل بنی فارص ہیں۔

یہ گاؤں بنارہ سے شمال طرف بغاصلہ میں کوس واقع ہے۔ منہ

۱۴۵

مقرر تھا۔ کیونکہ مسیح موعود خاتم الخلق ہے اور آخر کو اول سے مناسبت چاہیے۔ اور چونکہ حضرت آدم بھی چھٹے دن کے آخر میں پیدا کئے گئے ہیں اس لئے بلحاظ مناسبت ضروری تھا۔ کہ آخری خلیفہ جو آخری آدم ہو وہ بھی چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔ وجہ یہ کہ خدا کے سات دنوں میں سے ہر ایک دن ہزار برس کے برابر ہے جیسا کہ خود وہ فرماتا ہے۔ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ۔ اور احادیث صحیحہ میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔ اسی لئے تمام اہل کشف مسیح موعود کا زمانہ قرار دینے میں چھٹے ہزار برس کا ہر نہیں گئے اور زیادہ سے زیادہ اسکے ظہور کا وقت چودھویں صدی ہجری لکھا ہے۔ اور اہل اسلام اہل کشف نے مسیح موعود کو جو آخری خلیفہ اور خاتم الخلق ہے صرف اس بات میں ہی آدم سے مشابہ قرار نہیں دیا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا اور مسیح موعود چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا بلکہ اس بات میں بھی مشابہ قرار دیا ہے کہ آدم کی طرح وہ بھی جمعے کے دن پیدا ہوگا اور اسکی پیدائش بھی تو اتم کے طور پر ہوگی یعنی جیسا کہ آدم تو اتم کے طور پر پیدا ہوا تھا پہلے آدم اور بعد میں تو اتم۔ ایسا ہی مسیح موعود بھی تو اتم کے طور پر پیدا ہوگا۔ سوا الحمد للہ والمنة کہ مسعودین کی اس پیشگوئی کا میں مصداق ہوں میں بھی جمعہ کے روز بوقت صبح تو اتم پیدا ہوا تھا صرف یہ فرق ہوا کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام حنت تھا۔ وہ چند روز کے بعد جنت میں چلی گئی اور بعد اس کے میں پیدا ہوا۔ اور اس پیشگوئی کو شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی اپنی کتاب فصوص میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ وہ صیغی الاصل ہوگا۔ بہر حال

وہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر فرمایا ہے کہ سورۃ العصر کے سورت حساب جمل کے روز سے ابتداء آدم سے لیکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر برس گزرے ہیں انکی تعداد ظاہر کرنے میں سورۃ حمد و حمد کی روز سے جب اس زمانہ تک حساب لگایا جائے تو معلوم ہوگا کہ اب ساتواں ہزار لگ گیا ہے اور اسی حساب کے روز سے میری پیدائش چھٹے ہزار میں ہوئی ہے کیونکہ میری عمر اس وقت قریباً ۶۸ سال کی ہے۔ منہ

اس سے مطلب یہ ہے کہ اسکے خاندان میں ترک کا خون ملا ہوا ہوگا بہارا خاندان جو اپنی شہر کے لحاظ سے منلیہ خاندان کہلاتا ہے اس پیشگوئی کا مصداق ہے کیونکہ اگرچہ وہیں ہے کہ جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے مگر یہ تو قیفاً مشہور و محسوس ہے کہ اکثر ائمہ اور دہویاں ہماری منلیہ خاندان سے ہیں اور وہ صیغی الاصل ہیں یعنی میں کے رہنے والی۔ منہ

و دیگر نکات اور تالیفات از اب صدیق حسن خان صاحب راجھ پور (پال) منہ

لہ الحج : ۲۸



اور منجملہ گوہروں کے مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی تھے۔ اہل الزام یہ تھا کہ اس شخص نے عبد الحمید نام لیک شخص کو ڈاکٹر مارٹن کلارک کے قتل کے لئے بھیجا تھا۔ چنانچہ شہادتیں برخلاف میرے پسے طور پر گز گئیں۔ مگر خدا نے مجھے مقدمہ سے پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ ایسا مقدمہ ہوگا۔ اہل میں مجھے بچاؤں گا۔ اہل وہ وحی الہی قریباً ساٹھ یا مشرباً اسی آدمی کو قبل از مقدمہ سنا لی گئی تھی۔ چنانچہ خدا نے مجھے اپنی پاک وحی کے مطابق اس جھوٹے الزام سے عزت کے ساتھ نجات دی۔ پس وہ تمام کوشش میرے پھانسی دہانے کے لئے تھی جیسا کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے کی تھی۔

لہ عجیب بات یہ ہے کہ جیسا پلاٹوں مولوی نے (جو اس نوح کا گورنر تھا چہاں حضرت پر تھے) یہودیوں کو کہا تھا کہ میں اس شخص یعنی عیسیٰ کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے اس کو صلیب دہاں۔ ایسا ہی اس حاکم نے جس کی عدالت میں میرے پر مقدمہ قتل دائر تھا جس کا نام ڈگلس تھا لہ ہمدے طلح کا ڈپٹی کمشنر تھا مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام قتل کا نہیں لگاتا۔ لہ عجیب تر یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک چور بھی صلیب دیا گیا تھا جس دن میری نسبت یہ خون کا مقدمہ فیصل ہوا۔ اسی دن اسی عدالت میں ایک کتے نوح کا عیسائی چور بھی پیش ہوا۔ جس نے کچھ روپیہ چورایا تھا۔ عرض میری نسبت خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یا عیسیٰ الی متوفیک ورافعک الیٰ یہ ایک پیگونی تھی جس میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح میرے قتل کے لئے بھی کچھ منصوبے بنائے جائیں گے اور ان منصوبوں میں دشمن نامراد میں گئے۔

۹۲

تیسرا امر جو مجھے دُور پر مشتمل کرتا ہے میری قومی حالت ہے۔ اہل جیسا کہ ظاہر طور پر سنا گیا ہے میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مثل ہوں مگر بعض دلوایاں میری سلوات میں سے تھیں۔

لہ ہوا کتاب ہے اصل نام عبد الحمید ہے (ناشر)

سَيَهْزِمُ الْجَمْعَ وَيُولُونُ الدَّبْرَ - اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ  
 یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے تو ہمارے نزدیک آج صاحب مرتبہ  
 امین! وَاِنَّ عَلَيْكَ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اِنَّكَ  
 امین ہے اور تیرے پر میری رحمت دنیا اور دین میں ہے اور تو ان لوگوں میں سے ہے  
 مِنَ الْمَنْصُورِينَ - بِحَمْدِكَ اَللّٰهُ وَمِعْشَى الْيَكْ - ط سب  
 جن کے شامل نصرت الہی ہوتی ہے۔ خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چل رہا ہے۔ وہ پاک ذات  
 الَّذِي اسْرَى بَعْدَهُ لِيَلْا مَخْلُقِ اٰدَمَ فَ اَكْرَمَهُ  
 وہی خدا ہے جس نے ایک رات میں تجھے سیر کر لیا۔ اس شخص اس آدم کو پیدا کیا اور پھر اس کو عزت دی۔

بقیۃ سخا اس کو پالیتا۔ پھر اپنی ایک اور وحی میں مجھ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے خذوا التوحید خذوا  
 التوحید یا ابناؤ الفارس۔ یعنی توحید کو پکڑو توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو۔  
 ان تمام کلمات الہیہ سے ثابت ہے کہ اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ مغلیہ۔ نہ معلوم کس  
 غلط مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا اور جیسا کہ میں اطلاع دیکھی ہو میرے خاندان کا شجرہ نسب اس طرح ہے  
 ہے کہ میرے والد کا نام میرزا غلام مرثی تھا اور اُس کے والد کا نام میرزا عطاء محمد میرزا عطاء محمد کے والد  
 میرزا گل محمد میرزا گل محمد کے والد میرزا فیض محمد اور میرزا فیض محمد کے والد میرزا احمد قائم میرزا احمد قائم کے  
 والد میرزا محمد اسلم میرزا محمد اسلم کے والد میرزا دلاور میرزا دلاور کے والد میرزا الدین۔ میرزا  
 الدین کے والد میرزا جعفر بیگ۔ میرزا جعفر بیگ کے والد میرزا محمد بیگ۔ میرزا محمد بیگ کے والد  
 میرزا عبد الباقی۔ میرزا عبد الباقی کے والد میرزا محمد سلطان۔ میرزا محمد سلطان کے والد میرزا ادا بیگ  
 معلوم ہوتا ہے کہ میرزا اور بیگ کا لفظ کسی زمانہ میں بلور خطاب کے انکو ملا تھا جس طرح خان کا نام بلور  
 خطاب دیا جاتا ہے۔ بہر حال جو کچھ خدا نے ظاہر فرمایا ہے وہی درست ہے انسان ایک ادنیٰ سی لغزش  
 سے غلطی میں پڑ سکتا ہے مگر خدا سہوا اور غلطی سے پاک ہے۔ منہ

خدا درحق۔ میرے خاندان کی نسبت ایک اور وحی الہی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا میری نسبت فرماتا ہے مسلمان منا  
 اهل البيت (ترجمہ) مسلمان یعنی یہ عاجز جو دو صلح کی بنیاد ڈالتا ہے ہم میں سے ہے جو اہل بیت میں سے ہے وحی الہی اس مشہور  
 واقعے کی تصدیق کرتی ہے جو بعض داویاں اس عاجز کی سادات میں سے تھیں اور دو صلح سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ارادہ  
 کیا ہے کہ ایک صلح میرے ہاتھ سے اور میرے ذریعے سے اسلام کے اندرونی فرقوں میں ہوگی اور بہت کچھ فرقہ گارے جائے گا  
 اور دوسری صلح اسلام کے بیرونی دشمنوں کے ساتھ ہوگی کہ بہتوں کو اسلام کی حقانیت کی سمجھ دی جائیگی اور وہ اسلام میں  
 داخل ہو جائیں گے تب خاتمہ ہوگا۔ منہ

یہ حوالہ صفحہ 53 پر درج ہے

حقیقۃ الوحی صفحہ 78 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 81 از مرزا قادیانی

خدا کو تمام تعریفیں ہیں جس نے تیری دامادی کا رشتہ عالی نسب میں کیا۔ اور خود تجھے عالی نسب اور شریف خاندان بنایا۔ یہ تو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جن سادات کے خاندان میں دہلی میں میری شادی ہوئی تھی۔ وہ تمام دہلی کے سادات میں سے سیدی سید ہونے میں اول درجہ پر ہیں۔ اور علاوہ اپنی آبائی بزرگی کے خواجہ میر درد کے نبیرہ ہیں اور اب تک دہلی میں خواجہ میر درد کے وارث متصور ہو کر خواجہ مدوح کی گدی انہی کو ملی ہوئی ہے کیونکہ خواجہ موصوف کا کوئی لڑکا نہ تھا۔ یہی وارث ہیں جو انکی لڑکی کی اولاد ہیں۔ اور ان کی سیادت ہندوستان میں ایک روشن ستارہ کی طرح چمکتی ہے۔ بلکہ سوچنے سے معلوم ہو گا کہ ان کا خاندان خواجہ میر درد کے آبائی خاندان سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ خواجہ میر درد نے ان کی عظمت کو قبول کر کے ان کے بزرگ کو لڑکی دی۔ اور اس زمانہ میں یہ خیال ایسے بھی زیادہ تھا کہ لڑکی دینے کے وقت عالی خاندان کو ڈھونڈتے تھے۔ اور خواجہ میر درد با خدا اور بزرگ ہونے کی وجہ سے سلطنت چغتائیہ سے ایک بڑی جاگیر پاتے تھے اور دنیوی حیثیت کے رُوسے ایک نواب کا منصب رکھتے تھے۔ اور پھر انکی وفات کے بعد وہ جاگیر کے بہت انہی میں تقسیم ہوئے۔ اور اس عظمت خاندانی کے علاوہ میر سے الہامات میں جس قدر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ یہ خالص سید احمد بنی فاطمہ ہیں۔ یہ ایک خاص فخر کا مقام ان لوگوں کے لئے ہے۔ اور میں خیال نہیں کر سکتا کہ تمام پنجاب اور ہندوستان بلکہ تمام اسلامی دنیا میں کوئی اور خاندان سادات کا ایسا ہو کہ نہ صرف ان کی سیادت کو اسلامی سلطنت نے مان کر انکی تعظیم کی ہو۔ بلکہ خدا نے اپنی خاص کلام اور گواہی سے اس کی تصدیق کر دی ہو۔ یہ تو انکے خاندان کا حال ہے۔ اور میں اپنے خاندان کی نسبت کسی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک

۲۸۵

شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک سچون مرکب ہے۔ یا شہرت عام کے لحاظ سے یوں کہو کہ وہ خاندان مغلیہ اور خاندان سیادت سے ایک ترکیب یافتہ خاندان ہے۔ مگر میں اسپر ایمان لاتا اور اسی پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی ترکیب بنی فارس اور بنی فاطمہ سے ہے۔ کیونکہ اسی پر الہام الہی کے تو اترنے مجھے یقین دلایا ہے اور گواہی دی ہے۔

۵۰ ایک دفعہ جس کو قریباً اکیس برس کا عرصہ ہوا ہے مجھ کو یہ الہام ہوا اشکر نعمتی ربیت خدا یجبتی انک الیوم لذو حظ عظیم۔ ترجمہ۔ میری نعمت کا شکر کر۔ تو نے میری خدیجہ کو پایا آج تو ایک حظ عظیم کا مالک ہے۔ براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۸۔ اور اسی زمانہ کے قریب ہی یہ بھی الہام ہوا تھا بکر و تیتب یعنی ایک کنواری اور ایک بیوہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔ یہ مؤخر الذکر الہام مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت الشیخہ کو بھی سنا دیا گیا تھا۔ لیکن الہام مذکورہ بالا جس میں خدیجہ کے پانے کا وعدہ ہے۔ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۵۸ میں درج ہو کر نہ صرف محمد حسین بلکہ لاکھوں انسانوں میں اشاعت پا چکا تھا۔ ہاں شیخ محمد حسین مذکور ایڈیٹر اشاعت السنۃ کو سب سے زیادہ اس پر اطلاع ہے۔ کیونکہ اُس نے براہین احمدیہ کے چاروں حصوں کا ریویو لکھا تھا اور اسکو خوب معلوم تھا کہ ان صفات کی ایک بکرہ بیوی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ جو خدیجہ کی اولاد میں سے یعنی سید ہوگی۔ جیسا کہ الہام موصوفہ بالا میں آیا ہے۔ کہ تو میرا شکر کر اس لئے کہ تو نے خدیجہ کو پایا یعنی تو خدیجہ کی اولاد کو پائے گا۔ اسی کی تائید میں وہ الہام ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ ۲۹۲ حاشیہ دوم اور صفحہ ۲۹۶ میں درج ہے اور وہ یہ ہے۔ ارددت ان استخلف فخلق آدم۔

۱۵۹

یہ حوالہ صفحہ 53 پر درج ہے

تریاق القلوب صفحہ 158 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 286، 287 از مرزا قادیانی

پس جلد تو بھی دیکھ لیا اور وہ بھی دیکھیں گے کہ الٹی مدد سے تو محروم رہتا ہے کہ وہ

لَسْتَبْصُرُ وَيُبْصِرُونَ ۝

اور ران کو تپہ لگ جائے گا کہ تم دونوں میں سے کون گمراہ ہے۔  
تیرا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے، جو اس کے رستے سے بھٹک گیا ہے،  
اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہے۔  
راوی جب خدا کی ہدایت پر قائم ہے اور تیرے منکر تباہ ہونے والے ہیں تو ان  
منکروں کی بات نہ مان۔

بِأَيْتِكُمُ الْمَعْتُونُ ۝

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ

أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

فَلَا تَطْعَمُ الْمَلَكُوتِ بَيْنَ ۝

یہ رکھنا خواہش رکھتے ہیں کہ تو اپنے دین میں کچھ نرمی کرے تو وہ بھی اپنے  
طریق میں کچھ نرمی کریں۔

وَدُّوا أَنْ تُدْرِكَهُمُ الْمَقْتُلُ ۝

اور تو اس کی بات کسی نہ مان جو تمہیں کھاتا ہے لیکن خدا کی طرف سے مدد  
نہ ملنے کے باعث، وہ ذلیل رکاز ذلیل ہی رہتا ہے۔

وَلَا يَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ فَهْمِي ۝

جس کو زینکوں پر طعنہ کرنے اور ران کی ہنچلیاں کرنے کی عادت ہے۔  
جو لوگوں کو نیکیوں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہ گار ہے۔  
وہ بد رنگا تم بھی ہے اور خدا کا بندہ ہو کر شیطان سے تعلق رکھنے والا بھی۔

هَذَا قَمِيصٌ وَبَنِيْمِي ۝

مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٌ آئِنِي ۝

عُتِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ رَبِّيْمِي ۝

صرف اس درجہ سے کہ وہ بہت مالدار ہے اور اس کی اولاد اور ساتھی بہت ہیں  
جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو  
پہلوں کی کہانیاں ہیں۔

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنٍ ۝

إِذَا نُتِلُّ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ

الْأَوَّلِينَ ۝

ہم جلدی ماس کی ناک پر داغ لگائیں گے اور اس کو اپنی مدد محروم کر دیں گے

سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُوْمِ ۝

یہ چوتھی شہادت دی کہ آپ پاگل نہیں اور فرمایا کہ کیا پاگل کو بھی خدا کی مدد ملتی ہے؟ پس اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام ایسا ہوا کہ دشمن اور  
دوست نے اس کو غیر معمولی قرار دیا تو اسے پاگل کہنے والا پاگل ہو گا یا وہ؟  
کہ میں گواہی کا طریق عقل اور شریعت نے تقرر کر دیا ہے جو شخص خلاف عقل طور پر اپنی بات کو سچا بنانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے لیکن خدا کا فضل اسے  
ذلیل ہی کرتا ہے وہ لاکھ قسمیں کھائے اس کی بات کو نہیں مانتا چاہیے۔

تہمتی کے معنی نعت میں سخت کلامی کرنے والے کے لیے ہیں (اگرچہ ہم نے اس جگہ بدگام کا لفظ استعمال کیا ہے جو چھوٹا لفظ ہے اور وہی معنی دیتا ہے۔  
کہ قرآن مجید میں زینبہ کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے (مفردات) ہم نے اس  
کا ترجمہ خدا کا بندہ ہو کر شیطان سے تعلق رکھتا ہے کیا ہے۔ یعنی ہے تو وہ خدا کا گمراہ اپنے آپ کو منسوب ہونے کی طرف کرتا ہے۔

حصہ اول

۱۱۶

ازالہ اوہام

جو ایسا غیوری سے بہت دُور پڑی ہوئی ہے ہمارے علماء کے دلوں کو بھی کسی قدر دبا لیا ہے۔ اس سخت آندھی کے چلنے کی وجہ سے اُن کی آنکھوں میں بھی کچھ غبار سا پڑ گیا ہے اُن کی فطرتی کمزوری اس نزلہ کو قبول کر گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایسے خیالات پر زور دیتے ہیں جن کا کوئی اصل صحیح حدیث و قرآن میں نہیں پایا جاتا۔ اہل یورپ کی اخلاقی کنگاہوں میں تو ضرور پایا جاتا ہے اور ان اخلاق میں یورپ نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ ایک جوان عورت سے ایک نامحرم طالب کی بگلی دل شکنی مناسب نہیں سمجھی گئی۔ مگر کیا قرآن شریف یورپ کے ان اخلاق سے اتفاق رائے کرتا ہے؟ کیا وہ ایسے لوگوں کا نام و ثوت نہیں رکھتا؟ میں ایسے علماء کو محض شد متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسی نکتہ چینیان کرنے اور ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینے سے حتیٰ اور حتیٰ بینی سے بہت دُور جا پڑے ہیں اگر وہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہوں تو اپنی خشاک منطقی سے جو پیا ہیں کہیں لیکن اگر وہ خدائے تعالیٰ سے خوف کر کے کسی قدر سوچیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے جو اُن کی نظر سے پوشیدہ رہ سکے۔ یکسخت

تذیب کے برخلاف ہے لیکن خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض کا نام ابولعب اور بعض کا نام کلب اور خسریہ کہا اور ابو جہل تو خود مشہور ہے ایسا ہی ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت کج گفتار الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعمال کئے ہیں جیسا کہ فرماتا ہے فلا تطع المكذبین وذو الوتر من فید ہنون ولا تطع عمل حلاف مہین ہتاک مشاکر بنمیم مناع للخیر مصدق اثم عتل بعد ذالک زلیم.... سنسملہ علی الخراطوم ویکھو سورۃ القلم الجبرو نمبر ۲۹۔ یعنی تو ان مکذبول کے کہنے پر مت عمل

جو بدل اسباب کے آرزو مند ہیں کہ ہمارے محبوبوں کو بجز امت کہو اور ہمارے مذہب کی بھوک مت کرو۔ تو پھر ہم بھی تمہارے مذہب کی نسبت ان میں اہل عوتے رہینگے انکی جب زبان کا خیال مت کر یہ شخص جو ماہرہ کا خواستگار ہے جھوٹی قسمیں کھاتے والا اور ضعیف الایمان اور ذلیل النہی ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا اور سخن چینی سے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والا اور شیخی کی

لہ القلم : ۹-۱۴

یہ حوالہ صفحہ 53 پر درج ہے

ازالہ اوہام صفحہ 29، 30 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 116، 117 از مرزا قادیانی

انسان کا فرض ہے کہ سچائی کے طسروں کو ہاتھ سے نہ دپسے بلکہ اگر ایک ادنیٰ سے ادنیٰ انسان کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو اور اپنے آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس حقیقت آدمی کی بات کو مان لیوے اور انا خیر بمنہ کا دعویٰ نہ کرے ورنہ بگڑتی حالت میں کبھی رُشد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسے آدمی کا ایمان بھی معرض خطر میں ہی نظر آتا ہے۔

اور سخت الفاظ کے استعمال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفت دل اس سے بیدار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے جو دماہنہ کو پسند کرتے ہیں ایک تحریک ہوجاتی ہے۔ مثلاً ہندوؤں کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اکثر ان میں سے سی عادت رکھتے ہیں کہ اگر انکو اپنی طرف سے چھیڑا نہ جاتے تو وہ دماہنہ کے طور پر تمام عمر دوست بنی کر دینی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہیں اور اس دین کے اولیاء کی مدح و ثنا کرنے لگتے ہیں لیکن دل ان کے نہایت درجہ کے سیاہ

راہوں سے روکنے والا۔ تاکار اور بائیں ہمسہ نہایت درجہ کا بد خلق اور ان سب عیبوں کے بعد ولنا لہنا بھی ہے۔ عنقریب ہم اس کے اس ناک پر جو سور کی طرح بہت لمبا ہو گیا ہے واغ لکاون گے یعنی ناک سے مراد رسوم اور ننگس و ناموس کی پابندی ہے جو حق کے قبول کرنے سے روکتی ہے (اے خدا کے قلوب مطلق ہماری قوم کے بعض لمبی ناک والوں کی ناک پر بھی استرہ رکھ) اب کیوں حضرت مولوی صاحب کیا آپ کے نزدیک ان جامع لفظوں سے کوئی گالی باہر رہ گئی ہے۔ اور اس جگہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے نرمی اختیار کر کے کہا کہ ہم سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اس کے جواب میں اس کے تمام پردے کھولے گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین سے دماہنہ کی امید مت رکھو۔

ۛۛۛ

ووجب الارتحال ولو قصدنا ذكر خدماته لضاق بنا المجال وعجزنا  
 كادقت آغيا اور اگر ہم اس کی تمام خدمات لکھنا چاہیں تو اس جگہ سمانہ سکیں اور ہم لکھنے سے

عن التدوين - فالملخص ان ابي لم يزل كان شاعراً برفق الدولة وقائماً  
 عاجزاً به جائئیں۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا باپ سرکار انگریزی کے مہتمم کا ہمیشہ امیدوار رہا

على الخدمة عند الضرورة حتى اعزته الدولة بمكاتيب رضاءها وخصته  
 اور عند الضرورة خدمتیں بحال تاراج یہاں تک کہ سرکار انگریزی نے اپنی خوشنودی کی چٹیا کے اسکو معزز

في كل وقت يعطاهما واسمحت له بمواساتهما وتفضلت عليه بمراعاتها و  
 کیا اور ہر ایک وقت اپنے عطاؤں کے ساتھ اسکو خاص فرمایا اور اسکی غمخواری فرمائی اور اسکی رعایت دہی

حسبته من ذواعم الخيرو من المخلصين - ثم اذا توفى ابي فقام مقامه  
 اور اسکو اپنے خیر خواہوں اور مخلصوں میں سے سمجھا۔ پھر جب میرا باپ وفات پا گیا تب ان غصبتوں میں

في هذه السيرة اخي الميرزا غلام قادر وغمرته مواهب الدولة كما  
 اس کا قائم مقام میرا بھائی ہوا جس کا نام میرزا غلام قادر تھا اور سرکار انگریزی کی عنایات ایسی ہی اس کے

غمرت والدي وتوفى اخي بعد ابي في بضع سنين ثم بعد وفاتهما  
 شامل مال ہو گئیں جیسی کہ میرے باپ کے شامل مال تھیں اور میرا بھائی چند سال بعد اپنے والد کے فوت ہو گیا

قفوت اثرهما واقتديت سائرهما وذكرت عصرهما ولكني ما كنت  
 پھر ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اور انکی سیرتوں کی پیروی کی اور انکے زمانہ کو یاد کیا

ذاخصب ونعبة وسعة وثروة ولاذ الاملاك وارضين - بل بتلت  
 لیکن میں صاحب مال اور صاحب املاک نہیں تھا۔ بلکہ میں انکی وفات کے

الى الله بعد ارتحالهما ولحقت بقوم منقطعين - وجد بنی ربي اليه  
 بعد اللہ جل شانہ کی طرف جھک گیا اور انہیں جاملہ جنہوں نے دنیا کا تعلق توڑ دیا۔ اور میرے رب نے اپنی طرف

واحسن مثواي واسبع علي من نعماء الدين - وقادني من تدنسات  
 مجھے کھینچ لیا اور مجھے نیک جگہ دی اور اپنی نعمتوں کو مجھ پر کمال کیا اور مجھے دنیا کی آلودگیوں اور کمزوریوں سے



اگر چار پانی پر بیٹھے تو بیٹھتے ہی جان کندہن کا غرغره شروع ہوا۔ اسی غرغره کی حالت میں انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھا یہ کیا ہے اور پھر لیٹ گئے اور پہلے اس سے مجھے کبھی اس بات کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ کوئی شخص غرغره کے وقت میں بول سکے اور غرغره کی حالت میں صفائی اور استنقا سے کلام کر سکے۔ بعد اس کے عین اس وقت جب کہ آفتاب غروب ہوا وہ اس جہان فانی سے انتقال فرما گئے اناشد وانا لیراجعون۔ اور یہ پل سب الہاموں سے پہلا الہام اور پہلی پیش گوئی تھی جو خدا نے مجھ پر ظاہر کی دوپہر کے وقت خدا نے مجھے اس کی اطلاع دی کہ ایسا ہونے والا ہے اور غروب کے بعد یہ خبر پوری ہو گئی اور مجھے فخر کی جگہ ہو۔ اور میں اس بات کو فراموش نہیں کروں گا کہ میرے والد صاحب کی وفات کے وقت خدا تعالیٰ نے میری عزاپرسی کی اور میرے والد کی وفات کی قسم کھائی جیسا کہ آسمان کی قسم کھائی۔ جن لوگوں میں شیطانی روح ہوش زن ہو وہ تعجب کریں گے کہ ایسا کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو اس قدر عظمت دے کہ اسکے والد کی وفات کو ایک عظیم الشان صدمہ قرار دیکر اس کی قسم کھاوے مگر میں پھر دوبارہ خدا سے عزوجل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ واقعہ حق ہے اور وہ خدا ہی تھا جس نے عزاپرسی کے طور پر مجھے خبر دی اور کہا کہ والسماء والطارق اور اسی کے موافق ظہور میں آیا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

۲۲۔ بائیسواں نشان یہ ہے کہ جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے والد صاحب آفتاب غروب ہونے کے بعد فوت ہو جائیں گے تو بموجب مقتضائے بشریت کے مجھے اس خبر کے سننے سے درد پہنچا۔ اور چونکہ ہماری معاش کے اکثر وجوہ انہیں کی زندگی سے وابستہ تھے اور وہ سرکار انگریزی کی طرف سے پنشن پاتے تھے اور نیز ایک رقم کثیر انعام کی پاتے تھے۔ جو ان کی حیات سے مشروط تھی۔ اس لئے یہ خیال گذرا کہ ان کی وفات کے بعد کیا ہوگا۔ اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید تنگی اور تکلیف کے خون ہم پر آئیں گے اور یہ سارا خیال بجلی کی چمک کی طرح ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصہ میں دل میں گذر گیا تب اسی وقت غنودگی ہو کر یہ دوسرا الہام ہوا **الیس اللد لکاف عبدہ** یعنی کیا خدا اپنے بندہ کیلئے کافی نہیں ہے

(۲۲۳) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ اے۔ کہ دادا صاحب کا مکہ کلام ہے بات کہ نہیں تھا جو جلدی میں ہے با کہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اسکے متعلق اور بھی کئی لوگوں سے سنا گیا ہے۔

(۲۲۴) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ اے۔ کہ ایک دفعہ قادیان میں ایک بغدادی مولوی آیا دادا صاحب نے اس کی بڑی خاطر مدارات کی۔ اس مولوی نے دادا صاحب سے کہا۔ مرزا صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ دادا صاحب نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ اور کہا کہ ہاں بیشک میری غلطی ہے مولوی صاحب نے پھر بار بار اصرار کے ساتھ کہا اور ہر دفعہ دادا صاحب یہی کہتے گئے کہ میرا قصور ہے۔ آخر مولوی نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اے آپ کو دوزخ میں ڈال دیگا۔ اسپر دادا صاحب کو جوش آ گیا اور کہا "تمہیں کیا معلوم ہو کہ وہ مجھے کہاں ڈالے گا۔ میں اللہ تعالیٰ پر ایسا بلیغ نہیں ہوں میری امیدیں ہیں۔ خدا فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ تم یایس ہو گئے میں یایس نہیں ہوں۔ اتنی بے اعتقادی میں تو نہیں کرتا" پھر کہا "اس وقت میری عمر ۷۵ سال کی ہے۔ آج تک خدا نے میری پیٹھ نہیں لگنے دی۔ تو کیا اب وہ مجھے دوزخ میں ڈال دیگا؟ خاکسار عرض کرتا ہے کہ پیٹھ لگنا پنجابی کا محالہ ہے۔ جسکے معنی دشمن کے مقابلہ میں ذلیل ہونا ہوتی ہے۔ حدیث ذیہ صاحبہ تو دادا صاحب پر بہت گتے ہیں۔

(۲۲۵) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ جب سے تمہاری ہادی فوت ہوئی۔ تمہارے دادا نے اندر زمانہ میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ دن میں صرف ایک دفعہ تمہاری پھوپھی کو رٹنے آتے تھے۔ اور پھوپھی کے فوت ہونے کے بعد تو بالکل نہیں آتے تھے۔ باہر مردانے میں رہتے تھے۔ (خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ روایت حضرت والدہ صاحبہ سے کسی اور سے سنی ہوگی۔ کیونکہ یہ واقعہ حضرت امام جان کے قادیان تشریف لانے سے پہلے زمانہ سے متعلق رکھتا ہے)

ہمارے پاس ہے اور ہم پیش کریں گے۔ پھر ہم نے اس نوجوان لڑکے کے حالات کی بابت دریافت کرنا شروع کیا۔ ایک آدمی بٹالہ میں دریافت کے واسطے بھیجا گیا۔ اس آدمی کا نام مولوی عبدالرحیم ہے۔ اس نے بٹالہ کے متعلق حالات عبدالحمید کے محض چھوٹے پائے۔ ذرہ بھر بھی اس میں سچ نہ تھا۔ تب مولوی عبدالرحیم سیدھا قادیان میں مرزا صاحب کے پاس پہنچا اور مکان پر پہنچ کر اس نے دریافت کیا کہ آیا کوئی شخص عبدالحمید نام یہاں پر ہے۔ ایک لڑکا وہاں تھا۔ اُس نے کہا کہ ہاں تھا مگر مرزا صاحب کو گالیاں دے کر چلا گیا ہے۔ پھر مولوی عبدالرحیم مرزا صاحب کے پاس گیا اور دریافت پر کہا کہ میں عیسائی ہوں۔ اور عبدالحمید کی بابت دریافت کیا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ چھوٹا ہے۔ پیدا نشی مسلمان ہے اور اس کا پیدا نشی نام عبدالحمید ہے اور وہ مولوی برہان الدین جہلمی کا بھتیجا ہے۔ وہ داد پینڈی میں عیسائی ہوا تھا اور یہاں قادیان میں آکر پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ اور چند عرصہ محنت ڈگری اٹھا کے کرتا رہا۔ اور قریباً سات آٹھ یوم سے یہاں سے چلا گیا ہے۔ اور یہ عرصہ اُس عرصہ سے مطابق ہے جب وہ ہماری کوشھی پر آیا تھا۔ اور آخر کار مرزا صاحب نے کہا کہ اس کی اچھی طرح خاطر مدارات کرو اور خوراک پوشاک عمدہ دو تو وہ تمہارے پاس نہ ہے گا۔ پھر ہم نے جہلم سے دریافت کیا وہاں سے ہم کو معلوم ہوا کہ اس نوجوان آدمی کا نام

ہو کر ان کے علوم و نجوم میں شریک ہو جائوں۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ میرے والد صاحب اپنے بعض آباد اہلاد کے دیہات کو دوبارہ لینے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کر رہے تھے۔ انہوں نے ان ہی مقدمات میں مجھے بھی لگایا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سادقت عزیز میرا ان بیہودہ جھگڑوں میں منسلک کیا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب میری طرف سے زمینداری امور کی نگرانی میں مجھے لگا دیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا اس لئے اکثر والد صاحب کی ناراضگی کا نشانہ رہتا رہا۔ ان کی ہمدردی اور جہان میرے پر نہایت درجہ پر تھی مگر وہ چاہتے تھے کہ دنیا دلوں کی طرح مجھے رُذخ خلق بنا دیں

آپ کی غدیت نشینی پر آپ شریع شریع میں تو آپ کے والد ماجد کو آپ کی یہ غدیت نشینی بہت شاق گزری  
 کے والد ماجد کے بیمار وہ چاہتے تھے کہ یہ زمینداری میں لگیں۔ ان مقدمات کی پیروی کریں جن میں  
 وہ خود گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کو دن رات مطالعہ میں مستغرق اور مسجد میں عبادت اسی میں محروم  
 زمینتے تو کبھی کبھی چہرہ فرماتے یہ ہمارے گھر میں ملاں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ کوئی حضرت مرزا صاحب  
 سے ملنے آتا اور آپ کے متعلق دریافت کرتا تو فرماتے کہ۔

مسجد کے سقاہ کی کسی ٹوٹی میں جا کر دیکھو۔ اگر وہاں نہ پاؤ تو مسجد کے اندر کسی گوشہ میں تلاش  
 کرو۔ اگر وہاں بھی نہ ہو تو دیکھتے کہ کسی صحن میں کوئی پیٹ کر کھرا کر گیا ہو گا۔ کیونکہ وہ زندہ کی ہی  
 ہی مرا ہوا ہے؟

آپ کے والد صاحب کے یہ ریا کس کس قدر معنی خیز ہیں۔ ایک باپ جو دن رات چاہتا ہے کہ بیٹا میرے  
 سبک پر گئے اس حقیقت سے بیخبر نہیں کہ یہ بیٹا دن رات عبادت الہی کا دلدادہ ہے۔ اور اس میں  
 اسے اس قدر شغف ہے کہ وہ جیسے جی مرچکا ہے۔ یعنی اپنی تمام خواہشات و جذبات ایرتقاؤں پر موت  
 وار کر کے وہ منقطع الی اللہ ہو چکا ہے۔ گویا خود باپ اس بات پر گواہ تھا کہ بیٹا موتا قبل ان تمورا  
 رک مرنے سے پہلے مر باؤ کا پیدا پورا مصداق بن چکا ہے۔

آپ کی اس بڑی ہونے عبادت گزاروں کے متعلق ایک دفعہ آپ کے والد صاحب کے ریا کس  
 سننے کے قابل ہیں۔ مرزا اسماعیل بیگ مرزا غلام امیر مرحوم کے چچا زاو بھائی تھے اس وقت لڑکے سے  
 تھے۔ حضرت مرزا صاحب کے پاس ملازم تھے۔ کام تھا کہ آپ کے گھر سے روٹی لے آیا کریں اور آپ  
 کے ساتھ ناز پڑھتے جایا کریں۔ سردیوں میں تجمد کے وقت گرم پانی لے آویں اور خود بھی تجمد پڑھیں دوسرے  
 نفلوں میں یہ نانا اور تجمد پڑھنے کی ٹوکری ہونی یا روٹی لانے اور کھانے کی۔ کیونکہ کھانے میں دوسرے  
 شیم بچوں کے ساتھ انیس بھی حصہ ملتا تھا۔ تجمد کے وقت مرزا اسماعیل نہ جاتے تو حضرت خود انیس جگا  
 لیتے۔ جگانے میں سہول یہ تھا کہ ہلا کر جگاتے۔ آواز نہ دیتے غائب اس لئے کہ پھلی رات کو زور کی آواز سے  
 دوسروں کی زیند میں غل نہ آوے۔ خیر تو ان کا بیان ہے کہ کبھی کبھی بڑے مرزا صاحب یعنی حضرت کے والد  
 مرزا غلام قاضی صاحب مجھے بلا لیتے۔ وہ آپ چار پانی پر لیٹے ہوتے۔ پاس دو کرسیاں پڑی ہوتیں ان  
 میں سے ایک پر مجھے بٹھا کر دریافت کرتے کہ "سنا تیرا مرزا کیا کرتا ہے؟" میں کتا کتا کہتا ہوں دیکھتے  
 رہتے ہیں "اس پر وہ فرماتے کہ "کبھی بانس بھی لیتا ہے؟" یعنی کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے دریاں میں  
 وقف بھی کرتا ہے یا پڑھے ہی جاتا ہے بس ہی نہیں کرتا پھر یہ پوچھتے کہ رات کو سوتا ہی ہے تو میں جو

سہارک سجھا کرتی تھیں۔ اب یہ قطعی طور پر یقینی ہے۔ کہ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں ہی خاندان کے صحائب کے دن دور ہو کر فراخی شروع ہو گئی تھی۔ اور قادیان ہادر اسکے ارد گرد کے بعض مواضعات واداء صاحب کو راجہ رنجیت سنگھ نے سجال کر دیئے تھے۔ اور واداء صاحب کو اپنے ماتحت ایک معزز عہدہ فوجی بھی دیا تھا۔ اور راجہ کے ماتحت واداء صاحب نے بعض فوجی خدمات بھی سرانجام دی تھیں پس بہر حال حضرت صاحب کی پیدائش راجہ رنجیت سنگھ کی موت یعنی ۱۸۳۹ء سے کہ عرصہ پہلے ماننی پڑیگی۔ لہذا اس طرح بھی ۱۸۳۶ء والی روایت کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہو الملاء۔ اور حضرت صاحب نے جو ۱۸۳۹ء لکھا ہے سو اس کو خود آپ کی دوسری کسریوں کو کر رہی ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ آپ نے ۱۹۰۵ء میں اپنی عمر، سال بیان کی ہے اور وہاں یہ بھی لکھا ہے یہ تمام ماننا ہے۔ صحیح علم صرف خدا کو ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ میری تحقیق میں احوال ۱۸۵۲ء میں آپکی ولادت ہوئی تھی اور وفات ۱۳۲۶ء میں ہوئی۔ واللہ اعلم۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ اے۔ کہ میں بچپن میں والد صاحب یعنی حضرت سید سعید علیا سلام سے تاریخ فرشتہ۔ نسو میر۔ اور شاید نخلتوں۔ بوستاں پڑھا کرتا تھا۔ اور والد صاحب کبھی کبھی پچھلا پڑھا ہوا سبق بھی سنا کرتے تھے۔ مگر پڑھنے کے متعلق تجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ حالانکہ میں پڑھنے میں بے پردا تھا لیکن آخر واداء صاحب نے مجھے والد صاحب سے پڑھنے سے روک دیا اور کہا کہ میں نے سب کو ملاں نہیں بنا دیا۔ تم مجھ سے پڑھا کرو گے ویسے واداء صاحب والد صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ اے۔ کہ ایک دفعہ والد صاحب اپنے چوبائے کی کھڑکی سے گر گئے۔ اور دائیں بازو پر چوٹ آئی۔ چنانچہ آخر عمر تک وہ ناتھ کزور دہا فاکس عرض کرتا ہے۔ کہ والد صاحب لڑائی تھیں۔ کہ آپ کھڑکی سے اترنے لگے تو سامنے

سٹول رکھا تھا اٹا گیا۔ اور آپ گر گئے اور وائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ ہاتھ آخر عمر تک کمزور رہا۔ اس ہاتھ سے آپ لقمہ تو منہ تک لیجا سکتے تھے مگر پانی کا برتن وغیرہ منہ تک نہیں اٹھا سکتے تھے۔ خاک راعرض کرتا ہے کہ نماز میں بھی آپ کو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے سہارے سے سنبھالنا پڑتا تھا۔

(۱۸۸) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک راعرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب شیرنا اور مولوی خوب جانتے تھے اور سنایا کرتے تھے۔ کہ ایک دفعہ بچپن میں میں ڈوب چلا تھا تو ایک اجنبی بدمعہ سے شخص نے مجھے نکالا تھا۔ اس شخص کو میں نے اس سے قبل پایہ کبھی نہیں دیکھا نیز فرلتے تھے کہ میں ایک دفعہ ایک گھوڑے پر سوار ہوا اس نے شوخی کی اور بے قابو ہو گیا۔ میں نے بہت روکنا چاہا۔ مگر وہ شرارت پر آمادہ تھا نہ رکا۔ چنانچہ وہ اپنی پورے ندر میں ایک درخت یا دیوار کی طرف بھاگا (الشک منی) اور پھر اس ندر کے ساتھ اس سے ٹکرایا۔ کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اور وہ وہیں مر گیا۔ مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بچالیا۔ خاک راعرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب بہت نصیحت کیا کرتے تھے کہ سرکش اور شریر گھوڑے پر سوار نہیں چڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس گھوڑے کا مجھے مارنے کا ارادہ تھا۔ مگر میں ایک طرف گر کر بچ گیا اور وہ مر گیا۔

(۱۸۹) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کے والد صاحب باہر چوپائے میں رہتے تھے۔ وہیں ان کے لئے کھانا جانا تھا۔ اور جس قسم کا کھانا بھی ہوتا تھا کھا لیتے تھے۔ کبھی کبھی نہیں کہتے تھے۔

(۱۹۰) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کے والد صاحب تین کتابیں بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی قرآن مجید۔ فتاویٰ رومی اور دلائل الخیرات اور کچھ نوٹ بھی لیا کرتے تھے۔ اور قرآن شریف بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔

(۱۹۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ

فلسفی کو منکر حنا نہ است از حواس انبیاء بیگانه است

(۳۰۷) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کے ماموں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گھر میں ایک مرغی کے چوزہ کے ذبح کرنے کی فرزندت پیش آئی۔ اور اس وقت گھر میں کوئی اور اس کام کو کرنے والا نہ تھا اس لئے حضرت صاحب اس چوزہ کو ماتھ میں لے کر خود ذبح کرنے لگے مگر بجائے چوزہ کی گردن پر چھری پھیرنے کے غلطی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی جس سے بہت خون گیا اور آپ توبہ کرتے ہوئے چوزہ کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ چوزہ کسی اور نے ذبح کیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کی عادت تھی کہ جب کوئی چوڑ ذبح اپنا تک لگتی تھی تو جلدی جلدی توبہ توبہ کے الفاظ منہ سے فرماتے لگاتے تھے۔ دراصل جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ عموماً کسی قانون شکنی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خواہ وہ قانون شریعت ہو یا قانون غیر یعنی قانون قضا و قدر یا کوئی اور قانون، پس ایک صحیح الفطرت آدمی کا یہی کام ہونا چاہئے کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کے وقت توبہ کی طرف رجوع کرے۔ اور یہی مفہوم انا للہ وانا الیہ راجعون کہنے کا ہے جس کی کہ قرآن شریف تعلیم دیتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چونکہ کسی جانور وغیرہ ذبح نہ کئے تھے۔ اس لئے بجائے چوزہ کی گردن کے اپنی انگلی پر چھری پھیر لی۔ اور یہ نتیجہ تھا۔ اس بات کا کہ آپ قانون ذبح کے عمل پہلو سے واقف نہ تھے۔ واللہ اعلم

(۳۰۸) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر۔

ذہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ چند اجاب نے حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ یہ برس برس کے کہ حضرت صلعم پر بادل کا سایہ رہتا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہر وقت تو بادل کا سایہ رہنا ثابت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کافر کا فرزند نہ رہتا۔ سب گناہ نورانیقین نے آتے کیونکہ ایسا مسجورہ دیکھ کر کون انکار کر سکتا تھا۔ دراصل سنت اللہ کے مطابق مسجورہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک پہلو خفاہ کا بھی ہو اور فرمایا کہ ہر وقت بادل کا سایہ رہتا۔ موجب تکلیف بھی ہے۔ علامہ ازیں اگر ہر وقت بادل کا سایہ رہتا تو کیوں گرمی کے وقت حضرت ابو بکرؓ آپ پر چادر تان کر سایہ کرتے اور ہجرت کے سفر میں آپ کے لئے کیوں سایہ دار جگہ تلاش کرتے؟ ہاں کسی خاص وقت کسی حکمت کے ماتحت آپ کے سر پر بادل نے آکر سایہ کیا تو تعجب نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا

شاہ روم و روس میں جنگ ہوئی ہے۔ اور شاہ روم کو فتح ہوگئی ہے۔ ہم نے اس کی تعبیر کی، تمہارے شاہ روم ہم ہی ہیں۔ اور تعبیر اس خواب کی یہ ہے کہ ان مقدسات میں ہماری فتح ہوگی۔ اور ہمارے شرکاء کو شکست ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرمایا اگر یہی خواب وزیر سلطنت روم یا روس دیکھتا۔ تو اسکی تعبیر اور ہوتی۔ خواب کی تعبیر دیکھنے والے کی حالت اور حیثیت کے مطابق ہوتی ہے :

## عاجز کو دودھ پلایا

جب عاجز راقم لاہور سے قادیان آیا کرتا۔ تو حضور مجھے عموماً صبح ہر روز پینے کے واسطے دودھ بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے اندر پلایا۔ ایک لٹا دودھ کا بھرا ہوا حضور کے ہاتھ میں تھا۔ اُس میں سے ایک بڑے گلاس میں حضور نے دودھ ڈالا اور مجھے دیا اور محبت سے فرمایا۔ آپ پی لیں۔ پھر میں اور دیتا ہوں۔ میں تو اُس گلاس کو بھی ختم نہ کر سکا۔ ابھی اُس میں دودھ باقی تھا۔ جو بس کر دی اور واپس کیا۔ تبسم کرتے ہوئے حضور نے فرمایا۔ بس۔ آپ تو بہت تھوڑا پیتے ہیں :

## بچے کے دل بہلاؤ کے لئے چڑیا

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم کے دل بہلانے کے واسطے ایک دفعہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں کہیں سے لائی گئیں۔ صاحبزادہ صاحب اُن چڑیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا پسند کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ بچپن کی ناواقفی سے ایسی طرح پکڑتے، اور دبائے رکھتے، کہ چڑیا کی جان پر بن جاتی۔ اسپر گھر کی کسی خادمہ نے صاحبزادہ صاحب کو چڑیا ہاتھ میں پکڑنے سے روکا۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُن خادمہ کو منع کیا۔ فرمایا۔ کہ یہ چڑیا اسکے دل بہلانے کے واسطے ہیں۔ جس طرح چاہے پکڑے۔ تم نہ روکو :

ذکر صیب صفحہ 171 از مفتی محمد صادق قادیانی

یہ حوالہ صفحہ 57 پر درج ہے



خود بھیدی۔ مولوی محمد حسن صاحب نے حالہ نکالنے کی کوشش کی۔ مگر نہ نکلا۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود نکال کر پیش کیا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری پارہ ۳۲ حصہ اول باب مناقب عمرؓ میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کان فیتمن قبلكم من بنی اسرائیل رجالٌ یكلمون من غیر ان ینکولوا انبیاء فإنا ینک من امتی منہما حدٌ و عمر جب حضرت صاحب نے یہ حدیث نکال کر کہا دی۔ تو فریق مخالفت پر گویا ایک موت وارد ہو گئی اور مولوی عبدالحکیم صاحب نے اسی پر مباحثہ ختم کر دیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مندرجہ بالا روایتوں میں جو اختلاف ہے اس کے متعلق خاکسار ذاتی طور پر کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس قدر درست ہے کہ نون ثقیلہ والی بحث دہلی میں مولوی محمد بشیر والے مباحثہ میں پیش آئی تھی۔ اور بظاہر اس سے بخاری والے حوالہ کا جوڑ نہیں ہے۔ پس اس حد تک تو درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ دہلی والے مباحثہ کا نہیں ہے۔ آگے راولپور اور لڑھیانہ کا اختلاف۔ سو اس کے متعلق میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ نیز خاکسار انسور کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ اس وقت جبکہ سیرۃ المہدی کا حصہ سوم زیر تصنیف ہے۔ پیر سراج الحق صاحب نعمانی فوت ہو چکے ہیں۔ پیر صاحب موصوف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق روایات کا ایک عمدہ خزانہ تھے۔

(۹) روایت نمبر ۳۰۹ کی تشریح میں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک چوزہ ذبح کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے بذریعہ تحریر خاکسار سے بیان کیا۔ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام عصر کی نماز کے وقت مسجد مبارک میں تشریف لائے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی پر پٹی پانی میں بھگی ہوئی باندھی ہوئی تھی۔ اس وقت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے حضرت اقدس سے پوچھا۔ کہ حضور نے یہ پٹی کیسے باندھی ہے؟ تب حضرت اقدس علیہ السلام نے ہنس کر فرمایا۔ کہ ایک چوزہ ذبح کرنا تھا۔ ہماری انگلی پر پٹھری پھر گئی۔ مولوی صاحب مرحوم بھی ہنسے اور عرض کیا۔ کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا۔ حضرت نے فرمایا۔ کہ اس وقت اور کوئی نہ تھا۔

(۱۰) روایت نمبر ۳۰۹ کی تشریح میں جس میں لڑھیانہ کی پہلے دن کی بیعت کا ذکر ہے۔ مکرم شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے بذریعہ تحریر خاکسار سے بیان کیا۔ کہ روایت نمبر ۳۰۹ میں مخدومی مکی صاحب زادہ

۲۴۲

پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت صاحب نے اس سے اظہارِ ہمدردی کیا اور پوچھا کہ گرم دودھ یا آدھ کئی چیز منگوائیں؟ اُس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ مگر بیچاے کو چٹ سخت آئی تھی۔ والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ حضرت صاحب اسے خود ایک کرسے سے دوسرے کی طرف لیجاتے تو خود ایک ایک چیز دکھاتے تھے۔

خاکِ روضہ کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے اس خانہ تلاشی کا ذکر اپنے اشتہارِ روزانہ ۱۱ مارچ ۱۸۹۵ء میں کیا ہے۔ جہاں لکھا ہے کہ خانہ تلاشی ۸ اپریل ۱۸۹۵ء کو ہوئی تھی اور نیز یہ کہ مہمان خانہ مطیع وغیرہ کی بھی تلاشی ہوئی تھی۔ خاکِ روضہ کرتا ہے کہ لیکچر ۲۲ مارچ ۱۸۹۵ء کو قتل ہوا تھا۔ اور اسکے قتل پر آریوں کی طرف سے ملک میں ایک طوفانِ عظیم برپا ہو گیا تھا۔ مانا گیا ہے کہ کئی جگہ مسلمان بچے دشمنوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے اور حضرت صاحب کے قتل کے لیے بھی بہت سازشیں ہوئیں۔ اور یہ خانہ تلاشی بھی غالباً آریوں ہی کی تحریک پر ہوئی تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا تجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دن حضرت صاحب سنا تے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دن بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے بیٹھا لاؤ۔ میں گھر میں آیا اور بغیر کسی سے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید بُدیا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا۔ اور راستہ میں ایک مستحی بھر کر منہ میں ڈال لی۔ بس پھر کیا تھا۔ میرا دم ٹوک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی۔ کیونکہ معلوم ہوا کہ جسے سفید بُدیا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بُدیا تھا بلکہ پھانسی کا تھا۔ خاکِ روضہ کرتا ہے کہ تجھ پر یاد آیا کہ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہیں۔ کیونکہ حضرت صاحب کو عیسیٰ مدنی پسند تھی۔ جب حضرت صاحب کھانے لگے تو آپ نے اس کا فائدہ بولا ہوا پایا۔ مگر آپ نے اس کا خیال نہ کیا کہ آدھ کھانے پر حضرت صاحب نے کڑواہٹ محسوس کی۔ اور والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ مدنی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے؟ والدہ صاحبہ نے پکا نیرالی سے پوچھا اُس نے کہا نیز تو میٹھا ڈالا تھا۔ والدہ صاحبہ نے پوچھا کہ کہاں سے لیکر ڈالا تھا؟ وہ برتن لاؤ۔ تو حضرت ایک ٹین کا ڈبہ اٹھا لئی دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئین کا ڈبہ تھا۔ اور اس حضرت نے چہالت سے بھانے بیٹھے کے مدھیوں میں کوئین ڈال دی

(۲۴۲)

تمی اس دن گھر میں یہ بھی ایک لطیفہ ہو گیا۔

(۲۲۵)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ بعض بوڑھی عورتوں نے  
مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کیساتھ  
کچھ کھانے کو مانگا انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا کہ بے لہو۔ حضرت نے کہا نہیں۔  
میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی۔ حضرت صاحب نے اسپر بھی وہی جواب  
دیا وہ اس وقت کسی بات پر چڑھی ہوئی بیٹھی تھیں۔ سختی سے کہنے لگیں۔ کہ جاؤ پھر آکر  
روٹی کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں ایک لطیفہ ہو گیا۔  
یہ حضرت صاحب کا بالکل بچپن کا واقعہ ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے یہ  
واقعہ سنا کر کہا کہ جس وقت اس عورت نے مجھے یہ بات سنانی تھی۔ اس وقت حضرت صاحب  
بھی پاس تھے۔ مگر آپ خاموش رہے۔

(۲۲۶)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مولوی ذوالفقار علی خان صاحب نے کہ جن دنوں  
میں گورکھ پور میں کرم دین کا مقدمہ تھا ایک دن حضرت صاحب کچھری کی طرف تشریف  
لے جانے لگے اور حسب معمول پہلے دعا کے لیے اس کمرہ میں گئے جو اس عرض کے لیے  
پہلے مخصوص کر لیا تھا۔ میں اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ باہر انتظار میں کھڑے تھے  
اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں اس وقت حضرت صاحب کی چھتری تھی۔ حضرت صاحب دعا  
کرتے باہر نکلے تو مولوی صاحب نے آپ کو چھتری دی حضرت صاحب نے چھتری ہاتھ میں  
لے کر اسے دیکھا اور فرمایا۔ یہ کس کی چھتری ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضور ہی کی ہے جو حضور  
اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ میری نہیں ہے۔  
صاحب کہتے ہیں۔ کہ وہ چھتری مدت سے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ مگر محویت کا یہ عالم تھا۔  
کہ کبھی اسکی شکل کو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہ پہچان سکیں۔ غلٹ صاحب کہتے ہیں  
کہ اسی طرح ایک دفعہ میں قادیان آیا۔ اس وقت حضرت صاحب مسجد کی سیڑھیوں میں کھڑے  
ہو کر کسی افغان کو رخصت کر رہے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ آپ اس وقت خوش نہ تھے۔  
کیونکہ وہ شخص افغانستان میں جا کر تبلیغ کرنے سے ڈرتا تھا۔ خیر میں جا کر حضور سے ملا۔ اور

یہ حوالہ صفحہ 58 پر درج ہے

سیرت الہدی، جلد اول صفحہ 244، 245 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی

۲۴۵

تمنی اُس دن گھر میں یہی ایک لطیفہ ہو گیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ بعض بڑھی عمر توں نے  
مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کیساتھ  
کچھ کھانے کو مانگا انہوں نے کوئی چیز شاید مگڑ بتایا کہ یہ لے لو۔ حضرت نے کہا نہیں یہ  
میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی۔ حضرت صاحب نے اُس پر بھی وہی جواب  
دیا وہ اسوقت کسی بات پر چڑھی ہوئی بیٹھی تھیں۔ سختی سے کہنے لگیں کہ جاؤ پھر آکر  
روٹی کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھے گئے اور گھر میں ایک لطیفہ ہو گیا۔  
یہ حضرت صاحب کا بالکل بچپن کا واقعہ ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے یہ  
واقعہ سنا کر کہا کہ جسوقت اُس عورت نے مجھے یہ بات سنائی تھی۔ اسوقت حضرت صاحب  
بھی پاس تھے۔ مگر آپ خاموش رہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مولوی ذوالفقار علی خان صاحب نے کہ جن دنوں  
میں گورداسپور میں کرم دین کا مقدمہ تھا ایک دن حضرت صاحب کچھری کی طرف تشریف  
لے جانے لگے اور جب معمول پہلے دعا کے لئے اُس کمرہ میں گئے جو اس غرض کے لئے  
پہلے مخصوص کر لیا تھا۔ میں اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ باہر انتظار میں کھڑے تھے  
اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں اسوقت حضرت صاحب کی چھتری تھی۔ حضرت صاحب دعا  
کر کے باہر نکلے تو مولوی صاحب نے آپ کو چھتری دی حضرت صاحب نے چھتری ہاتھ میں  
لے کر اُسے دیکھا اور فرمایا یہ کس کی چھتری ہے، عرض کیا گیا کہ حضور ہی کی ہے جو حضور  
اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری نہیں ہے۔  
صاحب کہتے ہیں کہ وہ چھتری مدت سے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ مگر محویت کا یہ عالم تھا۔  
کہ کبھی اسکی شکل کو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہ پہچان سکیں۔ غلن صاحب کہتے ہیں  
کہ اسی طرح ایک دفعہ میں قادیان آیا۔ اسوقت حضرت صاحب مسجد کی سیڑھیوں میں کھڑے  
ہو کر کسی افغان کو رخصت کر رہے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ آپ اُس وقت خوش نہ تھے۔  
کیونکہ وہ شخص افغانستان میں جا کر تبلیغ کرنے سے ڈرتا تھا۔ غیر میں جا کر حضور سے ملا۔ اور

چاہتی تھی کہ آپ نوکری پر ڈٹے رہیں اور خوب استغراق سے کام کر کے کوئی بڑا امر مزہ عمدہ حاصل کریں لیکن محبت اس بات پر زور دیتی تھی کہ کچھ بھی ہونہم اپنے لیے سخت جنگ لاکھوں سے دور رہنا برداشت نہیں کر سکتے اس پر سختی میں محبت غالب آئی اور تقاضا کیا کہ آپ نوکری چھوڑ کر گھر پہنچ جائیں۔ اس حکم کو بھی اپنے بسرو چشم قبول فرمایا اور فوراً استعفا دیکر ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی اور گھر پہنچ گئے۔ اگرچہ خدا خدا کر کے آپ کو ملازمت و عیش کے حندوں سے منکھی ہوئی تھی اور خیال تھا کہ اب آپ کو خلوت اور فراغت میسر آجائے گی لیکن قادیان پہنچتے ہی والد صاحب نے بدستور آپ کو زمینداری کے کاموں میں مصروف کر دیا۔ مگر اس جگہ آپ اپنے کام کے لیے بہت وقت نکال لیتے اور اکثر قرآن شریف کے تدبر اور تفسیروں اور حدیثوں کے دیکھنے میں مشغول رہتے اور بہا اوقات والد صاحب کو بھی وہ کتابیں سنایا کرتے تھے۔ میرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا کلمہ کلام ہے یا کہ نہ "میتے" نے بات کہ نہ تھا انہوں نے آپ کی کا دوبارہ دنیا سے نفرت اور تقویٰ سے تزکیہ میں کوشش کی شدت اور مطالعہ و توفیل کتب میں مشغولیت اور محویت دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آپ دنیا کے کسی کام کے لالچ نہیں۔ اور اکثر دوستوں کے آگے یہی بات پیش کیا کرتے کہ مجھے تو غلام احمد کا فکر ہے کہ یہ کہاں سے کیا گیا اور اسکی طرح کس طرح کئے گی۔ بلکہ بعض دوستوں کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہی اسکو سمجھاؤ کہ وہ اس استغراق کو چھوڑ کر کسے کے حندے میں گئے اگر کسی اتفاق سے ان سے کوئی دریافت کرتا کہ میرزا غلام احمد کہاں ہیں؟ تو وہ یہ جواب دیتے کہ مسجد میں جا کر

سقاہ کی ٹوٹی میں تلاش کرو مگر وہاں نہ ملے تو پابوس ہو کر واپس مت آنا۔ مسجد کے اندر چلے جانا اور وہاں کسی گوشے میں سلاٹس کھا کر گدواں بھی نہ ملے تو پھر بھی ناامید ہو کر لوٹ مت آنا کسی صف میں دیکھنا کہ کوئی اسکو پیٹ کر کھڑا کر گیا ہو گا۔ کیونکہ وہ تو زندگی میں برا

ہوا ہے اور اگر کوئی اسے صف میں پیٹ لے تو وہ آگے سے حرکت بھی نہیں کرے گا۔ آپ کو شیعری سے بہت پیار ہے اور فرض بولیں ابھی عرض سے آپ کو ملی ہوئی ہے اس زمانہ میں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض بوقت جب میں ہی رکھتے تھے اور اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے

بھی رکھ دیا کرتے تھے۔ اسی قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں کہ اس بات پر شاہد باطن ہیں کہ آپ کو اپنے بارانزل کی محبت میں ایسی محویت ملی کہ جیسے باعث سے اس دنیا سے بالکل بے خبر ہو رہے تھے۔

حاصل والد کی زندگی بھی آپ کے لیے ایک کتب تھی۔ وہ اپنی زندگی سے استقدر حسرت اور ندامت ظاہر کیا کرتے تھے کہ سن کر و نا آتا تھا بارہا کہ کرتے تھے کہ میں نے جو قدر اس پلید دنیا کے لیے سی کی ہے اگر میں وہ سی دین کے لیے کرتا تو شاید آج قلب یا غوث وقت ہوتا۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

بے عمر بگذشت و نماز است جزایا سے چند ہنہ کہ در یاد کے صبح کفر شامے چند کسی دھندپ ایٹا بتایا ہوا یہ شعر وقت کے ساتھ پڑا کرتے تھے۔ اب ویرہ عشاق و خاکپائے کے ہمارے ست در خون تہ بچلے کے

ایک دفعہ انہوں نے خواب بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بڑی شان کے ساتھ میرے مکان کی طرف چلے آئے ہیں جیسا کہ ایک حکیم شان بلا شاہ آتا ہے تو میں اسوقت اپنی طرف پیشوائی کے لیے دوڑا۔ جب قریب پہنچا تو تھوڑا سا لگا لگا کر کچھ نذر پیش کر لی چاہئے

تھوڑے کچھ جیب میں ہاتھ ڈالا جن میں صرف ایک روپیہ تھا۔ اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی کھوٹا ہے یہ دیکھ کر میں حیرت پر آج ہو گیا

یہ حوالہ صفحہ 59 پر درج ہے

کا موعود کے مختصر حالات ملحقہ براہین احمدیہ حصہ اول تا چہارم صفحہ 67 از معراج الدین عمر قادیانی

۵

جس سے بیازدوں کو دوا دیتے تھے۔ مرزا سلطان احمد صاحب نے بھی طب پڑھی تھی۔ اور خاکسار سے حضرت خلیفہ ثانی نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ مجھے بھی حضرت مسیح موعود نے علم طب کے پڑھنے کے متعلق تاکید فرمائی تھی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ علم طب ہمارے خاندان کی خصوصیت رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں سے کبھی کسی نے اس علم کو اپنے روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اور نہ ہی علاج کے بدلے میں کبھی سے کبھی کچھ معاوضہ لیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ تہاری دادی ایہہ ضلع ہوشیار پور کی رہنے والی تھیں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ ایہہ گئے ہیں۔ والدہ صاحبہ لے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے۔ اور چاقو نہیں ملتا تھا۔ تو سرکنڈے سے ذبح کر لیتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایہ سے چند بوڑھی عورتیں آئیں۔ تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا۔ کہ سندھی ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ میں نہ سمجھ سکی۔ کہ سندھی سے کون مراد ہے۔ آخر معلوم ہوا کہ ان کی مراد حضرت صاحب سے ہے۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ دستور ہے۔ کہ کسی منت ماننے کے نتیجہ میں بعض لوگ خصوصاً عورتیں اپنے بچے کا عرف سندھی رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپکی والدہ اور بعض عورتیں آپ کو بھی بچپن میں کبھی اس لفظ سے پکار لیتی تھیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ سندھی غالباً دوسندھی یا دوسبندھی سے پکڑا ہوا ہے۔ جو ایسے بچے کو کہتے ہیں۔ جس پر کسی منت کے نتیجہ میں اس دفعہ کوئی چیز یا ندھی جاوے۔ اور بعض دفعہ منت کوئی نہیں ہوتی بلکہ ٹوہنی پیا سے عورتیں اپنے کسی بچے پر یہ رسم ادا کر کے اسے سندھی پکارنے لگ جاتی ہیں۔

(اس روایت میں جو یہ ذکر آتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود بچپن میں کبھی کبھی شکار کی ٹوہنی چڑیا کو سرکنڈے سے ذبح کر لیتے تھے اسکے متعلق یہاں مقابل ذکر

نصہ پر خود قابض ہو گئے۔ مرزا غلام حسین کی چونکہ نسل نہیں چلی اسلئے ان کا حقہ پسران مرزا غلام مرتضیٰ صاحب و پسران مرزا غلام محی الدین کو آگیا۔

خاک روضہ کرنا ہے۔ کہ اس وقت مرزا تصدق جیلانی اور مرزا قاسم بیگ کی تمام شلخ معدوم ہو چکی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مرزا غلام حیدر کی بھی شلخ معدوم ہے۔ ہمارے ہاں مرزا غلام قادر صاحب اور مرزا امام الدین اور مرزا کمال الدین بھی اولاد فوت ہوئے۔ ہاں مرزا نظام الدین کا ایک لڑکا مرزا گل محمد موجود ہے۔ مگر وہ احمدی ہو کر حضرت صاحب کی روحانی اولاد میں داخل ہو چکا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔ ینقطع ابائک و یبدأ منک ابدیہ الہام اس وقت کا ہے۔ جب آپ کے شجرہ خاندانی کی یہ تمام شاخیں سرسبز ہوتیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمہارے دادا کی نشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے نشن وصول کر لی۔ تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دیکر بجائے قادیان لانے کے باہر لیگیا اور ادھر ادھر پھرتا رہا پھر جب اُس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے۔ اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کسٹرن کی کچھری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ اور کچھ عرصہ تک وہاں ملازمت پر رہے۔ پھر جب تمہاری دادی بیمار ہوئیں۔ تو تمہارے دادا نے آدمی بھیجا۔ کہ ملازمت چھوڑ کر آ جاؤ۔ پھر حضرت صاحب فوراً روانہ ہو گئے۔ امرتسر پہنچ کر قادیان آنے کے واسطے یکہ کرایہ پر لیا۔ اس موقع پر قادیان سے ایک اور آدمی بھی آپ کے لینے کے لئے امرتسر پہنچ گیا۔ اس آدمی نے کہا یکہ جلدی چلاؤ کیونکہ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا۔ بہت ہی نازک حالت تھی جلدی کرو کہیں فوت نہ ہو گئی، مول۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی تھیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ میں ہاں

۴۴

دقت سمجھ گیا۔ کہ دراصل والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتیں تو وہ شخص ایسے الفاظ نہ بولتا۔ چنانچہ قادیان پہنچے تو پتہ لگا کہ واقعی وہ فوت ہو چکی تھیں۔ والدہ جنا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر اُس نے چائے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے ہی اسے قید سے بچا یا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا، ہمارے مخالف یہی کہتے کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت سیح موعود علیہ السلام کی سیالکوٹ کی ملازمت ۱۸۷۳ء کا واقعہ ہے۔

(اس روایت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہ حضرت سیح موعود علیہ السلام کا سیالکوٹ میں ملازم ہونا اس وجہ سے تھا۔ کہ آپ سے مرزا امام الدین نے داد صاحب کی پنشن کا روپیہ وصول کرنے کے لئے لیا تھا۔ کیونکہ جیسا کہ خود حضرت سیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیفات میں تصریح کی ہے۔ آپ کی ملازمت اختیار کرنیکی وجہ صرف یہ تھی۔ کہ آپ کے والد صاحب ملازمت کے لئے زور دیتے رہتے تھے۔ ورنہ آپ کی اپنی رائے ملازمت کے خلاف تھی۔ اسی طرح ملازمت چھوڑ دینے کی بھی اصل وجہ یہی تھی۔ کہ حضرت سیح موعود علیہ السلام ملازمت کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور اپنے والد صاحب کو ملازمت ترک کر دینے کی اجازت کے لئے کہتے رہتے تھے۔ لیکن داد صاحب ترک ملازمت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مگر بالآخر جب دادی صاحبہ بیمار ہوئیں۔ تو داد صاحب نے اجازت بھجوا دی۔ کہ ملازمت چھوڑ کر آجاؤ۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ طبابت کا علم ہمارا خاندانی علم ہے۔ اور ہمیشہ سے ہمارا خاندان اس علم میں ماہر رہا ہے۔ داد صاحب نہایت ماہر و مشہور عازق طبیب تھے۔ تایا صاحب نے بھی طب پڑھی تھی۔ حضرت سیح موعود بھی علم طب میں خاصی دسترس رکھتے تھے۔ انڈیا میں ادویہ کا ایک ذخیرہ لکھا کرتے تھے

(۵۰)

سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 43، 44 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی

یہ حوالہ صفحہ 60 پر درج ہے



پادری صاحب سے تشریف آوری کا سبب پوچھا۔ تو پادری صاحب نے جواب دیا۔ کہ میں مرزا صاحب سے ملاقات کر نیو آیا تھا۔ چونکہ میں وطن جانے والا ہوں، اس واسطے ان سے آخری ملاقات کرونگا۔ چنانچہ جہاں مرزا صاحب بیٹھے تھے وہیں چلے گئے اور فرش پر بیٹھے رہے اور ملاقات کر کے چلے گئے۔

چونکہ مرزا صاحب پادریوں کے ساتھ مباحثہ کو بہت پسند کرتے تھے اس واسطے مرزا شکستہ تخلص نے جو بعد ازاں مودت تخلص کیا کرتے تھے اور مراد بیگ نام جالندھر کے رہنے والے تھے۔ مرزا صاحب کو کہا۔ کہ سید احمد خان صاحب نے تورات و انجیل کی تفسیر لکھی ہے آپ ان سے خط و کتابت کریں اس معاملہ میں آپ کو بہت مدد ملیگی۔ چنانچہ مرزا صاحب نے سرسید کو عربی میں خط لکھا۔

پکھری کے منشیوں کے شیخ الہ داد صاحب مرحوم سابق محافظ دفتر سے بہت انس تھا اور نہایت پختی اور سچی محبت تھی۔ بہر کے بزرگوں سے ایک مولوی صاحب عالم نام سے جو عزت گزین اور بڑے عابد اور پارسا اور نقشبندی طریق کے صوفی تھے مرزا صاحب کو بلی محبت تھی۔

چونکہ جس بیٹیک میں مرزا صاحب حکیم منصب علی کے جو اس زمانہ میں وثیقہ نویس تھے رہتے تھے۔ اور وہ سر بازار تھی۔ اور اس دوکان کے بہت قریب تھی۔ جس میں حکیم حسام الدین صاحب مرحوم سامان دعا سازی اور دعا فروشی اور مطب رکھتے تھے اس سبب سے حکیم صاحب اور مرزا صاحب میں تعارف ہو گیا۔ چنانچہ حکیم صاحب نے مرزا صاحب سے قانونیہ اور توجہ کا بھی کچھ حصہ پڑا۔

چونکہ مرزا صاحب ملازمت کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس واسطے آپ نے فقاری کے امتحان کی طیاری شروع کر دی۔ اور قانونی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ پر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے اور کیونکر ہوتے۔ وہ ڈیوی اشتغال کے لئے بنائی نہیں گئے تھے۔ سچ ہے۔

ہر کے راہر کارے ساختند

کئے مگر آٹھ نوروز سے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا اسلئے باقی چھوڑ دئے اور فدیہ ادا کر دیا اسلئے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آپ نے دس گیارہ روز سے رکھے تھے کہ پھر دو کیوجہ سے روز سے ترک کرنے پڑے اور اپنے فدیہ ادا کر دیا اسلئے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا تیرہواں روز تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور اپنے روز توڑ دیا اور باقی روز سے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا اسلئے بعد جو رمضان آئے اپنے سب روز رکھے مگر پھر وفات سے دو تین سال قبل کمزوری کیوجہ سے روز سے نہیں رکھے اور فدیہ ادا فرماتے رہے فاکسار نے دریافت کیا کہ جب اپنے ابتداء دوروں کے زمانہ میں روز کی چھوڑ کر تو کیا پھر بعد میں انکو قضا کیا؟ والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ نہیں صرف فدیہ ادا کر دیا تھا فاکسار عرض کرتا ہے کہ جب شروع شروع میں حضرت مسیح موعود کو دوران سراور بروا طراف کے دور سے پڑنے شروع ہوئے تو اس زمانہ میں آپ بہت کمزور ہو گئے تھے اور صحت خراب رہتی تھی اسلئے جب آپ روز سے چھوڑتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر دوسرے رمضان تک انکے پورا کرنے کی طاقت نہ پاتے تھے۔ مگر جب انکار رمضان آتا تو پھر شروع عبادت میں روز کی کھنڈ شروع فرمادیتے تھے لیکن پھر دورہ پڑتا تھا تو ترک کر دیتے تھے اور بقیہ کا فدیہ ادا کر دیتے تھے۔ والہ اعلم۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا چھپے سے حضرت والدہ ماجدہ نے کہ حضرت مسیح موعود اوائل میں خزار سے استعمال فرمایا کرتے تھے پھر بیٹے کہہ کر وہ ترک کر دئے اسکا بعد آپ معمولی پا جائے استعمال کرنے لگے فاکسار عرض کرتا ہے کہ خزار بہت کھلے پائے تھے کہ پانچام کو کہتے ہیں۔ (پہلے اسکا ہندوستان میں بہت رواج تھا اب بہت کم ہو گیا ہے)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود عام طور پر سفید مل کی پگڑی استعمال فرماتے تھے جو عموماً دس گز لمبی ہوتی تھی پگڑی کے نیچے کلاہ کی جگہ نرم قسم کی رومی ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ اور گھریں بعض اوقات پگڑی اتار کر سر پر صرف ٹوپی ہی رہنے دیتے تھے بدن پر گرمیوں میں عموماً مل کا کرتہ استعمال فرماتے تھے۔ اسکے اوپر گرم سداری اور گرم کوٹ پہنتے تھے ہا جا مہ بھی آپ کا گرم ہوتا تھا۔ نیز آپ

وقت تک قائم رہو۔

یہ وہ میرے سلسلہ کے اصول ہیں جو اس سلسلہ کے لئے امتیازی نشان کی طرح ہیں۔ جس انسانی ہمدردی اور ترک ایذا جو بنی نوع اور ترک مخالفت حکام کی یہ سلسلہ بنیاد ڈالتا ہے۔ دوسرے مسلمانوں میں اس کا وجود نہیں۔ ان کے اصول اپنی بے شمار غلطیوں کی وجہ سے اور طرز کے ہیں جنکی تفصیل کی حاجت نہیں اور نہ یہ ان کا موقع ہے۔

اور وہ نام جو اس سلسلہ کے لئے موزون ہے جس کو ہم اپنے لئے اور اپنی جہت کے لئے پسند کرتے ہیں وہ نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے۔ اور جائز ہے کہ اس کو احمدی مذہب کے مسلمان کے نام سے بھی پکاریں۔ یہی نام ہے جس کے لئے ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ اسی نام سے اپنے کاغذات اور مخاطبات میں اس فرقہ کو موسوم کرے یعنی مسلمان فرقہ احمدیہ۔

جہاں تک میرے علم میں ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ آج تک تیس ہزار قریب متفرق مقامات پنجاب اور ہندوستان کے لوگ اس فرقہ احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور جو لوگ ہر ایک قسم کے بدعات اور شرک سے بیزار ہیں۔ اور دل میں یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ برطانیہ سے منافقانہ زندگی کرنا نہیں چاہتے۔ اور صلحکاری اور بردباری کی فطرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بکثرت اس فرقہ میں داخل ہوتے جاتے ہیں اور عموماً عقلمندوں کی اس طرف ایک تیز حرکت ہو رہی ہے۔ اور یہ لوگ محض عوام میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ بعض بڑے بڑے معزز خاندانوں میں سے ہیں۔ اور ہر ایک قسم کے تاجر اور ملازمت پیشہ اور تعلیم یافتہ اور علماء اسلام اور رؤساء اس فرقہ میں داخل ہیں۔ گو

کام کا خلاصہ تھا، اور تقویٰ اصلاح نفس کا خلاصہ ہے۔ مگر آجکل وفات مسیح سے بحث کا میدان بدل کر دوسری طرف منتقل ہو گیا ہے۔

۹۴۲ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میاں بشیر احمد صاحب (یعنی خاکسار مؤلف) جب چھوٹے تھے تو ان کو ایک زمانہ میں شکر کھانے کی بہت عادت ہو گئی تھی ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس پہنچتے اور ماتہ پھیلا کر کہتے: "ابا چنی" حضرت صاحب تصنیف میں بھی معروف ہوتے تو کام چھوڑ کر فوراً اٹھتے، کوٹھڑی میں جاتے۔ شکر نکال کر ان کو دیتے۔ اور پھر تصنیف میں معروف ہو جاتے۔ تھوڑی دیر میں میاں صاحب موصوف پھر دست سوال دراز کرتے ہوئے پہنچ جاتے۔ اور کہتے: "ابا چنی" رچھی شکر کو کہتے تھے کیونکہ بولنا پورا نہ آتا تھا۔ اور مراد یہ تھی کہ چنے رنگ کی شکر لینی ہے، حضرت صاحب پھر اشکران کا سوال پورا کر دیتے۔ غرض اس طرح ان دنوں میں روزانہ کئی کئی دفعہ یہ سیرا بھری ہوتی رہتی تھی۔ مگر حضرت صاحب باوجود تصنیف میں سخت معروف ہونے کے کبھی نہ فرماتے۔ بلکہ ہر دفعہ ان کے کام کے لئے اٹھتے تھے۔ یہ مشہور ہے اس کے قریب کا ذکر ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ میری پیدائش اپریل ۱۸۹۲ء کی ہے۔

۹۴۳ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں عربی زبان کی ستائیس لاکھ لغت ہے جس میں سے قرآن مجید میں صرف ۳۰ ہزار کے قریب استعمال ہوئی ہے۔ عربی میں ہزار نام تو صرف آونٹ کا ہے اور چار سو نام شہد کا۔

۹۴۴ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے۔ مرزا کا کلمہ یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔

۹۴۵ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اخلاق میں کامل تھے۔ یعنی:-

آپ نہایت رؤف رحیم تھے۔ سخی تھے۔ ہمان نواز تھے۔ اشیعہ الناس تھے۔ ابتلاؤں کے وقت جب لوگوں کے دل پیٹے جاتے تھے آپ شہر زکی طرح آگے بڑھتے تھے۔ غلو۔ چشم پوشی۔ قیامی ریافت۔ خاکساری۔ صبر۔ شکر۔ استغناء۔ حیا۔ غضب پھر عفت۔ محنت۔ قناعت۔ وفاداری۔ بے تکلفی

ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں عامد علی تم نے ہم کو کیوں نہ بتایا کہ اس کی شادی کرنے لگے ہیں۔ اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیونکہ اس کو ضعف جگر کا مرض تھا۔ اور موجودہ حالت میں وہ شادی کے قابل نہیں تھا۔ چنانچہ وہ شادی کے چند روز بعد فوت ہو گئے۔

۸۷۷  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے احباب کو جب خط لکھتے تو یا تو "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" لکھ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ کئی دفع مجھے ڈاک میں ڈالنے کو لکھنے دیتے تو میں پتے دیکھتا۔ کہ کس کے نام کے خط ہیں۔ سید عبدالرحمن صاحب مدرسی اور زین الدین ابراہیم صاحب انجینئر بمبئی اور میاں غلام نبی صاحب پیشی راولپنڈی کے پتے مجھے اب تک یاد ہیں۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ تینوں اصحاب اس وقت جو جنوری ۱۸۷۷ء ہے فوت ہو چکے ہیں

وکل من علیہا فان ویسقی وجہ ربک ذوالجلال واکراہ۔

۸۷۸  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر تیمم کرنا ہوتا تو بسا اوقات تکیہ یا سحاف پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کر لیا کرتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ تکیہ یا سحاف میں سے جو گرد نکلتی ہے وہ تیمم کی غرض سے کافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی تکیہ یا سحاف بالکل نیا ہو اور اس میں کوئی گرد نہ ہو۔ تو پھر اس سے تیمم ہائز نہ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں آپ کی لڑکی عصمت ہی مرت ایسی تھی جو قادیان سے باہر پیدا ہوئی اور باہر ہی فوت ہوئی۔ اس کی پیدائش انبالہ چھاؤنی کی تھی اور فوت وہ لدھیانہ میں ہوئی۔ اُسے بیٹہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کو شربت چینی کی عادت پڑ گئی تھی۔ یعنی وہ شربت کو پسند کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے لئے شربت کی بوتل ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ رات کو وہ اٹھانگا تو کہتی ابا شربت چینا۔ آپ فوراً اٹھ کر شربت بنا کر اسے پلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز لدھیانہ میں اس نے اسی طرح رات کو اٹھ کر شربت مانگا۔ حضرت صاحب نے اُسے شربت کی جگہ غللی سے چنبیلی کا تیل پلا دیا جس کی بوتل اتفاقاً شربت کی بوتل کے پاس ہی بڑی تھی۔ بلا کی بھی وہ شربت

سیرۃ المہدی حضرت موم

۲۴۳

درجہ کا فرق ہے یعنی اصل اقسام دو ہی ہیں۔ ایک فطرتی احتلام جو کسی طبعی تقاضے کا نتیجہ ہوتا ہے اور دوسرے شیطانی احتلام جو گندے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

۸۴۳ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیشاب کو کے ہمیشہ پانی سے طہارت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی ڈھیلہ کرتے نہیں دیکھا۔

۸۴۵ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اندھیرے میں نہیں سویا کرتے تھے۔ بلکہ ہمیشہ رات کو اپنے کمرہ میں بالٹین روشن رکھا کرتے تھے اور تصنیف کے وقت تو دس پندرہ موم بتیاں اکٹھی جلا لیا کرتے تھے۔

۸۴۶ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ میرے گھر سے یعنی والدہ عویزہ منظر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب قادیان کے آریہ اور ہم کی نغم کچ رہے تھے جس کے آخر میں دعا یہی ہے۔ دعا یہی ہے وغیرہ آتا ہے۔ تو مولوی عبدالکرم صاحب مرحوم کی بڑی بیوی مولویانی مرحومہ کسی کام کی غرض سے حضرت صاحب کے پاس آئیں حضرت صاحب نے ان سے فرمایا کہ میں ایک نغم کچ رکھ رہا ہوں۔ جس میں یہ یہ قافیہ ہے آپ بھی کوئی قافیہ بتائیں۔ مولویانی مرحومہ نے کہا ہمیں کسی نغمے پڑھایا ہی نہیں۔ تو میں بتاؤں کیا حضرت صاحب نے نہیں کہ فرمایا کہ آپ نے بتا دیا ہے اور پھر بھی آپ شکایت کرتی ہیں کہ کسی نغمے پڑھایا نہیں مطلب حضرت صاحب کا یہ نغمہ کہ پڑھایا نہیں کے الفاظ میں جو پڑھا کا لفظ ہے اسی میں قافیہ آگیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت ایک شعر میں اس قافیہ کو استعمال کر لیا۔

۸۴۷ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میرے گھر سے یعنی والدہ عویزہ منظر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عموماً گرم پانی سے طہارت فرمایا کرتے تھے اور ٹھنڈے پانی کو استعمال نہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے کسی خادم سے فرمایا کہ آپ کے لئے پاخانہ میں لوٹا رکھ دے۔ اس نے فطلی سے تیز گرم پانی کا لوٹا رکھ دیا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فارغ ہو کر باہر تشریف لائے۔ تو دریافت فرمایا کہ لوٹا کس نے رکھا تھا۔ جب بتایا گیا کہ فلاں خادم نے رکھا تھا۔ تو آپ نے اُسے بلوایا۔ اور اُسے اپنا اتھ آگے کرنے کو کہا۔ اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنے اس لوٹے کا بچا ہوا پانی بہا دیا۔ تاکہ اُسے احساس ہو کہ یہ پانی اتنا گرم ہے کہ طہارت میں استعمال

یہ حوالہ صفحہ 65 پر درج ہے

سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 243، 244 از مرزا بشیر احمد ایم اے

۲۲۲

نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا آپ نے اُسکے نہیں کہا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میرے گھر سے یعنی والدہ عزیزہ منظر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم گھر کی چند لڑکیاں تربوز کھا رہی تھیں۔ اس کا ایک چھلکا مائی تابی کو جا لگا۔ جس پر مائی تابی بہت ناراض ہوئی۔ اور ناراضگی میں بددعائیں دینی شروع کر دیں۔ اور پھر خود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس جا کر شکایت بھی کر دی۔ اس پر حضرت صاحب نے ہمیں بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ ہم نے سارا واقعہ سنا دیا۔ جس پر آپ مائی تابی پر ناراض ہونے کہ تم نے میری اولاد کے متعلق بددعا کی ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مائی تابی قادیان کے قریب کی ایک بوڑھی عورت تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی اور اچھا اخلاص رکھتی تھی۔ مگر ناراضگی میں عادتاً بددعائیں دینے لگتی تھی۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ میرے گھر سے خان بہادر مولوی غلام حسن صاحب پشاور کی لڑکی ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود کے پرانے صحابی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ مولوی صاحب بھوت کو خلافتِ ثانیہ کے موقع پر بھوکے لگی۔ اور وہ غیر مبایعین کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ لیکن احمد نندہ کہ میرے گھر سے بدستور جماعت میں شامل ہیں اور وابستگانِ خلافت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مائی امیر بی بی عرف مائی کا کو ہمیشہ میاں امام الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیشتر طور پر عورتوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ نماز باقاعدہ پڑھیں۔ قرآن شریف کا ترجمہ سیکھیں اور خاندانوں کے حقوق کو ادا کیا جب کسی کوئی عورت بیعت کرتی تو آپ کو مایہ پوچھا کرتے تھے کہ تم قرآن شریف پڑھی ہوئی ہو یا نہیں۔ اگر وہ نہ پڑھی ہوئی ہوتی تو نصیحت فرماتے تھے کہ قرآن شریف پڑھنا سیکھو۔ اور اگر صرف باظرہ پڑھی ہوئی۔ تو فرماتے کہ ترجمہ بھی سیکھو۔ تاکہ قرآن شریف کے احکام سے اطلاع ہو۔ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ملے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مائی کا کونے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے سامنے میاں عبدالعزیز صاحب پٹواری سیکھوانی کی بیوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لئے کچھ تازہ جلیبیاں

دوستوں کا خیال ہو گیا۔ کہ احمدی سلسلہ میں جمع نماز کا مسئلہ مستقل طور پر جاری رہے گا۔ ایسی جمع کے وقت فرمایا کرتے تھے۔ کہ یہ وہ حدیث پوری ہو رہی ہے جس میں پہلے سے پیشگوئی ہے۔ کہ مسیح موعود کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی۔ (تجمع الصلوٰۃ) میرا راقم الحروف کا خیال ہے۔ کہ اس پیشگوئی میں یہ اشارہ ہے۔ کہ مسیح موعود کی جہادی ضروریات ایسی بڑھی ہوئی ہوں گی۔ کہ نمازیں بھی جمع کرنی پڑیں گی۔ جیسا کہ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ غزوہ خندق میں چار نمازوں کو جمع کر کے پڑھا۔ کیونکہ خندق کے کھودنے کی مصروفیت اور جلدی کے سبب نمازوں کے پڑھنے کے تمام اوقات گزر گئے۔ اور نمازیں اوقات مقررہ پر پڑھی نہ جاسکیں۔

باہر مردوں میں نمازیں باجماعت ہونے کے علاوہ آخری سالوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک بہت بڑے عرصہ تک اندر عورتوں میں خود پیش امام ہو کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک لمبے عرصہ تک جمع کرتے رہے۔

اپریل ۱۸۹۹ء میں نماز جمعہ کے بعد واپس گھر کو آتے ہوئے مسجد مبارک کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک شخص کو والدین کی عزت کرنے کے متعلق نصیحت کر رہے تھے۔ اس میں آپ نے فرمایا۔ کہ میرا تو یہ خیال ہے۔ کہ سوائے دینی معاملات کی مخالفت کے باقی معاملات میں خواہ کتنا بھی نقصان ہوتا ہو انسان برداشت کرے۔ اور والدین کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ یہاں تک کہ والدین کہیں کہ تم کنو میں میں گر جاؤ۔ تو بھی ان کی بات مان لیتی چاہیے۔

حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم کی پیدائش سے چند روز قبل میں اتفاقاً قادیان آیا ہوا تھا۔ ایک شب نینے خواب میں دیکھا کہ حضرت میرزا ناصر نواب صاحب مرحوم ایک چھوٹے سے نوزائیدہ بچہ کو اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے ہیں۔ حضرت صاحب کی خدمت میں میں نے یہ خواب عرض کیا۔ تو حضور نے فرمایا۔ کہ اس میں

لے اس سے مراد اشد تاکید فرمانبرداری ہے۔ ہدیہ طلب نہیں کہ انسان خودکشی کر لے جو شرعاً حرام ہے، صادق



کہتا ہے۔ کہ عدالت کے ان سوالوں کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جوابات دیئے ہیں۔ وہ سب کے سب اہم مسائل پر مشتمل ہیں۔ اور آپ کے جوابات سے نبوت اور انصافیت پر کج نامری وغیرہ کے مسائل بھی خوب واضح ہو جاتے ہیں۔

۱۳۴ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔** ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں نے بار بار دیکھا کہ گھر میں نماز پڑھتے تو حضرت ام المؤمنین کو اپنے دائیں جانب بلور مقعدی کے کھڑا کہہ لیتے۔ حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ یہ ہے۔ کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقعدی ہو تب بھی اُسے مرد کے ساتھ نہیں۔ بلکہ الگ کچھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان اکیلا مرد مقعدی ہو۔ تو اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت ام المؤمنین سے پوچھا تو انہوں نے یہی اس بات کی تصدیق کی۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا۔ کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہو کر چکر آجایا کرتا ہے۔ اس لئے تم میرے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔

۴۹۷ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔** ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ ایک دفعہ صلوات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رمضان کا ریزہ دکھا ہوا تھا۔ کہ دل گھٹنے کا دورہ ہوا۔ اور اتنے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس وقت خوب آفتاب کا وقت بہت قریب تھا۔ مگر آپ نے فوراً نماز توڑ دیا۔ آپ ہمیشہ شریعت میں سہل راستہ کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔

خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ حدیث میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے آنحضرت صلم کے متعلق بھی یہی ذکر آتا ہے کہ آپ ہمیشہ دو جائز رستوں میں سے سہل رستہ کو پسند فرماتے تھے۔

۴۹۸ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔** ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ وہ کتابیں جو اکثر حضرت صاحب کی زیر نظر رہتی تھیں۔ نیز تصنیف کے تمام کاغذات بستوں میں بندھے رہتے تھے ایک ایک وقت میں اس قسم کے تین تین بستے جمع ہو جاتے تھے۔ عموماً دو بستے تو ضرور رہتے تھے بیستے سارے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ صرف ایک چورس کپڑا ہوتا تھا۔ جس میں کاغذ اور کتابیں رکھ کر دونوں طرف سے گانٹھیں دے لیا کرتے تھے۔ تصنیف کے وقت آپ کا سارا دفتر آپ کا ہلنگ ہوتا تھا اسی واسطے ہمیشہ بڑے ہلنگ پر سویا کرتے تھے۔

۱۳۸

کے لئے ایک حکایت بھی بیان کیا کرتے تھے۔ کہ ایک دفعہ مہاراجہ شیر سنگھ نے اپنے ایک بادشاہ کو کھانے میں نمک زیادہ ڈالنے کی نزا میں حکم دیا۔ کہ اس کی سب جائیداد ضبط کر کے اسے قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ اس پر کسی اہلکار نے حاضر ہو کر عرض کیا۔ کہ مہاراج اتنی سی بات پر عیناً بہت سخت ہے۔ راجہ کہنے لگا۔ کہ تم نہیں جانتے۔ یہ صرف نمک کی نزا نہیں۔ اس کم سخت نے میرا توبہ کا مضم کیا ہے۔

پسّم اللّٰہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مسجد مبارک میں مغرب کی نماز پیر سراج الحق صاحب نے پڑھائی۔ حضور علیہ السلام ہی اس نماز میں شامل تھے۔ تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک نئی نظم پڑھی جس کا یہ مصرع ہے۔ اے خدا اے چارہ آزار ما۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ فارسی نظم نہایت اعلیٰ درجہ کی مساجات ہے جو روحانیت سے پڑھے مگر معروف مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں صرف سنون دعائیں یا بھیر پڑھنی جائیں۔ باقی دل میں پڑھنی چاہیں پس اگر یہ روایت درست ہے تو حضرت صاحب نے اس وقت خاص کیفیت کے رنگ میں اس پر اعتراض نہیں فرمایا ہو گا۔ اور چونکہ ویسے ہی یہ واقعہ صرف ایک منفرود واقعہ ہے اس لئے میری رائے میں حضرت صاحب کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو گا۔ کہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت صاحب نے اس وقت سکوت اختیار کر کے بعد میں پیر صاحب کو علیحدہ طور پر سمجھا دیا ہو۔ کہ یہ مناسب نہیں۔ کیونکہ پیر صاحب کی طرف سے اس کی تکرار ثابت نہیں۔ واللہ اعلم۔

پسّم اللّٰہ الرحمن الرحیم۔ مولوی عبداللہ صاحب مولوی فاضل سابق مدرس ڈیرہ بابائنگ نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مندرجہ ذیل خط شیخ فتح محمد صاحب کے پاس دیکھا تھا۔ یہ خط حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول کے نام تھا۔ مگر خط کا مضمون شیخ فتح محمد صاحب کے متعلق تھا۔ اور لغافہ پر حضرت خلیفہ اول کا جواب والا پتہ درج تھا۔

مکرمی انوریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

فتح محمد حصولی بشارت کے لئے دو رکعت نماز وقت عشاء پڑھ کر اکتالیس دفعہ سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کے اقل اور آخر گیارہ گیارہ دفعہ درود شریف پڑھے اور اپنے مقصد کے لئے دعا کر کے دو قبلہ باد فو سور ہے۔ جس دن سے شروع کریں۔ اسی دن تک اس کو ختم کریں۔ انشاء اللہ العزیز وہ

یہ حوالہ صفحہ 67 پر درج ہے

سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 138 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی

دیہاتیوں کو یہ حقے کم میسر آتے ہیں۔ اس لئے وہ عموماً کمزور رہتے ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو اعراب کا لفظ آتا ہے۔ اس کے معنی دیہاتی کے نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے مجلس نبوی سے دور رہنے والے یا دیہاتین لوگ مراد ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کو سخت کھانسی ہوئی تھی کہ دم نہ آتا تھا۔ البتہ منہ میں پانی رکھ کر قدم سے آرام معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے اس حالت میں پانی منہ میں رکھے رکھے نماز پڑھی تاکہ آرام سے پڑھ سکیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب سواک بہت پسند فرماتے تھے۔ تازہ کیکر کی سواک کیا کرتے تھے۔ گواترانا نہیں۔ وضو کے وقت صرف انگلی سے ہی سواک کر لیا کرتے تھے۔ سواک کئی دفعہ کہہ کر مجھ سے بھی حکائی ہے۔ اور دیگر غلاموں سے بھی منگوا لیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات نماز اور وضو کے وقت کے علاوہ بھی استعمال کرتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میاں خیر الدین صاحب سکھوانی نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب مہر بند میر تقی میر بیان کیا۔ کہ ایک دفعہ ماہ رمضان کی ۷ تاریخ تھی بنی عبدالعزیز صاحب پٹواری بھی سکھواں سے قادیان آئے ہوئے تھے۔ حضرت سید موحود علیہ السلام صبح نماز فجر کے لئے تشریف لائے اور فرمایا کہ آج شب گھر میں دروزہ کی تکلیف تھی۔ ہمشیرہ مبارکہ بیگم امی شب میں بیدار ہوئی تھیں خاکسار ٹولف دعا کرتے کرتے لیکرام سلنے آ گیا۔ اس کے معاملہ میں بھی دعا کی گئی۔ اور فرمایا کہ جو کام خدا کے منشاء میں جلد ہو جانے والا ہو۔ اس کے متعلق دعا میں یاد کرایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے چوتھے روز لیکرام ہلا گیا۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ ۱۱۹۵ مطابق ۱۱۳۱ھ کا واقعہ ہے۔ مبارکہ بیگم ۲۴ رمضان ۱۱۳۱ھ کو پیدا ہوئی تھیں۔ جو غالباً ۲۲ مارچ ۱۱۹۵ء کی تاریخ تھی۔ اور لیکرام عید کے دوسرے دن ۶ مارچ بروز ہفتہ زخمی ہو کر ۶ اور ۷ کی درمیانی شب کو بعد نصف شب اس دنیا سے رحلت ہوا تھا۔ مبارکہ بیگم کی ولادت کی دعا کے وقت حضرت صاحب کے سلنے عالم توجہ میں لیکرام کا آجانا اور حضرت صاحب کا اس کے معاملہ میں بھی دعا کرنا اور پھر اس کا چلہ روز کے اندماند رمانا جانا ایک عجیب تعریف الہی ہے جس کے تصدیق سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔

قرآن مجید کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چند روز ہی جاری رہا۔ پھر بند ہو گیا۔ عام درس نہ تھا۔ صرف سادہ ترجمہ پڑھاتے تھے۔ یہ ابتدائی زمانہ سیحیت کا واقعہ ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ اسی طرحی پر ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میاں عبداللہ صاحب سندھی کو بھی کچھ حصہ قرآن شریف کا پڑھایا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک ایسی وجہ سے مولوی عبدالکریم صاحب معجم نماز پڑھا سکے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اولؑ بھی موجود نہ تھے۔ تو حضرت صاحب نے حکیم فضل الدین صاحب مرحوم کو نماز پڑھانے کے لئے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور تو جانتے ہیں کہ مجھے بوا سیر کا مرض ہے اور ہر وقت ریح خارج ہوتی رہتی ہے۔ میں نماز کس طرح سے پڑھاؤں؟ حضور نے فرمایا۔ حکیم صاحب آپ کی اپنی نماز باوجود اس تکلیف کے ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا۔ ہاں حضور۔ فرمایا۔ کہ پھر ہماری بھی ہو جائے گی۔ آپ پڑھا لیجئے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اخراج ریح جو کثرت کے ساتھ جاری رہتا ہوتا تھا۔ دمنوں میں نہیں سمجھا جاتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سل دق کے مریض کے لئے ایک گولی بنائی تھی۔ اس میں کوزین اور کافور کے علاوہ انیون۔ بھنگ اور دستورہ وغیرہ زہریلی ادویہ بھی داخل کی تھیں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ دوا کے طور پر علاج کے لئے اور جان بچانے کے لئے ممنوع چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ شراب کے لئے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی فتویٰ تھا۔ کہ ڈاکٹر یا طبیب اگر دوائی کے طور پر دے تو جائز ہے۔ مگر باوجود اس کے آپ نے اپنے پڑوادا مرزا گل محمد صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں ان کی مرض الموت میں کسی طبیب نے شراب بتائی۔ مگر انہوں نے انکار کیا۔ اور حضرت صاحب نے اس موقع پر ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے شراب کو شراب پر ترجیح دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتویٰ اود ہے اور فتویٰ اود۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب ایک دفعہ سالانہ جلسہ پر تقریر کر کے جب واپس گھر تشریف لائے۔ تو حضرت میاں صاحب سے (خلیفۃ المسیح

## بچوں کو مارنا نہیں چاہیے

مدرسہ تعلیم الاسلام کے اساتذہ کو ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم بھیجا کہ آئندہ جو استاد کسی لڑکے کو مارے گا۔ اُسے فوراً موقوف کر دیا جائے گا۔ حضور اس امر کے بہت مخالف تھے کہ استاد بچوں کو لڑیں اور جھڑکا کریں۔

## چاند کیواسے عینک

پہلی شب کے چاند دیکھنے کے واسطے عموماً حضرت صاحب میری عینک لیا کرتے تھے۔ اگر میں اس وقت مسجد میں موجود نہ ہوتا۔ تو میرے گھر آدمی بھیج کر منگوا لیا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب عینک سے دیکھ لیتے تھے کہ چاند کہاں ہے۔ تو پھر بغیر عینک کے بھی آپ کو چاند نظر آتا تھا۔

## مبارک احمد مرحوم کی خاطر نماز جمعہ میں نہیں گئے

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم کی مرض الموت کے ایام میں ایک جمعہ کے دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب معمول کپڑے بدل کر عشاء ہاتھ میں لیکر جامع مسجد کو جانے کے واسطے طیار ہوئے۔ جب صاحبزادہ کی چار پائی کے پاس سے گزرتے ہوئے ذرا کھڑے ہو گئے۔ تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دامن پکڑ لیا۔ اور اپنی چار پائی پر بٹھا دیا اور اٹھنے نہ دیا۔ صاحبزادہ صاحب کی خاطر حضور بیٹھے رہے۔ اور جب دیکھا کہ بچے اٹھنے نہیں دیتا، اور نماز جمعہ کی وقت میں دیر ہوتی ہے۔ تو حضور نے کہا بھیجا کہ جمعہ پڑھ لیں۔ اور حضور کا انتظار نہ کریں۔

## بال بڑھانے کی دوائی

آخری عمر میں حضور کے سر کے بال بہت پتلے اور ہلکے ہو گئے تھے۔ چونکہ یہ عاجز

۱۶۱

یہاں ایک پنکھا لگالینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ پنکھا تو لگ سکتا ہے۔ اور پنکھا ہلانے والے کا بھی انتظام کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب ٹھنڈی ہوا چلے گی تو بے اختیار نیند آنے لگیگی اور ہم سو جائیں گے تو یہ مضمون کیسے ختم ہوگا؟  
(اس وقت حضرت صاحب ایک زمانے کا مضمون لکھ رہے تھے۔)

## گرمی میں بھی کام جاری رکھتے

ایک دفعہ جب سخت گرمی پڑی، تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک مضمون لکھا جس میں گرمی کا اظہار کرتے ہوئے، اور گرمی کے سبب کام نہ کر سکنے کی معذرت کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی لکھ دیئے۔ کہ ”گرمی ایسی سخت ہے۔ کہ اس کے سبب سے خدا کی مشین بھی بند ہوگئی ہے۔ اس میں مولوی صاحب مرحوم نے اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی شدتِ گرمی کے سبب کام چھوڑ دیا ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مضمون سنا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ یہ تو غلط ہے ہم نے تو کام نہیں چھوڑا۔“

## پہاڑ پر جانا

ایک دفعہ کسی دوست نے عرض کی۔ کہ گرمی بہت ہے۔ حضور کسی پہاڑ پر تشریف لے چلیں۔ فرمایا۔ ہمارا پہاڑ تو قادیان ہی ہے۔ یہاں چند روز دھوپ تیز ہوتی ہے۔ تو پھر بازو بھی آجاتی ہے۔“

## سب کا جنازہ پڑھ دیا

قاضی سید امیر حسین صاحب کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہونے پر جنازے کیساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تشریف لگئے۔ اور خود ہی جنازہ پڑھایا۔ عموماً جنازے کی نمازیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر موجود ہوتے، تو خود ہی امامت کرتے۔ اس وقت

۱۶۲

نماز جنازہ میں شامل ہونے والے دس پندرہ آدمی ہی تھے۔ بعد سلام کسی نے عرض کی کہ حضورؐ میرے لئے بھی دعا کریں۔ فرمایا۔ میں نے تو سب کا ہی جنازہ پڑھ دیا ہے۔ مراد یہ تھی کہ جتنے لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوئے تھے، ان سب کے لئے نماز جنازہ کے اندر حضرت صاحبؑ نے دعائیں کر دی تھیں۔

## بُنیادی اینٹ

بعض نئی عمارتوں کے بننے کے وقت جب حضرت صاحبؑ سے درخواست کی جاتی کہ حضورؐ تبرکاً بُنیادی اینٹ رکھ دیں۔ تو حضرت صاحبؑ فرمایا کرتے کہ ایک اینٹ لے آؤ۔ میں اُس پر دُعا کر دوں گا۔ چنانچہ ایک اینٹ لائی جاتی۔ اور حضورؐ اس اینٹ کو اپنی گودی میں رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دُعا کرتے۔ اور پھر اُس پر دم کر کے۔ دسے دیتے کہ جاؤ لگاؤ۔

## غم دور کرنے کا ذریعہ

عاجز راقم کا اور اکثر احباب کا یہ تجربہ تھا۔ کہ جب کبھی طبیعت میں کسی وجہ سے کوئی غم پیدا ہو۔ تو ہم حضرت مسیح موعودؑ کی مجلس میں جا بیٹھتے۔ تو غم دور ہو جاتا۔ اور طبیعت میں بشاشت اور فرحت پیدا ہو جاتی۔

## پیر کتے مار

ایک دفعہ قادیان میں آوارہ کتے بہت ہو گئے۔ اور ان کی وجہ سے شور و غل رہتا تھا۔ پیر سراج الحق صاحبؑ نے بہت سے کتوں کو زہر دیکر مار ڈالا۔ اُس پر بعض لوگوں نے پیر صاحب کو چڑانے کے واسطے ان کا نام پیر کتے مار رکھ دیا۔ پیر صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں شاکھی ہوئے۔ کہ لوگ مجھے کتے مار کہتے ہیں۔ حضرت صاحبؑ نے تبسم کے ساتھ فرمایا۔ کہ اس میں کیا حرج ہے۔ دیکھئے حدیث شریف میں میرا نام ”سور مار“ لکھا ہے۔ لیونکہ مسیح کی تعریف میں آیا ہے کہ یقتل الخنزیر۔

سیرۃ المہدی جلد سوم

۱۱۱

کہتا ہے۔ کہ عدالت کے ان سوالوں کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جوابات دیئے ہیں۔ وہ سب کے سب اہم مسائل پر مشتمل ہیں۔ اور آپ کے جوابات سے نبوت اور انصافیت پر سچ نامری وغیرہ کے مسائل بھی خوب واضح ہو جاتے ہیں۔

۶۹۶ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں نے بار بار دیکھا کہ گھر میں نماز پڑھتے تو حضرت ام المؤمنین کو اپنے دائیں جانب بطور معتدی کے کھرا کرتے۔ حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ یہ ہے۔ کہ خواہ عورت اکیلی ہی معتدی ہو تب بھی اُسے روکے ساتھ نہیں۔ بلکہ الگ کھچے کھرا ہونا چاہیے۔ ان اکیلا مرد معتدی ہو۔ تو اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھرا ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت ام المؤمنین سے پوچھا تو انہوں نے یہی اس بات کی تصدیق کی۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا۔ کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہو کر جگر آجایا کرتا ہے۔ اس لئے تم میرے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔

۶۹۷ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ ایک دفعہ صبا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ کہ دل گھٹنے کا دورہ ہوا۔ اور اتنے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس وقت فریب آنا بہت قریب تھا۔ مگر آپ نے فوراً راضی توڑ دیا۔ آپ ہمیشہ شریعت میں سہل راستہ کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔

خاکسار عزم کرتا ہے۔ کہ حدیث میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے آنحضرت صلعم کے متعلق یہی ذکر آتا ہے کہ آپ ہمیشہ دو جائز رستوں میں سے سہل راستہ کو پسند فرماتے تھے۔

۶۹۸ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ وہ کتابیں جو اکثر حضرت صاحب کی زیر نظر رہتی تھیں۔ نیز تصنیف کے تمام کا فذات بستوں میں بندے رہتے تھے ایک ایک وقت میں اس قسم کے تین تین بستے جمع ہو جاتے تھے۔ عموماً دو لیٹتے تو ضرور رہتے تھے بستے سلے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ صرف ایک چورس کپڑا ہوتا تھا جس میں کا فذاد کتابیں رکھ کر دونوں طرف سے گانٹھیں دے لیا کرتے تھے۔ تصنیف کے وقت آپ کا سارا دھڑ آپ کا پلنگ ہوتا تھا اسی واسطے ہمیشہ بڑے پلنگ پر سویا کرتے تھے۔



(۳۷۷) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ؛ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی محمد علی صاحب آیم۔ آئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکان کے ایک حصّہ میں بالاخانہ میں راگرتے تھے اور جب تک ان کی شادی اور خانداری کا انتظام نہیں ہوا حضرت صاحب خود ان کے لئے صبح کے وقت گلاس میں دودھ ڈال کر اور پھر اس میں صبری حل کر کے خاص اہتمام سے بھجوا کرتے تھے خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کو جہانوں کی بہت خاطر منظور ہوتی تھی اور پھر جو لوگ دینی مشاغل میں مصروف ہوں ان کو تو آپ بڑی قدر اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے؟

(۳۷۸) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ؛ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ لاہور سے کچھ اجاب رمضان میں قادیان آئے۔ حضرت صاحب کو اطلاع ہوئی تو آپ مدّ کچھ ہاشتہ کے ان سے ملنے کے لئے مسجد میں تشریف لائے۔ ان دوستوں نے عرض کیا کہ ہم سب روزے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: سفر میں روزہ ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرنا چاہئے۔ چنانچہ ان کو ہاشتہ کر کے ان کے روزے تراوا دیئے۔

(۳۷۹) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو صفائی کا بہت خیال ہوتا تھا۔ خصوصاً طاعون کے ایام میں اتنا خیال رہتا تھا کہ فیثائل روٹے میں مل کر کے خود اپنے ہاتھ سے گھر کے پاخانوں اور نالیوں میں جا کر ڈالتو تھے خاکسار عرض کرتا ہے کہ بعض اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام گھر میں ایندھن کا بڑا ڈھیر لگا کر آگ بھی جلا یا کرتے تھے تاکہ ضرور سان جراثیم مر جاویں اور آپ نے ایک بہت بڑی آہنی انگلیشی بھی منگوائی ہوئی تھی۔ جسے کوئلے ڈال کر ادگندھک وغیرہ رکھ کر وہیں کے اندھ جلا یا جاتا تھا اور اس وقت دروازے بند کر دیئے جاتے تھے اس کی اتنی گرمی ہوتی تھی کہ جب انگلیشی کے ٹھنڈا ہونے کے ایک عرصہ بعد بھی کمرہ کھولا جاتا تھا تو پھر بھی وہ اندر سے بھیٹی کی طرح پتتا تھا۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ انبیاء کی عجیب شان ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف تو اسباب کی اتنی رعایت کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ ان کی نظریں اپنی اسباب کے ہاتھ میں سداقضا و قدر کا معاملہ ہے اور اگر ان کی رعایت نہ رکھی گئی تو پھر کام نہیں بن سکتا اور دوسری طرف ان کو خدا کی ذات پر اس درجہ قائل ہونے کے اسباب کو وہ بیک مردہ کیڑے کی طرح سمجھتے ہیں اور ایک سطلی نظر رکھنے والا انسان

میرا ساتھ دیا ہے اسی طرح جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی۔

(۸۰) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے نے کہ میرا دادا جسے لوگ امام طور پر نلیفہ کہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سخت لفظ تھا اور آپ کے حق میں بہت بدزبانی کیا کرتا تھا۔ اور والد صاحب کو بہت تنگ کیا کرتا تھا والد صاحب نے اس سے تنگ آکر حضرت مسیح موعود کو دعا کیلئے خط لکھا حضرت مسیح موعود کا جواب گیا کہ ہم نے دعا کی ہے والد صاحب نے یہ خط تمام محلہ والوں کو دکھا دیا اور کہا کہ حضرت صاحب نے دعا کی ہے اب دیکھ لینا خلیفہ گالیاں نہیں دینگے۔ دوسرے میرے دن جمعہ تھا ہمارا دادا صاحب دستور غیر احمدیوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے گیا مگر وہاں سے وہاں آکر غیر معمولی طور پر حضرت مسیح موعود کے متعلق خاموش رہا۔ حالانکہ اسکی عادت تھی کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد خصوصاً بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم آج مرزا صاحب کے متعلق خاموش کیوں ہو؟ اسنے کہا کسی کے متعلق بدزبانی کرنے سے کیا حاصل ہے اور مولوی نے بھی آج جمعہ میں وعظ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جگہ کیسا ہی برا ہو میں بدزبانی نہیں کرنی پائیے۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ بات ہے؛ ہمیشہ تو تم گالیاں دیتے تھے اور آج تمہارا یہ خیال ہو گیا ہے۔ بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ باپو میرے والد کو لوگ باپو کہا کرتے تھے، کل ہی ایک خط دکھا رہا تھا کہ قادیان سے آیا ہے اور کہتا تھا کہ اب خلیفہ گالی نہیں دیگا۔ مولوی رحیم بخش صاحب کہتے تھے کہ اسکے بعد باوجود کئی دفعہ مخالفوں کے بڑگانے کے میرے دادا نے کبھی حضرت مسیح موعود کے متعلق بدزبانی نہیں کی اور کبھی میرے والد صاحب کو احمیت کی وجہ سے تنگ نہیں کیا اس روایت کے متعلق یہ بات قابل توجہ ہے۔ کہ اسکے راوی صاحب نے اب حضرت خلیفۃ المسیح کے خطا کے ماتحت اپنا نام عبدالرحیم رکھ لیا ہے اور عموتاً مولوی عبدالرحیم صاحب درو کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں)۔

(۸۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دوسرے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سارا رمضان کے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ دوسرا رمضان آیا تو آپ نے روزے رکھنے شروع

کئے مگر آٹھ نوروز سے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا اسلئے باقی چھوڑ دئے اور فدیہ ادا کر دیا اسکے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آپ نے دس گیارہ روز سے رکھے تھے کہ پھر دورہ کیوجہ سے روزے ترک کرنے پڑے اور اپنے فدیہ ادا کر دیا اسکے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا تیرہواں روز تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور اپنے روزہ توڑ دیا اور باقی روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا اسکے بعد تین رمضان آئے اپنے سب روزے رکھے مگر پھر وفات سے دو تین سال قبل کمزوری کیوجہ سے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا فرماتے رہے تاکہ رکنے دریافت کیا کہ جب اپنے ابتداء دوروں کے زمانہ میں روزے چھوڑے تو کیا پھر بعد میں انکو قضا کیا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں صرف فدیہ ادا کر دیا تھا ناکسا عرض کرتا ہے کہ جب شروع شروع میں حضرت مسیح موعود کو دوران سراور بردا طراف کے دورے پڑنے شروع ہوئے تو اس زمانہ میں آپ بہت کمزور ہو گئے تھے اور صحت خراب رہتی تھی اسلئے جب آپ روزے چھوڑتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر دوسرے رمضان تک انکے پورا کرنے کی طاقت نہ پاتے تھے۔ مگر جب اگلے رمضان آتا تو پھر شروع بہاد میں روزے رکھنے شروع فرمادیتے تھے لیکن پھر دورہ پڑتا تھا تو ترک کر دیتے تھے اور بقیہ کا فدیہ ادا کر دیتے تھے۔ والہ اعلم۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا چھوڑنے سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود اوائل میں خوار سے استعمال فرمایا کرتے تھے پھر بیٹے کہہ کر وہ ترک کر دیتے اسکا بعد آپ معمولی پاجامے استعمال کرنے لگ گئے تاکہ عرض کرتا ہے کہ خوار بہت کھلے پانچے کو پانچامی کو کہتے ہیں۔ (پہلے اسکا بندوستان میں بہت رواج تھا اب بہت کم ہو گیا ہے)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکہ عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود عام طور پر سفید ملل کی پگڑی استعمال فرماتے تھے جو عموماً دس گز لمبی ہوتی تھی پگڑی کے نیچے کلاہ کی جگہ نرم قسم کی رومی ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ اور گھوڑوں میں بعض اوقات پگڑی اتار کر سر پر صرف ٹوپی ہی رہنے دیتے تھے بدن پر گرمیوں میں عموماً ملل کا کرتہ استعمال فرماتے تھے۔ اسکے اوپر گرم صدری اور گرم کوٹ پہنتے تھے پاجامہ بھی آپ کا گرم ہوتا تھا۔ نیز آپ

(۸۶)

(۸۷)

کڑا دھکا تھا۔ مگر جماعت حضرت صاحب کی تربیت کے نیچے ایک حد تک مستحکم اور سنت اللہ سے واقف ہو چکی تھی اس لیے برواشت کر گئی۔ لیکن مخالفوں میں سخت مخالفت واستہزاء کی لہر اٹھی۔ اس کے بعد زلزلہ کے خفیف خفیف دھکے آتے رہے۔ مگر وہ قابل ذکر نہیں لیکن سب کے آخر میں جماعت پر پانچواں زلزلہ آیا یہ حضرت مسیح موعودؑ کی وفات کا زلزلہ تھا۔ اس دھکے نے بھی اس وقت سلسلہ کی عمارت کو نیا دھک پٹا دیا تھا۔ اور یہ وہ زلزلہ عظیم تھا۔ جسے زلزلہ الساعۃ کہنا چاہیے۔ اور اسکو زیادہ خطرناک اسباب نے کروایا تھا کہ اس سے پہلے زلزلے خواہ کیسے بھی سخت تھے مگر حضرت مسیح موعودؑ کا متناطیسی وجود لوگوں کے اندر موجود تھا۔ اور آپ کا ہاتھ ہر گرتے ہوئے کو سنبھالنے کیلئے فوراً آگے بڑھتا تھا۔ مگر اب وہ بات نہ تھی۔ یہ وہ پانچ زلزلے تھے۔ جو حضرت مسیح موعودؑ کے متعلق آپ کی جماعت پر آئے۔ ان کے بعد حضرت خلیفہ اول کی وفات پر بھی سخت زلزلہ آیا مگر وہ اور نوعیت کا تھا اور نیز وہ خاص جماعت احمدیہ کے متعلق تھا۔ یعنی یہ دھکا حضرت مسیح موعودؑ کے متعلق نہیں تھا۔ یعنی ایسا واقعہ نہیں تھا۔ جو آپ کے صدق دعویٰ کے متعلق کمزوریوں میں عام طور پر کوئی اشتباہ پیدا کر سکے۔ اسکے بعد اور بھی آئندہ سنت اللہ کے موافق اور حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئیوں کے مطابق مصائب کی آندھیاں آئیں گی مگر یہ پانچ زلزلے اپنی نوعیت میں اور ہی رنگ رکھتے ہیں۔ اور یہ عبارت لکھتے لکھتے خاکسار کو خیال آیا۔ کہ حضرت مسیح موعودؑ کو جو پانچ زلزلوں کی خبر دی گئی تھی اور آخری زلزلہ کو زلزلہ الساعۃ کہا گیا تھا۔ وہ گود نیا کے واسطے الگ بھی مقدر ہوں۔ مگر اس میں شک نہیں۔ کہ ان پانچ زلزلوں پر بھی آپ کی اس پیشگوئی کے الفاظ صادق آتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ اوائل زمانہ کی بات ہے۔ کہ ایک دفعہ رمضان کے مہینہ میں کوئی بہانہ یہاں حضرت صاحب کے پاس آیا۔ اسے اس وقت روزہ تھا۔ اور دن کا زیادہ حصہ گزر چکا تھا۔

بلکہ شاید عصر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت صاحب نے اسے فرمایا آپ روزہ کھولیں  
اسنے عرض کیا کہ اب تھوڑا سا دن رہ گیا ہے اب کیا کھولنا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ  
سینہ زودہری سے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سینہ زودہری ہی نہیں  
بلکہ فرما برداری سے راضی ہوتا ہے۔ جب اسنے فرادیا ہے۔ کہ مسافر روزہ نہ رکھے تو  
نہیں رکھنا چاہیے۔ اپسر اسنے روزہ کھول دیا۔ خاکسار عرض کرتا ہر کہ مولوی شیری علی  
صاحب بیان کرتے تھے۔ کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے زمانہ میں حکیم فضل الدین حسنا  
بھیروی اعتکاف بیٹھے۔ مگر اعتکاف کے دنوں میں ہی ان کو کسی مقدمہ میں پیشی  
کے واسطے باہر جانا پڑ گیا۔ چنانچہ وہ اعتکاف توڑ کر عصر کے قریب یہاں سے  
جانے لگے۔ تو حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کو مقدمہ میں جانا  
تھا۔ تو اعتکاف بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی۔

(۱۱۸) بسم اسد الرحمن الرحیم۔ بیان کیا ہماری تائی صاحبہ نے کہ میرے تایا یعنی  
خاکسار کے دادا صاحب (کبھی کبھی مرزا غلام احمد یعنی حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ  
والسلام کو سیتی یا سیرت کہا کرتے تھے۔ تائی صاحبہ نے کہا کہ میرے تایا کو کیا علم  
تھا۔ کہ کسی دن مانگی خوش قسمتی کیا کیا پھل لائے گی۔ خاکسار عرض کرتا ہر کہ سیتی  
پنجابی میں اسے کہتے ہیں۔ جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہے۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہر  
کہ سنہ ہے کہ بعض دوسرے لوگ بھی حضرت صاحب کے متعلق یہ لفظ بعض اوقات  
استعمال کر دیتے تھے۔

(۱۱۹) بسم اسد الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب سیرت  
میں کرم الدین کیساتھ حضرت صاحب کا مقدمہ تھا تو ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ  
کوئی کہتا ہر کہ حضرت صاحب کو لٹرسر میں سولی پر لٹکایا جائیگا تاکہ قادیان والوں کو  
آسانی ہو۔ میں نے یہ خواب حضرت صاحب سے بیان کیا۔ تو حضرت صاحب خوش ہوئے  
اور کہا کہ یہ مبشر خواب ہے۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ حضرت صاحب سولی پر چڑھنے  
کی یہ تعبیر کیا کرتے تھے۔ کہ غوث افزائی ہوگی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس مقدمہ

۲۶۲

کس خیال میں پھر رہے تھے۔ روزہ حضور کو اکیلے پھرتے لدھیانہ میں نہ دیکھا تھا۔ اور خاکسار بھی اسی خیال سے سامنے نہ ہوا کہ شاید کوئی مجید ہوگا۔ پھر اسی لدھیانہ میں خاکسار نے اپنی ناکھ سے دیکھا کہ جب حضرت اقدس علیہ السلام وہلی سے واپس لدھیانہ تشریف لائے۔ تو حضور کی زیارت کے لئے اس قدر استیشن پر ہجوم ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے معزز لوگ آدمیوں کی کثرت اور دھکا پیل سے زمین پر گر گئے تھے اور پولیس والے بھی عاجز آ گئے تھے گرد و غبار آسمان کو بار بار اٹھا۔ اور حضور اقدس علیہ السلام نے بھی بڑی محبت سے لوگوں کو فرمایا کہ ہم تو یہاں چوبیس گھنٹے نہیں گئے ملنے والے وہاں قیامگاہ پر آجائیں۔ ایک وقت اکیلے یہاں پھرتے دیکھا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اس قدر ہجوم آپ کی زیارت کے لئے جمع ہو گیا تھا۔

اس مؤثر الذکر سفر میں حضور علیہ السلام نے لدھیانہ میں ایک لیکچر دیا۔ جس میں ہندو میسائی مسلمان اور بڑے بڑے معزز لوگ موجود تھے۔ تین گھنٹے حضور اقدس نے تقریر فرمائی۔ حالانکہ بوجہ سفر پہلی کچھ طبیعت بھی درست نہ تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس لئے حضور اقدس نے بوجہ سفر روزہ نہ رکھا تھا۔ اب حضور اقدس نے تین گھنٹہ تقریر جو فرمائی تو طبیعت پر منفعت سا طاری ہوا۔ مولوی محمد حسن صاحب نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ جس پر ناواقف مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ مرزا رمضان میں دودھ پیتا ہے۔ اور شور کرنا چاہا۔ لیکن چونکہ پولیس کا انتظام اچھا تھا۔ تو زاہد شور کرنے والے مسلمان وہاں سے نکال دیئے گئے۔ اس موقع پر یہاں پر تین تقاریر ہوئیں۔ اول مولوی امجد محمد حسن صاحب کی دوسرے حضرت مولوی نور الدین صاحب کی۔ تیسرے حضور اقدس علیہ السلام کی پھر یہاں سے حضور اہل سنت سر تشریف لے گئے۔ وہاں سنا ہے کہ مخالفوں کی طرف سے سنگباری بھی ہوئی خاکسار عرض کرتا ہے کہ بازار میں اکیلے پھرنے کی بات تو خیر ہوئی مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور بازار کے اندر ہونے میں پھر رہے تھے۔ اور جہم پر کوٹ نہیں تھا۔ کیونکہ حضرت صاحب کا طریق تھا کہ گھر سے باہر ہمیشہ کوٹ پہنکر نکلتے تھے پس اگر میر صاحب کو کوئی فتنی نہیں لگی تو اس وقت کوئی خاص بات ہوگی یا جلیدی میں کسی کام کی وجہ سے نکل آئے ہوں گے۔ یا کوٹ کا خیال نہیں آیا ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ مجھ سے میری لڑکی زینب بیگم نے بیان کیا کہ تین ماہ کے قریب حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت

مختلف موقعوں پر آپ کے لیکچر سنایا کرتے تھے ایک لمبی بیماری کے بعد فوت ہوئے اور آپ نے قادیان میں ایک عربی مدرسہ کھولنے کا ارشاد فرمایا جس میں دین اسلام سے واقف علماء پیدا کیے جائیں تاکہ فوت ہونے والے علماء کی جگہ خالی نہ رہے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی وفات سے چند روز بعد آپ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں قریباً پندرہ دن رہے۔ اُس وقت دہلی گو پندرہ سال پہلے کی دہلی نہ تھی جس نے دیوانہ وار شور مچایا تھا لیکن پھر بھی آپ کے جانے پر خوب شور ہوتا رہا۔ اس پندرہ دن کے عرصہ میں آپ نے دہلی میں کوئی پبلک لیکچر نہ دیا لیکن گھر پر قریباً روزانہ لیکچر ہوتے رہے جن میں جگہ کی تنگی کے سبب دو اڑھائی سو سے زیادہ آدمی ایک وقت میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک دو دن لوگوں نے شور بھی کیا اور ایک دن حملہ کر کے گھر پر چڑھ جانے کا بھی ارادہ کیا لیکن پھر بھی پہلے سفر کی نسبت بہت فرق تھا۔

اس سفر سے واپسی پر لدھیانہ کی جماعت نے دو دن کے لیے آپ کو لدھیانہ میں ٹھہرایا اور آپ کا ایک پبلک لیکچر نہایت خیر و خوبی سے ہوا۔ وہاں امرتسر کی جماعت کا ایک وفد پہنچا کہ آپ ایک دو روز امرتسر بھی ضرور قیام فرمائیں جسے حضرت نے منظور فرمایا اور لدھیانہ سے واپسی پر امرتسر میں اتر گئے۔ وہاں بھی آپ کے ایک عام لیکچر کی تجویز ہوئی۔ امرتسر سلسلہ احمدیہ کے مخالفین سے بڑے بڑے اور مولویوں کا وہاں بہت زور ہے۔ اُن کے اُکسانے سے عوام الناس بہت شور کرتے رہے۔ جس دن آپ کا لیکچر تھا اُس روز مخالفین نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح ہو لیکچر نہ ہونے دیں۔ چنانچہ آپ لیکچر ہال میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دروازہ پر مولوی بڑے بڑے جتے پہنے ہوئے لمبے لمبے ہاتھ مار کر آپ کے خلاف وعظ کر

رہے تھے اور بہت سے لوگوں نے اپنے دامنوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ آپ لیکچر گاہ میں اندر تشریف لے گئے اور لیکچر شروع کیا۔ لیکن مولوی صاحبان کو اعتراض کا کوئی موقع نہ ملا جس پر لوگوں کو بھڑکائیں۔ پندرہ منٹ آپ کی تقریر ہو چکی تھی کہ ایک شخص نے آپ کے

آگے چائے کی پیالی پیش کی کیونکہ آپ کے حلق میں تکلیف تھی اور ایسے وقت میں اگر تھوڑے تھوڑے وقفہ سے کوئی سیال چیز استعمال کی جائے تو آرام رہتا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رہنے دو لیکن اُس نے آپ کی تکلیف کے خیال سے پیش کر ہی دی۔ اس پر آپ نے بھی اُس میں سے ایک گھونٹ پی لیا۔ لیکن وہ مہینہ روزوں کا تھا۔ مولویوں نے شور مچا دیا کہ یہ شخص مسلمان نہیں کیونکہ رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیمار یا مسافر روزہ نہ رکھے بلکہ جب شفا ہو یا سفر سے واپس آئے تب روزہ رکھے اور میں تو بیمار بھی ہوں اور مسافر بھی۔ لیکن جوش میں بھرے ہوئے لوگ کب رکتے ہیں۔ شور بڑھتا گیا اور باوجود پولیس کی کوشش کے فرو نہ ہو سکا۔ آخر مصلحتاً آپ بیٹھ گئے اور ایک شخص کو نظم پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اُس کے نظم پڑھنے پر لوگ خاموش ہو گئے۔ تب پھر آپ کھڑے ہوئے تو پھر مولویوں نے شور مچا دیا اور جب آپ نے لیکچر جاری رکھا تو فساد پر آمادہ ہو گئے اور شیخ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ پولیس نے روکنے کی کوشش کی لیکن ہزاروں آدمیوں کی روان سے روکے نہ رکتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر کی ایک لہر ہے جو آگے ہی بڑھتی چلی آتی ہے۔ جب پولیس سے اُن کا سنبھالنا مشکل ہو گیا تب آپ نے لیکچر چھوڑ دیا لیکن پھر بھی لوگوں کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا اور انہوں نے شیخ پر چڑھ کر حملہ آور ہونے کی کوشش جاری رکھی۔ اس پر پولیس انسپکٹر نے آپ سے عرض کی کہ آپ اندر کے کمرہ میں تشریف لے چلیں اور فوراً سپاہی دوزائے کہ بند گاڑی لے آئیں۔ پولیس لوگوں کو اس کمرہ میں آنے سے روکتی رہی اور دوسرے دروازہ کے سامنے گاڑی لاکر کھڑی کر دی گئی، آپ اُس میں سوار ہونے کے لیے تشریف لے چلے۔ آپ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ آپ گاڑی میں سوار ہو کر چلے ہیں۔ اس پر جو لوگ لیکچر ہال سے باہر کھڑے تھے وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ایک شخص نے بڑے زور سے ایک بہت موٹا اور مضبوط سونٹا آپ کو مارا۔ ایک



مک میں نے ایسی بیعت نہ کی تھی۔

خاکسار عزم کرتا ہے۔ کہ مولوی عبدالکوکیم صاحب مرحوم کے حضرت صاحب سے قدیم تعلقات تھے جو غالباً حضرت خلیفہ اولیٰ کے واسطے قائم ہوئے تھے۔ مگر مولوی صاحب موصوف نے بیعت کچھ عرصہ بعد کی تھی۔ نیز خاکسار عزم کرتا ہے کہ حضرت مولوی عبدالکوکیم صاحب جماعت کے بہترین مقررین میں سے تھے۔ اور آواز کی غیر معمولی بلندی اور خوش بامعانی کے علاوہ ان کی زبان میں غیر معمولی فصاحت اور طاقت تھی جو سامعین کو مسحور کر لیتی تھی۔

۷۶ [ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حج نہیں کیا۔ احکاف نہیں کیا۔ زکوٰۃ نہیں دی۔ تسبیح نہیں رکھی۔ میرے سامنے منب یعنی گوہ کھانے سے انکار کیا۔ صدقہ نہیں کھایا۔ زکوٰۃ نہیں کھائی۔ صرف تذرانہ اور ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ بیرون کی طرح مصلیٰ اور خرقہ نہیں رکھا۔ راجح الوقت درود و وظائف دشلا پنچسورہ۔ دماغ گنج العرش۔ درود تاج۔ حزب البحر۔ دماغے سریانی وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ ]

خاکسار عزم کرتا ہے کہ حج نہ کرنے کی تو خاص وجوہات تھیں کہ شروع میں آپ کے لئے مال نماک سے انتظام نہیں تھا۔ کیونکہ ساری جائداد وغیرہ ادائل میں ہمارے دادا صاحب کے ہاتھ میں تھی اور بعد میں تایا صاحب کا انتظام رہا۔ اور اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ کہ ایک تہاب جہاد کے کام میں نہہک رہے دوسرے آپ کے لئے حج کا راستہ ہی مخدوش تھا۔ تاہم آپ کی خواہش رہتی تھی۔ کہ حج کریں۔ چنانچہ حضرت والدہ ماجدہ نے آپ کے بعد آپ کی طرف سے حج بدل کر دیا۔ احکاف ماموریت کے زمانہ سے قبل غالباً بیٹھے ہونگے مگر ماموریت کے بعد بوجہ قلمی جہاد اور دیگر مصروفیت کے نہیں بیٹھے سکے۔ کیونکہ یہ نیکیاں احکاف سے مقدم ہیں۔ اور زکوٰۃ اس لئے نہیں دی۔ کہ آپ کسی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ البتہ حضرت والدہ صاحبہ زیور پر زکوٰۃ دیتی رہی ہیں۔ اور تسبیح اور رکعت وظائف وغیرہ کے آپ قائل ہی نہیں تھے۔

۷۷ [ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ حضرت صاحب کی آنکھوں میں مائی اوپیا تھا۔ اسی وجہ سے پہلی رات کا چاند نہ دیکھ سکتے تھے۔ مگر نزدیک سے آخر عمر تک بلکہ حروف بھی پڑھ لیتے تھے۔ اور سینک کی حاجت محسوس نہیں کی۔ اور دلالت آنکھوں کی یہ حالت ]

رحمت اللہ صاحب لاہور کی اس خدمت میں خاص امتیاز رکھتے تھے، فاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود و بعض اوقات کمر پہنکا بھی استعمال فرماتے تھے اور جب کبھی گھرت باہر شریف لجاتے تھے تو کوٹ ضرور پہنکرتے تھے۔ اور ہاتھ میں عصا رکھنا بھی آپ کی سنت ہے۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت صاحب کے واسطے ہر سال نصف ٹھکان کے کرتے تیار کیا کرتی تھی لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی تھی میں نے پوسے ٹھکان کے کرتے تیار کئے۔ حضرت صاحب نے مجھے کہا بھی کہ اتنے کرتے کیا کرنے ہیں۔ مگر میں نے تیار کر لئے ان میں سے اب تک بہت سے کرتے بے پہنے میسر ہو چکے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود و جمعہ کے دن خوشبو لگاتے اور کپڑے بدلتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود جب کبھی منوب کی نماز گھر میں پڑھتے تھے تو اکثر سورہ یوسف کی وہ آیات پڑھتے تھے جنہیں یہ آیتوں میں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم فرمائے۔ انہوں نے انہار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی آوازیں بہت سوز اور دردناک اور آپی قرأت پڑھتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ میں نے کبھی حضرت مسیح موعود کو کبھی ایسا نہ دیکھا۔ فاکسار عرض کرتا ہے کہ میں نے بعد اللہ صاحب سنوڑ نامے سے پہلے ہی بیازہ لیا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا ہم سے سید فضل شاہ صاحب نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نے بیازہ میں شریف رکھتے تھے میں پاس بیٹھا تھا۔ بھائی عبد اللہ صاحب سنوڑ کی بھی پاس تھے اور بعض اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب کے ساتھ گنگو فرماتے تھے مگر جب بھائی عبد اللہ صاحب بولتے تھے تو حضرت صاحب دوسروں کی طرف سے توجہ نہا کر ان کی طرف توجہ کر لیتے تھے۔ مجھے اسکا مال ہوا اور میں نے ان پر رشک کیا۔ حضرت صاحب میرے اس خیال کو سمجھ گئے اور میری طرف سے توجہ نہا کر ان کی طرف توجہ کر لیتے تھے۔

مرتد ہوتے وقت بیان کئے ہیں۔ وہ سب آجکل غیر مبایعین میں موجود ہیں۔ دراصل ان لوگوں کو اس نے ہلاک کیا۔ اور خود اس کو اس کی خواب بینی اور طبعی صفات سے ہلاک کیا۔ چنانچہ ایک دفعہ ان لوگوں نے یہ تجویز پیش کی۔ کہ ریویو میں حضرت صاحب کا اور احمیت کی خصوصیات کا ذکر نہ ہو۔ بلکہ عام اسلامی مضامین ہوں۔ تاکہ اشاعت زیادہ ہو۔ اخبار وطن میں بھی یہ تحریک چھی تھی جس پر حضرت صاحب نے نہایت ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اور فرمایا تھا۔ کہ ہمیں چھوڑ کر کیا آپ مردہ اسلام کو پیش کریں گے؟ عبدالحکیم خاں نے حضور کو لکھا تھا۔ کہ آپ کا وجود خادم اسلام ہے نہ کہ عین اسلام۔ مگر حضرت صاحب کے اس فقرہ نے اس کی تردید کر دی۔ کہ دراصل آپ کا وجود ہی روح اسلام ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت باریک ہے کہ کسی مذہب میں اس مذہب کے لانیوالے کے وجود کو کس حد تک اور کس رنگ میں داخل سمجھا جاسکتا ہے۔ مگر بہر حال یہ ایک مسلم صداقت ہے کہ نبی کے وجود سے مذہب کو جدا نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دونوں باہم اس طرح پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک کپڑے کا تانا اور بانا ہوتا ہے جن کے علیحدہ کرنے سے کپڑے کی تار پود بکھرجاتی ہے۔ بے شک بعض خام طبع مومنین اسے شرک قرار دے سکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ خیال خود شرک میں داخل ہے کہ ایک خدائی فعل کے مقابلہ میں اپنے خیال کو مقدم کیا جائے نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ خوابوں کا مسئلہ بھی بڑا نازک ہے۔ کئی خوابیں انسان کی دماغی بناوٹ کا نتیجہ ہوتی ہے اور اکثر لوگ ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے زمانہ میں اس عاجز نے نمازوں میں اور خصوصاً مسجودوں میں لوگوں کو آجکل کی نسبت بہت زیادہ روتے سنا ہے رولے کی آوازیں مسجد کے ہر گوشہ سے سنائی دیتی تھیں۔ اور حضرت صاحب نے اپنی جماعت کے اس رونے کا فخر کے ساتھ ذکر کیا ہے جس نماز سے پہلے حضرت صاحب کی کوئی خاص تقریر اور نصیحت ہو جاتی تھی۔ اس نماز میں تو مسجد میں گویا ایک کہرام برپا ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سنگلے سے سنگلی آدمی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ ایک جگہ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ دن میں کم از کم ایک دفعہ تو انسان خدا کے حضور رو لیا کرے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس کے لئے غلوت میں بیٹھ کر نماز الہی کو یاد کرنا اور انبیاء و اولیاء کے

کو قبول کر لوں گا۔ اور آج ہی بیت پر لوگ حزن کو قبول کر لینگے۔ اور حضرت صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی اُسے کہنا کہ تجھ نے کرا اسکے گھر تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ایک بڑا نامور موقع ہے مزا صاحب نے بڑا شور مچا رکھا ہے۔ آپ اگر ان کو شکست دیدینگے امدان سے انعام حاصل کر لینگے۔ تو یہ ایک عیسائیت کی نمایاں فتح ہوگی۔ اور پھر کوئی مسلمان سامنے نہیں بول سکیگا۔ وغیرہ وغیرہ۔ میاں عبد اللہ صاحب کہتے ہیں۔ جو وقت حضرت صاحب نے یہ مجھ سے فرمایا۔ اس وقت شام کا وقت تھا۔ اور بارش ہو رہی تھی اور سردیوں کے دن تھے ایسے میاں حامد علی نے مجھے مدکا۔ کہ صبح چلے جانا۔ مگر میں نے کہا۔ کہ جب حضرت صاحب نے فرمایا ہے۔ تو خواہ کچھ ہو۔ میں تو ابھی جاؤں گا۔ چنانچہ میں اس وقت پیدل روانہ ہو گیا اور تیسرا رات کے دس گیارہ بجے بارش سے تروتراہ سردی سے کانپتا ہوا بٹالہ پہنچا۔ اور اسی وقت پادری مذکور کی کوٹھی پر گیا۔ وہاں پادری ہی کے خاندان نے میری بڑی خاطر کی۔ اور بے سونے کے تے جگ دی۔ اور کھانا دیا۔ اور بہت آرام پہنچایا۔ اور صبح پادری صاحب سے ملاقات کر اؤں گا۔ چنانچہ صبح ہی اس نے مجھے پادری سے ملایا۔ اس وقت پادری کے پاس اس کی سیم بھی بیٹھی تھی۔ میں نے اسی طریق پر جس طرح حضرت صاحب نے بچے سمہایا تھا۔ اس سے گفتگو کی۔ مگر اس نے انکار کیا۔ اور کہا کہ ہم ان باتوں میں نہیں آتے میں نے اسے بہت فیرت دلائی اور عیسائیت کی فتنہ پر جانیکی صورت میں اپنے آپ کو حق کے تہل کرنے کیے تیار ظاہر کیا۔ مگر وہ انکار ہی کرتا چلا گیا۔ آخر میں ایسے ہو کر قادیان آ گیا۔ اور حضرت صاحب سے سارا قصہ عرض کر دیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ واقعہ خانقاہ سلسلہ بیعت سے پہلے کا ہے۔

(۲۷۲)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبد اللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ انبالہ کے ایک شخص نے حضرت صاحب سے فتوے دریافت کیا۔ کہ میری ایک کنجی کنجی تھی۔ اس نے اس حالت میں بہت سارے روپے کھائے۔ پھر وہ مر گئی۔ اور بچے اسکا ترکہ ظاہر کر بد میں بچے اللہ تعالیٰ نے تو بہ اور اصلاح کی توفیق دی۔ اب میں اس مال کو کیا کر لوں؟ حضرت صاحب نے جواب دیا۔ کہ ہمارے خیال میں اس زمانہ میں ایسا مال اسلام کی خدمت

کنجی — پیسہ اور فاحشہ عورت کو کہتے ہیں۔

میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اور پھر مثال دیکر بیان کیا۔ کہ اگر کسی شخص پر کوئی سگ دیوانہ حملہ کرے۔ اور اسکے پاس اس وقت کوئی چیز اپنے دفاع کے لئے نہ ہو۔ نہ سوتی نہ پتھر وغیرہ۔ صرف چند نجاست میں پڑے ہوئے پیسے کے قریب ہوں۔ تو کیا وہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے ان پیسوں کو اٹھا کر اس کتے کو نہ دے مارے گا۔ اور اسوجہ سے رک جاویگا۔ کہ پیسے ایک نجاست کی نانی میں پڑے ہوئے ہیں بہرگز نہیں۔ پس اسی طرح اس زمانہ میں جو اسلام کی حالت ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ اس روپیہ کو خدمت اسلام میں لگایا جا سکتا ہے۔ میاں عبدالصاحب نے بیان کیا۔ کہ اس زمانے میں جب کی یہ بات ہے۔ یہ جکل ولے انگریزی پیسے زیادہ رائج نہ تھے۔ بلکہ موٹے موٹے بھدے سے پیسے چلتے تھے۔ جنکو مسوری پیسے کہتے ہیں۔

فاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ اس زمانہ میں خدمت اسلام کے لئے بعض شرائط کے ماتحت سووی روپیہ کے خرچ کے جانے کا فتوے بھی حضرت صاحب نے اسی اصول پر دیا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے۔ کہ یہ فتوے وقتی ہیں۔ اور خاص شرائط کے ساتھ مشروط ہیں۔ ومن اعتدی فقد ظلم وحارب اللہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبدالصاحب سنوری نے کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کہ الاستقامة فوق الکرامة۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبدالصاحب سنوری نے کہ حضرت مسیح موعود فرماتے تھے۔ کہ سوائے مسلمانوں کو سخت نفرت ہے جو طبیعت کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ خدا اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان اگر چاہے۔ تو تمام منہیات سے ایسی ہی نفرت کر سکتا ہے اور اُسے ایسی ہی نفرت کرنی چاہئے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبدالصاحب سنوری نے کہ آتمہ کے مباحثہ میں جس بھی موجود صاحب نے اپنے آخری مضمون میں یہ بیان کیا۔ کہ آتمہ صاحب نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں حضرت مسلم کو دعوہ بالحدیث لکھا

(۲۶۳)

(۲۶۴)

روپیہ نفرت کا سبب

(۲۶۵)

اس پر نسر آیا

ہمارا یہی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ایسا روپیہ اشاعتِ دین کے کام میں خرچ کیا جائے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سود حرام ہے لیکن اپنے نفس کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ حرمتِ اشیاء کی انسان کے لیے ہے نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ پس سود اپنے نفس کے لیے، بیوی بچوں، اجباب، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر یہ روپیہ خالصتاً اشاعتِ دین کے لیے خرچ ہو تو حرج نہیں ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسلام بہت کمزور ہو گیا ہے اور پھر اس پر دوسری مصیبت یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت درمہ بیتیں واقع ہو رہی ہیں اور دوسریں روا رکھی گئی ہیں۔ اول یہ کہ زکوٰۃ جس کے دینے کا حکم تھا وہ دیتے نہیں اور سود جس کے لینے سے منع کیا تھا وہ لیتے ہیں۔ یعنی جو خدا تعالیٰ کا حق تھا وہ تو دیا نہیں اور جو اپنا حق نہ تھا اسے لیا گیا۔

جب ایسی حالت ہو رہی ہے اور اسلام خطرناک منفع میں مبتلا ہے تو میں یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ ایسے سودوں کی رقمیں جو بینک سے ملتا ہے یک مشت اشاعتِ دین میں خرچ کرنی چاہئیں۔ میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ عام نہیں ہے ورنہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ مگر اس منفعِ اسلام کے زمانہ میں جبکہ مال ترقی کے ذریعے پیدا نہیں ہوتے اور مسلمان توجہ نہیں کرتے ایسا روپیہ اسلام کے کام میں لگنا حرام نہیں ہے۔

قرآن شریف کے مفہوم کے موافق جو حرمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اگر خرچ ہو تو حرام ہے۔ یہ بھی یاد رکھو جیسے سود اپنے لیے دُست نہیں کسی اور کو اس کا دینا بھی دُست نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ایسے مال کا دینا دُست ہے اور یہی اس کا طریق ہے کہ وہ صرف اشاعت

لے حاشیہ :- سود کا روپیہ بالکل حرام ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس پر خرچ کرے۔ اور کسی قسم کے بھی ذاتی مصارف میں خرچ کرے یا اپنے بال بچے کو دے یا کسی غیر مسکین کو دے۔ کسی ہمسایہ کو دے یا مسافر کو دے۔ سب حرام ہے۔ سود کے روپیہ کا لینا اور خرچ کرنا گناہ ہے۔

لے حاشیہ :- اپنا جو حق نہ تھا وہ لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا جو حق تھا وہ بھی نہیں دیتے اور اپنے اندر دو گناہ ایک ہی وقت میں جمع کرتے ہیں۔

بدر جلد نمبر ۲۶ صفحہ ۴ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۰۵ء

حضرت سید ابو محمد مختصر حالات کے

ق

کوئی کرے۔ کبھی کوئی اشارہ تک نہیں کیا کہ تیری باتیں منہ میں جس قسم کا کوئی سودا اور سے۔ اسکی بھگلی کی نسبت انہیں نہیں  
 اللہ جو کچھ فرج کیا اور جو کچھ داپس دیا ہے انکے مذکر کے لیے یاد اور حسیب میں ڈال دیا ہے۔ کبھی کسی سے کہیں میں میں با کسی اہل بیت  
 پر کرا نہیں کیا۔ اگر کسی کسی حدیث کے سبب کسی چیز کیلئے ذمہ زبیر کی ہے اور اہل بیت میں کبنا بھی نہیں کہا۔ اللہ وہ غیر نہیں بنا  
 نکلیں جو مساکیر الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا پگ وجود بے شہر بے ضرر ہے۔ کبھی کسی دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ کی صداقت  
 اور اعلیٰ اطلاق اور تعلیم اور قوت قدسیہ کا یہ سنگ اثر ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ میں آپ سے سینہ ہے۔ اور آپ کے منجانب سے  
 ہونے پر صدق دل سے ایمان رکھتی ہے جتنا جتنا آپ کا کوئی گھر اور دست اور اتفاقاً بھلیں ہے۔ اسی قدر اسکو دوسروں کی نسبت  
 آپ سے زیادہ محبت اور حسن ظن ہے اگر کوئی ہذا سلف میں آپ کے کام میں ہرجا کرے تو بھی آپ کے منہ سے کبھی نہ جوار اور توج کا کلمہ نہیں  
 نکلتا مگر آپ کی نفرت کی نسبت میں مذکور توج۔ بدظنی۔ سرد مہری۔ باندیشی۔ سنگدین۔ محبت دنیا و فریہ بالکل نہیں۔ آپ بچوں کو  
 مارنے اور ڈانٹنے کے سخت مخالف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جسٹی کر شمش بچوں کو سزا دینے میں کجالی ہے۔ کاش ہاتھی ہی کوشش نہ  
 لئے دھا کر نہیں لگا۔ ہایت خدا کا نمل ہے فرماتے ہیں اس شخص کو شنی کی گئی رہینندہ پر فرما کہ بے چارے سے غافل رہو۔  
 آپ مکان جملہ اس کی آرایش اللہ نیت سے بالکل غافل رہنے پر آمادہ ہیں۔ آپ کو کسی مکان سے کوئی منہ نہیں۔ وقت ضائع نہیں کرتے  
 ہاں کی حفاظت کی طرف توج نہیں ہوتی۔ جب بی ضرورت آتی ہے تو اپنے اور پرکھا مینا اور سوا اور کم کر لیتے ہیں۔ جب تک کہ وہ کم  
 نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جن کے لئے ہیں۔ اور دین کینا طرز زندگی سیر کرتے ہیں۔ دین کی ماہ میں ہمیں کوئی رندک نہیں چاہئے۔ جاڑے  
 کا موسم تھا۔ آپ کے ایک بچے نے اپنی راسکٹ کو نیک جیب میں ایک بڑی اہمیت معلق۔ آپ جیب میں لے کر وہ اینٹ چھپتی۔ کوئی  
 دن ایسا ہی ہوا کہ ایک دن اپنے ایک خادم کو کہنے لگے کہ میری جیب میں کچھ ہے۔ ایسا سلوم ہوا ہے کہ کوئی چیز چھپائی ہے۔ وہ حیران  
 ہوا اور آپ کے حید مبارک سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسکا ہاتھ تھام لیا۔ جب جیب سے نکلان لی۔ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ حید  
 رض ہوئے محمد نے میری جیب میں ڈالی تھی۔ اور کہا تھاکر سے زمانا نہیں۔ میں اس سے کیسراں گا۔ آپ کے مزاج میں وہ تامل  
 ادا بخشا اور ہضم نفس ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ آپ زمین پر بیٹھے ہوں اور لوگ گذرنا پر یاد دہن بیٹھے ہوں۔ آپ کا قلب  
 مبارک ان باتوں کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ آپ کی نشست کی وہی خاص وضع نہیں ہوتی۔ انبیا۔ نبی آپ کو خاص امتیاز سے  
 پہچان نہیں سکتا۔ آپ کی مجلس اور اہل نامہ اور دار اور آزادی اور بے تکلفی اور سادگی ایک وقت میں جمع رہتے ہیں۔ آپ کی  
 مجلس کا رنگ ہو جو جو جوت کا رنگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ منہ نہیں کہیں ایسا نہ نوار اور بیانیٹ بکر بیٹوں کو لوگ بیٹھے  
 اور جیسے خدا سے ڈرتے ہیں۔ میں بت بشتا سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔ میں اپنے نفس کو دوسروں پر ترجیح نہیں دیتا۔ آپ اپنے  
 خدام کو بڑے اور بجا ماحترام سے پکارتے ہیں۔ اور حاضر و غائب ہر ایک کا نام ادب سے پختہ میں۔ سزاوی عمر میں کبھی کسی کو تکرار کے  
 نہیں پکارا۔ آپ کی ملاقات کی جگہ مسجد ہے۔ برابر بائچ وقت نماز ہوا مت پڑھتے ہیں۔ آپ بڑے تاملان ہیں۔ بدنام قسم کھاتے

یہ حوالہ صفحہ 73 پر درج ہے

سج مودود کے مختصر حالات ملحقہ براہین احمد یہ حصہ اول تا چہارم صفحہ 53 از معراج الدین عمر قادریانی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے آخر زمانہ میں اکثر دفعہ اجاب آپ کے لئے نیا کرتے ہوئے تھے اور اسے بطور نذر پیش کر کے تبرک کے طور پر حضور کا اترہا ہوا کرتے مانگ لیتے تھے۔ اس طرح ایک دفعہ کسی نے میسر آتا ہے ایک نیا کرتے بچو اگر پڑانے اترے ہوئے کرتے کی درخواست کی۔ گھر میں تلاش سے معلوم ہوا کہ سوقت کوئی اترہا ہوا ہے دھلا موجود نہیں جس پر آپ نے اچھا مستعمل کرتے دھونی کے ان کا دھلا ہوا دئے جانے کا حکم فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو دھونی کے ان کا دھلا ہوا کرتے ہے اور وہ شخص تبرک کے طور پر میسر کرتے لے جانا چاہتا ہے۔ حضور نے مسکرائے لگے کہ وہ بھی کیا برکت ہے جو دھونی کے ان دھلنے سے جاتی رہے۔ چنانچہ وہ کرتے اس شخص کو دیدیا گیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ وہ شخص فانیہ تو جانتا ہو گا کہ دھونی کے ان دھلنے سے برکت جاتی نہیں رہتی۔ لیکن محبت کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقدس محبوب کا اترہا ہوا ایسا بے دھلا کپڑا اپنے پاس رکھنے کی خواہش کرتا ہے اور اسی طبعی خواہش کا احترام کرتے ہوئے گھر میں پہلے پہلے کی تلاش کی گئی۔ لیکن جب وہ نہ ملا تو دھلا ہوا کرتے دیدیا گیا۔

(۳۷۵) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت

مسیح موعود علیہ السلام اپنی جسمانی عادات میں ایسے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جہاں پہنچتے تھے تو بے توجہی کے عالم میں اس کی ایری پاؤں کے تلے کی بطرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی اور بار بار ایک کلچ کا بن دو سرے کا ج میں لگا ہوا ہوتا تھا۔ اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے گرگابی ہڈی لاتا تو آپ بسا اوقات دایاں باؤں بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بائیں دائیں میں چنانچہ اسی تکلیف کی وجہ سے آپ دیسی جوتی پہنتے تھے۔ اسی طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فریاد کرتے تھے کہ میں تو سوقت پتہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کہ جب کھاتے کھاتے کوئی کنکر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچا جاتا ہے۔

(۳۷۶) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت

مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی وفات سے قبل ساہسال اسہال کا عارضہ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت کی مرض میں فوت ہوئے۔ بار بار دیکھا کہ حضور کو دست آنے کے بعد ایسا ضعف ہوتا تھا کہ حضور فوراً دودھ کا گلاس منگو کر پیتے تھے۔



کپڑے بننے تھے اور استعمال ہوتے تھے۔ اوسیل طرح ساتھ ساتھ خراج بھی ہوتے جاتے تھے یعنی ہر وقت تبرک مانگنے والے طلب کرتے رہتے تھے بعض دفعہ تو یہ نوبت پہنچ جاتی کہ آپ ایک کپڑا بطور تبرک کے عطا فرماتے تو دوسرا بنا کر اس وقت پہننا پڑتا۔ اور بعض بھعدار اس طرح بھی کہتے تھے کہ مثلاً ایک کپڑا اپنا بھیج دیا اور ساتھ عرض کر دیا کہ حضور ایک اپنا اترا ہوا تبرک رحمت فرمادیں۔

خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب آپ کے لباس کی ساخت سنئے۔ عموماً یہ کپڑے آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ کرتہ یا قمیص۔ پانچامہ۔ صدری۔ کوٹ۔ عمامہ۔ اسکے علاوہ رومان بھی انزور رکھتے تھے اور جاڑوں میں جرابیں۔ آپ کے سب کپڑوں میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت کھلے کھلے ہوتے تھے۔ اور اگرچہ شیخ صاحب مذکور کے آدہ کوٹ انگریزی طرز کے ہوتے مگر کچھ بہت کشادہ اور لمبے یعنی گھٹنوں سے نیچے ہوتے تھے۔ اور جتنے اور چونہ بھی جو آپ پہنتے تھے تو وہ بھی ایسے لمبے کہ بعض تو ان میں سے ٹخنے تک پہنچتے تھے۔ اسی طرح کرتے اور صدریاں بھی کشادہ ہوتی تھیں۔

بنیان آپ کبھی نہ پہنتے تھے بلکہ اس کی تنگی سے گھبراتے تھے۔ گرم قمیص جو پہنتے تھے ان کا اکثر اوپر کاٹن کھلا رکھتے تھے۔ اسی طرح صدری اور کوٹ کا اور قمیص کے کھنوں میں اگر بن ہوں تو وہ بھی ہمیشہ کھلے رہتے تھے آپ کا طرز عمل ما انامن المتکلفین کے ماتحت تھا کہ کسی مصنوعی جکڑ بندی میں جو شرفاً غیر ضروری ہے پابند رہنا آپ کے مزاج کے خلاف تھا اور نہ آپ کو کبھی پرواہ تھی کہ لباس عمدہ ہے یا برش کی ہوا ہے یا ٹن سب درست لگو ہوئے ہیں یا نہیں صرف لباس کی جھلی غنبن مطلوب تھی۔ بارہا دیکھی گیا کہ ٹن پینا کا کارہ جو فرود سکا سی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے بلکہ صدی کے ٹن کوٹ کے کاجوں میں ٹکائے ہوئے دیکھے گئے۔ آپ کی توجہ ہمہ تن اپنے مشن کی طرف تھی اور اصلاح امت میں اتنے محنت سے کہ اصلاح لباس کی طرف توجہ نہ تھی۔ آپ کا لباس آخر عمر میں چند ماٹن سے بالکل گرم و خشک رہتا تھا۔ یعنی کوٹ اور صدری اور پاجامہ گرمیوں میں بھی گرم رکھتے تھے۔ اور یہ علالت طبع کے باعث تھا۔ سردی آپ کو موافق نہ تھی۔ اسلئے اکثر گرم کپڑے رکھا کرتے تھے۔ البتہ گرمیوں میں نیچے کرتے مل کارہتا تھا۔ بجائے گرم کرتے کے پاجامہ آپ کا معروف شرعی وضع کا ہوتا تھا۔ غرارہ یعنی ڈھیلا مردانہ پاجامہ بھی پہننا کرتے تھے۔ مگر آخر عمر میں تبرک کر دیا تھا مگر گھوم گرمیوں میں کبھی کبھی دن کو اور حادثات کے وقت تبند باندھ کر

لموٹا جراب بھی پہنے رہتے تھے۔ بلکہ سردیوں میں دراز لباس ان پر تین تین دنوں تک پاؤں میں آپ ہمیشہ ویسی جوتا پہنتے تھے۔ نیز بیان کیا ہے کہ حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب سے حضرت مسیح موعود کو دور سے پڑنے شروع ہوئے، اس وقت سے آنکری گرمی میں گرم کپڑے کا استعمال شروع فرمایا تھا۔ ان کپڑوں میں آپ کو گرمی بھی لگتی تھی۔ اور بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی تھی کہ جب ایک دفعہ شروع کر دیئے تو پھر آخر تک یہی استعمال فرماتے رہے۔ اور جب سے شیخ رحمت اللہ صاحب گجراتی ٹھہرا ہوا احمدی ہوئے وہ آپ کے لئے کپڑوں کے جوڑے بنا کر باقاعدہ لاتے تھے اور حضرت صاحب کی عادت تھی کہ جیسا کپڑا کوئی لے آئے پہن لیتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لئے گرگابی لے آیا آپ نے پہن لی مگر اسے لٹکے سے ہاؤں کا آپ کو تپ نہیں لگتا تھا کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر فرماتے ان کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کیواسطے اسے سیدھے پاؤں کی شناخت کیلئے نشان لگا دینے تھے مگر باوجود اسے آپ التماس دعا پہن لیتے تھے اسلئے آپ نے اسے اتار دیا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب نے بعض اوقات انگریزی طرز کی قمیص کے کٹنوں کے متعلق بھی اسی قسم کا پندیدگی کے الفاظ فرمائے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ شیخ صاحب موصوف آپ کے لئے انگریزی طرز کی گرم قمیص بنا کر لایا کرتے تھے۔ آپ انہیں استعمال تو فرماتے تھے۔ مگر انگریزی طرز کی کٹنوں کو پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ اول تو کٹنوں کے ٹین لگانے سے آپ گھبراتے تھے دوسرے ٹینوں کے کھولنے اور بند کرنے کا التزام آپ کے لئے مشکل تھا۔ بعض اوقات فرماتے تھے کہ یہ کیا کان سے فٹکے رہتے ہیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ لباس کے متعلق حضرت مسیح موعود کا عام اصول یہ تھا کہ جس قسم کا کپڑا ملتا تھا پہن لیتے تھے۔ مگر عموماً انگریزی طریق لباس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کیونکہ اول تو اسے اپنے لئے سادگی کے خلاف سمجھتے دوسرے آپ ایسے لباس سے جو اعضاء کو بکرا ہوار کے بہت گھبراتے تھے۔ گھر میں آپ کے لئے صرف مل کے کرتے اور گجراتیاں تیار ہوتی تھیں۔ باقی سب کپڑے عموماً ہیرٹھ آپ کو آجاتے تھے۔ شیخ

سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 167 از مرزا بشیر احمد ایم اے

یہ حوالہ صفحہ 74 پر درج ہے

خواب فرمایا کرتے تھے:

صدری گھر میں اکثر پہننے ہتے مگر کوٹ عموماً باہر جاتے وقت ہی پہننے۔ اور سردی کی زیادتی کے دنوں میں اوپر تلے ڈوڈو کوٹ بھی پہنا کرتے۔ بلکہ بعض اوقات پوستین بھی۔

صدری کی جیب میں یا بعض اوقات کوٹ کی جیب میں ایک رومال ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ بڑا رومال رکھتے تھے۔ نہ کہ چھوٹا جنٹلمینی رومال جو آجکل کا بہت مروج ہے۔ اسی کے کونوں میں آپ مشک اور ایسی ہی ضروری اودھیہ جو آپ کے استعمال میں رہتی تھیں اور ضروری خطوط وغیرہ باندھ رکھتے تھے۔ اور اسی رومال میں نقد وغیرہ بوند لوگ مسجد میں پیش کر دیتے تھے باندھ لیا کرتے تھے گھڑی بھی آپ مزور اپنے پاس رکھا کرتے مگر اس کی کھلی دینے میں چونکہ اکثر نافذ ہو جاتا اسلئے اکثر وقت غلط ہی ہوتا تھا۔ اور چونکہ گھڑی جیب میں سے اکثر نکل پڑتی اسلئے آپ اسے بھی رومال میں باندھ لیا کرتے۔ گھڑی کو مزور کے لئے رکھتے نہ زیبائش کے لئے۔

آپ کو دیکھ کر کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس شخص کی زندگی میں یا لباس میں کسی قسم کا بقی تصنع ہے یا یزید وزینت دنیوی کا دلدادہ ہے۔ بلکہ اہل اہل و اللہ ممتاز فاضل کے ماتحت آپ صاف اور ستھری چیز ہمیشہ پسند فرماتے اور گندی اور میلی چیز سے ستم نفرت رکھتے۔ صفائی کا اس قدر اہتمام تھا کہ بعض اوقات آدمی موجود نہ ہو تو بیت الخلاء میں خود فیصلہ ڈالتے تھے۔ عمار شریف آپ مل کا باندھا کرتے تھے۔ اور اکثر اگر یا کچھ اوپر بندا ہوتا تھا۔ شلہ آپ دبا چھوڑتے تھے کبھی کبھی شلہ کو آگے ڈال لیا کرتے۔ اور کبھی اس کا پتہ دہن مبارک پر ہی رکھ لیتے۔ جبکہ مجلس میں خاموشی ہوتی۔ عمار کے باندھنے کی آپ کی خاص دنیع تھی۔ نوک تو ضرور سامنے ہوتی مگر سر پر ڈھیلا ڈھالا لپٹا ہوا ہوتا تھا۔ عمار کے نیچے اکثر رومی ٹوپی رکھنے تھے اور گھر میں عمار انار کر مرز یہ ٹوپی بن پہننے رہا کرتے۔ مگر بزم قسم کی دوسری جو سخت ستم کی نہ ہوتی۔

جرا میں آپ سردیوں میں استعمال فرماتے اور ان پر کبھی کبھی تھن اوقات زیادہ سردی میں دو دو جرابیں اور پینڈ جڑا لیتے۔ مگر بار بار جراب اس طرح پہننے سے کہ وہ سر پر ٹھیک نہ پڑتی۔ کبھی تو اس کے نشتا رہتا اور کبھی جراب کی ایری کی جگہ پینڈ پڑ جاتی۔ کبھی ایک جراب سیدھی دوسری الٹی۔ اگر جراب کہیں سے کچھ پھٹ جاتی تو بھی مسح جائز رکھتے بلکہ فرماتے تھے کہ رسول سلیم کے

سالن پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا تو صوف اسلئے اور یہ کہسکر کہ مہانوں کو یہ کھانا پسند نہ آیا ہو گا۔  
 روٹی آپ منگھری اور چولہے کی دو دو قسم کی کھاتے تھے۔ ڈبل روٹی چائے کے ساتھ یا بکٹ  
 اور بکرم بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ دلائی بسکٹوں کو بھی جائز فرماتے تھے اسلئے کہ میں کیا معلوم  
 کہ اس میں چربی ہے۔ کیونکہ بننے والوں کا ادعا تو کمسن ہے۔ پھر ہم ناحق بدگمانی اور شکوک میں کیوں  
 پڑیں۔ مکی کی روٹی بہت مدت آپ نے آخری عمر میں استعمال فرمائی۔ کیونکہ آخری سات آٹھ سال سے  
 آپ کو دستوں کی بیماری ہو گئی تھی اور ہضم کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ علاوہ ان روٹیوں کے آپ شیرمال کو  
 بھی پسند فرماتے تھے۔ اور باقر خانی قلمیہ وغیرہ غرض جو جو اقسام روٹی کے سامنے آجایا کرتے تھے  
 آپ کسی کو رو نہ فرماتے تھے۔

سالن آپ بہت کم کھاتے تھے۔ گوشت آپ کے ہاں دو وقت پکھا تھا اور دل آپ کو گوشت کے زیادہ پسند  
 تھی۔ یہ دال ماش کی یا اوڑدہ کی ہوتی تھی جس کے لئے گوردہ سپور کا ضلع مشہور ہے۔ سالن ہر قسم کا  
 اور ترکیبی عام طور پر ہر طرح کی آپکے دسترخوان پر دیکھی گئی ہے اور گوشت بھی ہر حال اور طبیعت جانور کا  
 آپ کھاتے تھے۔ پرندوں کا گوشت آپ کو مرغوب تھا اسلئے بعض اوقات جب طبیعت کمزور ہوتی  
 تو تیز۔ فاختہ وغیرہ کے لئے شیخ عبدالحییم صاحب نو مسلم کو ایسا گوشت دیا کرتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے  
 مرغ اور بٹیروں کا گوشت بھی آپ کو پسند تھا۔ مگر شیرے جب کہ پنجاب میں طاعون کا زہر ہوا کھانے  
 چھوڑ دیئے تھے۔ بلکہ منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے گوشت میں طاعون پیدا کرنے کی خاصیت  
 ہے۔ اور بنی اسرائیل میں ان کے کھانے سے سخت طاعون پڑی تھی۔ حضور کے سامنے دو ایک دفعہ  
 گوہ کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے جس کا بھی چاہے کھالے۔ مگر رسول کریم نے چونکہ  
 اس کو بہت فرمائی تھی ہم کو بھی اس سے سو کر بہت ہے۔ اور عیسا کہ وہاں ہوا تھا یہاں بھی لوگوں نے آپکے مہان خانہ بلکہ  
 گھر میں بھی کچھ بچوں اور لوگوں نے گوہ کا گوشت کھایا مگر آپ نے اسے اپنے فریضہ آنے دیا۔ مرغ کا گوشت ہر طرح  
 کا آپ کھالیتے تھے مہان ہر یا بھتا ہوا کباب ہو۔ یا پلاؤ۔ مگر اکثر ایک ران پر ہی گزارہ کر لیتے تھے۔ روٹی کو کھانی  
 ہو جاتی تھی بلکہ کبھی کبھی بی راکرنا تھا۔ پلاؤ بھی آپ کھاتے تھے مگر ہمیشہ نرم اور گداز اور کھلے بھی  
 بوئے چاولوں کا اور سیٹھے چاول تو کبھی خود کہہ کر کھالیا کرتے تھے۔ مگر گڑ کے اور وہی آپ کو پسند تھے  
 عمدہ کھانے یعنی کباب مرغ۔ پلاؤ یا انڈے اور اسی طرح غیر بنی سیٹھے چاول وغیرہ تب ہی آپ کہسکر

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبد اللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب نے بیان فرمایا کہ قرآن شریف کی جو آیات بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہیں۔ ادا ان پر بہت اعتراض ہوتے ہیں۔ دراصل ان کے نیچے بڑے بڑے معارف اور حقائق کے خزانے ہوتے ہیں۔ اور پھر مثال دیکر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی صورت ہے۔ جیسے خزانہ کی ہوتی ہے۔ جس پر سنگین پہرہ ہوتا ہے اور جو بڑے مضبوط کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ جس کی دیواریں نہایت سوتلی ہوتی ہیں اور دروازے بھی بڑے موٹے اور لوہے سے ڈھکے ہوتے ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے موٹے اور مضبوط تفل پہ گئے۔ آتے ہیں اور اسکے اندر بھی مضبوط آہنی صندوق ہوتے ہیں۔ جن میں خزانہ رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر صندوق بھی۔ جس کے اندر اندھیری کی ٹھنڈی اور دھانوں میں رکھے ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ہر شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ بمقابلہ شست گاہوں کے جو کھلے کمرے ہوتے ہیں اور دروازوں پر بھی۔ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے باہر والا شخص بھی اندر نظر ڈال سکتا ہے اور جو اندر آنا چاہے باسانی آسکتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبد اللہ صاحب سنوری نے کہ حضرت صاحب جب بڑی سجد میں جاتے تھے۔ تو گرمی کے موسم میں کنوئیں سے پانی نکھوا کر ڈول سے ہی منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ اور مٹی کی تازہ ٹینڈیا تازہ ہانجرہ میں پانی پینا آپ کو پسند تھا اور میاں عبد اللہ صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب نے مجھے جوئے کر کے پکڑے پسند کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھ سے منگوا کر سجد میں ٹپتے ٹپتے کھایا کرتے تھے۔ اور سالم ہنریخ کا کباب بھی پسند تھا۔ چنانچہ ہوشیار پور جاتے ہوئے ہم ہنریخ چکا کر ساتھ لے گئے تھے۔ مٹولی کی چٹنی اور گوشت میں مونگر سے بھی آپ کو پسند تھی۔ گوشت کی خوب ٹپنی ہوتی بوٹیاں بھی مرغوب تھیں۔ چپاتی خوب سکی ہوتی جو کھانے کو سخت ہو جاتی ہے پسند تھی۔ گوشت کا پتلا شوربہ بھی پسند کرتے تھے۔ جو بہت دیر تک پکتا رہا ہو۔ حتیٰ کہ اسکی بوٹیاں خوب گل کر شوربہ میں اس کا عرق بہنے دیا جیسے کنبین بھی پسند تھی یہاں

جان محمد مرحوم آپ کے واسطے سکنجبین تیار کیا کرتا تھا۔ نیز میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ گوشت زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ جو شخص چالیس دن لگاتار کثرت کے ساتھ صرف گوشت ہی کھاتا رہتا ہے۔ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فال بیزی۔ ترکاری کیساتھ بدل بدل کر گوشت کھانا چاہیے میرا کا گوشت ناپسند فرماتے تھے۔ بیٹھے چاول۔ گڑ یعنی قند سیاہ میں پکے ہوئے پسند فرماتے تھے ابتدا میں چلنے میں ویسی شکر جو گڑ کی طرح ہوتی ہے، ٹال کر استعمال فرماتے تھے شروع کے متعلق فرماتے تھے کہ گاڑھا کچھ جیسا ہم کو پسند نہیں آیا پتلا کرنا چاہیے کہ ایک آنہ کا گوشت آٹھ آدمی کھائیں۔ اس وقت ایک آنہ کا سیر خام گوشت آتا تھا۔

بسم الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری کے کہ ایک دفعہ کوئی شخص حضرت صاحب کے لئے ایک تسبیح تحفہ لایا وہ تسبیح آپ نے مجھے دیدی اور فرمایا لو اس پر ورد و شریف پڑھا کرو۔ وہ تسبیح بہت خوبصورت تھی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ تسبیح کے استعمال کو حضرت سید سعید عام طور پر پسند نہیں فرماتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ حضرت صاحب بیان فرماتے تھے کہ قیامت کو ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ اس سے دریافت کریگا کہ اگر تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہو تو بتاؤ مگر وہ نہیں بتا سکیگا۔ اسپر اللہ تم فرمائے گا۔ اچھا کیا تو کبھی کسی بزرگ شخص سے ملا تھا جو وہ جواب دیکھا کہ نہیں اسپر خدا فرمائے گا۔ اچھی طرح یاد کر کے جواب دے اسپر وہ بولے گا کہ ہاں ایک دفعہ میں ایک گلی میں سے گذر رہا تھا۔ تو میرے پاس سے ایک شخص گذر رہا تھا۔ جسکو لوگ بزرگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جلیسے تجھے اسی وجہ سے بخش دیا۔ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے ایک وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص کسی کام کے نیچے ناز پڑھتا ہے تو پتھر اسکے کوہ سجدہ سے اپنا سراٹھائے اللہ اسکے گناہ بخش دیتا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ کوئی منتر تبتلہ نہیں افلاص اور صحت نیت شرط ہے (یہ روایت زیادہ تفصیل کے ساتھ صفحہ دوم کی روایت ۲۵ میں بھی بیان ہوئی ہے)

میں سکھیں۔ کاشربت بہت استعمال فرمایا تھا۔ مگر پھر چھوڑ دی۔ ایک دفعہ آپ نے ایک لمبے عرصہ تک کوئی بھی ہوئی چیز نہیں کھائی صرف تھوڑے سے ذہی کیسانہ روٹی لگا کر کھا لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مکی کی روٹی بھی پسند کرتے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے جلے سے کچھ کھاتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے۔ کھانے کے بعد آپ کے سانس سے بہت سے ریزے اُٹتے تھے۔ ایک زمانہ میں آپ نے چائے کا بہت استعمال فرمایا تھا۔ مگر پھر چھوڑ دی۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ حضرت صاحب کھانا بہت تھوڑا کھاتے تھے۔ اور کھانے کا وقت بھی کوئی خاص مقرر نہیں تھا۔ صبح کا کھانا بعض اوقات بارہ بارہ ایک ایک بجے بھی کھاتے تھے۔ شام کا کھانا عموماً مغرب کے بعد گزرا کبھی پہلے بھی کھالیتے تھے۔ غرض کوئی وقت معین نہیں تھا۔ بعض اوقات خود کھانا مانگ لیتے تھے۔ کہ لاؤ کھانا تیار ہے۔ تو سے دو۔ پھر میں نے کام شروع کرنا ہے۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ آپ کس وقت کام کرتے تھے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ بس سارا دن کام میں ہی گذرتا تھا۔ انبجے ڈاک آتی تھی تو ڈاک کا مطالعہ فرماتے تھے۔ اور اس سے پہلے بعض اوقات تصنیف کا کام شروع نہیں فرماتے تھے۔ تاکہ ڈاک کی وجہ سے درمیان میں سلسلہ منقطع نہ ہو۔ مگر کبھی پہلے بھی شروع کر دیتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ حضرت صبح سویرے روزانہ اخبار عام لاہور منگاتے اور باقاعدہ پڑھتے تھے۔ اسکے علاوہ آخری ایام میں اور کوئی اخبار خود نہیں منگاتے تھے۔ ہاں کبھی کوئی مجید تیا تھا تو وہ بھی پڑھ لیتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ پہلے لنگر کا انتظام ہمارے گھر میں ہوتا تھا۔ اور گھر سے سارا کھانا پاک کر جاتا تھا۔ مگر جب آخری سالوں میں زیادہ کام ہو گیا۔ تو میں نے کہہ کر باہر انتظام کروا دیا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے دریافت کیا۔ کہ کیا حضرت صاحب کسی بہان کے

۵۶

جان محمد مرحوم آپ کے واسطے سکینجین تیار کیا کرتا تھا۔ نیز میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ گوشت زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ جو شخص چالیس دن لگاتار کثرت کے ساتھ صرف گوشت ہی کھاتا رہتا ہے۔ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فال بھری۔ ترکاری کیساتھ بدل بدل کر گوشت کھانا چاہیے بھڑکا گوشت ناپسند فرماتے تھے۔ بیٹھے چاول۔ گڑ یعنی قند سیاہ میں پکے ہوئے پسند فرماتے تھے ابتداء میں چلنے میں ویسی شکر جو گڑ کی طرح ہوتی ہو، فال استعمال فرماتے تھے شروع سے متعلق فرماتے تھے کہ گاڑھا کچر میسا ہم کو پسند نہیں ایسا تپلا کرنا چاہیے کہ ایک آنہ کا گوشت آٹھ آدمی کھائیں۔ اس وقت ایک آنہ کا سیر خام گوشت آتا تھا۔

بسم الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ کوئی شخص حضرت صاحب کے لئے ایک تسبیح تحفہ لایا وہ تسبیح آپ نے مجھے دیدی اور فرمایا لو اس پر درود شریف پڑھا کرو۔ وہ تسبیح بہت خوبصورت تھی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ تسبیح کے استعمال کو حضرت بیچ موعود عام طور پر پسند نہیں فرماتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ حضرت صاحب بیان فرماتے تھے کہ قیامت کو ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ اس سے دریافت کریگا کہ اگر تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہو تو بتاؤ مگر وہ نہیں بتا سکیگا۔ اسپر اللہ تم فرمائے گا۔ اچھا کیا تو کبھی کسی بزرگ شخص سے ملا تھا جو وہ جواب دے گا کہ نہیں اس پر خدا فرمائے گا۔ اچھی طرح یاد کر کے جواب دے اسپر وہ بولے گا کہ ہاں ایک دفعہ میں ایک گلی میں سے گذر رہا تھا تو میرے پاس سے ایک شخص گزرا تھا۔ جسکو لگ بزرگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جلیں تھے اسی وجہ سے بخش دیا۔ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے ایک وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص کسی کام کے نیچے نماز پڑھتا ہے تو پشیر سکے کہ وہ سجدہ سے اپنا سر اٹھائے اللہ کے گناہ بخش دیتا ہو۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ کوئی منتر پشیر نہیں افلاص اور صحت نیت شرط ہے (یہ روایت زیادہ تفصیل کے ساتھ حصہ دوم کی روایت ۲۵ میں بھی بیان ہوئی ہے)



اصحاب یسوزون پر بھی مسح کر لیا کرتے تھے جس میں سے ان کی انگلیوں کے پوسٹے باہر نکلے رہا کرتے۔

جوتی آپ کی ویسی ہوتی۔ خواہ کسی وضع کی ہو۔ پٹھواری۔ لاہوری۔ لدھیانوی سلیم شاہی ہر وضع کی بہن لیتے مگر ایسی جو کھلیا کھلی ہو۔ انگریزی بوٹ کبھی نہیں پہنا۔ گرگانی حضرت صاحب کو پہننے میں نہیں دیکھا۔

جوتی اگر تنگ ہوتی تو اس کی ایرٹی بٹھا لیتے۔ مگر ایسی جوتی کے ساتھ باہر تشریف نہیں لیجاتے تھے۔ اس کے ساتھ بیک چیز کا اور بھی ذکر کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ عصا ضرور رکھتے تھے۔ گھر میں یا جب مسجد مبارک میں روزانہ نماز کو جانا ہوتا۔ تب تو نہیں مگر مسجد اقصیٰ کو جانے کے وقت یا جب باہر سے وغیرہ کے لئے تشریف لاتے تو ضرور ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ اور جوتی اور مضبوط لکڑی کو پسند فرماتے مگر کبھی سپر سہارا پوجہ دیکر نہ پہنتے تھے جیسے اکثر ضعیف العمر آدمیوں کی عادت ہوتی ہے۔ موسم سرما میں ایک دہنسہ لیکر آپ مسجد میں نماز کے لئے تشریف لایا کرتے تھے جو اکثر آپ کے کندھے پر پڑا ہوا ہوتا تھا۔ اور اسے اپنے آگے ڈال دیا کرتے تھے جب تشریف رکھتے تو پھر پیروں پر ڈال لیتے۔

کپڑوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کوٹ۔ صدری۔ ٹوپی۔ عمامہ رات کو اتار کر تکیہ کے نیچے ہی رکھ لیتے۔ اور رات بھر جام کپڑے جنہیں جتنا لوگ شکن اور سیل سے بچانے کو الگ جگہ کھوشی پر ڈالنگ دیتے ہیں وہ بستر پر اور جسم کے نیچے نہ جاتے اور صبح کو ان کی ایسی حالت ہو جاتی کہ اگر کوئی نیشن کا دلدادہ اور سلوٹ کا دشمن ان کو دیکھ لے تو برہنہ لے۔

موسم گرما میں دن کو بھی اور رات کو تو اکثر آپ کپڑے اتار دیتے اور نہ بن چادر یا انگلی باندھ لیتے گرمی ڈانے بعض دفعہ بہت نخل لاتے تو اس کی خاطر بھی کرتے اتار دیا کرتے۔ تب بند اکثر نصف ساق تک ہوتا تھا۔ اور گھٹنوں سے اوپر ایسی حالتوں میں مجھے یاد نہیں کہ آپ برہنہ ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ کجیاں بھی رہتی تھیں۔ یہ یا تو رومال میں یا اکثر آزار بستہ میں باندھ کر رکھتے رہتی دار کوٹ پہننا آپ کی عادت میں داخل تھا۔ نہ ایسی رضائی اور چھکر باہر تشریف لاتے بلکہ پادری سفینڈ یا دھسے رکھتے تھے اور وہ بھی سر پہننے نہیں اوڑھتے تھے بلکہ کندھوں اور

تھے تو ناک سے بہت رطوبت بہتی تھی۔ حضرت صاحب آٹھے اور چاہا کہ ان کو گھسے رکھا  
 لیں۔ تاکہ ان کا شک دُودھ ہو مگر وہ اس وجہ سے کہ ناک بہ رہا تھا۔ پر سے پر سے کھینچتے  
 تھے۔ حضرت صاحب کھینچتے تھے۔ کہ شاید اسے تکلیف ہے اسلئے دُور ہوتا ہے چنانچہ  
 کافی دیر تک یہی ہوتا رہا کہ حضرت صاحب ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے اور وہ پر سے  
 پر سے کھینچتے تھے اور چونکہ میں معلوم تھا کہ اصل بات کیا ہے اسلئے ہم پاس کھڑے ہوتے بنے  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب ہم بچے تھے تو حضرت  
 مسیح موعود علیہ السلام خواہ کام کر رہے ہوں۔ یا کسی اور حالت میں ہوں ہم آپ کے  
 پاس چلے جاتے تھے۔ کہ آبا پیسہ دو اور آپ اپنے رد مال سے پیسہ کھول کر دے  
 دیتے تھے۔ اگر ہم کسی وقت کسی بات پر زیادہ اصرار کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے  
 کہ میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ زیادہ تنگ نہ کرو۔ فکرت و عرض کرنا ہو  
 کہ آپ معمولی نقدی وغیرہ اپنے رد مال میں جو بڑے سائز کا عمل کا بننا ہوتا تھا  
 باندھ لیا کرتے تھے اور رد مال کا رد عمر اکٹادہ واسکٹ کے ساتھ بدلوا لیتے یا کاج  
 میں بندھوا لیتے تھے۔ اور چابیاں انار بند کے ساتھ باندھتے تھے۔ جو بوجھ کر  
 بعض اوقات تنگ آتا تھا۔ اور والدہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں۔ کہ حضرت مسیح  
 موعود عموماً ریشمی ازار بند استعمال فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو پیشاب جلدی  
 جلدی آتا تھا اسلئے ریشمی ازار بند رکھتے تھے تاکہ کھلنے میں آسانی ہو اور اگر وہ  
 بھی پڑ جائے تو کھولنے میں وقت نہ ہو۔ سوئی ازار بند میں آپ سے بعض وقت  
 گرہ پڑ جاتی تھی۔ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔

(۶۹)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک  
 دفعہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت صاحب کو سب ہو گئی اور چھ ماہ تک بیمار  
 رہے۔ اور بڑی نازک حالت ہو گئی۔ حتیٰ کہ زندگی ہی ناامیدی ہو گئی۔ چنانچہ ایک  
 دفعہ حضرت صاحب کے چچا آپ کے پاس آکر بیٹھے۔ اور کہنے لگے کہ دنیا میں یہی حال  
 ہے۔ بسببی نے مرنا ہے۔ کوئی آگے گزر جاتا ہے۔ کوئی پیچھے جاتا ہے اس لئے

اور کسی قدر بیان کی بے احتیاطی کی بھی گنجائش رکھی جلتے۔ تو پھر بھی یہ واقعہ بہت تعجب کے قابل ہے۔

۴۵۰  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب بقا پوری نے مجھ سے بیان کیا۔ ایک دفعہ ایام جلسہ میں سیر سے واپسی پر جہاں اب مدرسہ تعلیم الاسلام ہے۔ حضور علیہ السلام تعویذی دیر کے لئے ٹھہر گئے۔ ایک دوست نے چادر بچھا دی جس کو پنجابی میں لوٹی کہتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام بیٹھ گئے۔ مگر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جو ابھی بچہ تھے کھڑے رہے اس پر حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا: میاں محمود تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس پر آپ چادر پر بیٹھ گئے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کا عام طریق یہ تھا۔ کہ یا تو اپنے بچوں کو صرف نام لیکر بلاتے تھے۔ اور یا خالی میاں کا لفظ کہتے تھے۔ میاں کے لفظ اور نام کو ملا کر بولنا مجھے یاد نہیں مگر ممکن ہے کسی موقع پر ایسا بھی کہا ہو۔

۴۵۱  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب بقا پوری نے مجھ سے بیان کیا۔ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اولؒ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا۔ کہ فلاں غیر احمدی مولوی حضرت صاحب (یعنی حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ) کے مضامین رسالہ تشعیرہ الاذنان میں پڑھ کر لکھتا ہے کہ مرزا صاحب کے بعد ان کا بیٹا ان کی دکان چلائیگا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر اٹھا کر صرف دیکھا۔ اور زبانی کچھ نہ فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دعا فرما رہے ہیں۔

۴۵۲  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاجاموں میں میں نے اکثر ریشمی ازار بند پڑا ہوا دیکھا ہے۔ اور ازار بند میں کنبول کا گچھا بندھا ہوا تھا۔ ریشمی ازار بند کے متعلق بعض اوقات فرماتے تھے۔ کہ ہمیں پیشاب کثرت سے اور جلدی جلدی آتا ہے۔ تو ایسے ازار بند کے کھولنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔

۴۵۳  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ ایک دفعہ حکیم فضل دین صاحب مرحوم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا۔ کہ حضور مجھے قرآن پڑھایا کریں۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا۔ وہ چاشت کے قریب مسجد مبارک میں آجاتے اور حضرت صاحب انکو

کہ میں پھر نو گاؤں میں چلا جاؤں اور بڑی بیتیاری سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا۔  
جلدی نہیں کرنی چاہیے اپنے وقت پر یہ خیر خود ہو جائیگا۔ میاں عبد اللہ صاحب بیان  
کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد میرا تبادلہ غوث گڑھ میں ہو گیا۔ جہاں میرا تبادلہ  
لگا کہ نو گاؤں کی سفارش دل سے بکل گئی۔ اور میں نے حضرت کے فرمان  
کی یہ تاویل کر لی کہ چونکہ غوث گڑھ بھی مسلمانوں کا گاؤں ہے اور اس میں مسجد  
ہے۔ اور یہاں میرا دل بھی خوب لگ گیا ہے اس لئے حضرت کے فرمان کے یہی معنی  
ہونگے۔ جو پوٹے سے ہونگے۔ مگر کچھ عرصہ بعد نو گاؤں کا حلقہ خالی ہوا۔ اور تحصیلدار نے  
میری ترقی کی سفارش کی اور لکھا کہ ترقی کی یہ صورت ہے کہ مجھے علاوہ غوث گڑھ کے  
نو گاؤں کا حلقہ بھی جو وہ بھی حصے سالانہ کا تھا۔ دیدیا جائے۔ اور دونوں حلقوں  
کی تنخواہ یعنی ماہانہ بجے دی جاوے۔ یہ سفارش بہاراج سے منظور ہو گئی اور  
اس طرح میرے پاس غوث گڑھ اور نو گاؤں دونوں حلقے آگئے۔ اور ترقی بھی  
ہو گئی۔ میاں عبد اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص اقتداری  
فعل تھا۔ ورنہ نو گاؤں غوث گڑھ سے پندرہ کوس کے فاصلہ پر ہے اور درمیان  
میں کسی غیر حلقے میں۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ غوث گڑھ کا تمام گاؤں میاں عبد اللہ  
صاحب کی تبلیغ سے احمدی ہو چکا ہے۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ یہ تمام دیہات ریاست  
پٹیالہ میں واقع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبد اللہ صاحب سنوری نے  
کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت صاحب کو ایک جسی گھڑی تحفہ دی۔ حضرت صاحب  
اسکو رد مال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے۔ زبیر نہیں لگاتے تھے۔ اور جب وقت  
دیکھنا ہوتا تھا۔ تو گھڑی نکال کر ایک کے ہند سے یعنی عدد سے گن کر وقت کا پتہ لگاتے  
تھے اور اٹھلی رکھ کر ہند سے گنتے تھے۔ اور منہ سے بھی گنتی جاتی تھی اور گھڑی دیکھتے ہی وقت  
نہ پہچان سکتے تھے۔ میاں عبد اللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کر  
اس طرح وقت شمار کرنا مجھے بہت ہی پیارا معلوم ہوتا تھا۔

۲۲۲

رکھا۔ بیمار ہو گیا۔ مگر اس کے بعد ۲۹ روزے پورے رکھے۔ تکلیف نہیں ہوئی۔ تب میرے لئے خوشی کی عید تھی۔ روزے کے خاص برکات ہوتے ہیں جیسا کہ ہر میوے میں جُدا ذائقہ ہے۔ ایسا ہی ہر عبادت میں جُدا لذت ہے۔ ان عبادات میں رُوحانیت ہے۔ جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اگر شوق ہو، تو آلام اور تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ چاہیے کہ عبادت میں انسان کی رُوح نہایت درجہ دقیق ہو کر پانی کی طرح بہ کر خدا سے جا ملے۔

## جماعت کی ترقی

فرمایا: "ہماری جماعت کو چاہیے کہ نیکی میں فرشتوں کی طرح ہو جائے۔ خدا نے ان کے لئے ترقی کے بہت سے سامان رکھے ہیں۔ اور وعدہ کیا ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت۔ سب سے بہتر یہ جماعت ہے جس نے ہم کو دیکھا۔ اور ہماری باتوں کو سنا۔ خدا کی طرف رجوع کر کے کوئی شخص ذلیل نہیں ہوتا۔ بدکاروں کی گالیاں تمہارے لئے کسی ذلت کا موجب نہیں۔ جو شخص سچے دل سے خدا کی طرف آتا ہے۔ وہی حقیقی عزت حاصل کرتا ہے۔"

## مسیح موعودؑ کا کام کیا تھا

۱۸ جنوری ۱۹۰۵ء کو جبکہ میں قادیان کے ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں ایک رقعہ لکھا تھا۔ جس کا اصل بعد جواب درج کرنا مناسب ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کی دلچسپی کا موجب ہوگا۔

رقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم : : : : : نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حضرت اقدس مُرشدنا و مہدینا مسیح موعودؑ

السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔

صاحبزادہ میاں محمود احمدؒ کا نام برائے امتحان (پڈل) آج ارسال کیا جائیگا۔

۲۲۵

جس فارم کی خانہ پُری کرنی ہے۔ اس میں ایک خانہ ہے۔ کہ اس لڑکے کا باپ کیا کام کرتا ہے۔ میں نے وہاں لفظ نبوت لکھا ہے۔

کان میں طنین ہوتا ہے۔ گولیوں کا کھانا اگر مناسب ہو، تو ارسال فرمائیں حضور کو بار بار تکلیف دیتے بھی شرم آتی ہے۔ اگر مناسب ہو، تو اس کا نسخہ تحریر فرمائیں۔ میں خود بنا لوں + والسلام

حضور کی جوتیوں کا غلام محمد صادق عفا اللہ عنہ ۱۸ جنوری ۱۹۰۵ء

جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

نبوت کوئی کام نہیں، یہ لکھ دیں کہ فرقہ احمدیہ جو تین لاکھ کے قریب ہے اس کے پیشوا اور امام ہیں۔ اصلاح قوم کام ہے + غلام احمد معنی عنہ پس میں نے اس فارم پر حضرت کا نام یوں لکھا۔

National Reformation and Leadership of Ahmadis  
it (see our members.)

## پورانی نوٹ بک ۱۹۰۵ء

### ساری اُمت عیسیٰ بن جائے

فرمایا: "آج کل کے مسلمان عیسیٰ کو اُمتی بنا نا چاہتے ہیں۔ اور ہم ساری اُمت کو عیسے بنا نا چاہتے ہیں۔ یہی فرقہ ہم میں اور ان میں ہے"

نوٹ۔ ۱۸ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا۔ معذہ میں کچھ خرابی تھی۔ بخار ہو جاتا تھا۔ حضرت صاحب (مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام) ایک نسخہ کے تازہ اجزاء ہر روز منگو کر ایک گولی اپنے دست مبارک سے بنا کر مجھے بھیجتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ اسکے اجزاء مجھے اس وقت معلوم نہ تھے۔ بعد میں حضرت صاحب نے مجھے بتلا دیئے تھے + (صادق)

یہاں ایک پنکھا لالینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ پنکھا تو لگا سکتا ہے۔ اور پنکھا ہلانے والے کا بھی انتظام کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب ٹھنڈی ہوا چلے گی تو بے اختیار زیند آنے لگی اور ہم سو جائیں گے تو یہ مضمون کیسے ختم ہو گا؟  
(اس وقت حضرت صاحب ایک رسالے کا مضمون لکھ رہے تھے۔)

## گرمی میں بھی کام جاری رکھتے

ایک دفعہ جب سخت گرمی پڑی، تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک مضمون لکھا جس میں گرمی کا اظہار کرتے ہوئے، اور گرمی کے سبب کام نہ کر سکنے کی معذرت کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی لکھ دیئے۔ کہ گرمی ایسی سخت ہے۔ کہ اس کے سبب سے خدا کی مشین بھی بند ہو گئی ہے۔ اس میں مولوی صاحب مرحوم نے اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی شدت گرمی کے سبب کام چھوڑ دیا ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مضمون سنا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ یہ تو غلط ہے، ہم نے تو کام نہیں چھوڑا۔

## پہاڑ پر جانا

ایک دفعہ کسی دوست نے عرض کی۔ کہ گرمی بہت ہے۔ حضور کسی پہاڑ پر تشریف لے چلیں۔ فرمایا۔ ہمارا پہاڑ تو قادیان ہی ہے۔ یہاں چند روز ڈھوپ تیز ہوتی ہے۔ تو پھر بارش بھی آجاتی ہے۔

## سب کا جب تازہ پڑھ دیا

قاضی سید امیر حسین صاحب کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہونے پر جنازے کیساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تشریف لگئے۔ اور خود ہی جنازہ پڑھایا۔ عموماً جنازے کی نمازیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر موجود ہوتے، تو خود ہی امامت کرتے۔ اس وقت

۲۲

بڑا پے میں کیا طلاق ہو گئی۔ بس مجھے خبیث ملا ہے۔ میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔  
والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا اور  
آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کر دیا اور  
فضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا۔ بلکہ ان کے ساتھ رہیں۔ تب حضرت  
صاحب نے ان کو طلاق دیدی خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کا یہ طلاق  
دینا آپ کے اس اشتہار کے مطابق تھا۔ جو آپ نے ۲۲ مئی ۱۹۹۱ء کو شائع کیا تھا  
اور جسکی سرخی تھی "اشتہار حضرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین"۔  
اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر مرزا سلطان احمد اور ان کی والدہ اس امر میں  
مخالفت کو کشش سے الگ ہو گئے۔ تو پھر آپ کی طرف سے مرزا سلطان احمد عاق  
اور محروم الارث ہو گئے اور ان کی والدہ کو آپ کی طرف سے طلاق ہو گی والدہ جنا  
فرماتی تھیں۔ کہ فضل احمد نے اس وقت اپنے آپ کو عاق ہونے سے بچا لیا۔ نیز والدہ  
صاحبہ نے فرمایا۔ کہ اس واقعے کے بعد ایک دفعہ مرزا سلطان احمد کی والدہ بیمار ہوئیں  
تو چونکہ حضرت صاحب کی طرف سے مجھے اجازت تھی۔ میں انہیں دیکھنے کے لئے  
گئی۔ واپس آ کر میں نے حضرت صاحب سے ذکر کیا۔ کہ پختے کی ماں بیمار ہے۔  
اور یہ تکلیف ہے۔ آپ خاموش رہے۔ میں نے دوسری دفعہ کہا تو فرمایا میں تمہیں  
دو گولیاں دیتا ہوں۔ یہ دسے آؤ۔ مگر اپنی طرف سے دینا میرا نام نہ لینا۔ والدہ صاحبہ  
فرماتی تھیں کہ اور بھی بعض اوقات حضرت صاحب نے اشارۃً کنایۃً مجھ پر ظاہر  
کیا کہ میں ایسے طریق پر کہ حضرت صاحب کا نام درمیان میں نہ آئے اپنی طرف  
سے کبھی کچھ مدد کر دیا کروں سو میں کرنا کرتی تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے شیخ عبدالرحمن صاحب مصری نے  
کہ ایک دفعہ حضرت شیخ سعد علیہ السلام نماز ظہر کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے۔ ان  
دونوں میں آپ نے شیخ سعد اللہ صیافی کے متعلق لکھا تھا کہ یہ ابتر رہیگا  
اور اس کا بیٹا جو اب موجود ہے۔ وہ نامرد ہے۔ گویا اس کی اولاد آگے نہیں چلیگی

(۲۲)



افکار عرض کرتا ہے کہ سعد اللہ سنت معاند تھا اور حضرت سیح موعود کے خلاف بہت بیہودہ گوئی کیا کرتا تھا، مگر ابھی آپ کی یہ تحریر شایع نہ ہوئی تھی۔ اس وقت مولوی محمد علی صاحب نے آپ سے عرض کیا۔ کہ آپ بلکنا قانون کے خلاف ہے۔ اس کا نڈکا اگر مقدمہ کرے تو پھر اس بات کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ کہ وہ واقعی نامرد ہے۔ حضرت صاحب پہلے نرمی کے ساتھ مناسب طریق پر جواب دیتے رہے۔ مگر جب مولوی محمد علی صاحب نے بار بار پیش کیا۔ اور اپنی رائے پر اصرار کیا تو حضرت صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے غصے کے لہجہ میں فرمایا:۔ جب نبی ہتھیار لگا کر باہر آجاتا ہے تو پھر ہتھیار نہیں اُتارتا۔

(۲۳)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والد صاحب نے کہ حضرت سیح موعود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب اوائل میں تعلیم کے لیے بابر گئے۔ تو شاید وہی کی بات ہے کہ وہ ایک مسجد میں ٹیچر ہوئے تھے۔ چونکہ زاد ختم ہو گیا تھا۔ کئی وقت فلتے گذر گئے تھے۔ آخر کسی نے ان کو طالب علم بھجوا کر ایک چپاتی دی۔ جو بوجہ باسی ہو جانے کے خشک ہو کر نہایت سخت ہو چکی تھی۔ والد صاحب نے لے لی۔ مگر ابھی کھائی نہ تھی۔ کہ آپ کا ساتھی جو قادیان کا کوئی شخص تھا۔ اور اس پر یہی اسی طرح فاقہ تھا۔ بولا۔ مرزا جی ساٹھاویں سیانہ لکھنا۔ یعنی مرزا صاحب ہمارا بھی خیال رہے۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ اسپر والد صاحب نے وہ چپاتی اسکی طرف پھینک دی۔ جو اتفاق سے اسکے ناک کے اوپر لگی۔ اور لگتے ہی وہاں سے ایک خون کی نالی بہ نکلی۔ فاکسار مرض کرتا ہے۔ کہ والد صاحب نے بیان کیا۔ کہ ساتھی بھی قادیان کا کوئی منغل تھا۔ مگر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت صاحب سے سنا ہے کہ وہ کوئی نالی یا میرا سی تھا۔ چنانچہ حضرت صاحب لطیفہ کے طور پر بیان فرماتے تھے۔ کہ ان لوگوں کو ایسے موقع پر بھی ہنسی کی بات ہی سوجھتی ہے۔

(۲۴)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والد صاحب نے کہ تمہارے

پاجامہ اُتار کر تہ بند باندھ لیتے تھے اور عموماً گرتے بھی اُتار کر سوتے تھے اینٹز خان کا  
عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود جب رفع حاجت کے بعد طہارت سے فارغ  
ہوتے تھے۔ تو اپنا ناقہ مٹی سے مل کر پانی سے دھوتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام  
بعض اوقات گھر میں بچوں کو بعض کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک  
بڑے بھلے کی کہانی بھی آپ عموماً سناتے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک  
بُرا آدمی تھا اور ایک اچھا آدمی تھا۔ اور دونوں اپنے رنگ میں کام کئے اور  
آخر کار بڑے آدمی کا انجام بُرا ہوا اور اچھے کا اچھا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا  
کہ ایک بیگن کی کہانی بھی آپ سناتے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا۔ کہ ایک آقا تھا  
اسنے اپنے نوکر کے سامنے بیگن کی تعریف کی تو اسنے بھی بہت تعریف کی  
چند دن کے بعد آقائے مذمت کی۔ تو نوکر بھی مذمت کرنے لگا۔ آقائے  
پوچھا یہ کیا بات ہے کہ اسدن تو تو تعریف کرتا تھا۔ اور آج مذمت کرتا ہو۔  
نوکر نے کہا۔ میں تو حضور کا نوکر ہوں۔ بیگن کا نوکر نہیں ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ایک دفعہ ہم تینوں بھائیوں  
نے مل کر ایک ہوائی بندوق کے منگانے کا ارادہ کیا۔ مگر ہم فیصلہ نہ کر سکتے تھے کہ  
کوئی منگوائیں۔ آخر ہم نے قرعہ لکھ کر حضرت صاحب سے قرعہ اٹھوایا۔ اور جو  
بندوق نکلی وہ ہم نے منگالی اور پھر اس سے بہت شکار کیا (یہ ۲۲ بور کی بی۔  
ایس اے ائیر رائفل تھی)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ایک دفعہ ہم گھر کے  
بچے ملکر حضرت صاحب کے سامنے میاں شریف احمد کو چھڑنے لگ گئے۔  
کہ ابا کو تم سے محبت نہیں ہے اور ہم سے ہے میاں شریف بہت چڑتے  
تھے۔ حضرت صاحب نے ہمیں روکا بھی کہ زیادہ تنگ نہ کرو مگر ہم بچے تھے  
لگے رہے۔ آخر میاں شریف رونے لگ گئے۔ اور انکی عادت تھی کہ جب روتے

تھے تو ناک سے بہت رطوبت بہتی تھی۔ حضرت صاحب آٹھے اور چاہا کہ ان کو گھسے لگا لیں۔ تاکہ ان کا شک دُود ہو مگر وہ اس وجہ سے کہ ناک بر نہا تھا۔ پر سے پر سے کھینچتے تھے۔ حضرت صاحب کہتے تھے۔ کہ شاید اسے تکلیف ہے اسلئے دُور ہٹتا ہے چنانچہ کمانی و برنگ یہی ہوتا رہا کہ حضرت صاحب ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے اور وہ پر سے پر سے کھینچتے تھے اور چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اصل بات کیا ہے اسلئے ہم پاس کھڑے ہنستے بنائے

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائبانہ عرض کرتا ہے کہ جب ہم بچکے تھے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام خواہ کام کر رہے ہوں۔ یا کسی اور حالت میں ہوں ہم آپ کے پاس چلے جاتے تھے۔ کہ آبا پیہ دو اور آپ اپنے رد مال سے پیسہ کھنڈل کر دے دیتے تھے۔ اگر ہم کسی وقت کسی بات پر زیادہ اصرار کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ زیادہ تنگ نہ کرو۔ ناک نہ عرض کرتا رہی کہ آپ معمولی نقدی وغیرہ اپنے رُو مال میں جو بڑے ساز کا ٹلس کا بڑا ہوتا تھا باندھ لیا کرتے تھے اور رد مال کا دوسرا کٹا رہا واسکٹ کے ساتھ بدلوا لیتے یا کاج میں بندھوا لیتے تھے۔ اور چابلیں اٹار بندھ کے ساتھ باندھتے تھے۔ جو جو جہ کی بعض اوقات تنگ آتا تھا۔ اور والدہ صاحبہ بیابح فرماتی ہیں۔ کہ حضرت مسیح موعود عموماً ریشمی ازار بند استعمال فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو پیشاب جلدی جلدی آتا تھا اسلئے ریشمی ازار بند رکھتے تھے تاکہ کھلنے میں آسانی ہو اور اگر وہ بھی بڑ جاوے تو کھولنے میں وقت نہ ہو۔ سو لی ازار بند میں آپ سے بعض وقت گرہ پڑ جاتی تھی۔ تو آپ کہ بڑی تکلیف ہوتی تھی۔

(۹۶) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت صاحب کو سہل ہو گئی اور چھ ماہ تک بیمار رہے۔ اور بڑی نازک حالت ہو گئی۔ حتیٰ کہ زندگی سے ناامیدی ہو گئی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے چچا آپ کے پاس آکر بیٹھے۔ اور کہنے لگے کہ دنیا میں یہی حال ہے۔ سبھی نے فرمایا ہے۔ کوئی آگے گزر جاتا ہے۔ کوئی پیچھے جاتا ہے اس لئے

کہ باوجود صدمہ عوائق اور موانع کے محض خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد نے اس حصہ کو خلعت وجود بخشا۔ چنانچہ اس حصہ کے چند اوائل ورق کے ہر ایک صفحہ کے سر پر نصوت الحق لکھا گیا مگر پھر اس خیال سے کہ تا یاد دلایا جائے کہ یہ وہی براہین احمدیہ ہے جس کے پہلے چار حصے طبع ہو چکے ہیں بعد اسکے ہر ایک سر صفحہ پر براہین احمدیہ کا حصہ پنجم لکھا گیا۔ پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر کٹاؤ کیا گیا۔ اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اسلئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔

دوسرا سبب اس التوا کا جو تین برس تک حصہ پنجم مکھانا گیا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان لوگوں کے دلی خیالات ظاہر کرے جن کے دل مرض بدگمانی میں مبتلا تھے اور ایسا ہی ظہور میں آیا۔ کیونکہ اس قدر دیر کے بعد علم طبع و لکھنے میں بڑھ گئے۔ یہاں تک کہ بعض ناپاک فطرت گالیوں پر اتر آئے اور چار حصے اس کتاب کے جو طبع ہو چکے تھے کچھ تو مختلف قیمتوں پر فروخت کئے گئے تھے اور کچھ مفت تقسیم کئے گئے تھے۔ پس جن لوگوں نے قیمتیں دی تھیں اکثر نے گالیاں بھی دیں اور اپنی قیمت بھی واپس لی۔ اگر وہ اپنی جلد بازی سے ایسا نہ کرتے تو ان کے لئے اچھا ہوتا۔ لیکن اس قدر دیر سے ان کی فطرتی حالت آدمائی گئی۔

اس دیر کا ایک یہ بھی سبب تھا کہ تا خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر ظاہر کرے کہ یہ کار دیار اس کی مرضی کے مطابق ہے اور یہ تمام الہام جو براہین احمدیہ کے حصوں سابقہ میں لکھے گئے ہیں یہ اسی کی طرف سے ہیں نہ انسان کی طرف سے۔ کیونکہ اگر یہ کتاب خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہوتی اور یہ تمام الہام اس کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ امر خدائے عادل و مقدر کی عادت کے برخلاف تھا کہ جو شخص

اور ثابت قدمی اور روحانی زندگی اور استقامت اور اخلاق نبوت عطا کرتا ہے۔ اس لئے وہ معمولی دنیا داروں کی طرح اس مالی صدمہ کی برداشت نہ کر سکے اور اسی غم کو دن بدن کوفتہ ہو کر انکی رُوح تحلیل ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ یہ مُردار دنیا جسکو وہ بڑا مدعا سمجھتے تھے۔ ایک دم میں ان سے جدا ہو گیا۔ گویا وہ کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جیسا کہ غم اور صدمہ مالی کے وقت میں دلی کمزوری ان سے ظہور میں آئی۔ اور اس مصیبت سے غشی بھی ہو گئی اور آخر اسی میں انتقال فرما گئے۔ ایسا ہی دوسرے پہلو کی وجہ سے یعنی جب انکو دنیا کی عزت اور مرتبت اور عروج اور ناموری حاصل ہوئی۔ تو ان ایام میں بھی ان سے اس دوسرے رنگ میں سخت کمزوری ظہور میں آئی۔ انکے وقت میں خدا نے یہ آسمانی سلسلہ پیدا کیا۔ مگر انھوں نے اپنی دنیوی عزت کی وجہ سے اس سلسلہ کو ایک ذرہ عظمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ بلکہ اپنے ایک خط میں کسی اپنے ر و آشنا کو لکھا کہ یہ شخص جو ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ بالکل بیخ ہے اور اسکی تمام کتابیں لغو اور بے سود اور باطل ہیں۔ اور اس کی تمام باتیں ناراستی سے بھری ہوئی ہیں۔ حالانکہ سرسید صاحب اس بات سے بکلی محروم ہے کہ کبھی میرے کسی چھوٹے سے رسالہ کو بھی اول سے آخر تک دیکھیں۔ وہ غصے کے وقت میں دنیوی رعونت سے ایسے مدہوش تھے کہ ہر ایک کو اپنے پیروں کے نیچے کہتے تھے اور یہ دکھلاتے تھے کہ گویا انکو دنیوی حیثیت کے رُو سے ایسا عروج ہے کہ انکا کوئی بھی ثانی نہیں۔ ہنسی اور ٹھٹھا کرنا اکثر انکا شیوہ تھا۔ جب میں ایک دفعہ علیگڑھ میں گیا۔ تو مجھ سے بھی اسی رعونت کی وجہ سے جس کا محکم پوہہ انکے دل میں مستحکم ہو چکا تھا ہنسی ٹھٹھا کیا۔ اور یہ کہا کہ آؤ۔ میں فرید بننا ہوں اور آپ مُرشد بنیں اور حیدرآباد میں چلیں اور کچھ جھوٹی کرامات

۲۶۸

دکھائیں اور میں تعریف کرتا پھروں گا۔ تب ریاست اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ایک لاکھ روپیہ سے بیگی۔ اس میں دو حصے میرے اور ایک حصہ آپ کا ہوا۔ گویا اس تقریر میں وہ ٹھگ جو سادھو کہلاتے ہیں مجھے قرار دیا۔ ایسا ہی اور کئی باتیں تھیں جن کا اب انکی وفات کے بعد کھنابے فائدہ ہے۔ اس قدر تحریر سے غرض یہ ہے کہ اس پہلو کی کمزوری بھی ان میں موجود تھی جو دولت اور عزت اور ناموری تک پہنچ کر تکبر اور نخوت اور رعونت اور خود پسندی کے رنگ میں ظہور میں آتی ہے۔ اور یہ ان کا قصور نہیں ہے بلکہ ہر ایک دنیا دار کا ہی حال ہے کہ وہ دو قسم کی کمزوری اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو مولوی کے خطاب سے مشہور ہے۔ وہ اپنے تئیں مولوی کہلا کر نہیں چاہتا کہ دوسرے کا عزت سے نام بھی لے۔ بلکہ اسکی بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر وہ دوسرے کو منشی بھی کہدے۔ بہت دولت مند رئیس یا مسلمان حکام ہیں۔ وہ اس بات کو اپنے لئے سخت عار سمجھتے ہیں کہ کسی کو السلام علیکم کا جواب دیں اور اگر کوئی السلام علیکم کہے تو بہت برا مانتے ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو سزا دیدیں۔ یہ تمام کمزوری کے طریق ہیں۔ اور اس کو چراغ نبوت سے روشنی لینے والے اخلاقی کمزوری سے نامزد کرتے ہیں۔ غرض سید احمد خاں صاحب کی موت بھی آخر کمزوری کی وجہ سے ہوئی۔ خدا ان پر رحم کرے۔

اب ہم اس اشتہار مورخہ ۱۲۔ مارچ ۱۸۹۶ء کو جس میں سید احمد خاں صاحب کی موت کی نسبت پیشگوئی ہے۔ بعینہ اس جگہ درج کر دیتے ہیں۔ اور یہ اشتہار لاکھوں انسانوں میں مشہور ہو چکا ہے۔ اور ہم بہت سے لوگوں کو قیاد از وقت زبانی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے معلوم کرا دیا ہے کہ اب فقیر سید صاحب فوت ہو جائیں گے۔ اور اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۹۶ء

۲۴۰

یہ حوالہ صفحہ 85 پر درج ہے

تریاق القلوب صفحہ 339، 340 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 467، 468 از مرزا قادیانی

موجود لوگوں کے لئے مفید ہے میں اُسکو دیر تک رکھوں گا۔ تجھے ایسا غلبہ دیا جائیگا جس کی تعریف ہوگی اور کاذب کا خدا دشمن ہے اُس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ ایک موسیٰ ہے میں اُسکو ظاہر کرونگا۔ اور لوگوں کے سامنے اُس کو عزت دوں گا۔ لیکن جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اُس کو گھسیٹوں گا اور اُسکو دوزخ دکھلاؤں گا۔ میرا دشمن ہلاک ہو گیا اور اب معاملہ اُس کا خدا سے جا پڑا یعنی ہلاک ہو جائیگا۔ اسے چاند اور اُسے سورج تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے غنقریب خدا تجھے وہ انعام دیگا کہ تو راضی ہو جائے گا۔

یہ وہ الہامات ہیں جو عصائے موسیٰ کے الہامات شائع ہونے کے بعد مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس چھ برس کی مدت میں ہوئے جب سے کتاب عصائے موسیٰ تصنیف ہو کر شائع ہوئی ہے۔ اسی وقت سے یہ الہامات شروع ہوئے اور یہ سب الہامات بابو صاحب کی موت سے پہلے کے ہیں۔ اب ناظرین عصائے موسیٰ کے الہامات اور ان الہامات کا مقابلہ کر کے خود ہی بتلاویں کہ انجام کار یہ الہامات سچے ہوئے یا بابو الہی بخش صاحب کے الہام سچے ہوئے۔ ایک منصف کیلئے تو یہ مقابلہ کافی ہے۔ اسی سے سچا جھوٹا معلوم ہو جاتا ہے اور اگر نیت میں صفائی نہیں تو ایسے شخص کا فیصلہ خدا تعالیٰ خود کرے گا۔

نشان نمبر ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱۔ قادیان کے آریوں نے محض مجھے دکھ دینے اور بزبان کرنے کے لئے ایک اخبار قادیان میں نکالا تھا جس کا نام شہہ چنتک رکھا تھا اور ایڈیٹر اور منتظم اسکے تین آدمی تھے۔ ایک کا نام سومراج۔ دوسرے کا نام اچھر چند۔ تیسرے کا نام جگت رام تھا۔ ان تینوں کی موت سے خدا کے تین نشان ظاہر ہوئے یہ تینوں نہایت درجہ موذی اور ظالم تھے۔

جس شخص نے ان کے اخبار شہہ چنتک کے چند پرچے دیکھے ہونگے وہ اس بات کا اقرار کریگا کہ یہ تمام پرچے بدزبان اور گند اور افتراء سے بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اخبار مذکور کے پرچہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۶ء میں میری نسبت لکھا ہے کہ یہ شخص خود پرست ہے نفس پرست ہے فاسق ہے قاجر ہے۔ اس واسطے گندی اور ناپاک خوابیں اس کو آتی ہیں۔

پھر پرچہ ۱۵ مئی ۱۹۰۶ء میں لکھا ہے۔ قادیانی مسیح کے الہاموں اور اسکی بیست گویوں کی

اصولیت طشت از بام کرنے کا ذمہ اٹھانے والا ایک ہی پرچہ شہد چٹنگ ہے۔ مرزا قادیانی  
بد اخلاق۔ شہرت کا خواہاں۔ شکم پرور ہے

اور پھر پرچہ ۲۲ مئی سنہ ۱۹۰۳ء میں میری نسبت لکھا ہے۔ کبھی کمانے سے غار رکھنے والا۔  
مگر اور فریب اور جھوٹ میں مشاق۔ اور پھر پرچہ ۲۲ دسمبر سنہ ۱۹۰۳ء میں لکھا ہے ہم انکی چالاکیوں کو  
ضرور طشت از بام کرینگے اور ہمیں امید بھی ہے کہ ہم اپنے ارادہ میں ضرور کامیاب ہونگے۔

اور پرچہ ۲۲ دسمبر سنہ ۱۹۰۳ء میں لکھا ہے مرزا مبارک اور جھوٹ بولنے والا ہے مرزا کی جماعت کے  
لوگ بد چلن اور بد معاش ہیں۔ غرض ہر ایک پرچہ ان کا ناپاک گالیوں سے بھرا ہوا نکلتا رہا ہے۔

میں نے کئی مرتبہ جناب الہی میں دعائیں کیں کہ خدا اس اخبار کے کارکنوں کو نابود کر کے اس فتنہ کو  
درمیان سے اٹھائے چنانچہ کئی مرتبہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ خدا تعالیٰ ان کی بیخ کنی کرے گا۔ زیادہ تر

میرے پر ناگوار یہ امر تھا کہ چونکہ یہ لوگ قادیان میں رہتے تھے اس لئے ان کے قرب مکانی  
کی وجہ سے ان کے جھوٹ کو بطور سچ کے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی اپنے اخبار

یکم مارچ سنہ ۱۹۰۳ء میں محض دھوکا دینے کے لئے یہ شایع کیا ہے کہ ہم نے... پندرہ سال تک  
متواتر پہلو بہ پہلو ایک ہی قصبہ میں ان کے ساتھ رہ کر ان کے حال پر غور کی تو اتنی غور کے

بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص درحقیقت مکار۔ خود غرض۔ عسرت پسند۔ بد زبان۔  
وغیرہ وغیرہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ پندرہ سال کی ہمسایگی کا دعویٰ کر کے یہ گواہی

دیتے ہیں کہ یہ شخص درحقیقت مکار اور مفتری ہے ایسے لوگوں کی گواہی کا کس قدر دلوں کو  
اثر پڑ سکتا ہے۔ پھر اسی پرچہ میں لکھا ہے کہ نشان تو ہم نے اس مدت تک کوئی نہیں دیکھا البتہ

یہ دیکھا ہے کہ یہ شخص ہر روز جھوٹے الہام بناتا ہے ایک لاشانی بیوقوف ہے۔  
پس یہی باعث تھا کہ مجھے ان لوگوں کے حق میں بد دعائیں کرنی پڑیں۔ آخر میں نے ایک

رسالہ لکھا جس کا نام ہے قادیان کے آریہ اور ہم اس رسالہ کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ  
قادیان کے وہ آریہ جن میں سے ایک کا نام شہریت اور دوسرے کا نام ہے طاواہل۔ یہ



کی پیشگوئی پوری ہوئی۔

غافل مشوگر عاقبتی دریاب کر صاحبہلی ۛ شاید کہ نتواں یا نقتن دیگر چنیں ایام را

آئینہ کمالات اسلام کے شائقین کیلئے اطلاع

اس وقت ایک کتاب آئینہ کمالات اسلام نام سے تالیف کی ہے جس میں بڑی تحقیق و تدقیق سے اسلام اور قرآن کریم کی خوبیوں اور کمالات کا بیان ہے۔ اور علاوہ اس کے مخالفین مذہب کے عقاید باطلہ کا رد ہے اور فرقہ پرستی کے خیالات باطلہ کا بھی اچھی طرح اسیصال کیا گیا ہے۔ بنیاد میں اس کی سارے صفحہ سو صفحہ سے زیادہ ہے قیمت دو روپیہ اور محصول علاوہ ہے۔ اور ما سوا اس کے مفصل ذیل کتاب میں بھی موجود ہیں۔ فتح اسلام۔ توفیح مرام۔ ہزارہ نام حصول علاوہ ہے اور فتح اسلام اور توفیح مرام کی قیمت آٹھ آنے تھی۔ اب ہم نے چار آنے کم کر دیئے ہیں۔

المشہور

مرزا غلام احمد قادیان غلع گورد اسپورہ پنجاب

(مطبوعہ ریاض ہند پریس قادیان)

۴۱

## اشتہار

چونکہ رسالہ سراج منیر جو پیشگوئیوں پر مشتمل ہوگا۔ چودہ سو روپیہ کی لاگت سے چھپے گا۔ اس لیے چھپنے سے پہلے خریداروں کی درخواستیں آنا ضروری ہے۔ تا بعد میں دقتیں پیدا نہ ہوں۔ قیمت اس رسالہ کی ایک روپیہ علاوہ محصول ہوگی۔ لہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جو صاحب پختہ ارادہ سے سراج منیر کو خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی درخواست مع پتہ سکونت وغیرہ کے ارسال فرمائیں۔ جب ایک حصہ کافی درخواستوں کا آجائے گا تو فی الفور کتاب کا طبع ہونا شروع ہو جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

خاکسار غلام احمد از قادیان

جن صاحبوں کو اس رسالہ کی ضرورت ہو وہ اپنا نام مع پتہ و نشان نقشہ ذیل میں لکھ دیں

نمبر شمارہ	نام	پتہ و نشان	العبد
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			

اطلاع ضروری۔ ایک کتاب لاجواب مسنی بہ شہتہ حتی جس میں ویدک فلاسفی اور آریہ مذہب کی حقیقت صاف صاف اور کافی طور سے کھول دی گئی ہے۔ چھپ کر تیار ہو چکی ہے۔ قیمت اس کتاب کی ۱۲ روپیہ علاوہ محصول ڈاک مقرر ہوئی ہے جس صاحب کو منظور ہو بار سال قیمت نقد یا دیویو پیے ایبل پارسل طلب کرے۔

(یہ اشتہار بتاریخ دہرہ ۱۹۹۲ء کے ایک صفحہ کا ہے)

## اشہار کتاب آئینہ کمالات اسلام

يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم

اسے ایماندارو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔

اے عزیزانِ مدو دین متبیں ان کا سے مست کہ بصد زہد ملتہ نہ شود انسان را

۱۱ صبح ہو کہ یہ کتاب بس کا نام نامی عنوان میں درج ہے۔ ان دنوں میں اس عاجز نے اس فرض سے لکھی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو قرآن کریم کے کمالات معلوم ہوں اور اسلام کی اعلیٰ تعلیم سے ان کو اطلاع ملے اور میں اس راستے کی شہینہ ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے اسکو لکھا کہ یہ کتاب میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اول اس کو آخر تک اسکے لکھنے میں آپ مجھ کو عجیب و غریب مددیں دی ہیں اور وہ عجیب لطافت و نکات اس میں بھر بیٹھے ہیں کہ جو انسان کی معمولی طاقتوں سے بہت بڑھ کر ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے یہ اپنا ایک نشان دکھلایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کیونکر اسلام کی غربت کے زمانہ میں اپنی خاص تائید دہی کے ساتھ اسکی حمایت کرتا ہو اور کیونکر ایک عاجز انسان کے دل پر تحمل کر کے لاکھوں ہاریوں کے منعموں کو خاکد میں طاقا اور آنکے حملوں کو پاش پاش کر کے دکھلا دیتا ہے۔ مجھے یہ بڑی خواہش ہے کہ مسلمانوں کی اطلاع اور اسلام کے شرف اور اہمیت کے سامنے نئے علوم کی لغزشیں ان میں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کتاب کو دیکھیں۔ اگر مجھے وسعت ہوتی تو میں تمام جلدوں کو مفت بھند تقسیم کرتا۔ عزیزو! یہ کتاب قدرت حق کا ایک نمونہ ہے اور انسان کی معمولی کوششیں خود بخود اس قدر ذخیہ عبادت کا پیدا نہیں کر سکتیں۔ اسکی ضخامت چھ سو صفحوں کے قریب ہے اور کاغذ عمدہ اور کتاب خوشخط اور قیمت دو روپیہ اور محصول علاوہ ہر اور یہ صرف ایک حصہ ہے اور دوسرا حصہ الگ طبع ہو گا اور قیمت اسکی الگ ہوگی۔ میں علامہ ستان و معارف قرآنی اور لطافت کتاب رب عزیز کے ایک وافر حصہ ان پیشگوئیوں کا بھی موجود ہے جن کو اول سراج منیر میں شائع کرنے کا ارادہ تھا۔ اور میں اس بات پر راضی ہوں کہ اگر خریداران کتاب میری اس تعریف کو خلاف واقعہ پاویں تو کتاب مجھے واپس کر دیں میں بلا توقع انکی قیمت واپس بھیج دوں گا لیکن یہ شرط ضروری ہے کہ کتاب کو دو پختے کے اندر واپس کریں اور دست مالیدہ اور داغی نہ ہو۔

انہی میں یہ بات بھی لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی تحریر کے وقت دو دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھ کو ہوئی اور آپ نے اس کتاب کی تالیف پر بہت مسرت ظاہر کی اور ایک رات یہ بھی دیکھا کہ ایک فرشتہ بلند آواز سے لوگوں کے دنوں کو اس کتاب کی طرف بلا تا ہر اور کہتا ہے ہذا کتاب مبارک فقوہ اللہ جلالی والا کرام یعنی یہ کتاب مبارک ہے اسکی تعلیم کیلئے کھڑے ہو جاؤ۔ اسکا شرح مدعا ہے کہ جو صاحب اس کتاب کو خریدنا چاہیں وہ بلا توقع مقرر ارادہ سے اطلاع بخشیں تاکہ کتاب بذریعہ ویلیو پی ایبل ان کی خدمت میں روانہ کی جائے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ خاکسار غلام احمد از قاضیان ضلع گورداسپور پنجاب

مطبوعہ ریاض جند قادیان

۶۵۲

یہ حوالہ صفحہ 87 پر درج ہے

آئینہ کمالات اسلام صفحہ 652 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 652 از مرزا قادیانی

تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا۔ اور ان تمام نشانوں کی پروا نہیں کروں گا جو میرے اس دعوے کے مصدق ہیں کیونکہ قرآن کریم سے کوئی بھت بڑھ کر نہیں۔ وما عندنا شئی الا کتاب اللہ وان تنازعتم فی شئی فردہ الی اللہ والرسول نہای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون۔ میں ایک ہفتہ تک اس اشتہار کے شایع ہونے کے بعد حضرات مومنین کے جواب بامسواب کا انتظار کروں گا۔ اور اگر وہ مشتراً لفظ ذکرہ بالا کو منظور کر کے مجھے طلب کریں تو میں جگہ پائیں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

اور کتاب ازالہ اوہام کے خریداروں پر واضح ہو کہ میں علی ماروں کے بازار میں کوٹھی لوہارو والی میں فروکش ہوں اور ازالہ اوہام کی جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ جو صاحب تین روپیہ قیمت داخل کریں۔ وہ خرید سکتے ہیں۔

والسلام

المشہور

خاکسار غلام احمد قادیانی مال وارو دہلی

بازار بیماریاں کوٹھی لوہارو۔ ۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء

## اشتہار ضروری

کتاب براہین احمدیہؑ کی قیمت جو بالفعل دس روپیہ قرار پائی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے کہیں درجہ کی تخفیف اور رعایت ہے کہ جن کو بشرطِ وسعت اور طاقتِ مالی کے اعانت دین تین میں کسی نوع کا دریغ نہیں۔ لیکن جو صاحب کسی اور مذہب یا ملت کے پابند ہو کر اس کتاب کو خریدنا چاہیں تو چونکہ اعانت کی ان سے کچھ توقع نہیں لہذا ان سے وہ پوری پوری قیمت لی جائے گی جو سعتِ اولیٰ کے اعلان میں شایع ہو چکی ہے۔

المشہور

مؤلف براہین احمدیہ

مبلدہ سفر مند پریس لاہور

مشتارہ میں برائین احمدیہ جلد دوم ۱۹۸۵ء

یہ حوالہ صفحہ 88 پر درج ہے

مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 50 طبع جدید از مرزا قادیانی

بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ سچی بھی ہو گئیں۔ تو ایسے تناقض اور باہمی تکذیب اور انکاد کو دیکھ کر وہ لوگ سخت ٹھوکر کھاتے ہیں۔ کیونکہ جب خدا ایک ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ وہ زید کو ایک الہام کرے اور پھر بکر کو اُسکے مخالف کہے اور پھر خالد کو کچھ ایسی سنارے۔ اسے تو نادانوں کو خدا کے وجود میں ہی شک پڑتا ہے۔ غرض یہ امور عام لوگوں کیلئے گھبراہٹ کی جگہ ہیں اور انکی نظر میں سلسلہ نبوت اسے مشتبہ ہو جاتا ہے اور اس مقام میں عام لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والا ایک اور امر بھی ہے اور وہ یہ کہ بعض فاسق اور فاجر اور زانی اور ظالم اور غیر متدین اور چورا اور جز مجبور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو بھی کبھی کبھی سچی خوابیں آتی ہیں اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جو قوم کی چوہڑی یعنی بھنگن تھیں جن کا پیشہ مرد اکھانا اور ارتکاب جرائم کام تھا۔ انہوں نے ہمارے روبرو بعض خوابیں بیان کیں اور وہ سچی نکلیں۔ اس سے بھی عجیب تر یہ کہ بعض زانیہ عورتیں اور قوم کے کچھ جن کا دن رات زنا کاری کا کام تھا ان کو دیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں۔ اور بعض ایسے ہندوؤں کو بھی دیکھا کہ نجاست مشرک سے موت اور اسلام کے سخت دشمن ہیں بعض خوابیں انکی جیسا کہ دیکھا تھا ظہور میں آ گئیں۔ چنانچہ میں اس رسالہ کی تحریر کے وقت ایک قادیان کا ہندو میرے پاس آیا جو قوم کا کھتری تھا اس نے بیان کیا کہ فلاں سب پوٹھاسٹر کو میں نے دیکھا تھا کہ تبدیلی اُسکی ہو کر پھر ملتوی رہ گئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اُس ہندو نے مختلف وقتوں میں میرے پاس بیان کیا کہ کئی اور خوابیں بھی میری سچی ہو گئی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ایسے بیانات اُسکی کیا غرض تھی اور کیوں وہ بار بار اپنی خوابیں مجھے سناتا تھا کیونکہ وید کی رُ سے تو خوابوں اور الہاموں پر فہر لگ گئی ہے۔ ایسا ہی ایک بڑا بد ذات چورا اور زانی بھی جو ہندو تھا اور قید میں ڈالا گیا تھا جیل سے رہائی پا کر کسی اتفاق سے مجھے ملا اور مجھے یاد ہے کہ کسی جرم سرقہ وغیرہ میں اُس کو کئی سال کی قید ہوئی تھی۔ اُس کا بیان ہے کہ جس صبح کو عدالت سے قید کی سزا کا حکم مجھے دیا جانا تھا جس حکم کی بظاہر کچھ بھی امید نہ تھی۔ رات کو خواب میں میرے پر ظاہر کیا گیا کہ میں قید کیا جاؤں گا۔ سو ایسا ہی ظہور

اس لئے دعا کی گئی۔ ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سلنے آیا اور اُس نے بہت سارے روپیہ میرے دامن میں ڈال دیے۔ میں نے اُس کا نام پوچھا۔ اُس نے کہا نام کچھ نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا۔ اُس نے کہا میرا نام پوٹھی ٹیٹی۔ پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت پر آئیو والا۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا ڈاک کے ذریعے سے اور کیا براہ راست لوگوں کے ہاتھوں سے اس قدر مالی فتوحات ہوئیں جن کا خیال و گمان نہ تھا اور کئی ہزار روپیہ آگیا چنانچہ جو شخص اسکی تصدیق کیلئے صرف ڈاک خانہ کے رجسٹر ہی ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو آخر سال تک دیکھے اُس کی معلوم ہوگا کہ کس قدر روپیہ آیا تھا۔

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت ہے کہ اکثر جو نقد روپیہ آئیو والا ہو۔ یا اور چیزیں تحائف کے طور پر ہوں اُن کی خبر قبل از وقت بذریعہ الہام یا خواب کے مجھ کو دیدیتا ہے اور اس قسم کے نشان بچا پس ہزار سے کچھ زیادہ ہوں گے۔

۴۸۸ نشان۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں نعمت اللہ ولی کا وہ قصیدہ دیکھ رہا تھا جس میں اُس نے میرے آنے کی بطور پیشگوئی خبر دی ہے اور میرا نام بھی لکھا ہے اور بتلایا ہے کہ تیرہویں صدی کے اخیر میں وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا اور میری نسبت یہ شعر لکھا ہے کہ:-

مہدی وقت و عیسیٰ دوران ہر دورا شہسوار می بینم  
یعنی وہ آئیو والا مہدی بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی ہوگا دونوں ناموں کا مصداق ہوگا اور دونوں طور کے دعوے کریں گے۔ اس اثناء میں میں شعر پڑھ رہا تھا عین پڑھنے کی وقت مجھے یہ الہام ہوا:-

انپے آل محمد حسن را تارک روزگار می بینم  
یعنی میں دیکھتا ہوں کہ مولوی سید محمد حسن امر دہی اسی غرض کیلئے اپنی نوکری سے جو ریاست بھوپال میں تھی علیحدہ ہو گئے تا خدا کے مسیح موعود کے پاس حاضر ہوں اور اُسکے دعوے کی تائید کے لئے خدمت بجالاتے اور یہ ایک پیشگوئی تھی جو بعد میں نہایت صفائی سے ظہور میں آئی۔

ایسے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ سو ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس نئے انتظام کے بعد نئے سرے سے مدد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دے کہ وہ ایک فرض حتمی کے طور پر اس قدر چند ماہواری بھیج سکتا ہے۔ مگر چاہیے کہ اس میں لاف گزاف نہ ہو جیسا کہ پہلے بعض سے ظہور میں آیا کہ اپنی زبان پر وہ قائم نہ رہ سکے۔ سوائسوں نے خدا کا گناہ کیا جو عہد کو توڑا۔ اب چاہیے کہ ہر ایک شخص کو کچھ کر اس قدر ماہواری چندہ کا اقرار کرے جس کو وہ دے سکتا ہے گو ایک پیسہ ماہواری ہو۔ گو خدا کے ساتھ فضول گوئی اور دروغ گوئی کا ہتھیار نہ کرے۔ ہر ایک شخص جو مریض ہے اس کو چاہیے جو اپنے نفس پر کچھ ماہواری مقرر کر دے خواہ ایک پیسہ ہو اور خواہ ایک وصیلہ اور جو شخص کچھ بھی مقرر نہیں کرتا اور نہ جہانی طور پر اس سلسلہ کے لیے کچھ بھی مدد دے سکتا ہے، وہ منافق ہے۔ اب اس کے بعد وہ سلسلہ میں رہ نہیں سکے گا۔ اس اشتہار کے شائع ہونے سے تین ماہ تک ہر ایک بیعت کرنے والے کے جواب کا اشتہار کیا جاتے گا کہ وہ کیا کچھ ماہواری چندہ اس سلسلہ کی مدد کے لیے قبول کرتا ہے۔ اور اگر تین ماہ تک کسی کا جواب نہ آیا تو سلسلہ بیعت سے اس کا نام نکالت دیا جائے گا اور شہر کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ماہواری چندہ کا عہد کر کے تین ماہ تک چندہ کے بھیننے سے نا پرزی کی اس کا نام بھی نکالت دیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی مغرور اور لہو راجو انصار میں داخل نہیں اس سلسلہ میں ہرگز نہیں رہے گا۔

و نسلم علی من اتبع الهدی

المشہر

میرزا غلام احمد مسیح موعود از قادیان نصح گوزد اسپوز

۵ مارچ ۱۹۰۲ء

تمت

یہ درجہ کہ مدرسہ کا قیام اور بقا بھی چونکہ بیعت سے معاص پر مبنی ہے۔ لہذا زبیں ضروری ہے کہ

سلسلہ تقسیم اشتہارات کا یہ قدر ہے کہ ہر ایک شہر میں چند اشتہار ایک آدمی کی طرف بھیجے جاتے ہیں جس ہر ایک صاحب کو جس کے پاس ان اشتہارات کا پیکٹ پہنچے اور وہ اپنے شہر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو سلسلہ بیعت میں داخل ہیں اس اشتہار کا مضمون بخوبی سمجھا کر ان سے مدد سنبھالنے کا ہے۔ پھر ان تمام لوگوں کے ناموں کی ایک فہرست مرتب کر کے مسجد سے اگر وہ لوگ خواندہ ہوں تو ان کے دستخط لینی گوارا ہے۔



۲ دسمبر ۱۹۰۵ء

## ایک رو یا اور ایک الہام

رو یا دیکھا کہ ایک دیوار پر ایک مُرغی ہے۔ وہ کچھ بولتی ہے۔ سب فقرات یاد نہیں رہے  
مگر آخری فقرہ تو یاد رہا یہ تھا:

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

(ترجمہ) اگر تم مسلمان ہو۔

اس کے بعد بیداری ہوئی۔ یہ خیال تھا کہ مُرغی نے یہ کیا الفاظ بولے ہیں۔ پھر الہام ہوا:

اَلْفَتْحُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم مسلمان ہو۔

سُورَیۡا کہ ۱۔

مُرغی کا خطاب اور الہام کا خطاب ہر دو جماعت کی طرف تھے۔ دونوں فقروں میں ہماری جماعت  
مخاطب ہے۔ چونکہ آجکل روپیہ کی ضرورت ہے۔ بنگلہ میں بھی خرچ بہت ہے اور عمارت پر بھی بہت  
خرچ ہو رہا ہے اس واسطے جماعت کو چاہیے کہ اس حکم پر توجہ کریں۔

## پرندوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا سبق سُورَیۡا کہ ۱۔

مُرغی اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ کس طرح انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کی  
خاطر اپنی ساری جان قربان کرتی ہے اور انسان کے واسطے ذبح کی جاتی ہے۔ اسی طرح مُرغی نہایت  
محنت اور مشقت کے ساتھ ہر روز انسان کے واسطے اٹھاتی ہے۔

ایسا ہی ایک پرند کی مہمان نوازی پر ایک حکایت ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک مسافر کو رات  
آگنی۔ جنگل کا دیرانہ اور سردی کا موسم۔ درخت کے اوپر ایک پرند کا آشیانہ تھا۔ نزا اور مادہ آپس میں  
گفتگو کرنے لگے کہ یہ غریب وطن آج ہمارا مہمان ہے اور سردی زدہ ہے۔ اس کے واسطے ہم کیا کریں؟  
سوچ کر ان میں یہ صلاح قرار پائی کہ ہم اپنا آشیانہ توڑ کر نیچے پھینک دیں اور وہ اس کو جلا کر آگ  
تیار ہے! چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ بھوکا ہے اس کے واسطے کیا دعوت تیار کی جائے۔ اور تو کوئی چیز

کہ بھی ان دنوں میں غارش کی تکلیف ہو گئی تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکِ روضہ کراچی کے حضرت والدہ ماجدہ کا نام حضرت جہانگیر  
 ہے اور والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ ان کا گھر میر صاحب کی تجویز پر گیا۔ سو روپیہ مقرر ہوا تھا خاکسار  
 عرض کرتا ہے کہ ہمارے نانا جان صاحب کا نام میرزا صاحب ہے۔ میر صاحب خواجہ میر درد صاحب دہلوی کے  
 خاندان سے ہیں اور پنجاب کے محکمہ ہیر میں ملازم تھے۔ اور قریباً چھ سو سال کی فیشن پر میں شروع شروع  
 میں میر صاحب نے حضرت سیم بھنگی کو مخالفت کی تھی۔ لیکن جلد ہی تائب ہو کر بیعت میں شامل ہو گئے۔  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جو سریاں عبداللہ صاحب سندھی نے کہ پٹالہ میں  
 خلیفہ محمد حسین صاحب وزیر پٹالہ کے صاحبوں اور ملاقاتیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب  
 ہوتے تھے۔ جو کوم ضلع کہ جیانہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا ایک دست تھا۔ جو بڑا امیر کبیر اور صاحب  
 جاندا تھا۔ اندر لاکھوں روپے کا مالک تھا مگر اسکے کوئی لڑکا نہ تھا۔ ہوا اس کا وارث ہوتا اٹھنے  
 مولوی عبدالعزیز صاحب کہا کہ مرزا صاحب سے میرے لیے دعا کرو اور کہ میرے لڑکا ہو جاوے  
 مولوی عبدالعزیز نے مجھے بھلا کر کہا کہ تم نہیں کراہی دیتی ہو۔ تم قادیان جاؤ اور مرزا صاحب سے  
 اس بارہ میں خاص طہد پر دعا کے لیے کہو۔ چنانچہ میں قادیان آیا اور حضرت صاحب سے دعا مانگا  
 عرض کر کے دعا کیلئے کہا۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک تقریر فرمائی۔ جس میں دعا کا فلسفہ بیان  
 کیا اور فرمایا کہ بعض رسمی طور پر دعا کے لیے لائق اٹھنا دیکھو دعا نہیں ہوتی بلکہ اسکے لیے ایک خاص  
 قلبی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جس میں کسی کے لیے دعا کرنا ہو تو اسکے لیے ان دو باتوں کا  
 سے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یا تو اس شخص کیساتھ کوئی ایسا گہرا تعلق اور رابطہ ہو کہ اسکی  
 خاطر دل میں ایک خاص دعا اور گداز پیدا ہو جائے۔ جو دعا کے لیے ضروری ہے اور یا اس شخص نے  
 کوئی ایسی دینی خدمت کی ہو کہ جس پر دل سے دعا کیلئے گریں نہ تو ہم اس شخص کو جانتے ہیں۔ اور نہ اس  
 کوئی دینی خدمت کی ہو کہ اس کے لئے ہمارا دل پگھلے۔ پس تاپ جا کر اسے یہ کہیں۔ کہ دعا سلام کی خدمت کے لئے  
 ایک لاکھ روپیہ سے یا دینے کا وعدہ کرے۔ پھر جہاں کیلئے دعا کریں گے۔ اور ہم تقیہ رکھتے ہیں۔ کہ بھرا اللہ سے  
 ضرور لاکھ روپیہ دیا گیا۔ میں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جا کر یہ جواب دیدیا۔ مگر وہ خاموش ہو گیا اور آخر اس شخص  
 اللہ ہی مرگیا۔ لہذا اس کے جو نزدیکے رشتہ داروں میں کسی جگہوں اور مقدمات کے بعد تقسیم ہو گئی۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مولوی رحیم بخش صاحب اب کچھ عرصہ ہوا فوت ہو چکے ہیں۔ ان کا گاؤں تونڈی جھنگاں تادیان سے چار میل کے فاصلہ پر جانب غرب واقع ہے۔ اور خدا کے فضل سے اس گاؤں کا بیشتر صحرا احمدی ہے۔

۹۰۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میر شیخ احمد صاحب متفق دہلوی نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک عرب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا افریقہ کے بندروں کے اور افریقہ لوگوں کے لغو تھے سنانے لگا۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے سنتے رہے۔ آپ نہ تو کبیدہ خاطر ہوئے اور نہ ہی اس کو ان لغو قصوں کے بیان کرنے سے روکا کہ میرا دقت مناجح ہو رہا ہے۔ بلکہ اس کی دلجوئی کے لئے اخیر وقت تک خندہ پیشانی سے سنتے رہے۔

۹۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب بقا پوری نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایام جلسہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت کچھ علیل تھی۔ مگر جب آپ نے سیر فرماتے وقت دیکھا کہ بہت سے لوگ آگئے ہیں۔ اور سننے کی خواہش سے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ دوست سننے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس لئے اب اگر کچھ بیان نہ کروں تو گناہ ہو گا۔ لہذا آج کچھ بیان کر دینا۔ اور فرمایا۔ لوگوں میں اطلاع کر دیں۔

۹۲۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب بقا پوری نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم اپنے گاؤں میں دو شخص احمدی ہیں کیا ہم عجز پڑھ لیا کریں۔ حضور نے مولوی محمد حسن صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا۔ کہوں مولوی صاحب! اس پر مولوی صاحب نے کہا۔ جب کہ سے جماعت فرما ہے۔ اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ وہ شخص بھی جماعت میں۔ لہذا اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ فقہاء نے کم از کم تین آدمی نکلے ہیں۔ آپ عجز پڑھ لیا کریں۔ اور تیسرا آدمی اپنے بچوں میں سے شامل کر لیا کریں۔

۹۳۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ماسٹر عبدالرحمن صاحب بی۔ اے نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب بیشتر ذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعد نماز مغرب مسجد مبارک میں شاہ نشین پر رونق افروز تھے۔ میں نے عرض کی کہ بعض لوگوں نے میرے سامنے اعتراض کیا تھا کہ پندرت لیکھرام اور عبد اللہ انتم کی پیشگوئیاں خدا کی طرف سے نہیں تھیں بلکہ انسانی دماغ اور منصوبہ

کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آخری سفر میں لاہور جانے کا ارادہ فرمایا۔ اور سامان اور سواری وغیرہ کا انتظام ہو چکا۔ تو رات کو میاں شریف احمد صاحب کو بخار ہو گیا حضور کو رات کے وقت یہ الہام ہوا: "نباش این از بازی روزگار" جو آپ نے صبح کو سنایا۔ آپ نے حکم دیا کہ آج کا جانا ملتوی کر دو کل کو دیکھا جائیگا۔ اور حضور علیہ السلام نے پہلے ہی لکھ دیا ہوا تھا کہ "مہلکہ اللہ تعالیٰ سے مطلع کیا جا چکا ہے کہ اب میری عمر قریب الاضتمام ہے۔ دوسرے روز حضور تشریف لے گئے اور وہاں لاہور میں ہی حضور کا انتقال ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس فارسی الہام کے یہ معنی ہیں کہ زندگی کی حال سے امن میں نہد کہ یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ لاہور جا کر حضرت صاحب کو اپنی وفات کے متعلق اس سے بھی زیادہ واضح الہام ہوئے تھے۔ مثلاً ایک الہام یہ تھا کہ "مکن تکبیر بر عمر ناپا اندازہ یعنی اس ناپاک عمر پر بھروسہ نہ کر کہ یہ اب ختم ہو رہی ہے۔ اور ایک الہام جو غالباً آخری الہام تھا یہ تھا کہ "الرحیل شر الرحیل یعنی اب کوچ کا وقت آ گیا ہے کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ اس الہام کے چار پانچ نسخے بعد آپ انتقال فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۵۳۹  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ سفر طمان کے دوران میں حضرت صاحب ایک رات لاہور میں شیخ رحمت اللہ صاحب مرحوم کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے تھے۔ ان دنوں لاہور میں ایک کمپنی آئی ہوئی تھی۔ اس میں قید آدم بوم کہنے ہوئے مجھے تھے۔ جن میں بعض پرانے زمانہ کے تاجی بنت تھے اور بعض میں انسانی جسم کے اندرونی اعضاء طبی رنگ میں دکھائے گئے تھے۔ شیخ صاحب مرحوم حضرت صاحب کو اور چند اجاب کو وہاں لے گئے اور حضور نے وہاں پھر کر تمام نمائش دیکھی۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ طمان کا سفر شہداء میں ہوا تھا۔ اور حضور کو وہاں ایک شہادت کے لئے جانا پڑا تھا۔

۵۴۰  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کی زندگی کے آخری سالوں میں ایک شخص میاں کریم بخش نامی بیت میں داخل ہوا۔ اور قادیان میں ہی رہ پڑا۔ یہ شخص بڑا کاریگر باورچی تھا۔ حضرت صاحب جب کسی اُسے کھانے کی فرمائش کرتے۔ تو اس کا کمال

پس پہلے اس بات کو پیدا کرو۔ پھر اس کے ثمرات خود بخود حاصل ہوں گے۔  
ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بڑی چیزیں ہیں یا بڑا اثر لیتی ہے۔ نہیں نہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ بدستمانی  
بڑی شے ہے۔ بیمار کا فرض یہ ہے کہ وہ ازل علاج کرائے نہ کہ علاج تو کرائے نہیں اور کئے مجھے الف سیر کی سیر کے  
دو چار ورق سناؤ۔ اسی طرح کثرت اور رویا روحانی سیر نہیں۔ جب روحانی بیماریوں کا علاج ہو جاوے گا اور  
روحانی صحت درست ہوگی اس وقت سیر بھی مفید ہوگی۔

جب انسان اپنے نفس کو کھودیتا ہے اور غیر اللہ کی طرف التفات نہیں رہتی اور کسی کو اپنی نظر میں نہیں  
دیکھتا اور خدا ہی کو دیکھتا اور اس کو ہی سنا تا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کو سنا تا ہے مگر وہ لوگ جن کے باوجود کئی  
دوکان ہوتے ہیں مگر وہ حرم، ہوا، فختہ، کینہ وغیرہ ہر قسم کی طاقتوں کی باتیں سنتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی بات کیونکر سن  
سکتے ہیں۔ ہاں ایک قوم ہوتی ہے جو باقی سب کو ذبح کر ڈالتے ہیں اور سب طرف سے کانوں کو بند کر لیتے ہیں۔  
نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کو سنا تے ہیں۔ نہیں ہی خدا بھی اپنی سنا تا ہے اور ان کی سنا تا ہے اور وہی مبارک ہوتا ہے  
پس اگر اس قوم میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلو۔ جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اسی آوازوں  
اور خوبوں پر ناز نہ کرو۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ حدیث میں اضغاث احلام اور حدیث انفس کا ذکر موجود ہے۔ یہ  
کوئی چیز نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک تو محل حقیقی ہوتا ہے جب مدت معمرہ نوناہ گذر جاتے ہیں تو بڑا کایا  
رک پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اس کے مقابلہ میں محل کا ذب ہوتا ہے بعض عورتیں رات دن اولاد کی خواہش کرتی  
رہتی ہیں جس سے رجاء کی مرض پیدا ہو جاتی ہے اور جھوٹا حمل ہو کر پیٹ پھولنے لگتا ہے اور حمل کی علامات

۱۔ بر سے :- خوبوں کے ذریعے سے کوئی شخص نہایت نہیں پاسکتا۔ یہ عریق بڑا نہیں مگر اس کی بدستمانی

نقصان رسال ہے۔ (بدر جلد ۹ نمبر ۱۰ صفحہ ۱۰۶)

۲۔ بر سے :- بیمار کو چاہئے کہ ازل اپنا علاج کرائے۔ اگر بیمار اپنا علاج نہ کرے اور چند قلعے سننے

لگے تو اس سے وہ اچھا نہ ہو جائے گا۔ ایک شخص جو اپنی خواب سکت کے جب دو چار روز میں مرنے والا ہے مگر وہ کے

کریں مریکی کی سیر کے دیکھے جاتے ہوں تاکہ دنیا کے محابات دیکھوں تو یہ اس کی نالی ہے۔ اس کو تو چاہئے کہ ازل اپنا

علاج کرائے۔ جب تندرست ہو جائے تو پھر سیر بھی کر سکتا ہے۔ حاجت یورپی میں تو یہ وسیع است۔ اور بھی نقصان نسل

ہوگی۔ (بدر جلد ۱۰ نمبر ۱۰)

۳۔ بر سے :- ایک کان جو ہزاروں طرف لگا ہوا ہے اور شکر کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور جذبات انسان

اور ہوا ہوس کی متابعت میں ہے وہ کیونکر خدا تعالیٰ کے کلام کو سن سکتا ہے۔ (بدر جلد ۱۰ نمبر ۱۰)

ظاہر ہوتی ہیں لیکن نوناہ کے بعد پانی کی مشک نکل جاتی ہے۔ ایسا ہی حال ان کثوف اور خوابوں کا ہے جب تک انسان محض خدا ہی کا نہ ہو جاوے۔ یہ کچھ بھی چیز نہیں۔ انسان کی عزت اس میں ہے اور یہی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ جب وہ خدا کا مقرب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں برکات اس پر نازل کرتا ہے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی اس پر برکات اترتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگنی کے لیے قریش نے کسی قدر زور لگایا۔ وہ ایک قوم تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا۔ مگر دیکھو! کون کامیاب ہوا۔ اور کون ناکام رہا۔

نعمت اور تائید خدا تعالیٰ کے مقرب کا بہت بڑا نشان ہے۔ دوسرے یہ کہ ایسا شخص خزاں کے وقت آتا ہے اور بار بار ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی طرف سے نہ ہوں اور اس قسم کی شیخیاں ماننے والے ہوں انکی مثال ایسی ہے جیسے مردار پر بیٹھے ہوں۔ مگر جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے تو وہ خود خدا کے ساتھ ہے وہ خود زندہ ہے اُسے زندہ کرے گا۔ وہ اپنے وعدوں کو جو اُس سے کئے ہیں سچا کر دکھائے گا۔

میری نصیحت بار بار یہی ہے کہ جہانگ ہو کے اپنے نفسوں کا بار بار مطالعہ کرو۔ بدی کا پھوڑ دینا یہ بھی ایک نشان ہے اور خدا تعالیٰ ہی سے چاہو کہ وہ تمہیں توفیق دے کیونکہ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (یعنی تمہارے) توئی بھی اس نے ہی پیدا کئے ہیں۔

پھر یہی ایک اور نقص بھی دیکھتے ہوں۔ بعض لوگ تھک جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے خطوط آتے ہیں جن میں کہنے والوں نے ظاہر کیا کہ ہم چار سال یا اتنے سال تک نماز پڑھتے رہے دعائیں کرتے رہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں کو میں مُخَشَّت سمجھتا ہوں تھکنا نہیں چاہیے۔

گر نباشد بد دست راہ بردن / شرط عشق است در طلب مُردن  
میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر تیس چالیس برس گزند جاویں تب بھی تھکے نہیں اور باز نہ آوے خواہ جذبات پڑھتے

۱۔ بدر سے :- "وہ اس مُردار سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟" (بدر جلد ۶، نمبر ۱، صفحہ ۱۶)

۲۔ بدر سے :- "جب تک خدا تعالیٰ کے وعدے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں پورے نہ ہوں تب تک وہ مرتا

تھیں اور اس کے سلسلہ میں کچھ کمی نہیں آتی؟" (بدر جلد ۶، نمبر ۲، صفحہ ۱۶)

۳۔ بدر سے :- "بدیوں کو پھوڑ دینا کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس واسطے راتوں کو اُٹھ اُٹھ کر مسجد میں خدا

کے حضور دعائیں کرو۔ وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ پس اور کون ہے جو ان بدیوں کو

دور کر کے نیکیوں کی توفیق تم کو دے؟" (بدر حوالہ مذکور ص ۱۶)

اُس کو پیدا کیا جو بموجب قول آریہ سماج کے ہر ایک ابتدا دنیا میں لاکھوں انسان کو لیں ہی مولیٰ گاجو کی طرح زمین میں سے نکالتا ہے جب کہ وید کے بیان کی رو سے کروڑا مرتبہ بلکہ بے شمار مرتبہ خدا نے اسی طرح دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس بات کا محتاج نہیں رہا کہ مرد عورت باہم ملیں تا پھر پیدا ہو۔ تو پھر اسی طرح اگر یسوع بھی پیدا ہو گیا تو اس میں حرج کیا ہے اس اعتراض کی جڑ تو صرف اسی قدر ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے کیونکر انسان پیدا ہو گیا۔ مگر جو شخص اپنا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے پہلے کروڑا بلکہ بے شمار مرتبہ ایسا اتفاق ہو چکا ہے کہ اسی دنیا میں ہی انسان جو اب موجود ہیں بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے پیدا ہوتے رہے ہیں وہ کس مُنہ سے کہہ سکتا ہے اور اس کا کیونکر یہ حق ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اعتراض کرے کہ یسوع کی پیدائش خلاف قانون قدرت ہے۔ بڑے بڑے محقق طبیسوں نے جو ہم سے پہلے گند چکے ہیں اس قسم کی پیدائش کی مثالیں لکھی ہیں اور نظیر میں دی ہیں اور ان کی تحقیق کے رُو سے بعض اس قسم کی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ قوت رجولیت اور انثیت دونوں ان میں جمع ہوتی ہیں اور کسی تحریک سے جب ان کی منی جوش ماسے تو حمل ہو سکتا ہے۔ اور ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسی قصے پائے جلتے ہیں جیسا کہ خود وید میں یہ شرتی موجود ہے کہ اسے اندر کو سیکارشی کے پوتر جس کو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ یہاں جب کہ اس قسم کا قصہ وید میں بھی موجود ہے اور سیانا بھاشیکار نے وضاحت سے اس قصہ کو لکھا ہے تو پھر اعتراض کرنا حیا سے دُور ہے۔ نہایت کار تم یہ جواب دو گے کہ ہم اس شرتی کے اس طرح پر معنی نہیں کرتے تو یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ جب کہ ایک پُرانا بھاشیکار یعنی سیانا ہی معنی کر چکا ہے تو تمہاری کیا مجال کہ اُس سے رُوگردانی کرو۔ کیا سیانا بھاشیکار کے مقابل پُرانند کی کچھ حقیقت ہے؟ کوئی دانا سیانا بھاشیکار کے مقابل پُرانند کو طفل کتب بھی نہیں کہہ سکتا اور پھر وہ بھاشیکار پرانے زمانہ کا ہے اور پھر بطریق تنزل کہتے ہیں کہ جب کہ وید کی مذکورہ بالا شرتی کے سیانا بھاشیکار یہ معنی کر چکا ہے خواہ تم اب ان معنوں کو قبول کرو یا نہ کرو تو بہر حال

۲۱۸

۳۳

بات پر ناراض ہو کر اس کو مارا ہے اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگی ہے اور یہی مرگئی ہے، اس لیے اُن کے وسیع  
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَغَايِشْرُؤُھُمْ بِمَعْتَرِؤُھِ (النساء: ۲۰) ہاں اگر وہ بے جا کام کرے، تو تینہرہ  
مزدوری چھیڑ ہے۔

انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جمادے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند  
نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی وہ ایسا جا بجا اور زخم شاد نہیں کہ اس کی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔  
خاندان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا منظر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی  
سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاندان کو سجدہ کرے۔ پس مرد میں جلال اور جمال رنگ دونوں  
موجود ہونے چاہئیں۔ اگر خاندان عورت کو کہے کہ تو اپنے خاندان کا ڈھیر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے۔ تو اس  
کا حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔

ایسا ہی قرآن کریم اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کے  
مرید کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا عورت کا تعلق مرد سے ہو۔ مرشد کا  
مرشد اور مرید کا تعلق

کسی حکم کا انکار نہ کرے اور اس کی دلیل نہ پوچھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  
الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶، ۷) فرمایا ہے کہ منعم علیہ کی راہ کے مقید رہیں۔ انسان چونکہ طبعاً آزادی  
چاہتا ہے پس حکم کر دیا کہ اس راہ کو اختیار کرے۔ تجربہ کار ڈاکٹر اگر غلطی بھی کرے، تو جہاں کے علاج سے بہتر ہے۔  
ایک جہاں کے پاس اگر اعلیٰ درجہ کے تیز آواز ہیں، لیکن ہاتھ حاذق ڈاکٹر کا نہ ہو تو وہ آواز کی فائدہ پہنچا  
سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے۔

اگر دستِ سلیمانی نہ باشد  
چہ خاصیت وہ نقشِ سلیمان

پس قرآن کریم ایک تیز ہتھیار ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے اعلیٰ درجہ کے ڈاکٹر کی مزدوریت ہے۔ جو  
لدا تعالیٰ کی تائیدات سے فیض یافتہ ہو۔  
یہ مزدوری بات ہے کہ دل پاک ہو، لیکن ہر جگہ یہ دولت میسر نہیں آسکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں  
کو پیدا کیا، مگر ہر شخص نبی نہیں ہوتا اور وہ تعداد کم ہے۔

آدم ہی ایک ہے جو لطف کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح میرا یہ الہام ہے۔  
آدم کہلانے کی حقیقت  
آرذت انما استخلف لخلق اذت۔

یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کسی کی بیعت اور مریدی کی مزدوریت نہ ہوگی، بلکہ جیسے آدم کو خدا نے



اس وقت قلم کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً میری بیعت کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔  
 ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات داد دیے ہیں اور مختلف حالتوں  
 میں کلمہ کی ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کے پتھے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ اُس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ چن کر اس  
 مائن اور ملی ترقی کے میدان کا نڈھال بنوں اور اسلام کی مذہبی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ میں  
 کہہ نہیں سکتا کہ قابل ہو سکتا تھا یہ تو صوفیہ مذاہب تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ  
 میری یہ جھجھکیوں سے اس کے ساتھ سے اُس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک وقت ان اعتراضات اور حملات  
 کی لڑائی تیار کیا تھا مگر اسلام پر ہمارے مخالفین نے یہ کہہ کر اس کی توجہ لے لی کہ یہ تو ان کی تعداد میرے خیال اور اندازہ میں تین ہزار ہوتی تھی اور  
 میں کچھ دنوں تک لڑتا تھا اور اب بھی بڑھ گئی ہوگی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کی تیار ایسی کمزور باتوں پر ہے کہ اس پر تین  
 ہزار لڑائی تیار ہو سکتا ہے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اعتراضات تو کوئی مادہ لیشوں اور نادانوں کی نظر میں اعتراض ہیں  
 مگر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شہ کیا، وہاں یہ بھی غور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہ میں  
 ذرا دل پیٹ ہی ہو۔ صدائیں بوجہ ہیں جو وہ بیعت کی وجہ سے اعتراضات کو دکھائی نہیں دیں اور وہ حقیقت یہ ہے کہ  
 ان کے لئے جہاں تیار اعتراضات تیار ہوئے ہیں جہاں وہ صحت کا ضمنی خزانہ رکھتا ہے۔

میں موجود علیہ السلام کی بیعت کی غرض  
 پڑھا ہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کیمپ جو ان درخشاں جواہرات  
 پر تھوپا گیا ہے اس سے ان کو پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف  
 کی عزت کو ہر ایک غیرت مند شخص کے دماغ و حواس میں سے منترہ و مانتہ سے کہے۔

ان غرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پر وار کن چاہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کس قدر بوقلمنی ہوگی کہ ہم ان سے  
 قلم لٹھا ہونے کو تیار ہو جائیں۔ میں تو یہ کھول کر بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام لے کر جگت جگال  
 کا لڑائی جہاد میں منتہی کہے۔ تو وہ اسلام کا بدنام کرنے والا ہوگا۔ اور اسلام کا کبھی ایسا منشا نہ تھا کہ بے مطلب اور  
 بے ضرورت تمام انسان جانتے۔ اب لڑائیوں کی اعتراضات جیسا کہ میں نے کہا ہے فوج کی شکل میں آکر دینی نہیں دیں۔  
 بلکہ دینی اطراف ان کا موضوع ہو گیا ہے پس کس قدر ظلم ہو گا کہ ان اعتراضات کرنے والوں کو مجاہدین کی بھانپنے  
 کھار دکھائی جائے۔ اب نوروں کے ساتھ سزب کا پہلو بدل گیا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل اور  
 دماغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں۔ راستبازی اور تقویٰ سے اللہ تعالیٰ سے آملا اور فتح چاہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا  
 کاسٹل قانون ہے جس کے اصول ہے اور اگر مشائخ صرف قیل و قال اور باتوں سے مقابلہ میں کامیابی اور فتح پانا چاہیں  
 تو کھن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ لاف و گزاف اور لغتوں کو نہیں چاہتا۔ وہ تو حقیقی تقویٰ کو چاہتا اور سچی طہارت کو پسند

عورت کا بغیر اسکے کہ اسپر شبنم کی طرح آسمان کی فضا سے رُوح گرسے رُوح پیدا ہونے کی اپنے اندر استعداد رکھتا ہے۔ پھر جب مرد اور عورت کا لطفہ باہم مل جاتا ہے تو وہ استعداد بہت قوی ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ استعداد بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب بچہ کا پُورا قالب طیار ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور امر سے اسی قالب میں سے رُوح پیدا ہو جاتی ہے یہ وہ واقعات ہیں جو مشہور اور محسوس ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ نیستی سے ہستی ہوئی۔ کیونکہ ہم رُوح کو جسم اور جسمانی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رُوح اسی مادہ میں سے پیدا ہوتی ہے جو بعد اجتماع دونوں لطفوں کے رحم مادر میں آہستہ آہستہ قالب کی صورت پیدا کرتا ہے اور اس مادہ کے لئے ضروری نہیں کہ ساگ پات کی کسی قسم پر رُوح شبنم کی طرح گرسے اور اس سے رُوح کا لطفہ پیدا ہو۔ بلکہ وہ مادہ گوشت سے بھی پیدا ہو سکتا ہے خواہ وہ گوشت بکرہ کا ہو۔ یا مچھلی کا۔ یا ایسی مٹی ہو جو زمین کی نہایت عمیق ترے کے نیچے ہوتی ہے جس سے مینڈکیں وغیرہ کیڑے کرکے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں بلاشبہ یہ خدا کی قدرت کا ایک راز ہے کہ وہ جسم میں سے ایک ایسی چیز پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ جسم ہے اور نہ جسمانی۔ پس واقعات موجودہ مشہورہ محسوسہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آسمان سے رُوح نہیں گرتی بلکہ یہ ایک نئی رُوح ہوتی ہے جو ایک مرکب لطفہ میں سے بقدرت قادر پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے تَمَّ أَنْشَأَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یعنی جب رحم میں قالب انسانی تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک نئی پیدائش سے اُسکو مکمل کرتے ہیں یعنی ہم اس مادہ کے اندر سے جس سے قالب تیار ہوا ہے رُوح پیدا کر دیتے ہیں۔

پھر ایک اور جگہ یعنی سورۃ الدھر میں جو جزو انتیس میں ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ یعنی ہم انسان کو طے ہوئے لطفہ سے پیدا کرتے ہیں یعنی مرد اور عورت کے لطفہ سے۔ پس جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے۔ اسی طرح کروڑوں انسانوں کا مشاہدہ گواہ ہے کہ اسی طرز سے رُوح پیدا

۱۱۶  
اہ المومن: ۱۵ علیہ الدهر: ۳

ہوتی ہے اور جبکہ محض گوشت سے بھی نطفہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اولاد پیدا ہوتی ہے تو کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ مثلاً روح کسی بکری پر بھی پڑتی ہے اور اس کی کھال میں دھنس کر اس کے گوشت میں رچ جاتی ہے اور پھر بعد اس کے کسی خاص بوٹی میں وہ رُوح داخل ہوتی ہے اور اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور پھر اس بوٹی کے دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا مرد کھا لیتا ہے اور دوسرا ٹکڑا عورت۔ گو وہ عورت اس مرد سے کتنے ہی فاصلہ پر ہو۔ اور خواہ وہ گوشت بھی نہ کھاتی ہو۔ اور کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ وہ درندے جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں جیسے شیر۔ بھیریا۔ چیتا۔ ان کی پیدائش کی رُوح بکریوں اور گائیوں وغیرہ حیوانات کی کھال پر بطور شبنم پڑتی ہے اور کیا یہ خیال گذر سکتا ہے کہ پانی کی پھلیوں کی روح اور دوسرے تمام جاندار جو پانی کے اندر غرق رہتے ہیں ان کی رُوح شبنم کی طرح ہو کر پانی میں پڑتی ہے اور سب کے غور کے لائق وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو بیٹس۔ بیٹس۔ تیس۔ تیس ہاتھ زمین کو کھود کر اس کے عمیق پردہ کے اندر سے نکلتے ہیں اور ایسا ہی وہ نہایت چھوٹے کیڑے جو اس کنوئیں کے پانی سے نکلتے ہیں جو نیا کھودا جاتا ہے اور ایک ایک قطرہ میں ہزار ہا کیڑے ہوتے ہیں کہاں سے اور کس راہ سے شبنم رُوح ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص مذہبی تعصب سے دیوانہ اور سوداگر اور باگل ہو جائے تو یہ اور بات ہے ورنہ ان تمام مثالوں کی رُوح سے جو ذکر ہو چکی ہیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ عقیدہ آریوں کا کہ گویا رُوح آسمان سے شبنم کی طرح ہو کر کسی گھاس پات پر پڑتی ہے بالکل جھوٹا ہے۔ اگر تم مثلاً دودھ کو جو باسی ہو کر مٹرنے کو ہے ہاتھ میں لو اور خوب اس دودھ میں نظر لگائے رکھو۔ تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہزار ہا کیڑے بن جائیں گے۔ ایسا ہی لگر کوئی دال ماش یا چنے وغیرہ کی جو خوب پکائی جائے جس کے اندر کے کیڑے بھی مر گئے ہوں جب وہ دال باسی ہو جائے اور مٹ جائے تو اس میں بھی ہزار ہا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اب عقلمند کیلئے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر کسی مادہ میں جان پڑنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ

ایک قطرہ سے انسان کیونکر پیدا ہو جاتا ہے اور ہم سمجھ نہیں سکتے کہ دیکھنے والی آنکھیں کیونکر اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ سُسنے والے کان کیونکر اس میں بنائے جاتے ہیں اور ہمارے خیالی میں نہیں آتا کہ انسان کی صورت اور ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور جگر اور تمام اعضا کیونکر اس میں بن جاتے ہیں۔ پس بلاشبہ یہ تمام امور ہمارے نزدیک ایسے ہی محال ہیں جیسے نیست سے ہست ہونا۔ کیونکہ ہم ان کے بنانے پر قادر نہیں اور ہماری عقل کوئی فلسفی دلیل اس بات پر قائم نہیں کر سکتی کہ کیونکر یہ تمام اعضا بن جاتے ہیں۔ پس جیسا کہ ان تمام اعضاء کا بننا ہماری عقل سے برتر ہے ایسا ہی روح کا بھی پیدا ہونا ہماری عقل سے برتر ہے اور جبکہ ہم واقعی طور پر ثابت کر چکے ہیں اور چشم خود دیکھ چکے ہیں کہ روح پیدا ہوتی ہے تو پھر امور مشہودہ و محسوسہ سے ہم انکار کیوں کریں؟ ہمارے عقل اور فہم سے جیسا کہ روح کا پیدا ہونا برتر ہے۔ ایسا ہی ایک قطرہ سے انسان کا اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بننا برتر ہے۔ پس یہ کمال بے حیائی ہے کہ جو ایک محال ہمارے نزدیک ہے اس کو تو جائز سمجھ لینا اور جو دوسرا امر یعنی روحوں کا پیدا ہونا، ہمارا عقل اور فہم سے برتر ہے اس کو محال اور ممنوع قرار دینا۔ خدا کے کارخانہ قدرت میں انسان کی مجال نہیں کہ کچھ دست اندازی کر سکے۔ ہزار ہا اسرار ربوبیت ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ اور پھر مشاہدات کے ذریعہ سے ہمیں ملنے ہی پڑتے ہیں۔ پس کیا ابھی تک اس میں کچھ شک ہے کہ مشاہدات ہمیں اس بات کے ملنے کیلئے مجبور کرتے ہیں کہ روحیں پیدا ہوتی ہیں اوپر سے نیچے نہیں آتیں۔ مثلاً زمین کے نیچے کا طبقہ جو سٹراٹھی ہاتھ تک کھود کر پھر دکھانی دیتا ہے اس میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ پس کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ روح شبلیہ بن کر نیچے چلی جاتی ہے۔ پس جبکہ سچا واقعہ یہی ہے کہ روح پیدا ہوتی ہے تو اس نفس الامر کے برخلاف دید کے پرہیزگار کا یہ بیان کہ روح شبلیہ کی طرح آسمان سے گرتی ہے یہ ایسا جھوٹا اور خلاف واقعہ بیان ہے کہ ایک بچہ ہمیں اسپرہنسی گا۔ کیا وہ جانور جو صرف گوشت کھاتے

پر باقی نہ رہتا۔ پس خدا کی ہا ہی قدرت نے جو نیست سے ہست کرنا ہے تمام دنیا کو بچا رکھا ہے انسان کی سخت بدذاتی ہے جو اس کو اپنی قدرت نمائی میں عاجز سمجھے اور اس کو نیست سے ہست کرنے پر قہر خیال نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ایجادیں بھی بعض ایسے کام دکھاتی ہیں کہ گویا نیست سے ہست کرتی ہیں مثلاً ٹوٹو گراف میں جو آواز بند کی جاتی ہے اور وہ اُس انسان کے ٹھیک ٹھیک لہجہ پر جس کی آواز بند کی گئی ہے نکلتی ہے کیا اس ایجاد سے پہلے کسی کو سمجھ آسکتا تھا کہ آواز میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ خاص قسم کے ظرافت میں بند ہو سکتی ہے اور پھر اصل آواز کی طرح پیدا ہو کر سنائی دیتی ہے اور سالہا سال اور مدتہائے دراز تک بند رہ سکتی ہے اور پھر جب اُس آواز کا سنا نا منظور ہو تو ایسے طور سے نکلتی ہے کہ گویا وہ انسان جس کی آواز بند کی گئی ہے بول رہا ہے کیا یہ نیست سے ہست نہیں مگر اس طبعی راز کا کسی کو علم نہ ہو تو وہ ایسی آواز سے ڈریگا اور خیال کرے گا کہ شاید اس میں کوئی جمن بول رہا ہے۔

اسی طرح اس زمانہ میں ہزار ہا سائنس کے امراء کا پردہ کھلتا جاتا ہے جو کسی زمانہ میں نیست کے طور پر سمجھے جاتے تھے اور وہ عمیق در عمیق علم طبعی کے خواص نئی ایجادوں کے ذریعہ سے ظہر ہوتے جاتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر تعجب آتا ہے کہ ایسے زمانہ میں وہ نادان بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے امراء قدرت پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رُوح نیست سے کیونکر ہست ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں چیزیں نیست سے ہست ہو رہی ہیں مثلاً ایک دھات جو بالکل نیست ہو جاتی اور مر جاتی پر وہ شہد اور سہاگہ اٹھ گھی میں جوش دینے سے پھر زندہ ہو جاتی ہے کسی نے پنجابی میں کہا ہے شہد سہاگہ گھی۔ موٹی دھات دا ایہو جی یعنی شہد سہاگہ اور گھی جو ہے مری ہوئی دھات کی یہی جان ہے۔ اور امراء قدرت اہلی میں سے ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایک ٹھہری کو پتھر یا سوٹے سے مارا جائے اور وہ بھاگ بالکل مرجائے مگر ابھی تازہ ہو تو اگر اس کے سر کو گوبر میں دبا یا جائے تو چند منٹ میں وہ زندہ ہو کر بھاگ جاتی ہے کبھی بھی اگر پانی میں مرجائے تو وہ بھی زندہ ہو کر پرواز کر جاتی ہے اور بعض جانور

پر باقی نہ رہتا۔ پس خدا کی اسی قدرت نے جو نیست سے ہست کرنا ہے تمام دنیا کو بچا رکھا ہے انسان کی سخت بد ذاتی ہے جو اس کو اپنی قدرت غنائی میں عاجز سمجھے اور اس کو نیست سے ہست کرنے پر قادر خیال نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ایجادیں بھی بعض ایسے کام دکھاتی ہیں کہ گویا نیست سے ہست کرتی ہیں مثلاً فونو گراف میں جو آواز بند کی جاتی ہے اور وہ اس انسان کے ٹھیک ٹھیک لہجہ پر جس کی آواز بند کی گئی ہے نکلتی ہے کیا اس ایجاد سے پہلے کسی کو سمجھ سکتا تھا کہ آواز میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ خاص قسم کے ظروف میں بند ہو سکتی ہے اور پھر اصل آواز کی طرح پیدا ہو کر سنائی دیتی ہے اور ساہا سال اور مدتہائے دراز تک بند رہ سکتی ہے اور پھر جب اس آواز کا سنا نا منظور ہو تو ایسے طور سے نکلتی ہے کہ گویا وہ انسانی پس کی آواز بند کی گئی ہے بول رہا ہے کیا یہ نیست سے ہست نہیں مگر اس طبعی راز کا کسی کو علم نہ ہو تو وہ ایسی آواز سے ڈریگا اور خیال کرے گا کہ شاید اس میں کوئی جن بول رہا ہے۔

اسی طرح اس زمانہ میں ہزار ہا سائنس کے امراء کا پردہ کھلتا جاتا ہے جو کسی زمانہ میں نیست کے طور پر سمجھے جاتے تھے اور وہ عین در عین علم طبعی کے خواہش نئی ایجادوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے جاتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر تعجب آتا ہے کہ ایسے زمانہ میں وہ نادان بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کے امراء قدرت پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح نیست سے کیونکر ہست ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں چیزیں نیست سے ہست ہو رہی ہیں مثلاً ایک دھلت ہو بالکل نیست ہو جاتی اور مچاتی پر وہ شہد اور سہاگہ اند گھی میں جوش دینے سے پھر زندہ ہو جاتی ہے کسی نے پنجابی میں کہا ہے شہد سہاگہ گھی۔ موٹی دھات دا ایہو جی یعنی شہد سہاگہ اور گھی جو ہے مری ہوئی دھات کی یہی جان ہے۔ اور امراء قدرت الہی میں سے ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایک ٹھہری کو پتھر یا سونے سے مارا جائے اور وہ بظاہر بالکل مر جائے مگر ابھی تازہ ہو تو اگر اس کے سر کو گوبر میں دبایا جائے تو چند منٹ میں وہ زندہ ہو کر بھگ جاتی ہے کبھی بھی اگر پانی میں مرجائے تو وہ بھی زندہ ہو کر پیدا کر جاتی ہے اور بعض جانور

جیسے زنبور اور دوسرے حشرات الارض سخت سردی کے ایام میں مرجاتے ہیں اور زمین میں یا دیاروں کے سوراخوں میں چھٹے رہتے ہیں اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر زندہ ہو جاتے ہیں ان امر اور کونجز خدا تعالیٰ کے کون کچھ سکتا ہے؟ ایسا ہی بعض نباتی اور معدنی چیزیں علیحدہ علیحدہ ہونے کی حالت میں تو ایک خاصیت نہیں رکھتیں مگر ترکیب کے بعد ان میں ایک نئی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے مثلاً شندہ اور گندھک اور کوئلہ ایک خاص ترکیب سے بارود بن جاتا ہے اور اگر چہ ہیں کہ صرف شورہ یا صرف گندھک یا صرف کوئلہ سے بارود بنایا جائے تو یہ غیر ممکن ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا ہو سکتی ہے اور شاید اسی بنیاد پر کیمیا کے طالب سونا اور چاندی بنانے کے سودا میں لگے رہتے ہیں مگر کوئی کیمیا ایسی نہیں جیسا کہ خدا کی محبت اور خدا کی طرف ایسا ٹھکنا جیسا کہ شیر خوار بچہ اپنی ماں کی طرف جھکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تمام دنیا پر نظر ڈال کر ہر ایک طرف سے گواہی ملتی ہے کہ نیست سے ہست ہوتا ہے پس اسی طرح خدا مرد اور عورت کے لطف سے رُوح کو پیدا کر دیتا ہے سچا فلسفہ یہی ہے اور سچا علم یہی ہے جس پر ہزار ہا تجارب گواہی دے رہے ہیں۔ پس وید جو اس کے مخالف تعلیم دیتا ہے اسی بات سے سمجھ لینا چاہئے کہ وہ سرچشمہ علوم ہرگز نہیں ہے بلکہ گمراہیوں اور غلطیوں کا سرچشمہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ دیدنے ہر ایک پہلو سے راہ راست کو چھوڑ دیا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ خدائے عزوجل کی عبادت دو قسم کی ہے۔ (۱) ایک تو بے دستخوار یعنی اس کے آستانہ پر جھک کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور نہایت تذلل اور انکسار اور فنا کی حالت بنا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اور ظہارت و تقویٰ کے حصول کے لئے اس کی مدد کی درخواست کرنا اور سچے دل سے اس کی جناب میں عہد کرنا کہ پھر ایسا گناہ نہ کریں گے (۲) دوسری قسم کی عبادت یہ ہے کہ اس کی تمام خوبیوں اور کمالات کا ذکر کر کے اس کو یاد کرنا اور اس کی صفات ذاتیہ اور اضافیہ کا اقرار کر کے اس کی حمد ثنا میں مشغول رہنا۔ صفات ذاتیہ یہ کہ وہ اپنے کمال ذات اور ابدیت انداز لیت اور تمام قدوتوں اور طاقتوں اور علم میں واحد و ترکیب

مشاہدہ ہے کہ کئی عجائب قدرتیں خدا تعالیٰ کی ایسے طور پر میرے دیکھنے میں آئی ہیں کہ بجز اس کے کہ ان کو نیستی سے ہستی کہیں اور کوئی نام ان کا ہم رکھ نہیں سکتے جیسا کہ ان نشانیوں کی بعض مثالیں بعض موقعہ پر میں نے لکھ دی ہیں جس نے یہ کثیرہ قدرت نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا؟ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جس کی قدرتیں صرف ہماری عقل اور قیاس تک محدود ہیں اور ان کے کچھ نہیں بلکہ ہم اُس خدا کو مانتے ہیں جس کی قدرتیں اُس کی ذات کی طرح غیر محدود اور ناپید آتیاں اور غیر فنا جی ہیں۔ ایسا ہی اُس کی قدرت کا یہ راز ہے کہ وہ نیست سے ہست کرتا ہے جیسا کہ اس بات پر ہزار ہا نمونے ہماری نظر کے سامنے ہیں۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کے پھل جیسے جیسے پکتے جاتے ہیں وہ پروار کیتوں کی طرح بنتے جاتے ہیں اور بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کے پتوں میں سے بڑے بڑے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک ایک کا درخت بھی ہے اور اُس کی نظیریں ہزار ہا ہیں نہ صرف ایک دو۔ پس اس جگہ بجز اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیستی سے ہستی ہے اور یہ ایک ایسا رازِ قدرت ہے کہ ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ناچیز انسان خدا کے تمام اسرار پر اطلاع بھی پا جائے اور اس کی تمام قدرتوں پر محیط ہو جائے۔ یہ ایک فیصلہ شدہ بات ہے کہ اگر علمِ سائنس یعنی طبعی خدا تعالیٰ کے تمام عمیق کاموں پر احاطہ کر لے تو پھر وہ خدا ہی نہیں جس قدر انسان اُس کی باریک حکمتوں پر اطلاع پاتا ہے وہ انسانی علم اس قدر بھی نہیں کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو بیٹھا ہے اور اُس میں کچھ سمندر کی بانی کی تری باقی رہ جاتے اور یہ کہتا کہ اُس کی تمام باریک قدرتوں پر اطلاع پانے کے لئے ہمارے لئے راہ کشادہ ہے اس سے زیادہ کوئی حماقت نہیں باوجودیکہ ہزار ہا قرن اس دنیا پر گزر چکے ہیں پھر بھی انسان نے صرف اس قدر خدا کی حکمتوں پر اطلاع پائی ہے جیسا کہ ایک عالمگیر بارش میں سے صرف اس قدر تری جو ایک بل کی لوک کو مشکل تر کر سکے۔ پس اس جگہ اپنی حکمت اور دانائی کا دم مارنا جھوٹی شیخی اور حماقت ہے۔ انسان باوجودیکہ ہزار ہا برسوں سے اپنے علومِ طبعیہ اور ریاضیہ کے

۲۸۲



۲۸۲

مقابلہ کی تحریروں میں مدد دیتا رہا ہے کہ اکثر اوقات حضرت اقدس بیار تھے اور میعاد مقابلہ نزدیک آگئی تو پھر اسی حالت میں بڑی سختیوں سے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر کتابیں لکھیں حضور نے فرمایا کہ میں تو ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا اگر خدا تعالیٰ کی طاقت میرے ساتھ نہ ہو۔ بارہا لکھتے لکھتے دیکھا ہے ایک خدا کی مدد ہے جو تیر ہی ہے قلم تھک جایا کرتی ہے مگر اندر جوش نہیں ٹھکتا طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہ ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔

### ڈوئی کا ذکر

پھر ڈوئی کی کسی بات پر فرمایا کہ اس کے وجود سے شیطان کا وجود ثابت ہوتا ہے وہ بھی انسان کو اسی طرح فریفتہ کرتا ہے۔

۳۱ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

(بوقت سیر)

علاقہ جہلم سے دو شخص بہت ضعیف العز حضرت اقدس کی زیارت کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے بوجہ ضعیف العز کے وہ چل نہیں سکتے تھے حضرت اقدس ان کی خاطر ٹھہر گئے اور ان کے حالات دریافت فرماتے رہے۔

### آیت مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا فِي تفسیر

پھر حضور مشرق کی طرف سیر کو چلے سید سہر شاہ صاحب نے حضرت اقدس سے سوال کیا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک رسول اپنی امت کے حالات سے لاعلمی ظاہر کرے گا جیسے قرآن شریف میں ہے **يَوْمَ يَجْتَمِعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا (المائدہ : ۱۰)** تو پھر اس آیت کے مضمون کے مطابق اگر کس بھی اپنی امت کے حالات سے لاعلمی ظاہر کریں اگرچہ وہ آخر زمانہ میں پھر آکر چالیس برس ان لوگوں میں گزار بھی جائیں تو آیت **لَمَّا كُنْتُمْ فِي بَيْتِنَا** کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دہو کا زب کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ لاعلمی انبیاء کی ان کی اس امت کے بارے میں ہوتی ہے جو ان کی وفات کے بعد ہوتی

۱۰ الہدایہ جلد ۲ صفحہ ۲۸۲ بروز ۳۱ نومبر ۱۹۰۲ء

الاسلامیة لیكون بلاغاً تاماً للطالبین۔ فاعلموا یا معشر الکرام جمع

تا برائے طالبانِ اہلِ مبلغِ برترتہ کمالِ رسد۔ پس بایندے گدہ بزگان و جماعتہا صاحباً

اولی الابدار والافہام ان اللہ قد بعثنی مجدداً علی مراس هذا المائۃ

بعیرت و ہم کہ خوائے عزوجل مرا بر سر اس صدی مجدد مبعوث فرمودہ است و بندہ را برائے معلومت عامہ

وانتقص عبداً لمصالح العامة واعطانی علوماً و معارفی لاصلاح

خاص گدائیدہ است۔ و مرا آن علوم و معارف بخشید کہ برائے اصلاح این امت ازواجبت

هذه الامۃ و وهب لی من لدنہ علماً مائتاً لاجتہاد الحجۃ علی الکفرۃ العجۃ۔ و

اند۔ و مرا علم زندہ بخشید تاکہ بر کافران و فاسقان محبت تمام شود۔ و مرا مرہ آذہ و

اعطانی ثمر اغضاطی بالتغذیۃ حیاء الملة۔ و کاساً مہاقاً لعطاشی

تر عنایت کرو تا اگر سنگان گشت را غذا دادہ شود۔ و جامہائے پر بخشید تا تشنگان ہایت و

الهدایۃ و المعرفۃ و جعلنی اہاماً کل من یرید صلاح نفسه و یحب

معرفة را نوشانیہ شود۔ و مرا برائے ہر آن شخصے کہ صلاحیت نفس خود میجوید و رضا رب خود سے خواہد

رضاء ربہ و جعلنی من المکملین المملہین۔ و اکمل علی نعمہ و اتم تفضله

اگر گدائیدہ مرا از آمان گدائید کہ بشرف مکالمہ الہیہ شرف میباشند۔ و ہر من نعمتاً خود کمال کرو و تفضلاً

وسمائی المسیح ابن مریم بالفضل الرحۃ۔ و قدر بلی و ینتہ تشابہ الفطرۃ

خود با تمام رسانیدہ نام من از فضل خود مسیح ابن مریم نہاد۔ و در من مسیح ابن مریم تشابہ فطرت مقدر

کالجوہر من من المادۃ الواحدۃ و وهب لی علوماً مقدسۃ نقیۃ و معارف

کد۔ ہر آنچہ خود ہر از یک مادہ ہی باشند و مرا علوم مقدس و مصفا بخشید و معارف صاف و روشن

صافیۃ جلیۃ و علمنی ما لم یعلم غیری من المعاصرین۔ و صب فی

ملاکہ و مرا چیز را بیاورنت کہ غیر من از مردم ہم نماند من اذال با بخبر اند۔ و در دل من معارف

قلبی ما لم یحیطوا بہا علی۔ و نوراً لم یستہ احداً منهم و جعلنی من

پر خیت کہ علم آن از ایشان اصحے را نیست و در دل من نصیب پر خیت کہ هیچ کس از ایشان بدان شتائی نداد

تو ثابت ہے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہو نیوالے مر گئے مگر پھر شخص میرے ہاتھ سے جام پے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں۔ اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لئے آپ حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سو تم مقابلہ کے لئے جلدی نہ کرو اور دیدہ و دانستہ اس الزام کے نیچے اپنے تئیں داخل نہ کرو جو خدا نے تمہارے لئے فرماتا ہے لا تقف مانئیس ذلک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مستورا۔ بدظنی اور بدگمانی میں حد سے زیادہ مت پڑھو ایسا نہ ہو کہ تم اپنی باتوں سے پکڑے جاؤ اور پھر اس دکھ کے مقام میں تمہیں یہ کہنا پڑے کہ عالنا لا نری رجالا کنا بعد ہم من الا شرارے

آن نہ دانائی بود کز ناشکیبائی نفس	خویشترن راز و تیر رخصت و انکار آورد
صبر ماند طالب حق را کہ تم اندر جہاں	ہر چه پنهان خاصیت دارد بجاں بلر آورد
اندکے نور فراست باید این جامہ را	تا صد اقت خویشترن را خود با ظلم آورد
صادقیاں را صدق پنهانی نے ماند نہاں	نور پنهان بر جبین مرد الوار آورد
ہرگز دست کے خود دست کا ساتھی رسال	ہر زمان رویش سرور و اصل بار آورد

اے مسلمانو! اگر تم سچے دل سے حضرت خداوند تعالیٰ اور اس کے مقدس رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اور نصرت الہی کے منتظر ہو تو یقیناً سمجھو کہ نصرت کا وقت آ گیا اور یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں اور نہ کسی انسانی منصوبہ نے اس کی بنا ڈالی۔ بلکہ یہ وہی صحیح صداق ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ خدا نے تعالیٰ نے بڑی ضرورت کے وقت تمہیں یاو کیا قریب تھا کہ تم کسی مملکت گڑھے میں جا پڑتے مگر اس کے

لے بنا سڑیں سے لے ص ۱۰۲ ۴

ہو گیا تھا کیا وہ جو درحقیقت خدا سے ہے اسکو کہہ سکتے ہیں کہ وہ درحقیقت شیطان سے ہے ؟  
 ماسوا اس کے جبکہ یہ حقیقت بھی کھل گئی کہ حضرت مسیحؑ ہرگز مصلوب نہیں ہوئے اور ظہیر میں  
 ان کی قبر ہے تو اب راستی کے بھوکے اور پیاسے کیونکر عیسائی مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یہ مسلمان  
 کس صلیب کا ہے جو خدا نے آسمان سے پیدا کیا ہے نہ یہ کہ مار مار کر لوگوں کو مسلمان بناویں ہمارا  
 قوم کے علماء اسلام کو ذرہ ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ کیا جبر سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے اور کیا جبر سے  
 کوئی دین جہنم میں داخل ہو سکتا ہے اور جو لوگ مسلمانوں میں سے فقراء کہلاتے ہیں اور مشائخ اور  
 صوفی بنے بیٹھے ہیں اگر وہ اب بھی اس باطل عقیدہ سے باز نہ آویں اور ہماری دعویٰ مسیحیت کے  
 مصدق نہ ہو جائیں تو طریق سہل یہ ہے کہ ایک مجمع مقرر کر کے کوئی ایسا شخص جو میرے دعویٰ مسیحیت کے  
 نہیں مانتا اور اپنے تئیں ظہیر اور صاحب الہام جانتا ہے مجھے مقام بٹالہ یا امرتسر یا لاہور میں طلبہ کے  
 اور ہم دونوں جناب الہی میں ڈعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جناب الہی میں سچا ہے ایک  
 سال میں کوئی عظیم الشان نشان جو انسانی طاقتوں سے بالاتر اور معمولی انسانوں کے دسترس سے  
 بلند تر ہو۔ اس سے ظہور میں آئے۔ ایسا نشان کہ جو اپنی شوکت اور طاقت اور حکمت میں  
 عالم انسانوں اور مختلف طبائع پر اثر ڈالنے والا ہو خواہ وہ پیشگوئی ہو۔ یا اور کسی قسم کا اعجاز  
 ہو جو انبیاء کے معجزات سے مشابہ ہو۔ پھر اس دعا کے بعد ایسا شخص جس کی کوئی خارق عادت پیشگوئی  
 یا اور کوئی عظیم الشان نشان ایک برس کے اندر ظہور میں آجائے اور اس عظیم الشان نشان کے ساتھ ظہور  
 میں آئے جو اس مرتبہ کا نشان حریف مقابل سے ظہور میں نہ آسکے تو وہ شخص سچا سمجھا جائے گا  
 جس سے ایسا نشان ظہور میں آیا۔ اور پھر اسلام میں سے تفرقہ ڈور کرنے کے لئے شخص  
 مصلوب پر لازم ہوگا کہ اس شخص کی مخالفت چھوڑ دے اور بلا توقف اور بلا تاویل اس کی  
 بیعت کر لے۔ اور اس خدا سے جس کا غضب کھا جانے والی آگ ہے ڈرے۔  
 اکثر باہلوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ الہام شیطانی بھی ہوا کرتے ہیں۔ اہل حق کے تمام اکابر  
 اس عقیدہ پر متفق ہیں۔ پس ہر ایک شخص کا الہام جو زہے الفاظ ہوں اور کوئی فوق العادت امر

ان میں نہ ہو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی الہام ہرگز قابل پذیرائی نہیں جب تک کہ اس میں الہی شوکت نہ ہو۔ اور الہی شوکت یہ ہے کہ فوق العادۃ اور عظیم الشان پیشگوئیاں جو الوہیت کی قدرت اور علم سے بھری ہوئی ہوں اُس الہام میں پائی جائیں یا دوسرے الہاموں میں جو اسی شخص کے مُنہ سے نکلے ہوں۔ اور بائیں ہمہ یہ شرط بھی ہوگی کہ اس مجلس انعقاد سے دس دن پہلے بذریعہ چھپے ہوئے اشتہار کے مجھ کو خبر کر دجائے کہ ان تینوں مقالات متذکرہ بالا میں سے فلاں مقام اور نیز فلاں تاریخ اور وقت اس کام کیلئے تجویز کیا گیا ہے۔ اس اطلاع ذہبی کے اشتہار پر میں معزز اور نامور علماء اور شہر کے رئیسوں کے دستخط ہونے چاہئیں تا ایسا نہ ہو کہ کوئی مفید محض منسی اور شرارت کے ایسا اشتہار شائع کر دے۔ اور نیز یہ ضروری ہوگا کہ اس دعا کے بعد اگر کوئی نشان پیشگوئی کی قسم میں سے کسی پر ظاہر ہو تو وہ پیشگوئی بذریعہ کسی اشتہار مطبوعہ کے شائع کر دیکھائے۔ ہاں یہ کچھ ضروری نہیں کہ وہ کوئی نئی پیشگوئی ہو بلکہ اگر کوئی پرانی پیشگوئی ہو جو ابھی پوری نہ ہوئی ہو۔ یا ایسی پیشگوئی ہو جو ظہور عام طور پر لوگوں کو اس سے اطلاع نہ دی ہو تو ایسی پیشگوئی بھی لکھائیگی۔ اور سب سے بہتر وہ پیشگوئی گنی جائے گی جو کسی دعا کے قبول ہونے پر خدا تعالیٰ سے ملی ہو۔ کیونکہ دعا کا قبول ہونا اقل ملامت اولیاء اللہ میں سے ہے۔ اب میں اس آیت پر اس رسالہ کو ختم کرتا ہوں کہ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ آمِينَ وَأَخِرُ دَعْوَانَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ

المؤلف خاکسار مرزا اعلا م احمد زفا دیکھیم ۱۸۹۹ء

۴ کئی قلمی خطا ہلکے نام نہیں آنا چاہیے بلکہ اگر سب سے نیت سے مقابلہ کا ارادہ ہو۔ تو چھپا ہوا اطلاع نامہ جس پر بیسی معززین کی گواہی ہو۔ بتقدیر وقت اور تاریخ اور مقام اور تصریح نام شخص مقابلہ کسٹل من پہلے میرے نام آنا چاہیے۔ منہ

اور سب گزشتہ زمانوں سے زیادہ جوش مارا اور مجھے اُس نے مسیح موعود کر کے بھیجا تاکہ  
 میں اُسکی نبوت کے لئے تمام دنیا میں گواہی دوں۔ اگر میں بے دلیل یہ دعویٰ کرتا ہوں تو  
 جھوٹا ہوں لیکن اگر خدا اپنے نشانوں کے ساتھ اس طور پر میری گواہی دیتا ہے کہ اس  
 زمانہ میں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لیکر جنوب تک اسکی نظیر نہیں تو انصاف اور  
 خدا ترسی کا مقتضایہ ہی ہے کہ مجھے میری اس تمام تعلیم کے ساتھ قبول کریں۔ خدا نے  
 میرے لئے وہ نشان دکھائے کہ اگر وہ ان اُمتوں کے وقت نشان دکھلائے جلتے جو  
 پانی اور آگ اور ہوا سے ہلاک کی گئیں تو وہ ہلاک نہ ہوتیں مگر اس زمانہ کے لوگوں کو  
 میں کس سے تشبیہوں وہ اُس بد قسمت کی طرح ہیں جسکی آنکھیں بھی ہیں پر دیکھتا نہیں۔  
 اور کان بھی ہیں پر سننا نہیں اور عقل بھی ہے پر سمجھتا نہیں۔ میں ان کیلئے روتا ہوں اور  
 وہ مجھ پر ہنستے ہیں۔ اور میں انکو زندگانی کا پانی دیتا ہوں۔ اور وہ مجھ پر آگ برساتے ہیں۔  
 خدا میرے پر نہ صرف اپنے قول سے ظاہر ہوا ہے بلکہ اپنے فعل کے ساتھ بھی اُس نے  
 میرے پر تجلی کی اور میرے لئے وہ کام دکھلائے اور دکھلائیگا کہ جیتک کسی پر  
 خدا کا خاص فضل نہ ہو اس کیلئے یہ کام دکھلائے نہیں جاتے۔ لوگوں نے مجھے چھو دیا  
 لیکن خدا نے مجھے قبول کیا۔ کون ہے جو ان نشانوں کے دکھلانے میں میرے  
 مقابل پر آسکتا ہے۔ میں ظاہر ہوا ہوں تا خدا میرے ذریعہ سے ظاہر ہو۔ وہ ایک  
 مخفی خزانہ کی طرح تھا۔ مگر اب اُس نے مجھے بھیج کر ارادہ کیا کہ تمام دہریوں اور

اب ہم ان چند وساوس کا جواب دیتے ہیں جن کا جواب بعض حق کے طالبوں نے مجھ سے دریافت کیا ہے اور اکثر ان میں وہ وساوس ہیں جو عبدالحکیم خان اسٹنٹ سر جن ٹیالہ نے تخریراً یا تقریراً لوگوں کے دلوں میں ڈالے اور اپنے مُرتد ہونے پر ایسی مہر لگا دی کہ اب غالباً اس کا خاتمہ اسی پر ہو گا۔ میں نے ان چند وساوس کا جواب منشی برہان الحق صاحب شاہجہان پور کے اصرار سے لکھا ہے جو انہوں نے نہایت انکسار سے اپنے خط میں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ میں ذیل میں منشی برہان الحق کے خط کی اصل عبارت ہر ایک سوال میں لکھ کر اس کا جواب دیتا ہوں۔ وبالله التوفیق۔

## سوال (۱)

تزیان القلوب کے صفحہ ۱۵۷ میں (جو میری کتاب ہے) لکھا ہے۔ اس جگہ کسی کو یہ ہم نہ گندے کہ میں نے اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے کہ جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے۔ پھر یو یو جلا بول قول نمبر ۱ صفحہ ۲۵۷ میں مذکور ہے خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ پھر یو یو صفحہ ۲۷۸ میں لکھا ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہوئے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ خلاصہ اعتراض یہ کہ ان دونوں عبارتوں میں تناقض ہے۔

الجواب۔ یاد ہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے ان باتوں سے نہ کوئی خوشی ہے نہ کچھ غرض۔ کہ میں مسیح موعود کہلاؤں یا مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں بہتر ٹھہراؤں۔ خدا نے میرے ضمیر کی اپنی اس پاک وحی میں آپ ہی خبر دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے قُلْ أُجْرَدُ نَفْسِي مِنْ حُرُوبِ الْخَطَابِ۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا تو یہ حال ہے کہ میں کسی خطاب کو اپنے لئے نہیں چاہتا یعنی میرا مقصد اور میری مراد ان خیالات سے بزرگ ہے اور کوئی خطاب دینا یہ خدا کا فعل ہے میرا اس میں دخل نہیں ہے۔ یہی بات کہ ایسا کیوں لکھا گیا اور کلام میں یہ تناقض کیوں پیدا ہو گیا۔ سو اس بات کو تو بڑھ کر کے سمجھ لو کہ یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین احمدیہ

لے یہ عبارت۔ یو یو کے صفحہ ۲۷۸ میں ہے اس لئے ۲۷۵ کی بجائے ۲۷۴ کر دیا گیا ہے۔ (صحیح)

میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنیو الا مسیح میں ہی پڑا۔  
اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے  
فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر چھا ہوا  
تھا اور میرا بھی ہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوئے اس لئے میں نے خدا کی وحی کو  
ظاہر پر عمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تاویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو  
براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اسکے اس بارہ میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود  
ہو آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اور ساتھ اس کے صد ہا نشان ظہور میں آئے اور زمین و آسمان دونوں میری  
تصدیق کیلئے کھڑے ہو گئے اور خدا کے چمکتے ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے مجھے اس طرف لے آئے  
کہ آخری زمانہ میں مسیح آنے والا میں ہی ہوں ورنہ میرا اعتقاد تو وہی تھا جو میں نے براہین احمدیہ  
میں لکھ دیا تھا اور پھر میں نے اسی پر کفایت نہ کر کے اس وحی کو قرآن شریف پر عرض کیا تو آیات قطعیۃ الدلائل  
سے ثابت ہوا کہ درحقیقت مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہو اور آخری خلیفہ مسیح موعود کے نام پر اسی اُمت  
میں سے آئیگا۔ اور جیسا کہ جب دن چڑھ جاتا ہو تو کوئی تاریکی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح صد ہا نشانوں  
اور آسمانی شہادتوں اور قرآن شریف کی قطعیۃ الدلائل آیات اور نصوص صریحہ حدیثیہ نے مجھے اس بات  
کے لئے مجبور کر دیا کہ میں اپنے تئیں مسیح موعود مان لوں۔ میرے لئے یہ کافی تھا کہ وہ میرے پر خوش ہو  
مجھے اس بات کی ہرگز تمنا نہ تھی۔ میں پوشیدگی کے جھرمچ میں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے  
یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے۔ اُس نے گوشہ تنہائی سے مجھے جبراً نکالا۔ میں نے چاہا کہ میں  
پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مریں مگر اُس نے کہا کہ میں تجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت ڈول گا  
پس یہ اُس خدا سے پوچھو کہ ایسا کرنے کیوں کیا؟ میرا اس میں کیا قصور ہے۔ اسی طرح اوائل میں میرا  
یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت؟ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے۔  
اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اُسکو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں  
جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اُس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور



اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آخری زمانہ میں میری اُمت میں سے ہی مسیح موعود آئیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی تھی کہ میں معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھ آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور یہی شہید کے پاس دوسرے آسمان میں اُنکو دیکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور خدا نے میری سچی بیٹی کی گواہی کیلئے تین لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کئے اور آسمان پر کسوف خسوف رمضان میں ہوا۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نشاں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود صد ہا نشاں کے مُفتری ٹھیراتا ہے تو وہ مومن کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ مومن ہے تو میں بوجہ افتراء کرنے کے کافر ٹھیرا کیونکہ میں اُنکی نظر میں مُفتری ہوں اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اِمَّا قَلِيلًا لِمَ تَوَدُّونَا وَلٰكِن قَوْلًا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَيْفَ تَدْعُوْنَ اِيْمَانًا لَا تَدْخُلُ فِيْهِ قُلُوْبُكُمْ اِنْتُمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۔ اُن سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ہاں یوں کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پس جبکہ خدا اطاعت کر نیوالوں کا نام مومن نہیں رکھتا۔ پھر وہ لوگ خدا کے نزدیک کیونکر مومن ہو سکتے ہیں جو کھلے کھلے طور پر خدا کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ہزار ہا نشان دیکھ کر جو زمین اور آسمان میں ظاہر ہوئے پھر بھی میری تکذیب سے باز نہیں آتے۔ وہ خود اس بات کا اقرار رکھتے ہیں کہ اگر میں مُفتری نہیں اور مومن ہوں۔ تو اس صِدقت میں وہ میری تکذیب اور تکفیر کے بعد کافر ہوئے۔ اور مجھے کافر ٹھیرا کر اپنے کفر پر فخر لگادی۔ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ پھر جب کہ دوسو مولوی نے مجھے کافر ٹھیرا یا اور میرے پرکفر کا فتویٰ دیکھا گیا اور انہیں کے فتوے سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو مومن کہنے والا بھی کافر ہو جاتا

محض جاہل اس سے دعو کا بھی کھالتے ہیں۔ لیکن حکیم مطلق نے سونے میں ایک امتیازی نشانی رکھا ہے جس کو صرف فی الفور شناخت کر لیتے ہیں اور بہتیرے سفید اور چمکتے ہوئے پتھر ایسے ہیں کہ جو ہیرے سے بہت ہی مشابہ ہیں اور بعض نادان ان کو ہیرا سمجھ کر ہزار ہا روپیہ کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن صنایع عالم نے ہیرے کے لئے ایک امتیازی نشان رکھا ہوا ہے جس کو ایک دانشمند جوہری شناخت کر سکتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کے کل جوہرات اور عمدہ چیزوں کو دیکھ لو کہ اگرچہ بظاہر نظر کئی ردی اور ادنیٰ درجہ کی چیزیں سن سے مثل میں مل جاتی ہیں مگر ہر ایک پاک اور قابل قدر جوہر اپنے امتیازی نشان سے اپنی خصوصیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لہذا اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیرا پڑ جاتا۔ اور خود انسان کو دیکھو کہ اگرچہ وہ صورت میں بہت سے حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے جیسا کہ بندہ سے تاہم اس میں ایک امتیازی نشان ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بندہ کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ پھر جبکہ اس مادی دنیا میں جو ناپائیدار اور بے ثبات ہے اور جس کا نقصان بھی بمقابل آخرت کے کچھ چیز نہیں ہے ہر ایک عمدہ اور نفیس جوہر کیلئے حکیم مطلق نے امتیازی نشان قائم کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جوہر سہولت شناخت کیا جاتا ہے۔ تو پھر مذہب جس کی غلطی جہنم تک پہنچاتی ہے اور ایسا ہی ایک راستہ لہذا اہل اللہ کا وجود جس کا انکار عقوبت ابدی کے گڑھے میں ڈالتا ہے کیونکہ یقین کیا جائے کہ ان کی شناخت کے لئے کوئی بھی یقینی اور قطعی نشان نہیں۔ پس ایسے شخص سے زیادہ کون اس حق اور نادان ہے کہ جو خیال کرتا ہے کہ پچھلے مذہب اور پچھے ماستباز کے لئے کوئی امتیازی نشان خدا نے قائم نہیں کیا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں آپ فرماتا ہے کہ کتاب اللہ جو مذہب کی بنیاد ہے امتیازی نشان اپنے اللہ رکھتی ہے جس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور نیز فرماتا ہے کہ ہر ایک مومن کو فرقان عطا ہوتا ہے یعنی امتیازی نشانی جس سے وہ شناخت کیا جاتا ہے۔ پس یقیناً سمجھو کہ سچا مذہب اور حقیقی ماستباز ضرور اپنے ساتھ امتیازی نشان رکھتا ہے اور اسی کا نام دوسرے نفلوں میں معجزہ اور کرامت اور خلق عادت امر ہے۔

۱۸۴۔ نشان۔ ایک دن میری بیوی کے حقیقی بھائی مسید محمد اسمعیل کا جو اس وقت اسٹنٹ سرجن ہے پٹیلہ سے خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور خط کے اخیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسحاق میرا چھوٹا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے اور تاکید کی تھی کہ خط کو دیکھتے ہی چلے آویں۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایسے وقت میں وہ خط پہنچا کہ جب خود میرے گھر کے لوگ سخت تپ سے بیمار تھے اور مجھے خوف تھا کہ اگر ان کو اس خط کے مضمون سے اطلاع دی جائے گی تو اندیشہ جان ہو۔ تب میرا دل نہایت اضطراب میں پڑا اس اضطراب کی حالت میں مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ یہ خبر وفات صحیح نہیں اور میں نے اس الہام سے مولوی عہد الکریم صاحب مرحوم اور شیخ حامد علی اود بہت سے لوگوں کو اطلاع دی اور پھر بعد اس کے شیخ حامد علی کو جو میرا ملازم ہے پٹیلہ میں بھیجا تو معلوم ہوا کہ درحقیقت خلافت واقعہ تھی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے کسی کو امور غیبیہ پر اطلاع نہیں ہوتی۔ اور یہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسی غیب کی خبر دی جس نے خط کے مضمون کو رد کر دیا۔

۱۸۵۔ نشان۔ بعض نشان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے وقوع میں ایک منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ کہ فی الفور واقع ہو جاتے ہیں اور اللہ میں گواہ کا پیدا ہونا کم مہینہ آتا ہے اس قسم کا یہ ایک نشان ہے کہ ایک دن بعد نماز صبح میرے پرکشی حالت طاری ہوئی اور میں نے اس وقت اس کشفی حالت میں دیکھا کہ میرا لڑکا مبارک احمد باہر سے آیا ہے اور میرے قریب جو ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ پیر پھسل کر گر پڑا ہے اور اس کو بہت چوٹ لگی ہے اور تمام کُرتہ خون سے بھر گیا ہے۔ میں نے اس وقت مبارک احمد کی والدہ کے پاس جو اس وقت میرے پاس کھڑی تھیں یہ کشف بیان کیا۔ تو ابھی میں بیان ہی کر چکا تھا کہ مبارک احمد ایک طرف سے دوڑا آیا۔ جب چٹائی کے پاس پہنچا۔ تو چٹائی سے پیر پھسل کر گر پڑا۔ اور سخت چوٹ آئی اور تمام کُرتہ خون سے بھر گیا۔ اور

ایک منٹ کے اندر ہی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ ایک نادان کہے گا کہ اپنی بیوی کی گواہی کا کیا اعتبار ہے اور نہیں جانتا کہ ہر ایک شخص طبعاً اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر پھر جھوٹ بولے۔ سو اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر معجزات کے گواہ آنجناب کے دوست اور آنجناب کی بیویاں تھیں۔ اس صورت میں وہ معجزات بھی باطل ہوتے ہیں اور اکثر نشانوں کے دیکھنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہر وقت ساتھ رہنے کا انہیں کو اتفاق ہوتا ہے۔ دشمنوں کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان نشانوں کو دیکھ سکیں کہ جو ایک طرف بذریعہ پیشگوئی بتلائے جاتے اور دوسری طرف معاً پورے ہو جاتے ہیں۔ دشمن کا تو دل بھی ڈور ہوتا ہے اور جسم بھی ڈور۔

۱۸۶۔ نشان۔ ایسا ہی عرصہ قریباً تین سال کا ہوا ہے کہ صبح کے وقت کشفی طور پر مجھے دکھایا گیا کہ مبارک احمد سخت مبہوت اور بدحواس ہو کر میرے پاس دوڑا آیا ہے اور نہایت بے قرار ہے اور حواس اڑے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ ابا پانی یعنی مجھے پانی دو۔ یہ کشف میں نے نہ صرف گھر کے لوگوں کو بلکہ بہتوں کو سنا دیا تھا۔ کیونکہ اسکے وقوع میں ابھی قریباً دو گھنٹے باقی تھے۔ اس کے بعد اسی وقت ہم باغ میں گئے اور قریباً بجے صبح کا وقت تھا اور مبارک احمد بھی ساتھ تھا اور مبارک احمد کسی دوسرے چھوٹے بچوں کے ساتھ باغ کے ایک گوشہ میں کھیلتا تھا اور عمر قریباً چار برس کی تھی اس وقت میں ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ مبارک احمد زور سے میری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور سخت بدحواس ہو رہا ہے میرے سامنے آ کر اتنا اسکے منہ سے نکلا کہ ابا پانی۔ بعد اسکے نیم بیہوش کی طرح ہو گیا اور وہاں سے کنواں قریباً پچاس قدم کے فاصلہ پر تھا میں نے اسکو گود میں اٹھالیا اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں تیز قدم اٹھا کر اور دوڑ کر کنوئیں تک پہنچا اور اسکے منہ میں پانی ڈالا۔ جب اس کو ہوش آئی اور کچھ آرام آیا تو میں نے اس سے اس حادثہ کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بعض بچوں کے کہنے سے میں نے بہت پسا ہوا

ایک منٹ کے اندر ہی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ ایک نادان کہے گا کہ اپنی بیوی کی گواہی کا کیا اعتبار ہے اور نہیں جانتا کہ ہر ایک شخص طبعاً اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ نورِ تعالیٰ کی قسم کھا کر پھر ٹھوٹ بولے۔ سو اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر معجزات کے گواہ آنجناب کے دوست اور آنجناب کی بیویوں تھیں۔ اس صورت میں وہ معجزات بھی باطل ہوتے ہیں اور اکثر نشانوں کے دیکھنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہر وقت ساتھ رہنے کا انہیں کو اتفاق ہوتا ہے۔ دشمنوں کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان نشانوں کو دیکھ سکیں کہ جو ایک طرف بذریعہ پیشگوئی بتلائے جاتے اور دوسری طرف معاً پورے ہو جاتے ہیں۔ دشمن کا تو دل بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی دور۔

۲۵

۱۸۶۔ نشان۔ ایسا ہی عرصہ قریباً تین سال کا ہوا ہے کہ صبح کے وقت کشفی طور پر مجھے دکھایا گیا کہ مبارک احمد سخت مبہوت اور بدحواس ہو کر میرے پاس دوڑا آیا ہے اور نہایت بے قرار ہے اور حواس اڑے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ آبا پانی یعنی مجھے پانی دو! یکشف میں نے نہ صرف گھر کے لوگوں کو بلکہ بہتوں کو سنا دیا تھا۔ کیونکہ اسکے وقوع میں ابھی قریباً دو گھنٹے باقی تھے۔ اس کے بعد اسی وقت ہم باغ میں گئے اور قریباً بجے صبح کا وقت تھا اور مبارک احمد بھی ساتھ تھا اور مبارک احمد کسی دوسرے چھوٹے بچوں کے ساتھ باغ کے ایک گوشہ میں کھیلتا تھا اور عمر قریباً چار برس کی تھی اسوقت میں ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ مبارک احمد زور سے میری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور سخت بدحواس ہو رہا ہے میرے سامنے آ کر اتنا اسکے منہ سے نکلا کہ آبا پانی۔ بعد اسکے نیم بہوش کی طرح ہو گیا اور وہاں سے کنواں قریباً پچاس قدم کے فاصلہ پر تھا میں نے اسکو گود میں اٹھالیا اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں تیز قدم اٹھا کر اور دوڑ کر کنو میں تک پہنچا اور اسکے منہ میں پانی ڈالا۔ جب اس کو ہوش آئی اور کچھ آرام آیا تو میں نے اس سے اس حادثہ کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بعض بچوں کے کہنے سے میں نے بہت پسا ہوا

منجانب اللہ الہام ہوا۔

چل رہی ہے نسیم رحمت کی جو دُعا کیجئے قبول ہے آج

اس دُعا کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ مشکلات اُن کے دُور کر دیئے اور انہوں نے شکر گزاری کا سخط لکھا۔ اس واقعہ کا وہی خط گواہ ہے جو میرے کسی بستہ میں موجود ہوگا اور کئی اور لوگ گواہ ہیں بلکہ اُس وقت صدرِ آدمیوں میں یہ میرا الہام شہرت پا گیا تھا اور نواب علی محمد خان مرحوم رئیس جھرنے بھی اس کو اپنی یادداشت میں لکھ لیا تھا۔

۱۷۹۔ نشان۔ مولوی کرم دین کے مقدمہ میں جو گورداسپور میں دائر تھا کرم دین مذکور اس بات پر زور دیتا تھا کہ نسیم کے لفظ کے معنی ولد الزنا ہیں اور کذاب کے یہ معنی ہیں جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو یہی معنی پہلی عدالت نے قبول کئے۔ اُن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا۔ معنی دیگر نہ پسندیم۔ جس سے یہ فہم ہوئی کہ دوسری عدالت میں یہ معنی قائم نہیں رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اپیل کی عدالت میں صاحبِ ڈویژنل جج نے ان تمام عُذرات کو رد کر دیا اور یہ لکھا کہ کذاب اور ظہیم کے الفاظ کرم دین کے مناسب حال ہیں بلکہ وہ اس سے بڑھ کر الفاظ کا بھی مستحق ہے سو صاحبِ ڈویژنل جج نے وہ پُر تکلف معنی کرم دین کے پسند نہ کئے جو پہلی عدالت میں پسند کئے گئے تھے دیکھو اخبار الحکم نمبر ۱، جلد ۲۔ ۲۴ مئی ۱۹۰۲ء جس میں الہام موجود ہے۔

۱۸۰۔ نشان۔ ایک دفعہ ۱۸۹۷ء میں مجھے الہام ہوا یریدون ان یطفوا اورک و تخطوا عرضک و انا معک ومع اهلك یعنی دشمن لوگ ارادہ کریں گے کہ تیرے نور کو بجھا دیں اور تیری آبرو ریزی کریں مگر میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ اور اُن کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں اور انہی دنوں میں میں نے دیکھا کہ میں ایک کوچہ میں ہوں جو آگ سے بند ہے اور بہت تنگ کوچہ ہے کہ بمشکل ایک آدمی اس میں سو گز رسکتا ہو۔ میں بند کوچہ کے آخری حصہ میں جس کے آگے کوئی راہ نہ تھا۔ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جو واپس جانے کی طرف راہ تھی اُسکی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تین قوی سیکل سٹوٹھے وہاں کھڑے ہیں جو خونخوئی ہیں اور گزرنے کی

راہ بند کر رکھی ہو۔ ایک اُن میں سے میری طرف حملہ کر کے دوڑا۔ اُس کو میں نے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ پھر دوسرا حملہ آور ہوا اور اُسکو بھی میں نے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ پھر تیسرا اس شدت اور جوش سے آیا کہ اُسے دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ اب خیر نہیں لیکن جب میرے قریب آیا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور میں اُسکے ساتھ رگڑ کر اُسکے پاس سے گذر گیا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات میرے دل پر القا ہوئے جن کو میں پڑھتا جانا اور دوڑتا تھا اور وہ یہ ہیں رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ مُّخَادِعٌ لِّكَ رَبِّ ذَاتِ الْخُفْيٰتِ وَانصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ۔ اس واقعے دیکھنے کے ساتھ ہی مجھ کو تفہیم ہوئی کہ کوئی دشمن مقدمہ برپا کر گیا اور اُسکے تین وکیل ہونگے اور یہ الہام اور کشف قبل ظہور اس مقدمہ کے پرچہ اخبار الحکم ۱۹۱۲ء یعنی الحکم نمبر ۲۴ میں درج ہو کر شائع کی گئی بعد میں کرم دین نے جہلم میں میرے پر مقدمہ کیا اور میری طلبی ہوئی اور وہ مقدمہ فوجداری اور سخت مقدمہ تھا اور جیسا کہ کشفی حالت میں ظاہر کیا گیا تین وکیل اُسکے تھے۔ آخر کار بموجب وعدہ الہی وہ مقدمہ اُس کا خارج ہوا۔ دیکھو پرچہ اخبار الحکم ۱۹۱۲ء نمبر ۲۴ جلد ۶ پیج ۱۸۱۔

۱۸۱۔ نشان۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ ایک لڑکی تمہارے گھر میں پیدا ہوگی اور مرجائیگی اور اُس کا نام غاسق رکھا یعنی غروب ہونیوالی۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ طفولیت

۱۹۔ مولوی کرم دین کے متعلق ایت پیشگوئی منقولہ طہ پر اخبار الحکم میں قبل از وقت شائع ہوئی ہو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فوجداری مقدمہ میں حالت ماتحت میرے برخلاف فیصلہ کر لی اور پھر عدالت عالیہ سومیری بریت ہو جائیگی چنانچہ کرم دین نے جب گوردہ پور میں میرے پر فوجداری مقدمہ کیا تو عدالت ماتحت یعنی آثار رام کے محکمے سے پانسو روپیہ جرمانہ میرے پر چڑھا۔ پھر عدالت عالیہ یعنی صاحب ڈویژن علی بیج کے محکمے سے وہ حکم منسوخ ہو کر ترقی کے ساتھ میری بریت ہوئی اور حاکم مجوز نے لکھا کہ لفظ کذاب اور العیثم جو کرم دین کی نسبت استعمال کئے گئے ہیں وہ محل پر میں اور کرم دین ان الفاظ کا مستحق ہے بلکہ اگر ان الفاظ سے بڑھ کر اور سخت الفاظ کرم دین کی نسبت لکھے جاتے تب بھی وہ ان الفاظ کا مستحق تھا ایسے الفاظ سے کرم دین کی کوئی ازالہ حیثیت حرنی نہیں ہوئی۔ یہ پیشگوئی وقت سے بہت پہلے شائع کی گئی تھی۔ مینہ

۲۰۔ یہ نشان پہلے بھی لکھا جا چکا ہے مگر اب اس جگہ مزید تشریح کئے دوبارہ درج کیا گیا۔ مینہ

وارث نہیں تھا اس لئے اس کی زمین میں سے آدمی تو ہمارے حصہ میں آئی اور آدمی زمین چار کے  
بچا زاد بھائیوں کے حصہ میں گئی اور اس طرح پر وہ پیشگوئی پوری ہو گئی جس کے پورے ہونے  
اور بیان کرنے پر ایک جماعت گواہ ہے اور نیز شیخ حامد علی بھی جو زندہ موجود ہے۔

۹۵۔ پچانوئل نشان۔ ایک دفعہ مجھے لڈھیانہ سے ٹیالہ جانے کا اتفاق ہوا اور میرے ساتھ  
شیخ حامد علی اور دو مسافر شخص فتح خان نام ساکن ایک گاؤں متصل ٹانڈہ ضلع ہوشیار پور کا اور تیسرا  
شخص عبدالرحیم نام ساکن انبالہ چھاؤنی تھا اور بعض اور بھی تھے جو یاد نہیں رہے۔ جس صبح  
ہم نے ریل پر سوار ہونا تھا مجھے الہام کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اس سفر میں کچھ نقصان ہوگا  
اور کچھ خرچ بھی۔ میں نے اپنے ان تمام ہمراہیوں کو کہا کہ نماز پڑھ کر دعا کرو کیونکہ مجھے یہ الہام  
ہوا ہے۔ چنانچہ سب نے دعا کی اور پھر ہم ریل پر سوار ہو کر ہر ایک طور کی عافیت سے ٹیالہ میں  
پہنچ گئے۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو وزیر اعظم ریاست کا خلیفہ محمد حسن مع اپنے تمام ارکان ریاست  
کے جو شاید اٹھارہ گاڑیوں پر سوار ہوئے پیشوا کی کے لئے موجود دیکھے اور جب آگے بڑھے تو  
شاید سات ہزار کے قریب دو سو سے عام و خاص شہر کے رہنے والے ملاقات کیلئے موجود تھے  
اس حد تک تو غیر گداری نہ کوئی نقصان ہوا اور نہ کوئی خرچ۔ لیکن جب واپس آنے کا ارادہ ہوا۔ تو  
دہلی وزیر صاحب مع اپنے بھائی سید محمد حسین صاحب کے جو شاید ان دنوں میں ممبر کونسل ہیں مجھے  
ریل پر سوار کرنے کیلئے اسٹیشن پر میرے ہمراہ گئے اور ان کے ساتھ نواب علی محمد خان صاحب  
مرحوم مجھ والے بھی تھے۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو ریل کے چلنے میں کچھ دیر تھی۔ میں نے  
ارادہ کیا کہ جھڑکی نماز یہیں پڑھ لیں اس لئے میں نے پورے اتار کر وضو کرنا چاہا اور پورے وزیر صاحب  
کے ایک ملازم کو پکڑا دیا اور پھر چوٹہ پہن کر نماز پڑھ لی۔ اور اس چوٹہ میں زاہد راہ کے طور پر  
کچھ روپیہ تھے اور اسی میں ریل کا کارڈ بھی دینا تھا۔ جب ٹکٹ لینے کا وقت آیا تو میں نے جیب  
میں ہاتھ ڈالا کہ ٹکٹ کیلئے روپیہ دوں تو معلوم ہوا کہ وہ رو مال جس میں روپیہ تھا گم ہو گیا۔  
معلوم ہوتا ہے کہ چوٹہ اتارنے کے وقت کہیں گر پڑا۔ مگر مجھے بجائے غم کے خوشی ہوئی کہ ایک



حصہ پیشگوئی کا پورا ہو گیا۔ پھر ہم ٹکٹ کا انتظام کر کے ریل پر سوار ہو گئے۔ جب ہم دو راہہ کے اسٹیشن پہنچے تو شاید اس وقت دس بجے رات کا وقت تھا اور وہاں صرف پانچ منٹ کیلئے ریل ٹھہرتی تھی۔ میرے ایک ہمراہی شیخ عبدالرحیم نے ایک انگریز سے پوچھا کہ کیا لودمانہ آگیا؟ اس نے شرارت سے یا کسی اپنی خود غرضی سے جواب دیا کہ ہاں آگیا۔ تب ہم مع اپنے تمام اسباب کے جلد جلد اتر آئے۔ اتنے میں ریل روانہ ہو گئی۔ اترنے کے ساتھ ہی ایک ویرانہ اسٹیشن دیکھ کر پتہ لگ گیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ وہ ایسا ویرانہ اسٹیشن تھا کہ بیٹھنے کے لئے چارپائی بھی نہیں ملتی تھی اور نہ روٹی کا سامان ہو سکتا تھا مگر اس امر کے خیال سے کہ اس حرج کے پیش آنے سے دوسرا حصہ پیشگوئی کا بھی پورا ہو گیا۔ اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ گویا اس مقام میں کسی نے ہمیں بھاری دعوت دی اور گویا ہر ایک قسم کا خوش مزہ کھانا ہمیں مل گیا۔ بعد اس کے اسٹیشن ہسٹری اپنے کمرہ سے نکلا اس نے افسوس کیا کہ کسی نے ناحق شرارت سے آپکو حرج پہنچایا اور کہا کہ آدھی رات کو ایک مل گاڑی آئے گی۔ اگر گنجائش ہوئی تو میں اس میں بٹھا دوں گا۔ تب اس نے اس امر کے دریافت کے لئے تاڑی اور جواب آیا گنجائش ہے۔ تب ہم آدھی رات کو سوار ہو کر لودمانہ میں پہنچ گئے۔ گویا یہ سفر اسی پیشگوئی کے لئے تھا۔

۵۶۔ چھیا نواں نشان۔ ایک دفعہ نواب علی محمد خان مرحوم رئیس لودھیانہ نے میری طرف خط لکھا کہ میرے بعض امور معاش بند ہو گئے ہیں آپ دعا کریں کہ تا وہ کھل جائیں۔ جب میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ کھل جائیں گے۔ میں نے بذریعہ خط انکو اطلاع دے دی۔ پھر صرف دو چار دن کے بعد وہ وجوہ معاش کھل گئے اور انکو بشدت اعتقاد ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے بعض اپنے پوشیدہ مطالب کے متعلق میری طرف ایک خط روانہ کیا۔ اور جس گھڑی انہوں نے خط ڈاک میں ڈالا اسی گھڑی مجھے الہام ہوا کہ اس مضمون کا خط انکی طرف سے آنے والا ہے۔ تب میں نے بلا توقف انکی طرف یہ خط لکھا کہ اس مضمون کا خط آپ روانہ کریں گے

حصہ پیشگوئی کا پورا ہو گیا۔ پھر ہم ٹکٹ کا استعمال کر کے ریل پر سوار ہو گئے۔ جب ہم دوراہہ کے اسٹیشن پر پہنچے تو شاید اس وقت دس بجے رات کا وقت تھا اور وہاں صرف پانچ منٹ کیلئے ریل ٹھہرتی تھی۔ میرے ایک ہمراہی شیخ عبدالرحیم نے ایک انگریز سے پوچھا کہ کیا لوہانہ آگیا؟ اُس نے شرارت سے یا کسی اپنی خود غرضی سے جواب دیا کہ ہاں آگیا۔ تب ہم مع اپنے تمام اسباب کے جلد جلد اتر آئے۔ اتنے میں ریل روانہ ہو گئی۔ اترنے کے ساتھ ہی ایک ویرانہ اسٹیشن دیکھ کر پتہ لگ گیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ وہ ایسا ویرانہ اسٹیشن تھا کہ بیٹھنے کے لئے چارپائی بھی نہیں ملتی تھی اور نہ روٹی کا سامان ہو سکتا تھا مگر اس امر کے خیال سے کہ اس حربہ کے پیش آنے سے دوسرا حصہ پیشگوئی کا بھی پورا ہو گیا۔ اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ گویا اس مقام میں کسی نے ہمیں بھاری دعوت دی اور گویا ہر ایک قسم کا خوش مزہ کھانا ہمیں مل گیا۔ بعد اس کے اسٹیشن ماسٹر اپنے کمرے سے نکلا۔ اُس نے افسوس کیا کہ کسی نے ناحق شرارت سے آپکو حرج پہنچایا اور کہا کہ آدھی رات کو ایک مال گاڑی آئے گی۔ اگر گنجائش ہوئی تو میں اُس میں بٹھا دوں گا۔ تب اُس نے اُس امر کے دریافت کے لئے تار دی اور جواب آیا گنجائش ہے۔ تب ہم آدھی رات کو سوار ہو کر لوہانہ میں پہنچ گئے۔ گویا یہ سفر اسی پیشگوئی کے لئے تھا۔

۲۲۶

۵۶۔ چھیا لوہا نشان۔ ایک دفعہ نواب علی محمد خان مرحوم رئیس لوہانہ نے میری طرف خط لکھا کہ میرے بعض امور معاش بند ہو گئے ہیں آپ دعا کریں کہ تا وہ کھل جائیں۔ جب میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ کھل جائیں گے۔ میں نے بذریعہ خط انکو اطلاع دے دی۔ پھر صرف دو چار دن کے بعد وہ وجوہ معاش کھل گئے اور انکو شدت اعتقاد ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے بعض اپنے پوشیدہ مطالب کے متعلق میری طرف ایک خط روانہ کیا۔ اور جس گھڑی یا انہوں نے خط ڈاک میں ڈالا اسی گھڑی مجھے الہام ہوا کہ اس مضمون کا خط انکی طرف سے آئے والا ہو۔ تب میں نے بلاوقت انکی طرف یہ خط لکھا کہ اس مضمون کا خط آپ روانہ کرینگے

اور قہر کے دیکھنے سے ہم کسی کو امن نہیں کرتے۔

اسباب پرستی، پتھر پرستی سے بڑھ کر ہے۔ پتھروں کی پوجا اگر محرقہ ہے، تو اسباب پرستی تپ و تی ہے جس نے دنیا کو ہلاک کر دیا ہے۔ یاد رکھو جو اسباب میں دل لگاتا ہے، وہ شکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر ماہوں کی حفاظت کا قوی ذمہ خدائے تعالیٰ نے لیا ہے۔ مگر ایک دار تو وہ ہے جو شخص دعا شاکر خالق کا بتاؤ اور وہ تو یار والا گھر ہے اور ایک وہ جو ہمارے منشاء کے موافق دعائی طور پر اپنی تبدیلی کرتا ہے۔ وہ بھی ہمارے دار میں ہے۔

**برکت کا نشان**  
 میرے پاس ایک شیشی مشک کی ہے جس میں سے میں کھایا کرتا ہوں یا خدا تعالیٰ جب کسی چیز کے سلسلے کو منقطع کرنا نہیں چاہتا، تو جس طرح چاہے اس کو برکت دیتے ہیں۔ مگر واللہ! خدا تعالیٰ نے اس شیشی کو برکت دیتا ہوں، چنانچہ میں نے اس میں ٹھونک مار دی۔ ڈاک کے وقت فضل الہی ایک شیشی لایا میں نے سمجھا کہ کوئی روانی ہے اور رکھ دی۔ مگر فجر کو جب اسے کھول کر دیکھا تو وہ مشک نکلا۔ میں نے اس کو بلا کر پوچھا کہ کس نے بھیجی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کا قذم ہو گیا اس شیشی پر بھی مرسل و فریسنڈ کا نام نہیں۔ یہ نور خدا تعالیٰ نے برکت کا دیا ہے۔ میں نے گھر میں خود ٹھونک ماری اور وہ دوسرے دن وہ شیشی آگئی۔ یہ خدا کے عجیب کام ہیں، جو اسکل ظاہر ہو رہے ہیں۔ فالحمد لله عظمیٰ ذالک

۳۰ ستمبر ۱۹۰۲ء

**روغن کیتھولک اور پرائیٹ**  
 دو روغن کیتھولک اور پرائیٹ دراصل دونوں ایک ہی ہیں۔ آدم نزلو کی پرستش کرنے میں کوئی ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہے۔ ایک بیٹے کی پرستش کرتا ہے تو دوسرا ماں کو بھی خدا بناتا ہے اور اس معاملہ میں وہ ممکنہ حدی سے کام لیتا ہے جب بیٹا خدا ہے تو ماں کو ضرور خدا ہونی چاہیے۔ گلاب وقت آگیا ہے کہ انسان پرستی کا شہیر ٹوٹ جاوے۔

الحکم جلد ۹ نمبر ۲ ص ۱۵-۱۶ پرچہ ۱۶ ستمبر ۱۹۰۲ء

اٹھا اور امتحان کیلئے چلنا شروع کیا تو ثابت ہوا کہ میں بالکل تندرست ہوں۔ تب مجھے اپنے قادر خدا کی قدرت عظیم کو دیکھ کر رونا آیا کہ کیسا قادر ہمارا خدا ہے اور ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ اس کی کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی پیروی کی۔ اور کیا بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اس ذوالعجاب خدا پر ایمان نہیں لائے۔

۸۵۔ نشان۔ ایک مرتبہ میں قونج زحیری سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن پاخانہ کی راہ سے

خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے انہیں دلوں میں شیخ رحیم بخش صاحب رحم

مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب کے والد ماجد بٹالہ سے میری عیادت کیلئے آئے اور میری نازک حالت

انہوں نے دیکھی اور میں نے سنا کہ وہ بعض لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آج کل یہ مرض وبا کی طرح پھیل رہا ہے

بٹالہ میں ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کر آیا ہوں جو ایسی مرض سے فوت ہوا ہے اور ایسا اتفاق ہوا کہ

کہ محمد بخش نام ایک حجام قادیان کا رہنے والا اسی دن اسی مرض سے بیمار ہوا اور آٹھویں دن مر گیا۔

اور جب سولہ دن میری مرض پر گزرے تو آثار نو میدی کے ظاہر ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ بعض عورتیں

میرے دروازے کے پیچھے روئے تھے اور مسنون طہ پر عین مرتبہ سورہ یس سنائی گئی۔ جب میری مرض

اس نوبت پر پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کیا کہ اور علاج چھوڑ دو اور دریا کی رکت

جس کے ساتھ پانی بھی ہو تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر طہ۔ تب بہت جلد دریا سے

ایسی ریت منگوا لی گئی اور میں نے اس کلمہ کے ساتھ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور

درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدن پر طہا شروع کیا۔ ہر ایک دفعہ جو جسم پر وہ ریت پہنچتی

تھی تو گویا میرا بدن آگ میں سے نجات پاتا تھا صبح تک وہ تمام مرض دور ہو گئی اور صبح کے وقت

الہام ہوا۔ وان کنتم فی رب متانزلنا علی عبدنا فانوا بشفاؤ من مثله۔

۸۶۔ نشان۔ ایک دفعہ مجھے دانت میں سخت درد ہوئی۔ ایک دم قرار نہ تھا کہ کسی شخص کو میں نے

دریافت کیا کہ اس کا کوئی علاج ہے۔ اس نے کہا کہ علاج دندان استخراج دندان۔ اور دانت نکالنے سے

میرا دل ڈر رہا تھا تب اس وقت مجھے خود گی آگئی اور میں زمین پر میٹابی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور چل پانی

پاس بھی تھی۔ میں نے بیٹابی کی حالت میں اس چار پائی کی پائینٹی پر اپنا سر رکھ دیا اور تھوڑی سی نیند آگئی۔ جب میں بیدار ہوا تو درد کا نام و نشان نہ تھا اور زبان پر یہ الہام جاری تھا:۔  
 اذ امرضت فہو یشفی یعنی جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتا ہے فالحمد للہ علی ذالک  
 ۷۔ ستا سیدولل نشان۔ یہ پیشگوئی ہے کہ میری اس شادی کے بارے میں جو وہابی میں ہوئی تھی  
 خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ الہام ہوا تھا الحمد للہ الذی جعل لکم المصہر والنسب یعنی  
 اس خدا کو تعریف ہے جس نے تمہیں دامادی اور نسب دونوں طرف سے عزت دی یعنی تمہاری نسب  
 بھی شریف بنایا اور تمہاری بیوی بھی سادات میں ہے اور یہ الہام شادی کیلئے ایک پیشگوئی تھی جس سے  
 مجھے یہ فکر پیدا ہوا کہ شادی کے اخراجات کو کیونکر میں انجام دوں گا کہ اس وقت میرے پاس کچھ  
 نہیں اور نیز کیونکر میں ہمیشہ کیلئے اس بوجھ کا متحمل ہو سکوں گا۔ تو میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ ان  
 اخراجات کی مجھ میں طاقت نہیں۔ تب یہ الہام ہوا کہ ۵

۲۲۷

ہرچہ باید نو عودی را ہمہ ساماں کنم ۶ و آنچه در کار شما باشد عطائے آن کنم  
 یعنی جو کچھ تمہیں شادی کے لئے درکار ہوگا۔ تمام سامان اس کا میں آپ کروں گا۔ اور جو کچھ تمہیں  
 وقتاً فوقتاً حاجت ہوتی رہے گی۔ آپ دیتا رہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا شادی  
 کے لئے جو کسی قدر مجھے روپیہ درکار تھا۔ ان ضروری اخراجات کے لئے منشی عبدالحق صاحب  
 اکونٹ لاہور نے پانسو روپیہ مجھے قرضہ دیا تو ایک اور صاحب حکیم محمد شریف نام ساکن  
 کلاوڑ نے جو امرتسر میں طبابت کرتے تھے دو سو روپیہ یا تین سو روپیہ مجھے بطور قرض دیا۔  
 اس وقت منشی عبدالحق صاحب اکونٹ نے مجھے کہا کہ ہندوستان میں شادی کرنا ایسا  
 ہے جیسا کہ اٹمنی کو اپنے دروازہ پر باندھنا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ ان اخراجات کا  
 خدا نے خود وعدہ فرما دیا ہے۔ پھر شادی کرنے کے بعد سلسلہ فتوحات کا شروع ہو گیا۔ اور یا وہ  
 زمانہ تھا کہ باعزت تفرقہ جوہ معاش پانچ سات آدمی کا خرچ بھی میرے پر ایک بوجھ تھا۔  
 اور یا اب وہ وقت آ گیا کہ بحساب اوسط تین سو آدمی ہر روز صبح خیال و اطفال اور ساتھ اسکے

میں ہی مرجائے گی۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق لڑاکا پیدا ہوئی اور پیشگوئی کے مطابق طفولیت میں ہی مر گئی۔ دیکھو اخبار الحکم نمبر ۳ جلد ۷۔

۱۸۲۔ نشان۔ مولوی محمد فضل صاحب احمدی مقام چنگا تحصیل گوجر خاں ضلع راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ ایک روز ماہ مئی ۱۹۰۲ء کو مقام چنگا تحصیل گوجر خاں ضلع راولپنڈی جبکہ میں کچھ آدمیوں کے ساتھ حین میں بعض احمدی اور چند غیر احمدی شامل تھے نماز جمعہ ادا کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص مسمیٰ فضلہ اد خان نمبر دار چنگا جو میرا ہمقوم اور رشتہ میں سے تھا ایک شخص کے درغلانے سے مسجد میں آکر مجھے معہ دیگر احمدیوں کے ملامت کرنے لگا۔ اور کہا کہ تم لوگ مسجد میں نماز نہ پڑھا کرو مسجد کو بھرتشٹ کر دیا ہے۔ پھر فروری مسائل کا جو احمدیوں اور غیر احمدیوں میں مختلف فیہ میں ذکر چھپ کر میرے ساتھ مجازہ شہر شروع کر دیا میں نے اس کو معقولاً و منقولاً سمجھایا اور خوب طرز میں کیا مگر وہ تکذیب پر اڑا رہا۔ اور اس کے بہکانے سے عوام کو میں نے احمدیوں پر مشتعل پایا اور دیکھا کہ وہ شخص فتنہ اور فساد سے باز نہیں آتا اس وقت میرے دل پر سخت قلق و اضطراب پیدا ہوا کہ خداوند اب اس امر کا کیا علاج ہو۔ اس شخص کے ذریعہ بڑا فتنہ ہونے والا ہے۔ تب میں نے اس کو اپنا مخاطب بنا کر کہا کہ اگر میں جو مسائل بیان کر رہا ہوں ان میں جھوٹا ہوں تو خدا تعالیٰ تجھ سے پہلے مجھے ہلاک کرے اور اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تعالیٰ تجھے ہلاک کرے۔ تب فضلہ اد خان نے ان لفظوں کے ساتھ مجھے جواب دیا کہ خدا تجھے ہلاک کرے۔ پھر میں اسی وقت مسجد سے باہر آ گیا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ پھر چند روز کے بعد شخص مذکور (یعنی فضلہ اد خان) درد شکم کی سخت مرض میں مبتلا ہو گیا اور دس ماہ کے اندر ۴۴ پانچ سالہ کو مر گیا اور اپنی موت سے سلسلہ احمدیہ کی صداقت کا نشان بطور یادگار چھوڑ گیا۔ کچھ مدت تک مجلس مباہلین حاضرین میں اس کے مرنے سے ایک دہشت اور رعب پھیل گیا تھا۔ اور میں نے اپنے بعض مخالفین سے بھی اپنے کانوں کے ساتھ یہ ذکر سنا کہ اس شخص کی

نہ خدا تعالیٰ کا خوف ہے اور نہ انسانوں سے شرم ہے۔

۷۱  
مخملہ ان پیشگوئیوں کے جو یوزی ہو چکی ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے میری سچائی پر ایک نشان ہے۔ یہ ہے کہ جب میری لڑکی مبارکہ پیٹ میں تھی اور قریباً پچیس روز اس کی پیدائش میں باقی رہتے تھے تو اس لڑکی کی والدہ نہایت تکلیف میں مبتلا تھی۔ اور حساب کی غلطی سے یہ غم بھی ان کو لاحق ہوا کہ شاید یہ حمل نہ ہو کوئی اور بیماری ہو۔ کیونکہ انھوں نے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رہنے کی وجہ سے خیال کیا کہ یہ گیارہواں مہینہ جاتا ہے اور علم دستور کے لحاظ سے یہ مدت حمل کی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے دوہری تکلیف دامنگیر ہو گئی۔ اور جب ایسے ایسے خیالات سے ان کا غم حد سے بڑھ گیا۔ تو میں نے ان کے لئے دعا کی۔ تب مجھے یہ الہام ہوا۔ آید آل روزے کہ مستخلص شود۔ یعنی وہ دن چلا آتا ہے کہ چھٹکارا ہو جائیگا۔ اور اس الہام کے معنوں کی مجھے یہ تعبیر ہوئی کہ لڑکی پیدا ہوگی اور اسی وجہ سے کوئی لفظ بشارت کا اس الہام میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ چھٹکارا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ میں نے اس الہام سے اپنی جماعت میں سے بہتوں کو اطلاع دیدی۔ آخر ۲۷ رمضان ۱۳۱۷ھ کو لڑکی پیدا ہو گئی جس کا نام مبارکہ رکھا گیا۔ کیونکہ انہی دنوں میں مجھے معلوم کرایا گیا تھا کہ ایک نشان ظاہر ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور جس روز لڑکی کا عقیقہ تھا۔ اسی روز ہمیں اطلاع پہنچی کہ وہ لیکر ام جس کے ملے جانے کی نسبت پیشگوئی کی گئی تھی وہ ۶ مارچ ۱۸۹۷ء کو اس غدار دنیا سے عالم مجازات کی طرف کوچ کیا۔ تمام گواہ اس پیشگوئی کے زندہ ہیں جو علقاً بیان کر سکتے ہیں۔

۷۲ اور مخملہ میرے نشانوں کے جو میری تائید میں خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمائے

نمک پھانک لیا اور دماغ پر بخار چڑھ گئے اور سانس رُک گیا اور گلا گھونٹا گیا۔ پس اس طرح پر خدا نے اُس کو شفا دی اور کشتی پیشگوئی پوری کی۔

۱۸۷۔ نشان۔ میرے بڑے بھائی جن کا نام میرزا غلام قادر تھا کچھ مدت تک بیمار رہے جس بیماری سے آخر اُن کا انتقال ہوا جس دن اُن کی وفات مقدر تھی صبح مجھے الہام ہوا کہ جنازہ۔ اور اگرچہ کچھ آثار اُن کی وفات کے نہ تھے مگر مجھے سمجھا گیا کہ آج وہ فوت ہو جائیں گے اور میں نے اپنے خاص ہم نشینوں کو اس پیشگوئی کی خبر دے دی جو اب تک زندہ ہیں۔ پھر شام کے قریب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔

ان تمام پیشین گوئیوں میں جو اس جگہ لکھی گئی ہیں۔ میں نے اختصار کے خیال سے بہت کم گواہوں کا ذکر کیا ہے مگر خدا تعالیٰ کے فضل سے کئی ہزار گواہ ہیں جن کے زور و پرور پیشین گوئیاں کی گئیں اور پوری ہوئیں۔ بلکہ بعض پیشگوئیوں کے تو کئی لاکھ گواہ ہیں۔

میرا ارادہ تھا کہ ان نشانوں کو تین سو تک اس کتاب میں لکھوں اور وہ تمام نشان جو میری کتاب نزول المسیح اور تریاق القلوب وغیرہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور دوسرے نئے نشان اس قدر اسمیں لکھ دوں کہ تین سو کا عدد پورا ہو جائے مگر تین روز سے میں بیمار ہو گیا ہوں اور آج اُن تیس ستمبر ۱۹۰۶ء کو اس قدر غلبہ مرض اور ضعف اور نقاہت ہے کہ نہیں لکھنے سے مجبور ہو گیا ہوں اگر خدا نے چاہا تو حصہ پنجم براہین احمدیہ میں یہ تین سو نشان یا زیادہ اس سے لکھے جاویں گے۔ بالآخر اس قدر لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ان نشانوں سے کسی کا دل تسلی پذیر نہ ہو اور ایسا شخص اُن لوگوں میں سے ہو جو الہام اور وحی کا دعوے کرتے ہیں تو اُس کے لئے یہ دوسری راہ کھلی ہو کہ وہ میرے مقابل پر اپنے الہام اپنی قوم کے دو اخباروں میں ایک سال تک شائع کرتا ہے اور دوسری طرف میں وہ تمام



۶۴۲

اور وہ واقعی اخلاص سے لکھا تھا کیونکہ اس وقت اس کی یہ حالت تھی کہ بعض اوقات میرے جوتے اٹھا کر جھاڑ کر آگے رکھ دیا کرتا تھا اور ایک بار مجھے اپنے مکان میں اس غرض سے لے گیا کہ وہ مبارک ہو جاوے اور ایک بار اصرار کر کے مجھے وضو کرایا۔ غرض بڑا اخلاص ظاہر کیا کرتا تھا۔ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ میں قادیان ہی میں آکر رہوں۔ مگر میں نے اس وقت اسے یہی کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد اسے یہ اہتمام پیش آیا۔ کیا تعجب ہے کہ اس اخلاص کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے اس کا انجام اچھا رکھا ہو۔

ابن ہرکلیہ نے سہل کیا کہ حضور اب اسے کیا سمجھیں۔ فرمایا۔ اب تو حکم حالت موجود ہی پر ہوگا۔ وہ دشمن ہی اس سلسلہ کا ہے۔ دیکھو جب تک نطفہ ہوتا ہے اس کا نام نطفہ رکھتے ہیں گو اس کا انسان بن جاوے مگر جوں جوں اس کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں اس کا نام بدلتا جاتا ہے۔ مہنہ جلد وغیرہ ہوتا ہے۔ آخر اپنے وقت پر جا کر انسان بنتا ہے۔ یہی حال اس کا ہے۔ سروسٹ تو وہ اس سلسلہ کا مخالف اور دشمن ہے اور یہی اس کو سمجھنا چاہیے۔

پھر اس ضمن میں فرمایا کہ سزا اور عذاب صرف کفر ہی کے باعث نہیں آتا۔ بلکہ فسق و فجور بھی عذاب کا موجب ہو جاتا ہے۔

### خدا تعالیٰ ہمیشہ صادقوں ہی کی نصرت اور تائید کرتا ہے

فرمایا کہ کبھی کوئی جموت اس قدر چل نہیں سکتا۔ آخر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ بدی کرنے والے جموتے اور فریبی اپنے جموت میں تھک کر رہ جاتے ہیں۔ پھر کیا کوئی ایسا مفسر ہو سکتا ہے جو برابر شخص برس سے خدا تعالیٰ پر افترا کر رہا ہو اور تھکا نہ ہو اور خدا کو بھی اس کے لئے غیرت نہ آوے بلکہ اس کی تائید میں نشانات ظاہر کرتا رہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ صادقوں ہی کی نصرت اور تائید کرتا ہے۔

دیکھو یہ جو میری مددگاری ہے کہ میری عمر اس برس کے قریب ہوگی کیا کوئی مفسر اس قسم کی

الہد میں جو میں لکھا ہے۔

تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے کلمے ہوتے ہیں۔ ایک کتاب میں میں نے لکھا کہ سوسے کے زمانہ میں ایک ہسپتال تھا کہ سوسے کے کلام کی صلہ پر سوانگ بنایا گیا جس وقت سب قوم فرعون کی غلہ ہوئی تو وہ چاہا۔ حضرت سوسے نے خدا تعالیٰ سے اس کا باعث و نجات کیا تو فرمایا کہ جو کہ یہ تمہارے ہوسے جیسا ہونا چاہتا تھا اس لئے ہماری خدمت کے لئے لکھا گیا کہ تمہارے مثل میں کوئی نہیں ہے۔

(الہد جلد ۱۰ ص ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳)

یہ حوالہ صفحہ 103 پر درج ہے

ملفوظات جلد دوم صفحہ 642 طبع جدید، از مرزا قادیانی

والسلام۔ مرزا غلام احمد علی عنہ۔ ۲۲ اپریل ۱۹۱۲ء

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ**

بھی اخیریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خط سے دائرہ معلومہ زینب پر اطلاع ہوئی۔ انا اللہنا وانا الیکہ راجعون۔ خدا تملکے آپ کو۔ وہ اسکی والدہ کے صبر بچنے۔ اور بعد میں ہر ایک بل سے بچا رہے۔ آمین دعا تو بہت کی گئی تھی۔ مگر تغیر مبرم کا کیا علاج ہے جس نے پہلے اس سے دیکھا تھا۔ یعنی اللہام کو میں نے اخبار میں شائع کیا خوفناک خبرائی اس اللہام کو میں نے اخبار میں شائع کر دیا تھا۔ سو وہ بات پوری ہوئی..... اور اب صبر کریں۔ خدا تملکے صبر سہاس کا اجر دینگا + والسلام

مرزا غلام احمد علی عنہ۔ ۲۴ اپریل ۱۹۱۲ء

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ**

بھی اخیریم حکیم محمد حسین صاحب قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ براہ مہربانی ایک ٹور ملکہ لکھنؤ میں ریٹ اور جعلی اور ہوت نہ ہوں اور تازہ خوشبو ہو۔ بدریو دیلوپے۔ میں پارسل ارسال فرمادیں۔ کیونکہ پہلی دستک ختم ہو چکی ہے۔ اور باعث ندرتہ مرض ضرور رہتی ہے۔ یہ لحاظ رکھیں کہ اکثر مشک میں ایک پتھر ملا دیتے ہیں۔ یا پورانی اور روی ہوتی ہے۔ اور خوشبو نہیں بھتی۔ ان باتوں کا لحاظ ہے۔ تم اس کے جہاں تک ممکن ہو جلد بھیج دیں۔ سنی کو انشاء اللہ گوردہ سپور جاؤنگا۔ والسلام

۱۹۱۲ء  
فاکس مرزا غلام احمد علی عنہ۔ ۲۸ اپریل ۱۹۱۲ء

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ**

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری کام تھا کہ میں ملاقات کے وقت اسکا ذکر کرنا بھول گیا۔ وہ یہ ہے کہ پہلی مشک جو لاہور سے آپ کے بھیجی تھی وہ اب نہیں رہی۔ آپ جلتے ہی ایک تولہ مشک خاص جس میں چھوٹا پتھر ہے اور بھولی جیسا کہ جلتے خوشبو آتی جو ضرور دیلوپے ایبل کرنا کہ بھیجیں جس قدر قیمت ہو مہنا بقہ نہیں۔ مگر مشک اعلیٰ درجہ کی ہو چھوٹا

نہ ہو۔ اور جیسا کہ عمدہ اور تازہ مشک میں تیز خوشبو ہوتی ہے مہری اُس میں ہو۔ اور ساتھ نیکے انگیزی گان سے ایک روپہ کا مشک ٹوٹا جو ایک سچ رنگ مرق ہی بہت احتیاط سے بند کر کے بند کر کے دی۔ پی کر کے بھیج دیں اور جہاں تک ممکن ہو پرسوں تک یہ دونوں چیزیں روانہ کر دیں۔ کیونکہ مجھ کو اپنی بیماری کے دورہ میں انکی ضرورت ہوتی ہے زیادہ خیریت۔ والسلام  
مرزا غلام احمد علی عنہ

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ**

بھی اخیریم حکیم محمد حسین صاحب قریشی سلام اللہ علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایشیا و مفصلہ ذیل ہمراہ بیٹے آویں۔ اور اگر خدا تو استہیسی بھوری ہو تو کسی اور آنے والے کے ہاتھ بھیج دیں۔ وائی بوٹر جو ایک رحم کے متعلق دو آئی ہے۔ ہومر کی دوکان سے (مضم)۔ مشک خالص عمدہ جس میں چھوٹا پتھر ہے اور ایک پان عمدہ بیگی (مضم)۔ اور ایک انگریزی وینچ کا پانی جو ایک چوکی ہوتی ہے۔ اور امیس ایک برتن ہوتا ہے اسکی قیمت معلوم نہیں۔ آپ ساتھ لاویں۔ قیمت یہاں سے دیکھا جائیگی۔ دیکھے دوران سرگی بہت شدت سے مرض ہو گئی ہے۔ پیروں پر بوجھ دیکر پاخانہ پھرنے سے بچنے سر کو چکر آتا ہے۔ اسلئے ایسے پاخانہ کی ضرورت پڑی۔ اگر شخص صاحب کی دوکان میں ایسا پاخانہ ہو تو وہ دیکھیں گے۔ مگر ضرور لانا چاہئے۔ اور ساتھ کامنی اور آپ کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام۔ مرزا غلام احمد

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ**

بھی اخیریم حکیم محمد حسین صاحب قریشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھے قریباً دو ماہ سے کثرت پیشاب کی بہت شکایت ہے۔ تمام رات بار بار پیشاب آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے میں نے سوڈا میں سلاس استعمال کیا تھا جو ایک سفید پتی ہوتی وہاں ہوتی ہے اور پانی پینے سے کچھ شہری معلوم ہوتی ہے۔ اس سے فائدہ معلوم ہوا تھا۔ آپ براہ مہربانی ہر کی وہ دو خرید کر کے اور ایک شیشی میں بند کر کے

یہ حوالہ صفحہ 103 پر درج ہے

خطوط امام بنام غلام صفحہ 6 از حکیم محمد حسین قریشی قادیانی

قابل اعتراض ٹھہریگا۔ ایسا ہی ادا با کو یہ اتفاق بھی پیش آجاتا ہے کہ جو مینس شخص ایک مضمون کے ہی لکھنے والے ہوں جو پیش ہی ادیب اور بلوغ ہوں مگر بعض صورتوں کے ادائے بیان میں ایک ہی الفاظ اور ترکیب فقرہ پر ان کا توار و ہوسہا بیگنا اور یہ باتیں ادا با کے نزدیک مسلمات ہیں سو میں جس میں کسی کو کلام نہیں اور اگر غور کیے دیکھو تو ہر ایک زبان کا یہی حال ہے اگر اردو میں بھی مثلاً ایک فصیح شخص تقریر کرتا ہے اور اس میں کہیں مثالیں لاتا ہے کہیں دلچسپ فقرے بیان کرتا ہے تو دوسرا فصیح بھی اسی رنگ میں کہہ دیتا ہے اور بجز ایک پامگل آدمی کے کوئی خیال نہیں کرتا کہ یہ سرتو ہے انسان تو انسان خدا کے کلام میں بھی یہی پایا جاتا ہو۔ اگر بعض پر فصاحت فقرے اور مثالیں جو قرآن شریف میں موجود ہیں شرانے جاہلیت کے قصائد میں دیکھی جائیں تو ایک لمبی فہرست طیار ہوگی اور بن امور کو محققین نے جانے اعتراض نہیں سمجھا بلکہ اسی غرض سے ائمہ راشدین نے جاہلیت کے ہزار ہا اشعار کو حفظ کر رکھا تھا اور قرآن شریف کی بلاغت فصاحت کے لئے انکو بطور سند لاتے تھے۔

یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو نشاندہ و اذی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندسہ مجھے تعلیم دے رہا ہو اور ہمیشہ میری تحریر کو عربی ہو یا اردو یا فارسی دو حصہ پر منقسم ہوتی ہے (۱) ایک تو یہ کہ بڑی سہولت سے سلسلہ الفاظ اور معانی کا میرے سامنے آتا جاتا ہو اور میں اسکو لکھتا جاتا ہوں اور گواہی تحریر میں مجھے کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی مگر دراصل وہ سلسلہ میری دماغی طاقت سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا یعنی الفاظ اور معانی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی ایک خاص رنگ میں تائید نہ ہوتی تب بھی اسکے فعل کے ساتھ ممکن تھا کہ اسکی معمولی تائید کی برکت سے جو لازمی فطرت خواہ انسان ہو کسی قدر مشقت اٹھا کر اور بہت سا وقت نیکر لیں مضمین کو میں لکھ سکتا۔ وائدا علم۔ (۲) دوسرا حصہ میری تحریر کا محض خارق عادت کے طور پر ہے اور وہ یہ ہے کہ سب میں مثلاً ایک عربی عبارت

سلاہ جیسا کہ بارہ جہنم لہوس کے طہی کیلئے بعض اور یہ بذریعہ جی معلوم ہوا ہے قطع نظر اسکل کہ وہ پہلے مجھ سے جہنم کی کتاب میں لکھی گئی میں یا بقراطا کی کتاب میں۔ ایسا ہی میری انشاء پر اذی کا حال ہے۔ جو عباد میں تائید کے طور پر مجھے خدا تعالیٰ سے معلوم ہوتی ہیں مجھے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی اور کتاب میں ہوگی بلکہ وہ میرے لئے اور ہر ایک کے لئے جو میرے حال سے

ہو وقت پر مجھ سے اور اگر کسی کے نزدیک مجھ سے نہ ہو تو اس پر بالی پنا حرم ہو جسک بالواہرہ میں کہ پابندی شرط مشقہ مقابلہ نہ کرے۔

اور خیانت سے۔ رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص پنجگانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص دعا میں لگا نہیں رہتا اور انکسار سے خدا کو یاد نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص بد رفتی کو نہیں چھوڑتا جو اُس پر بد اثر ڈالتا ہو وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں انکی بات کو نہیں مانتا اور انکی تعہد خدمت کے لاپرواہ ہو وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنی اولیاء اور اسکے اقارب کے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنے ہمسایہ کو ادنیٰ ادنیٰ خیر سے بھی محروم رکھتا ہو وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص نہیں چاہتا کہ اپنے قصور وار کا گنہ بخشا اور گنہ پرور آدمی ہو وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت کے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اُس عہد کو جو اُس نے بیعت کے وقت کیا تھا کسی پہلو سے توڑتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص مجھے فی الواقع مسیح موعود و مہدی مہود نہیں سمجھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور جو شخص امور معروفہ میں میری اطاعت کرنے کیلئے طیار نہیں ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور جو شخص مخالفوں کی جماعت میں جھپٹتا ہو اور ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک زانی۔ فاسق۔ شرابی۔ غفلت۔ چور۔ قمار باز۔ خائن۔ مرقش۔ غاصب۔ ظالم۔ دروغو۔ جلسا ساز اور انکا ہم نشین اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر ہمتیں لگانیوالا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ سب نہیں ہیں۔ تمہاری زہریں کو کھا کر کسی طرح بچ نہیں سکتے اور تاریکی اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک جو بیچ و بیچ طبیعت رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ صاف نہیں ہے وہ اُس برکت کو ہرگز نہیں پاسکتا جو صاف دلوں کو ملتی ہے۔ کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے

پھر دو تین زینے چڑھے پھر چکر آیا اور اسی چکر کے ساتھ جان نکل گئی۔ ایسا ہی غلام علی الدین کو نسل کشیر کا مبر کید نہ ہی مر گیا۔ غرض موت کے آجانے کا ہم کو کوئی وقت معلوم نہیں کہ کس وقت آجائے۔ اسی لیے مندرجہ ہے کہ اس سے بے فکر نہ ہوں۔ پس دین کی غمخواری ایک بڑی چیز ہے جو سکرات الموت میں سرخرو رکھتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اِنَّ ذُنُوبًا لَّاشَاعَۃَ شَیْئٍ عَظِیْمًا (المع ۲۱) ساعت مراد قیامت بھی ہوگی۔ ہم کو اس سے ہٹکار نہیں، مگر اس میں سکرات الموت ہی مراد ہے۔ کیونکہ القطار نام کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے مجبوبات اور مرغوبات سے یک دغا لگ ہوتا ہے اور ایک عجب قسم کا زلزلہ اُس پر طاری ہوتا ہے۔ گویا اندھی لاندہ وہ ایک شکنجہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کی تمام تر سعادت یہی ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے اور دنیا اور اُس کی چیزیں اس کی ایسی مجبوبات نہ ہوں جو اس آخری ساعت میں طبعی طور پر اُس کی تکالیف کا موجب ہوں۔ دنیا اور اس کی چیزوں کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے۔

ایں ہمرا بہ کشتنت آہنگ

گاہ بصلح کشند و گاہ بجنگ

قرآن کریم نے اس مضمون کو اس آیت میں ادا کر دیا ہے اِنَّمَا اَمْرٌ اَللّٰهُ كُذِّبَتْ فِئْتَهُ (الانفال: ۲۹) انوائے میں عویس داخل ہیں۔ عورت چونکہ پردہ میں رہتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی پردہ ہی میں رکھا ہے اور اس لیے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خرچ کر کے لانا ہے۔ مال کا لفظ مال سے نکلا گیا ہے یعنی جس کی طرف طبعاً توجہ اور رغبت کرتا ہے۔ عورت کی طرف بھی چونکہ طبعاً توجہ کرتا ہے، اس لیے اس کو مال میں داخل فرمایا ہے۔ مال کا لفظ اس لیے رکھا تاکہ عام مجبوبات پر حاوی نہ ہو اور نہ اگر صرف نساء کا لفظ ہوتا، تو اولاد اور عورت دو چیزیں قرار دی جاتیں اور اگر مجبوبات کی تفصیل کی جاتی، تو پھر دس چیزوں میں بھی ختم نہ ہوتا۔ طریقیوں سے مراد کُلُّ مَنَّا یَسْبِغُ اِلَیْهِ الْقَلْبُ ہے۔ اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان اولاد کو جگر کا گردا اور اپنا دار شہکتا ہے۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے مجبوبات میں منہ ہے، دونوں باتیں ایک جامع نہیں ہو سکتیں۔

اس سے یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جائے۔ نہیں نہیں۔ ہمارے ہادی کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ بِالْخَيْلِہِ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں۔ وہ نیک کہاں۔ دو عمروں کے ساتھ نیک اور جلال تب کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو۔ اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زرد کو بکھے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصہ سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ اس

بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا۔ عزت کے خطاب سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ اکثر لوگ پہچان لیں گے اور عزت کا خطاب دیکھتے اور بہ تبہ ہوگا جب ایک نشان ظاہر ہوگا۔ اور پھر فرمایا۔ خدا نے لداہہ کیا ہے کہ تیرا نام بڑھادے اور آفاق میں تیرے نام کی خوب چمک دکھادے۔ میں اپنی چمک دکھلاؤں گا۔ اور قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا۔ آسمان سے کئی تخت اترے مگر سب سے اونچا تیرا تخت پھرایا گیا۔ دشمنوں سے ملاقات کرتے وقت فرشتوں نے تیری مدد کی۔ آپ کے ساتھ انگریزوں کا زرمی کے ساتھ ہاتھ تھا۔ اسی طرف خدا تعالیٰ تھا جو آپ تھے۔ آسمان پر دیکھنے والوں کو ایک رانی برابر غم نہیں ہوتا۔ یہ طریق اچھا نہیں اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو **خذوا للرفق الرفق فان الرفق راس الخیرات** زرمی کرو زرمی کرو کہ تمام نیکیوں کا سر زرمی ہے۔ (انوریم مولوی عبد الکریم صاحب نے اپنی بیوی سے کسی قدوز بانی سختی کا برتاؤ کیا تھا اس پر حکم ہوا کہ اس قدر سخت گوئی نہیں چاہئے۔ حتی القصور پہلا فرض ہون کا ہر ایک کے ساتھ زرمی اور حسن اخلاق ہے اور بعض اوقات تلخ الغلطکات متعمل بلوغت کے جائز ہے۔ اما بحکم ضرورت و بقدر ضرورت مذکورہ

اس الہام میں تمام جماعت کیلئے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے نفق اور زرمی کے ساتھ پیش آئیں وہ ان کی کنیز کیس نہیں ہیں۔ درحقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے۔ پس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغا باز نہ ٹھیرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **واعلموا انکم بالمعروف** یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور حدیث میں ہے **خیرکم خیرکم لاهلہ** یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ سو روطنی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو۔ ان کے لئے دغا کرتے رہو۔ اور طلاق سے پرہیز کرو۔ کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے جس کو خدا نے بھڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ منہا

اور میں نے بہت استغفار پڑھا۔ یہ قصہ سننا کر میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ خواجہ صاحب! آپ کی عزت لمبی کہیں اسی طریق کی نہ ہو۔ چنانچہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی آتا ہے کہ آپ کمزور ایمان والوں اور منافقوں کی بہت خاطر توامنع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کچھ مال تقسیم کیا۔ مگر ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جس کے متعلق سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ وہ میرے خیال میں مومن تھا۔ اور ان لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار تھا۔ جن کو آپ نے مال دیا چنانچہ سعد نے ہانکی طرف آپ کو توجہ دلائی۔ مگر آپ خاموش رہے۔ پھر توجہ دلائی۔ مگر آپ پھر خاموش رہے۔ سعد نے پھر تیسری دفعہ توجہ دلائی۔ اس پر آپ نے فرمایا سعد تو ہم سے جھگڑا کرتا ہے۔ خدا کی قسم بات یہ ہے کہ بعض وقت میں کسی کو کچھ دیتا ہوں۔ حالانکہ میرا اس کا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ مگر میں اسے اسلئے دیتا ہوں کہ کہیں وہ منہ کے تل آگ میں نہ جا پڑے۔ یعنی تالیف قلب کے طور پر دیتا ہوں۔ کہ کہیں اسے ابتلاؤ نہ آجائے۔ قلمنی صاحب نے بیان کیا کہ جس کے ایمان کی حالت مطمئن ہو اسے ظاہری عزت اور خاطر مادات کی ضرورت نہیں ہوتی اسکے ساتھ اندر طریق پر معاملہ ہوتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت سید مودود علیہ السلام کو اوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کو لوگ عام طور پر پیچھے دی ماں کہا کرتے تھے بے تعلقی سی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین کو سخت بے رغبتی تھی اور انکا انکی طرف میلان تھا اور وہ اسی رنگ میں رنگین تھیں۔ اسلئے حضرت سید مودود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی ان آپ انراجات وغیرہ باقاعدہ دیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں کہا بھیا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا ہوتا رہا اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے اسلئے اب اگر دونوں بیویوں میں برابری نہیں کہنگا تو میں گنہگار ہونگا۔ اسلئے اب دو باتیں ہیں۔ یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو اور یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ میں تم کو خرچ دیتے جاؤنگا۔ انہوں نے کہا بھیا کاب میں

بڑا پے میں کیا طلاق ہو گئی۔ بس مجھے خرچ ملتا ہے۔ میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔  
والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا اور  
آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کرادیا اور  
فضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا۔ بلکہ ان کے ساتھ رہیں۔ تب حضرت  
صاحب نے ان کو طلاق دیدی خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کا یہ طلاق  
دینا آپ کے اس اشتہار کے مطابق تھا۔ جو آپ نے ۱۹۸۹ء کو شائع کیا تھا  
اور جسکی سرخی تھی "اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین" یہ  
اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر مرزا سلطان احمد اور ان کی والدہ اس امر میں  
مخالفتہ کو کشش سے الگ ہو گئے۔ تو پھر آپ کی طرف سے مرزا سلطان احمد عاق  
اور محروم الارث ہونگے اور ان کی والدہ کو آپ کی طرف سے طلاق ہوگی والدہ صاحبہ  
فرماتی تھیں۔ کہ فضل احمد نے اس وقت اپنے آپ کو عاق ہونے سے بچا لیا۔ نیز والدہ  
صاحبہ نے فرمایا۔ کہ اس واقعے کے بعد ایک دفعہ مرزا سلطان احمد کی والدہ بیمار ہوئیں  
تو چونکہ حضرت صاحب کی طرف سے مجھے اجازت تھی۔ میں انہیں دیکھنے کے لئے  
گئی۔ واپس آکر میں نے حضرت صاحب سے ذکر کیا۔ کہ بچتے کی ماں بیمار ہے۔  
اسیہ تکلیف ہے۔ آپ خاموش رہے۔ میں نے دوسری دفعہ کہا تو فرمایا میں تمہیں  
دو گولیاں دیتا ہوں۔ یہ دسے آؤ۔ مگر اپنی طرف سے دینا میرا نام نہ لینا۔ والدہ صاحبہ  
فرماتی تھیں کہ اور بھی بعض اوقات حضرت صاحب نے اشارہ کیا یہ مجھ پر ظاہر  
کیا کہ میں ایسے طریق پر کہ حضرت صاحب کا نام درمیان میں نہ آئے اپنی طرف  
سے کبھی کچھ مدد کر دیا کروں سو میں کرنا کرتی تھی +

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے شیخ عبدالرحمن صاحب مصری نے  
کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز ظہر کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے۔ ان  
دونوں میں آپ نے شیخ سعدا شعلہ صیانوی کے متعلق لکھا تھا کہ یہ ابتر رہیگا  
اور اس کا بیٹا جو اب موجود ہے۔ وہ نامرد ہے۔ گویا اس کی اولاد آگے نہیں چلیگی

(۳۴)



اور رسول کے نزدیک لعنتی ہیں۔ ان کا نماز روزہ اور کوئی عمل منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ کوئی عورت نیک نہیں ہو سکتی جب تک پوری پوری اپنے خاوند کی فرمانبرداری نہ کرے اور دلی محبت سے اس کی تعظیم بجا نہ لائے اور پس پشت یعنی اس کے پیچھے اس کی خیر خواہ نہ ہو۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے مردوں کی تابعدار رہیں۔ ورنہ ان کا کوئی عمل منظور نہیں۔ اور نیز فرمایا ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرے، جائز ہوتا تو میں حکم کرتا کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے حق میں کچھ بدزبانی کرتی ہے یا اہانت کی نظر سے اس کو دیکھتی ہے اور حکم ربانی سن کر پھر بھی باز نہیں آتی تو وہ لعنتی ہے۔ خدا اور رسول اس سے ناراض ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کا مال نہ چڑاویں اور نامحرم سے اپنے تئیں بچاویں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خاوند اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتیں شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ عورتوں پر یہ بھی لازم ہے کہ بدکار اور بدو مخ عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں اور ان کو اپنی خدمت میں نہ رکھیں کیونکہ یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ بدکار عورت نیک عورت کی ہم صحبت ہو۔

④ عورتوں میں یہ بھی ایک بد عادت ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند کسی اپنی مصیحت کے لیے کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اور اس کے اقارب سخت ناراض ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور اس بندہ خدا کو ناحق ستاتے ہیں۔ ایسی عورتیں اور ایسے ان کے اقارب بھی نابکار اور خراب ہیں۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت کا طرہ سے جس میں صدا معاملہ ہیں۔ مردوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت یا مصیحت کے وقت چاہے بیویاں کر لیں۔ پھر جو شخص اللہ رسول کے حکم کے مطابق کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو کیوں بڑا کہا جائے۔ ایسی عورتیں اور ایسے ہی اس عادت والے اقارب جو خدا اور اس کے رسول کے حکموں کا مقابلہ کرتی ہیں نہایت مردود اور شیطان کی بنیں اور بھائی ہیں کیونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمودہ سے منہ پھیر کر اپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسی بد ذات بیوی ہو تو اسے مناسب ہے کہ اس کو مزادینے کے لیے دوسرا نکاح ضرور کرے۔

⑤ بعض جاہل مسلمان اپنے ناظرہ رشتہ کے وقت یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کرنا منظور ہے اس کی پہلی بیوی بھی ہے یا نہیں۔ پس اگر پہلی بیوی موجود ہو تو ایسے شخص سے ہرگز نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی صرف نام کے مسلمان ہیں اور ایک طور سے وہ ان عورتوں کے مددگار ہیں جو اپنے خاوندوں کے دوسرے نکاح سے ناراض ہوتی ہیں۔ سو ان کو بھی خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔

⑥ ہماری قوم میں یہ بھی ایک نہایت بد رسم ہے کہ دوسری قوم کو روکی دینا پسند نہیں کرتے بلکہ حتی الوسع دینا ہی پسند نہیں کرتے۔ یہ سراسر کبر اور نخوت کا طریقہ ہے جو سراسر احکام شریعت کے برخلاف ہے۔ یہی قوم سب خدا تعالیٰ کے بندے ہیں۔ رشتہ ناظرہ میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے

مئی ۱۸۸۳ء

” ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ نواب صاحب کی حالت غم سے خوشی کی طرف تبدیل ہو گئی ہے اور اسودہ حال اور شکر گزار ہیں اور نہایت عمدگی اور صفائی سے یہ خواب آئی اور یہ خواب بطور کشف تھی چنانچہ اسی صبح کو نواب صاحب کو بس خواب سے اطلاع دی گئی۔“

(مکتوب بنام میر عباس علی شاہ صاحب مورخہ ۲۶ مئی ۱۸۸۳ء مندرجہ الحکم جلد ۲ نمبر ۱۳ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۸)

مئی ۱۸۸۳ء

” پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ایک صاحب الہی بخش نام اکوٹمنٹ نے کہ جو اس کتاب کے معاون ہیں کسی اپنی مشکل میں دعا کے لئے درخواست کی اور بطور خدمت پچاس روپیہ بھیجے۔ اور جس روز یہ خواب آئی اس روز سے دو چار دن پہلے ان کی طرف سے دعا کے لئے الحاح ہو چکا تھا مگر یہ عاجز نواب صاحب کے لئے مشغول تھا اس لئے ان کے لئے دعا کرنے کو کسی اور وقت پر موقوف رکھا اور جس روز نواب صاحب کے لئے بشارت دی گئی تھی تو اس دن خیال آیا کہ آج منشی الہی بخش کے لئے توجہ سے دعا کریں۔ سو بعد نماز عصر جب وقت صفا پایا اور دعا کا ارادہ کیا گیا تو پھر بھی جن نے یہی چاہا کہ اس دعا میں بھی نواب صاحب کو شامل کر لیا جائے۔ سو اس وقت نواب صاحب اور منشی الہی بخش دونوں کے لئے دعا کی گئی۔ بعد دعا اسی جگہ الہام ہوا۔“

تَبَيَّنَتْهُمَا مِنَ الْفِتْرِ

یعنی یہاں دونوں کو غم سے نجات دیں گے... پھر چند روز کے بعد نواب صاحب کا خط آ گیا کہ سوائے کا کام جاری ہو گیا ہے۔“

(مکتوب بنام میر عباس علی شاہ صاحب مورخہ ۲۶ مئی ۱۸۸۳ء مندرجہ الحکم جلد ۲ نمبر ۱۳ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۸ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۹ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۹)

نومبر ۱۸۸۳ء

” ایک ابتدا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا..... میری حالت مَرَدَمِی کالعدم تھی اور پیرا نہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی جس لئے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا..... کہ آپ باعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے..... غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی اور مجھے اُس نے دفع مرض کے لئے اپنے الہام کے ذریعہ سے دوائیں بتلائیں اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ دو دوائیں میرے

لے براہین احمدیہ۔ (مرتب)

لے مراد نواب علی محمد خان صاحب آف جمہور۔ (مرتب)

لے نواب علی محمد خان صاحب آف جمہور۔ (مرتب)

لے جوہر۔ نومبر ۱۸۸۳ء کو دہلی میں ہوئی۔ (مرتب)

یہ حوالہ صفحہ 113 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 98، 99 طبع چہارم، از مرزا قادیانی

منہ میں ڈال رہا ہے پناچہ وہ دو ائیں نے تیار کی اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلِ عقین سے معلوم کیا کہ وہ پُر صحت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی اور چار لڑکے مجھے عطا کئے گئے۔ (تزیان القلوب صفحہ ۲۶۱، ۲۶۲۔ روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۲۰۲، ۲۰۳)

۱۸۸۳ء  
 اِنَّ اللّٰهَ بَشَّرَنِيْ فِيْ اَبْنَائِيْ بِبَشَارَةٍ بَعْدَ بَشَارَةٍ۔ حَتّٰى يَبْلُغَ عَدَدَهُمْ  
 اِلٰى ثَلَاثَةِ وَاَنْتَبَايَ بِهِمَّ قَبْلَ وُجُوْدِهِمْ بِالْاَلْهَامِ  
 (انجام آتم صفحہ ۱۸۲۔ روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۱۸۲)

۳۰ دسمبر ۱۸۸۳ء  
 اِنِّيْ فَضَّلْتُكَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ قُلْ اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا  
 (مکتوب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مورخہ ۳۰ دسمبر ۱۸۸۳ء جلد ۱۹ نمبر ۲ مورخہ ۲۱ جنوری ۱۹۱۵ء صفحہ ۳)

اوائل مارچ ۱۸۸۵ء  
 ”مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجددِ وقت ہے اور روحانی طور پر اسکے کلمات مسیح بن مریم کے کلمات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشارت مناسبت و مشابہت ہے اور اس کو خواص انبیاء و رسول کے نمونہ پر محض برکت متابعت حضرت خیر البشر افضل از سل علیہ السلام و آلہ و سلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گذر چکے ہیں اور اس کے قدم پر چلتا موجب نجات و سعادت و برکت اور اس کے برضات چلتا موجب بعد و حرمان ہے۔“  
 (اشتمار ضمیمہ نمبر چشم آریہ۔ روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۳۱۹)

۸ مارچ ۱۸۸۵ء  
 ”عاجز مؤلف براہین احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے ما سورتوا ہے کہ نبی نامری امرئیلی مسیح، کی طرز پر کمال سکینی، فردوسی وغیرت و تذلل و تواضع سے اصلاح مطلق کے لئے کوشش کرے

۱۔ ترجمہ از مرتب، اللہ تعالیٰ نے مجھ اپنے بیٹوں کے بارہ میں بشارت کے بعد بشارت دی یہاں تک کہ ان کی تعداد تین تک پہنچانی اور مجھے ان کی پیدائش سے پہلے اللہ کے ذریعہ ان کی خبر دی۔ (نوٹ از مرتب) اس کے متعلق حضرت اُم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ فرمایا: ”جب میری شادی ہوئی اور میں ایک مینہ قابیل ٹھیکر کر پھر واپس وہی گئی تو ان پیام میں حضرت مسیح موعود نے مجھے ایک خط لکھا کہ میں نے خواب میں تمہارے تین جوہار کے دیکھے ہیں۔“ (سیرۃ المدی حصہ اول صفحہ ۱۲۳)  
 ۲۔ ترجمہ از مرتب: میں نے تمہ کو تمام جانوں پر فضیلت دی۔ کہ میں تم صوب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

خدا نے خود: مادہ فرمایا ہے۔ پھر شادی کرنے کے بعد سلسلہ فتوحات کا شروع ہو گیا۔ اور  
یا وہ زمانہ تھا کہ باعث تفرقہ دیوبند و معاشش پانچ سات آدمی کا خرچ بھی میرے پر بوجھ  
تھا یا آپ وہ وقت آگیا کہ بحساب اوسط تین سو آدمی ہر روز مدعیان و اہلخانہ اور ساتھ  
اس کے کسی غریب اور درویش اس لشکر خانہ میں روٹی کھاتے ہیں، وہ یہ پیشگوئی کلام شریعت  
آدیہ اور ملا وال کہ یہ ساکنین قادیان کو بھی قبل نزولت کائنات لکھی تھی کہ شیخ عادل علی اللہ چند  
اور واقف کاموں کو اس سے اطلاع دے دی گئی تھی: ۱۰

محترم عرفانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور شادی کے لئے امرئی شریعت لے گئے تو راتوں میں حافظ صاحب  
ایکے جو سب سے نمایاں تھے۔ آپ ہی اس شادی میں تمام انتظامات کرنے والے تھے اور حضرت نہایت بے تکلفی  
سے ہر ایک بات موقعہ کے مناسب حال آپ سے کرتے تھے۔ حضرت آدمی کا کوئی سفر ایسا نہیں ہوا جس میں  
حافظ صاحب بشرطیکہ وہ یہاں موجود ہوں ساتھ نہ ہوں۔ اور اس سفر کا سارا اہتمام و انتظام انہی کے  
ہی ہوتا تھا: ۱۰

کرم موزی مجددی صاحب جٹ حافظ صاحب سے روایت کرتے ہیں: ۱۰

حضرت سیح موجود علیہ السلام نے (گویا نومبر ۱۸۳۲ء میں) ایک روز مجھے فرمایا۔ میاں عادل علی اسفر  
جانا ہے۔ چنانچہ تیکہ کرایہ پر لیا۔ جب خاکر دہلی کے محلہ کے قریب پہنچے تو مرزا اسماعیل بیگ صاحب سے  
فرمایا کہ میں اپنی شادی کرنے کے لئے جا رہا ہوں۔ میں دعوتاً اور ولیمہ ہو گا۔ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ میں جا کر  
خط تھوں گا۔ اس وقت سلطان احمد کی والدہ کو بتا دینا۔ تاکہ میری واپس تک وہ رد و صوبے۔ میں حضور کی  
یہ بات سن کر سخت حیرت زدہ ہو گیا۔ کیونکہ مجھے بخوبی معلوم تھا کہ حضور اس وقت ازواجی زندگی کے قابل  
نہ تھے۔ اور عمر سے میں مختلف حکیموں اور طبیبوں سے نسخے معلوم کر کے نوٹ کیا کرتا تھا اور حضور کو کھلاتا تھا  
لیکن کسی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ مرزا اسماعیل بیگ صاحب کی موجودگی میں تو میں نے اپنے تئیں مشکل ضبط کیا لیکن  
پھر کے پل پر پہنچے تو عرض کیا۔ آپ کی ماں آپ پر اہل نہ بھجھ پر مخفی ہے۔ پھر آپ نے شادی کا کون عدہ فرمایا ہے  
فرمایا کہ آپ کی بات وہ سب سے۔ لیکن میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چل تو میں چلتا ہوں۔ پاس  
جواب پر میں کیا عرض کرتا۔ سو میں خاموش ہو گیا۔

۱۰ حقیقۃً آدمی صفحہ ۲۳۵، ۲۳۶۔ نشان ۸۷۔ ۱۰ الحکمہ ۲۸ صفحہ ۹۔ حضرت ام المومنینؓ بیعت کرتی ہیں  
کہ شیخ عادل علی صاحب اللہ ملا وال صاحب بھی حضور کے ساتھ تھے (سیرۃ النبی ص ۶۹) اولیٰ  
نے فاکسڈ نوٹ صاحب احمد کے استفسار پر بتایا تھا کہ وہ بطور براتی ساتھ گئے تھے اور شادی کی عین تاریخ بھی  
مجھے بتائی تھی۔ حضرت ام المومنینؓ کی روایت میں تاریخ نکاح ۲۷ محرم ۱۲۰۲ھ ذکر ہے۔

ہی میں حضرت میرزا صاحب صاحب کے ہاں پہنچے تو ٹھیک میں مجھے ٹھہرایا گیا۔ چند روز قبل ہی بیوی صاحبہ  
حضرت سیدہ نعمت جہان بیگم صاحبہ (ایام سے پاک ہونے لگیں۔ شہر پر ہی رخصتانہ عمل میں آیا۔ رخصتانہ کی رات  
میں نہایت بے قرار تھا کہ کیا ہوگا۔ چنانچہ شدت اضطراب کی وجہ سے میری نیند کا فور ہو گئی۔ اور میں رات بھر حضور  
کے لئے نہایت تفریح سے دعا میں مصروف رہا۔ صبح کی آواز ہوتی تو حضور میرے پاس تشریف لائے اور ہم نے  
نماز فجر ادا کی۔ جس کے بعد فرمایا۔ آؤ! اللہ کی طرف سیر کر آئیں۔ چنانچہ راستہ میں خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ  
کی ذات کتنی پرزہ پوش اور یاد دہا ہے کہ رات بیوی صاحبہ کو پھر ایام شروع ہو گئے اور میں چھٹی ہو گئی چنانچہ  
اسی حالت میں حضور حضرت ام المومنینؑ کو سیکر تادیان تشریف لے آئے۔

کچھ عرصہ بعد حضرت میرزا صاحب نے حضور کو لکھا کہ آپ لڑائی کو چھوڑ جائیں۔ حضور نے ایک سو دو پیر  
بھجوا کر لکھا کہ مجھے تعینت کے کام کی وجہ سے فرمت نہیں آپ آکر لے جائیں۔ چنانچہ میرزا صاحب آکر لے گئے  
پھر دو تین ماہ بعد حضور کو لکھا کہ آپ آکر تھی کو لے جائیں۔ حضور نے ایک سو دو پیر بھجوا کر لکھا کہ آپ آکر  
چھوڑ جائیں۔ چنانچہ میرزا صاحب آکر چھوڑ گئے۔ حضرت ام المومنینؑ کے اخلاق عالیہ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے  
اپنے والدین کے ہاں اور سہیلیوں سے اس بارہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا۔

میں حضور کے علاج میں پہلے ہی مصروف تھا۔ بیوی صاحبہ کی دوا پوری پڑا تو دس ماہ گزر گئے لیکن علاج بے اثر رہا۔  
ایک روز میری حضور نے میں فرمایا کہ تم لوگ دعویٰ نعت کرتے ہو۔ میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حیران ہوئے  
کہ نہ معاذم کیا امتحان ہوگا۔ تو فرمایا۔ میرے دل میں ایک بات ہے اس کے متعلق دعا کرو۔ اور جو پتہ لے بناؤ۔  
چنانچہ حضور روزانہ ہم سے دریافت کرتے تھے کہ کیا خواب آئی ہے۔ دیگر احباب اپنی خواب میں سناتے تو حضور  
فرماتے کہ یہ اس امر کے متعلق نہیں۔ مجھے کوئی خواب نہ آئی تھی۔ ایک روز موضع تھہ غلام نبی اپنے اہل و عیال  
کے پاس جانے کی میں نے اجازت لی اور ابھی تادیان سے نکلا ہی تھا کہ غیر اختیاری طور پر میری زبان پر حدیث  
جاہلی ہو گیا۔ اور میں گاؤں تک درود شریف ہی پڑھتا گیا اور گھر پہنچا اور بچوں سے مل کھانا کھایا۔ لیکن  
میری یہ خاص کیفیت اسی طرح قائم تھی۔ تھکا ماندہ تھا۔ سو گیا۔ رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام  
سے اور فرمایا۔ عادل! تمہاری کاپی میں جو ننان سو نسخہ ہے وہ مرزا صاحب کو کیوں نہیں دیتے! اسی پر میں

نے جا حضور کے سوگ کی آپ نے اور آپ کی خادمہ نے تعریف کی اور حضرت نالی انان۔ سیرۃ النبی ص ۱۰۰ روایت ۳۳۰  
شادی کے متعلق سیرۃ النبی ج ۱ ص ۱۰۱ میں حضرت ام المومنینؑ کی روایت نمبر ۶۶ پر ہے۔ میں حضرت ڈاکٹر میرزا صاحب نے تحریر فرمایا  
رنگسار و نعت صاحبہ ایک خط شناخت کرتا ہے اور م۔ ا سے مراد کھانسیل ہے جو بعض جگہ آپ اپنے نام کا مخفف تحریر کرتے ہیں بلکہ یہ ہے  
نیم مقرر ص ۹۳ اور تادیان سے مراد اہل شہریت عادل روایت ہو۔ شہر پر بابو دہی بخش و منشی عبدالحق مل گئے (طوائف)  
یعنی میرزا صاحب سے اور یہی صحیح ہے۔ م۔ ا۔ کیونکہ میری پیدائش شہر کی ہے۔ شہر شروع میں ایک مقرر ص ۹۳ اور نومبر ۱۰۰

بیدار ہو گیا۔ ادھم میں نکل کر دیکھا تو رات چاندنی ہونے کی وجہ سے سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے۔ اور میں قادیان  
 کو روانہ ہو گیا۔ جب میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب سے ملے مکان کی ٹینک وانی جسگہ پر پہنچا تو حضور  
 بیت النکر میں ٹہل رہے تھے اور اس وقت فجر کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے کوچہ سے سلام علیکم  
 فرمایا کیا۔ تو حضور نے جواب دے کر پوچھا۔ کون ہے؟ عرض کیا۔ عادل علی۔ فرمایا۔ غیر ہے؟ عرض کیا کہ غیر  
 ہے۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خواب بیان کی۔ فرمایا۔ یہی بات تھی جس کے لئے میں نے آپ  
 دوستوں کو دعا کے لئے کہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی کاپی میں تحریر کردہ وہ دعا لائی پڑھے کا دعویٰ نسخہ  
 بنا کر حضور کو استعمال کروایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نسخہ ثابت ہوا کہ کچھ عرصہ تک حضور ہر نماز  
 غسل کر کے پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایک اور نسخہ بھی بنا دیا جو بے حد مفید ثابت ہوا۔ چنانچہ  
 حضرت ڈاکٹر میر محمد افضل صاحب کی روایت ہے :-

حافظ عادل علی صاحب مرحوم خادم سیرج موعود علیہ السلام بیان کرتے تھے کہ جب حضرت صاحب  
 نے دوسری شادی کی تو ایک عترتک تخرید میں بہنے اور بجاہرات کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے  
 قویٰ میں ضعف محسوس کیا۔ اسپر وہ الہامی نسخہ جو تاجام عشق کے نام سے مشہور ہے ہوا کہ  
 استعمال کیا۔ چنانچہ وہ نسخہ نہایت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت خلیفۃ اولیٰ بھی  
 فرماتے تھے کہ میں نے یہ نسخہ ایک بے اولاد امیر کو کھلایا تو خدا کے فضل سے اس کے ہاں  
 بیٹا پیدا ہوا جس پر اس نے ہیرے کے کڑے پہن دئے۔

یہ ساری تفصیل نعلیٰ الہی کے نشان کی خاطر دی گئی ہے۔ حضور تحریر فرماتے ہیں :-  
 اس وقت میرا دل دماغ اور جسم نہایت کمزور تھا اور علاوہ ذیابیطس اور درد ان سر  
 کو تشخیص قلب کے وقت کی بیماری کا اثر ایسی بکلی دور نہیں ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ  
 کے ضعف میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مردی  
 کا قدم تھی۔ اور پیرانہ سانی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب  
 بٹالوی نے مجھے خط لکھا تھا۔ . . . . . کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی ایسا  
 نہ ہو کہ کوئی استیلا پیش آوے۔ مگر باوجود ان کمزوریوں کے خدا نے مجھے پوری توت و صحت  
 اور طاقت بخشی اور چار اٹل کے عطا کر دئے۔

لے سیرۃ الہدیٰ صفحہ سوم - روایت ۵۶۹ - کتاب میں نسخہ مدج ہے۔

ع نزلت شیخ صفحہ ۲۰۸ - ۲۰۹ - اور اس کے گواہوں میں بھی شیخ عادل علی صاحب کا نام درج

ہے دو خطہ ہوا نشیہ صفحہ ۲۰۹

یہ حوالہ صفحہ 113 پر درج ہے

کتاب احمد جلد سیزدہم صفحہ 31 تا 33 از ملک صلاح الدین قادیانی

شادی میں تجھے کچھ فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام ضروریات کا رفع کرنا میرے ذمہ رہے گا۔ سو قسم ہے اُس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اُس نے اپنے وعدہ کے موافق اس شادی کے بعد ہر ایک بار شادی سے مجھے سبکدوش رکھا اور مجھے بہت آرام پہنچایا۔ کوئی باپ دنیا میں کسی بیٹے کی پرورش نہیں کرتا جیسا کہ اُس نے میری کی۔ اور کوئی والدہ پوری ہوشیاری سے دن رات اپنے بچہ کی ایسی خبر نہیں کھتی جیسا کہ اُس نے میری رکھی۔ اور جیسا کہ اُس نے بہت عرصہ پہلے براہین احمدیہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یا احمد! اسکن انت و زوجک الجنة۔ ایسا ہی وہ بجالایا۔ معاش کا غم کرنے کے لئے کوئی گھڑی اُس نے میرے لئے خالی نہ رکھی۔ اور خانہ داری کے ہتھات کے لئے کوئی اضطراب اُس نے میرے نزدیک آنے نہ دیا۔ ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بیباخت اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا۔ اور دو مرضیں یعنی ذیابیطس اور دردِ موع دورانِ سر قدیم سے میرے شامل حال تھیں جن کے ساتھ بعض اوقات تشنجِ قلب بھی تھا۔ اس لئے میری حالت مرضی کا عدم تھی۔ اور پیرائے سال کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔ اور ایک خط جس کو میں نے اپنی جماعت کے بہت سے معزز لوگوں کو دکھلایا ہے جیسے اخویم مولوی نور الدین صاحب اور اخویم مولوی برہان الدین وغیرہ۔ مولوی محمد حسین صاحب ایڈیٹر اشاعت السنۃ نے ہمدردی کی راہ سے میرے پاس بھیجا کہ اپنے شادی کی ہے اور مجھے حکیم محمد شریف کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بیباخت سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ اگر یہ امر آپ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں اولیاء اللہ کے خوارق اور روحانی قوتوں کا منکر نہیں ورنہ ایک بڑے فکر کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ

۲۰۴

کوئی ابتلا پیش آوے یہ ایک چھوٹے سے کاغذ پر رقعہ ہے جو اب تک اتفاقاً میرے پاس محفوظ رہا ہے۔ اور میری جماعت کے بچپاس کے قریب دوستوں نے بچشم خود اس کو دیکھ لیا اور خط پہچان لیا ہے۔ اور مجھے امید نہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب اس سے انکار کریں۔ اور اگر کریں تو پھر حلف دینے سے حقیقت کھل جائیگی غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی۔ اور مجھے اس نے رفع مرض کے لئے اپنے الہام کے ذریعہ سے دو امیں بتلائیں۔ اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دو امیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ وہ دو امیں نے طیار کی۔ اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلی یقین سے معلوم کر لیا کہ وہ پُر صحت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی اور چار لڑکے مجھے عطا کئے گئے۔ اگر دنیا اس بات کو مبالغہ نہ سمجھتی تو میں اس جگہ اس واقعہ حقیقہ کو جو اعجازی رنگ میں ہمیشہ کے لئے مجھے عطا کیا گیا بہ تفصیل بیان کرتا تا معلوم ہوتا کہ ہمارے عقائد رقیوم کے نشان ہر رنگ میں ظہور میں آتے ہیں اور ہر رنگ میں اپنے خاص لوگوں کو وہ خصوصیت عطا کرتا ہے جس میں دنیا کے لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا۔ اور پھر اپنے تئیں خدا و اوطاقت میں بچپاس مرد کے قائم مقام دیکھا۔ اس لئے میرا یقین ہے کہ ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

ایک صاحب نواب محمد علی خاں نام جبر کے نوابوں میں سے لدھیانہ میں رہتے تھے اور انہوں نے لدھیانہ میں اس غرض سے ایک سرائے بنائی تھی کہ ناہمقد غلہ باہر سے آتا ہے اسکی اس سرائے میں خرید و فروخت ہو۔ اور اسی سرائے میں غلہ بیچنے والے اپنا مال آتاریں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک شخص اس کام میں انکار ہزن

۱۲

۷۶



صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ دیکھو مصلحتِ الہی کے یہی چاہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا پختہ گنبد ہو اور کئی بزرگوں کے مقبرے پتھر سے بنائے۔ شاذانکہ آئینِ قرین، آئینِ قطب الدین، آئینِ معین الدین، آئینِ رحمت اللہ علیہم یہ سب شہداء تھے۔

**رسومات** ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا کہ محرم کے دنوں بائین کی مذبح کو ثواب دینے کے واسطے روٹیاں وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا:

عام طور پر یہ بات ہے کہ طعام کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شہرک کی رسومات نہیں چاہئیں۔ رافضیوں کی طرح رسومات کا کرنا ناجائز ہے۔

**بیعت کی حقیقت** ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ اگر آپ کو ہر طرح سے بزرگ مانا جائے اور آپ کے ساتھ صدق اور اخلاص ہو، مگر آپ کی بیعت میں انسان شامل نہ ہووے، تو اس میں کیا عرج ہے؟

فرمایا: بیعت کے معنی ہیں اپنے تئیں بیعت دینا اور یہ ایک کیفیت ہے جس کو قلب محسوس کرتا ہے جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتے، تو وہ بیعت کے لیے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے، تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے۔

**کثوف و الہامات میں شیطان کا دخل** اس بات کا ذکر آیا کہ ہوری علماء نے الہی بخش ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ آیا تمہارا الہام تبیس الیس سے معصوم ہے یا نہیں۔ جس کے جواب میں الہی بخش نے کہا کہ میرا الہام دخل شیطان سے پاک نہیں۔ اس پر حضرت آتش امام معصوم نے فرمایا:

یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کیا ستر ہے اور کسی کا الہام یا کشف شیطان کے دخل سے کہا تک پاک ہوتا ہے۔ انسان کے اندر دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے انسان خدا کی نافرمانی دیدہ و دانستہ کرتا ہے اور بے باکی سے گناہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ مجرم کہلاتے ہیں۔ یعنی خدا سے ان کا بالکل قطع تعلق ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو ہر چند بدی سے بچتے ہیں، مگر بعض دفعہ بسبب کمزوری کے کوئی فعل کر بیٹھے ہیں۔ سو جس قدر انسان گناہوں کو چھوڑتا اور خدا کی طرف آتا ہے

کا لفظ ہے۔ جو غالباً سر درد ہی کی ایک قسم ہے جس میں سر میں جکڑا آتا ہے اور گردن وغیرہ کے پٹھوں میں کچھ اڈٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور اس حالت میں بیمار کے لیے چلنا یا کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوش و حواس پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ خاکسار راقم الحروف نے متعدد دفعہ حضرت مسیح موعودؑ کو دوسے کی حالت میں دیکھا ہے۔ اور کبھی بھی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ جس میں ہوش و حواس پر کوئی اثر پڑا ہو اور حضرت مسیح موعودؑ کی یہ بیماری بھی دراصل آنحضرتؐ وسلم کی ایک پیشگوئی کے مطابق تھی۔ جس میں بتایا گیا تھا کہ مسیح موعودؑ دو زرد چادروں (یعنی دو بیماریوں) میں لپٹا ہوا نازل ہو گا۔ دیکھو مشکوٰۃ باب اشراط الساعۃ بکوارہ وسلم وغیرہ۔ اور روایت میں جو یہ لفظ آتے ہیں کہ پہلے دوسے کے وقت آپ نے کوئی کالی کالی چیز آسمان کی طرف اٹھتی دیکھی۔ سو مدد ان سر کے علاوہ یہ ایک عام بات ہے۔ کہ سر جکڑنے سے ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی اُپر کو اٹھتی نظر آتی ہیں۔ اور بوجہ اسکے کہ ایسے دوسرے کے وقت مریض کا میلان آنکھیں بند کر لینے کی طرف ہوتا ہے۔ عموماً یہ چیزیں سیاہ رنگ اختیار کر لیتی ہیں اور دوسرے میں غشی کی سسی حالت ہو جانے سے جیسا کہ خود الفاظ ہی اسی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ حقیقی غشی مراد نہیں بلکہ بوجہ زیادہ کمزوری کے آنکھیں نہ کھول سکتا یا بول نہ سکتا مراد ہے۔ (واللہ اعلم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ بیان کیا ہے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت لہذا میں لی تھی۔ پہلے دن چالیس آدمیوں نے بیعت کی تھی پھر جب آپ گھر میں آئے تو بعض عورتوں نے بیعت کی۔ سب سے پہلے مولوی صاحب (حضرت مولوی نور الدین صاحب) نے بیعت کی تھی۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ آپ نے کب بیعت کی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ میرے متعلق مشہور ہے کہ میں نے بیعت سے توقف کیا اور کئی سال بعد بیعت کی۔ یہ غلط ہے۔ بلکہ میں کبھی بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی۔ ہمیشہ

آپ کے ساتھ رہی اور شروع سے ہی اپنے آپ کو بیعت میں سمجھا اور اپنے بیٹے باقاعدہ  
 ایک بیعت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ ابتدائی بیعت کے  
 وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سنجیت اور ہمدویت کا دعوت سے نہ تھا۔  
 بلکہ عام مجددانہ طریق پر آپ بیعت لیتے تھے۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے  
 پوچھا کہ حضرت مولوی صاحب کے علاوہ اور کس کس نے پہلے دن بیعت کی  
 تھی؟ والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ صاحب سنوری اور شیخ حامد علی صاحب  
 کا نام لیا۔

(۱۳۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب  
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعویٰ مسیحیت شایع کرنے لگے تو اس وقت آپ  
 قادیان میں تھے۔ آپ نے اس کے متعلق ابتدائی رسالے یہیں لکھے۔ پھر آپ  
 لدھیانہ تشریف لے گئے اور وہاں سے دعوتے شایع کیا۔ والدہ صاحبہ نے  
 فرمایا۔ کہ دعوتے شایع کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ کہ میں ایسی  
 بات کا اعلان کرنے لگا ہوں جس سے ملک میں مخالفت کا بہت شور پیدا ہوگا۔  
 والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ اس اعلان پر بعض ابتدائی بیعت کرنے والوں کو یہی ٹھوکر  
 لگ گئی۔

(۱۳۲) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ  
 جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سسیالکوٹ میں میر عابد شاہ صاحب کے مکان  
 پر تھے۔ اور سورہے تھے۔ مینے آپکی زبان پر ایک فقرہ جاری ہوتے سنا۔  
 میں نے سمجھا کہ الہام ہوا ہے پھر آپ بیدار ہو گئے۔ تو میں نے کہا۔ کہ آپ کو یہ  
 الہام ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم کو کیسے معلوم ہوا؟ مینے کہا مجھے آواز  
 سنائی دی تھی۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ الہام کے وقت آپکی کیا حالت ہوتی  
 تھی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ہاتھ پر پسینہ آجاتا تھا۔  
 خاکسار عرض کرتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود اپنے مکان کے چھوٹے

## کلمۃ لفصل

جلد ۱۲

۱۶۲

خدا اور رسول کو بھی نہیں ماننا جنہوں نے میرے آنے کی پیشگوئی کی اسی طرح وہ عبارت بھی جبر  
معتزلی کو دھوکا لگا ہے درحقیقت اسی مطلب کے لیے ہے چنانچہ اصل عبارت کو دیکھنے سے  
سب معاملہ صاف ہو جائیگا۔ حضرت مسیح موعودؑ تحریر فرماتے ہیں کہ:-  
”اگر دوسرے لوگوں میں تخم دیانت اور ایمان ہے اور وہ منافق نہیں ہیں تو انکو چاہئے  
کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لبا اشتہار ہر ایک مولوی کے نام کی تصریح سے شیعہ لوگوں  
کو سب کافروں میں کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا تب میں انکو مسلمان سمجھ لوں گا۔  
بشرطیکہ ان میں کوئی نفاق کا شبہ نہ پایا جاوے اور خدا کے کھلے کھلے معجزات کے کذب  
نہوں“ (دیکھو حقیقت الہی صفحہ ۱۶۵)

یہی حضرت مسیح موعودؑ کے الفاظ جو ہمارے دل سے بار بار پیش کیے جاتے ہیں یاد  
کما جاتا ہے کہ اس تحریر میں آپ نے اس بات کی امکان ضرور رکھی ہے کہ ایک شخص آپکا ہتکار  
کے بھی مسلمان رہ سکتا ہے۔ مگر معتزلی نے غور نہیں کیا کہ یہ بات تعلق بالمحال کے  
طور پر ہے جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے قل ان كان للرحمن ولدنا فما اول  
العابدین یعنی کہو کہ اگر کوئی رحمن کا بیٹا ہے تو میں اس کا سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں  
کیا اس تحریر کو پیش کر کے ہم سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امکان تقابلت کفر و  
رکھا ہے کہ رحمن کا لڑکا ہو سکتا ہے؟ نہیں باوجود ہرگز نہیں کیونکہ یہاں تو یہ اشارہ کیا گیا  
ہے کہ نہ خدا کا بیٹا ثابت ہو سکیگا اور نہ میں اسکی عبارت کو دہنگا۔ اسی طرح حضرت مسیح  
موعودؑ نے تعلق بالمحال کے طور پر اس بات کو پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر احمدیوں  
میں سے ہمارے مکرملویوں کے نام لیکر اشتہار کے ذریعہ ان کے کافر ہونیکا اعلان  
کرے اور مسیح موعودؑ کو سچا مسلمان جانے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات کو بھی  
سچا جانتا ہو جو اس نے مسیح موعودؑ کے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں اور یہ سب کچھ نفاق سے  
نہ ہوتے ہم ایسے شخص کو مومن مان لیں گے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو شخص حضرت مسیح  
موعودؑ کو واقعی سچا مسلمان جانتا ہے اور آپکے مکذبین کو کافر سمجھتا ہے اور آپکے  
اہلہات اور نشانات کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنتا ہے اور پھر آپکی بیعت نہیں

کرتا ایسا شخص یقیناً منافق ہے اور صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت صاحب نے یہ کہیں کہ میری بیعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک شخص پر فرودی ہے اور وہ باوجود آپ کو راستہ جلنے اور آپ کے نشانات اور اہمات پر ایمان لانے کے آپ کی بیعت میں داخل نہ ہو۔ ایسے اگر کوئی شخص ایسا اشتہار دے بھی دے جس میں حضرت صاحب کے کفرین کو کافر لکھا گیا ہو اور یہ بھی اعلان کرے کہ میں حضرت مرزا صاحب کو راستہ زسلمان سمجھتا ہوں انہ آپ کے نشانات پر ایمان لاتا ہوں لیکن بیعت ذکرے تو تب بھی ہم اسکو مسلمان نہیں کہیں گے کیونکہ وہ منافق ہے اور صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے۔ پس حضرت صاحب نے تو ایک محال بات پیش کر کے مخالفین پر حجت قائم کی ہے نہ کہ اس کے پیٹے راستہ کھولے۔ میں حضرت مسیح موعود کی تقریر کو شرایط کو پڑھ کر اندر ہی اندر بہت لطف اٹھاتا ہوں کہ آپ کے ایسی شرایط رکھدی ہیں جن کا لازمی نتیجہ بیعت کرنا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کفرین کو کافر لکھ کر غیروں سے قطع تعلق کرے اور حضرت مسیح موعود کو سچا مسلمان سمجھ کر آپ سے ایک گونہ تعلق پیدا کرے۔ یہ ہاؤزینہ ہے جو غیر احمدیت سے احمدیت کی طرف انسان کو لیجاتا ہے دوسری شرط حضرت صاحب نے یہ رکھی ہے کہ خدا کے ان ٹھکے ٹھکے نشانات پر ایمان لائے جو اس نے آپ کو عطا کیا ہیں۔ دوسرا زینہ ہے جو مخالف کو غیروں سے قلمی طور پر الگ کرنے کے حضرت مسیح موعود کے پاس لاکھڑا کرتا ہے۔ تیسری شرط حضرت صاحب نے یہ رکھی ہے کہ ان تمام باتوں میں بے نفاق ہرگز نہ ہو بلکہ یہ سب کچھ دل کے ایمان سے کرے اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص باوجود اس دعویٰ کے کہ وہ حضرت مرزا صاحب کے نشانات پر ایمان لاتا ہے آپ کی بیعت میں داخل نہیں ہوا وہ منافق ہے صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے پس اب یہ تیسرا زینہ ہو گا جو انسان کو مجبور کرے گا کہ آگے بڑھ کر مسیح موعود کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیدے اور آپ کی جماعت میں داخل ہو۔ ہاتھ میں لکڑے ہاؤزینہ کے مخالف بھائی سمجھتے اور ٹھوکر کھانے سے بچتے۔ علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ جب ایسی تک ایسا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جس نے حضرت مسیح موعود کی مقرر کردہ شرایط کے ماتحت کوئی اشتہار نکالا ہو تو اس معاملہ پر بحث کرنا ہی فضول ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اسے پیش کیا جاوے ہم انشاء اللہ ضرور حضرت مسیح موعود

بن گئے اس لئے اپنے تحریر مندرجہ بالا میں سب سے پہلی شرط لگائی کہ مخالف میرے مسلمان ہونے کا  
اعلان کرے۔ دوسری دلیل آپکی یہ تھا کرتی تھی کہ چونکہ وہ لوگ جو مجھ کو کافر نہیں کہتے ان تمام لوگوں  
کو مسلمان سمجھتے ہیں جنہوں نے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے اور اس طرح کافروں کو یوں سمجھنے سے  
خود کافر ہو جاتے ہیں اس لئے دوسری شرط اپنے یہ لگائی کہ وہ میرے تمام کفرین کو کافر ہونے  
اور اس بات کا بتدویر اشتہار اعلان کرے۔ تیسری دلیل حضرت مسیح موعودؑ یہ دیا کرتے تھے  
کہ چونکہ ہر ایک وہ شخص جو مجھ کو قبول نہیں کرتا مجھے مغتری علی اللہ قرار دیتا ہے اور مغتری علی اللہ  
صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوتا ہے اس لئے وہ میری تکفیر کے لئے کافر ہو جاتا ہے علاوہ اس کے  
چونکہ میرا مخالف آیات اللہ کی تکذیب کرتا اور آیات کی تکذیب کرنے والا بوجہ آیت ومن الظالمین  
ممن افتری علی اللہ کذباً و کذباً بآئنتہ صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہے اس لئے  
حضرت مسیح موعودؑ نے اس دلیل کے مقابل اس شرط کو رکھا کہ ایسا اشتہار دینے والا ہر شخص  
کھلے نشانوں کو بھی سچا جانے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ظاہر کیے۔ جو تھی دلیل حضرت مسیح  
موعودؑ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل ہوں اس لئے ہر  
جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھ کو نہیں مانا وہ مسلمان نہیں ہاں جس پر خدا کے  
زدیک تمام حجت نہیں ہو اور وہ کذب اور منکر ہے تو گو شریعت نے (جسکی بنائے ہیں)  
اس کا نام بھی کافر ہی رکھا ہے اور ہم بھی اسکو با اتباع شریعت کافر کے نام سے ہی پکارتے ہیں  
مگر پھر بھی وہ خدا کے زدیک بوجہ آیت لایکلف اللہ نفساً الا و ما تعجزوا قال اللہ  
نہیں ہوگا۔ (دیکھو حقیقتہً ازہی صفحہ ۱۸۰) اس دلیل کے مقابل حضرت صاحب نے یہ شرط رکھی کہ  
اشتہار دینے والا منافق نہ ہو جس سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہر طور پر بیعت بھی کرے جیسا کہ یہ ظاہر  
بتایا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت مسیح موعودؑ نے بڑے حسن طریقہ پر اپنے مخالفین پر حجت قائم  
کی ہے اور انکو ایک ایسی بات پر مانا نہ کرنا چاہا۔ یہ جو درجہ بدرجہ انکو اجماعیت کے نام پر  
قد بردا۔

لو ال اعتراض یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعودؑ کا نبوت کا بھی دعویٰ تھا تو کیوں آپ نے اس پر  
اس بات کو نہیں لکھا کہ میرے لئے مننے سے چونکہ خدا کے رسولوں میں تفریق ہوتی ہے اس لئے میرے

بے نشانی کے لئے دعویٰ کر کے بیعت نہ کرنا والے کا نام ہے منافق اس لئے رکھا کہ وہ نشانی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

یہ حوالہ صفحہ 118 پر درج ہے  
یہ حوالہ صفحہ 162، 163، 165 از مرزا بشیر احمد ایم اے  
یہ حوالہ صفحہ 118 پر درج ہے

یہ حوالہ صفحہ 118 پر درج ہے

کلمۃ الفصل صفحہ 162، 163، 165 از مرزا بشیر احمد ایم اے

دو راہ بہدروسی اپنی رائے پر اصرار کیا ہو گا کہ مہا و ایہ بات خفایت اور اکا موجب نہ ہو جائے۔ مگر ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے صرف ایک قانونِ دین کی حیثیت میں غور کیا اور اس بات کو نہیں سوچا کہ خدائی تصرفات سب طاقتوں پر غالب ہیں، نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ اب سعدا کسرا کا بھی لالہ ہے (۳۸۸) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سفیر علی صاحب نے مجھ سے بین کیا کہ ایک دن حضرت صاحب کی مجلس میں عورتوں کے لباس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تنگ پا جامہ جو بالکل بدن کے ساتھ لگا ہوا ہوا چھانہیں ہوتا۔ کیونکہ اس سے عورت کے بدن کا نقشہ ظاہر ہو جاتا ہے جو ستر کے مشافی ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ صورتِ سرحد میں اور اسکے اثر کے ماتحت پنجاب میں بھی عورتوں کا عام لباس سلوار ہے۔ لیکن ہندوستان میں تنگ پا جامہ کا دستور ہے اور ہندوستان کے اثر کے ماتحت پنجاب کے بعض خاندانوں میں بھی تنگ پا جامے کا رواج قائم ہو گیا ہے جہاں چھوٹے گھروں میں بھی بوجہ حضرت والدہ صاحبہ کے اثر کے جو دئی کی ہیں، زیادہ تر تنگ پا جامے کا رواج ہے۔ لیکن سلوار بھی استعمال ہوتی رہتی ہے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ ستر کے نکتہ نگاہ سے تنگ پا جامہ مزید ایک حد تک قابل اعتراض ہے اور سلوار کا مقابلہ نہیں کرتا تاں زینت کے لحاظ سے دونوں اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں یعنی بعض بدنیوں پر تنگ پا جامہ بھتا ہے اور بعض پر سلوار اذریں جلات اگر بحیثیت مجرمی سلوار کو رواج دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عورت نے تو اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی رہنا ہے اور اگر باہر بھی جانا ہے تو عورتوں میں ہی ملنا جلتا ہی تو اس صورت میں تنگ پا جامہ اگر لپکا حد تک ستر کے خلات بھی ہو تو قابل اعتراض نہیں لیکن یہ خیال نہ۔ تاہم لیونکہ اول تو ایک قسم کا ستر شریعت نے عورتوں کا خود عورتوں سے بھی رکھا ہے اور اپنے بدن کے حسن کو بجا طور پر بر ملا ظاہر کرنے سے مستورات میں بھی منع فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں گھروں میں علاوہ خاوند کے بعض ایسے مردوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے جن سے مستورات کا پردہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ بھی نہایت معیوب بلکہ ناجائز ہوتا ہے کہ عورت ان کے سامنے اپنی بدن کو نقشہ اور ساخت کو بر ملا ظاہر کرے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایسے تنگ پا جامہ کو جس سے بدن کا نقشہ اور ساخت ظاہر ہو جاوے ناپسند کرنا نہایت حکیمانہ دانشمندی پر مبنی اور حین شریعت اسلامی کے منشاء کے مطابق ہے۔ ماں خاوند کے سامنے عورت پہلے شکریں تو کہتا

علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عادت غصّ بصر کی جو وہ ہر وقت مشاہدہ کرتی تھی۔ اس کا اثر اُس دیوانی عورت پر بھی ایسا تھا۔ کہ وہ خیال کرتی تھی کہ حضور کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس واسطے حضور پر کسی پردہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

## استعمالِ خطابِ "تُو"

میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کبھی کسی کو "تُو" کے لفظ سے مخاطب کیا ہو۔ سوائے ایک دفعہ کے جبکہ ایک شخص جو مولوی شاعر اللہ کا وکیل ہو کر آپ کے سامنے آیا۔ اور بہت گستاخی سے اور چالاکی سے جلدی جلدی باتیں کرتا تھا۔ حضور نے ایک دفعہ اُسے "تُو" کے لفظ سے مخاطب کیا تھا۔

## غزارہ

آخری ایام میں حضور ہمیشہ ایسے پاجامے پہنا کرتے تھے۔ جو نیچے سے تنگ اوپر سے کھلے گاؤم طرز کے اور مشرقی کہلاتے ہیں۔ لیکن شروع میں ۱۸۹۰ء میں میں نے حضور کو بعض دفعہ غزارہ پہنے ہوئے بھی دیکھا ہے۔

## ما تم میں چھیننے چلانے سے منع فرمایا

جب صاحبزادہ حضرت مبارک احمد کی وفات ہوئی۔ اور نعش مبارک اوپر کے صحن میں پڑی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت بیوی صاحبہ کو الگ دوسری چھت پر لے گئے۔ تاکہ نعش کے پاس بیٹھ کر رونے چلانے کی تحریک نہ ہو۔ اور دوسری خورتوں کو بھی چھیننے چلانے سے منع فرمایا۔

## حضور کا وایاں ہاتھ

حضور کی دائیں کلائی ہاتھ اور کہنی کے درمیان کا حصہ بکمزور تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ



قبل مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے اور آپ مسجد میں اور صراہ و صرہ شہینے گئے۔ اس وقت حضرت مولوی عبدالکریم صاحب بھی موجود تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس طرح کسی کو ماننا بہت ناہنودہ فعل ہے اور یہ بہت بُری حرکت کی گئی ہے۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے فلاسفر کے گستاخانہ روایت اور اپنی بریت کے متعلق کچھ عرض کیا مگر حضرت صاحب نے غصہ سے فرمایا کہ نہیں آہستہ تا واجب بات ہوتی ہے جب خدا کا رسول آپ لوگوں کے اندر موجود ہے تو آپ کو خود بخود اپنی رائے سے کوئی فعل نہیں کرنا چاہئے تھا بلکہ مجھ سے پوچھنا چاہئے تھا۔ وغیرہ تک۔ حضرت صاحب کی اس تقریر پر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب روپڑے اور حضرت صاحب کے معافی مانگی اور عرض کیا کہ حضور میرے لئے دعا فرمائیں۔ اور اس کے بعد مارنے والوں نے فلاسفر سے معافی مانگ کر اسے راضی کیا اور اسے دودھہ بخو پلائے۔

(۲۳۵) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں فخر الدین صاحب لسانی ثم قادیانی نے مجھ سے بیان کیا کہ جب ۱۹۰۷ء میں حضرت بیوی صاحبہ لاہور تشریف لے گئیں تو ان کی واپسی کی اطلاع آنے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو لائے کے لئے بٹالہ تک تشریف لے گئے۔ میں نے بھی مولوی سید محمد احسن صاحب مرحوم کے دخل سے حضرت صاحب کے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت حاصل کی اور حضرت صاحب نے اجازت عطا فرمائی۔ مگر مولوی صاحب کے فرمایا کہ فخر الدین سے کہیں کہ وہ کسی کو خبر نہ کہے اور خاموشی سے ساتھ چلائے۔ بعض اور لوگ بھی حضرت صاحب کے ساتھ ہر قاب ہوئے حضرت صاحب پانکی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے جسے آٹھ گھنٹہ باری باری اٹھاتے تھے۔ قادیان سے نکلنے ہی حضرت صاحب نے قرآن شریف کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع فرمائی اور میں غور کے ساتھ دیکھتا گیا کہ بٹالہ تک حضرت صاحب سورہ فاتحہ ہی پڑھتے چلے گئے اور دو سرائق نہیں اٹا۔ رست میں ایک دفعہ خیر حضرت صاحب نے اتر کر پیشاب کیا اور پھر وٹولہ کے پانکی میں بیٹھ گئے اور اسکے بعد پھر اسی طرح سورہ فاتحہ کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ بٹالہ پہنچ کر حضرت صاحب نے سب فداہ کی میت میں کھانا کھایا اور پھر سٹیشن پر تشریف لے گئے۔ جب حضرت صاحب سٹیشن پہنچے تو گاڑی آچکی تھی۔ اور حضرت بیوی صاحبہ گلاڑی ہی اتر کر آئی ہوئی تھیں اور حضرت صاحب کو اور وٹولہ وہی تھیں۔ حضرت صاحب بھی بیوی صاحبہ کو دیکھتے

پھرتے تھے کہ اتنے میں لوگوں کے ہمیں حضرت بیوی صاحبہ کی نظر حضرت صاحبہ پر پڑ گئی اور انہوں نے محمود کے ہاتھ کو اپنے طرف متوجہ کیا اور پھر حضرت صاحبہ نے سٹیشن پر ہی سب لوگوں کے سامنے بیوی صاحبہ کے ساتھ مصافحہ فرمایا اور ان کو ساتھ لے کر فرودگاہ پر واپس تشریف لے آئے۔

(۳۳۷) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ آج تاریخ، اکتوبر ۱۹۲۷ء بروز جمعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بہت بڑی یادگاہ اور خداوند عالم کی ایک زیارت گاہ تیسرے ہفتے میں پہرہ خاک ہو گئی۔ یعنی میاں عبداللہ صاحب نوری کے ساتھ حضرت مسیح موعود کا وہ گڑہ جس پر خدائی رکشٹنائی کے چھینٹے پڑے تھے دفن کر دیا گیا۔ خاکسار نے سیرۃ المہدی حصہ اول میں میاں عبداللہ صاحب کی زبانی وہ واقعہ قلمبند کیا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گڑہ پر چھینٹے پڑنے کے متعلق ہے۔ حضرت صاحب نے میاں عبداللہ صاحب کے اصرار پر ان کو یہ گڑہ عنایت کر کے ہوئے ہدایت فرمائی تھی کہ یہ گڑہ میاں عبداللہ صاحب کی وفات پر ان کے ساتھ دفن کر دیا جاوے تاکہ بعد میں کسی زمانہ میں شریک کا موجب نہ بنے سو آج میاں عبداللہ صاحب کی وفات پر وہ ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ مجھے یہ گڑہ میاں عبداللہ صاحب سے اپنی زندگی میں کئی دفعہ دکھایا تھا اور میں نے وہ چھینٹے بھی دیکھے تھے جو خدائی ہاتھ کی رکشٹنائی سے اس پر پڑے تھے۔ اور جب آج آخری وقت میں غسل کے بعد یہ گڑہ میاں عبداللہ صاحب کو پہنایا گیا تو اس وقت بھی خاکسار وہاں موجود تھا۔ میاں عبداللہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ کا وہی ہوا ایک صابن کا ٹکڑا اور ایک بالوں کو لگانے کے تیل کی چھوٹی بوتل اور ایک عطر کی چھوٹی سی سفیشی بھی رکھی ہوئی تھی اور غسل کے بعد جو اسی صابن سے دیا گیا۔ یہی تیل اور عطر میاں عبداللہ صاحب کے بالوں وغیرہ کو لگایا گیا۔ اور گڑہ پہنائے جانے کے بعد خاکسار نے خود اپنے ہاتھ سے کچھ عطر اس گڑہ پر بھی لگایا۔ نماز جنازہ سے قبل جب تک حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ کی آمد کا انتظار رہا لوگ نہایت سڑق باور و درد و رقت کے ساتھ میاں عبداللہ صاحب کو دیکھتے رہے جو اس گڑہ میں بیٹھ کر ہمیشہ ان میں نظر کرتے تھے اور جہانوں میں اس گڑہ کے ساتھ لوگ شریک ہوئے کہ اس سے قبل میں نے قادیان میں کسی جگہ

سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 106، 107 از مرزا بشیر احمد ایم اے

یہ حوالہ صفحہ 119 پر درج ہے

اس نمانہ میں ہر نکتہ مجھے ہوشیار اور فکر مند ہو کر سونا پڑتا تھا تاکہ ایسا نہ ہو حضرت صاحب مجھ کوئی آواز میں اور میں جلگے میں دیر کروں اسلئے اس وقت سے میری نیند بہت ملنی ہو گئی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر کبھی مجھے آواز دیتے تھے اور میری آنکھ نہ نکلتی تھی تو حضور آہستہ سے آنکھ کر میری چادر پائی پر آکر چیمہ جاتے تھے اور میری بدن پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے تھے جس سے میں جاگ پڑتا تھا اور سب سے پہلے حضور وقت دریافت فرماتے تھے اور حضور کو جو الہام ہوتا تھا حضور مجھ کو جگا کر ڈٹ کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ حضور نے مجھے الہام لکھنے کے لئے جگا یا مگر اس وقت اتفاق سے میرے پاس کوئی قلم نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ایک کونڈہ کا ٹکڑا لیکر اس سے الہام لکھا لیکن اس وقت کے بعد سے میں باقاعدہ پنسل یا فونٹین پن اپنے پاس رکھتا ہوں گیا۔

(۲۲۸) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عموماً صبح کے وقت میرے لئے تشریف لیا کرتے تھے اور عموماً بہت سے اصحاب حضور کے ساتھ ہوجاتے تھے۔ تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان کے بعض طالب علم بھی حضور کے ساتھ جانے کے شوق میں کسی بہانہ وغیرہ سے اپنے کلاس روم سے نکل کر حضور کے ساتھ ہولیتے تھے۔ اساتذہ کو پتہ لگتا تھا تو تعلیم کے حرج کا خیال کر کے بعض اوقات ایسے طلبہ کو بلا اجازت چلے جانے پر سزا وغیرہ بھی دیتے تھے مگر چونکہ کچھ ایسا شوق تھا کہ وہ عموماً موقعہ لگا کر نکل ہی جاتے تھے۔

(۲۲۹) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی سفیعی محمد صادق صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں کسی وجہ سے اپنی بیوی مرحومہ پر کچھ خفا ہوا جس پر میری بیوی نے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی بڑی بیوی کے پاس جا کر میری ناماٹھگی کا ذکر کیا۔ اور حضرت مولوی صاحب کی بیوی نے مولوی صاحب کی ذکر کر دیا۔ اسکے بعد میں جب حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ سفیعی صاحب آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہاں ملکہ کا راج ہے۔ بس اسکے سوا اور کچھ نہیں کہا مگر میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے یہ الفاظ عجیب معنی خیز ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو ان دنوں میں برطانیہ کے تحت پر ملکہ و کٹوریا مشن تھیں اور دوسری طرف حضرت مولوی صاحب کا اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے خانگی معاملات میں حضرت ام المومنین کی بات بہت مانتے ہیں۔

پورا زور لگایا اسپرنگہاں بیٹے دیکھا کہ وہی شیر میرے رہ کر کو دکھایا اور ہوا ہے اس وقت بیٹے  
 بخود ہو کر چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ اٹھا حضرت خلیفہ ثانی بین فرماتے تھے کہ وہ شخص  
 پھر حضرت صاحب کا بہت معتقد ہو گیا تھا اور ہمیشہ جب تک زندہ رہا آپ سے خط و کتابت  
 رکھتا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ منشی محمد ارور صاحب مرحوم کو پوچھنا ہی  
 حضرت مسیح موعودؑ کے ذکر پر کیا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے مذہب کے ہونے پر بھی  
 ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ دیکھنے سے اپنے ہونے پر ہتکتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ منشی صاحب  
 ہر وہ چیز نے غلطی میں سے تھے۔ عین مسیح موعودؑ میں تھے شیعہ مذہب اول میں شمار  
 ہونا چاہتے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا حضرت مولوی ذوالدین صاحب خلیفہ اول نے کہ  
 ایک دفعہ حضرت مسیح موعودؑ کسی سفر میں تھے سیشن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں تھی  
 تھی آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ سیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچے لگ گئے یہ دیکھ کر مولوی  
 عبدالکریم صاحب جکی طبیعت غیور اور جوشیلی تھی میرے پاس آ کر اور کہنے لگے کہ بہت لوگ  
 پھر غیر لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں  
 الگ بٹھایا جاوے مولوی صاحب فرماتے تھے کہ بیٹے کہا میں تو نہیں کہتا آپ کہہ کر دیکھ لیں۔  
 ناچار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور لوگ بہت  
 ہیں بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھادیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ جی میں ایسے  
 پردے کا قائل نہیں ہوں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبدالکریم  
 صاحب سر نیچے ڈالے میری طرف آئے جس نے کہا مولوی صاحب جواب دے کر

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جن دنوں میں ہمارا ہسپتال بھائی مبارک احمد  
 بیمار تھا ایک دفعہ حضرت مسیح موعودؑ نے حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ  
 اول کو اسکے دیکھنے کے لئے گس میں بلایا۔ اس وقت آپ معین میں ایک پار پاشی  
 ہر شریف رکھتے تھے اور جن میں کوئی نرس وغیرہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب آ کر ہی آپ کی

مولوی محمد علی صاحب یہاں ڈھاب میں کنارے پر نہانے لگے۔ مگر پاؤں پھسل گیا۔ اور وہ گہرے پانی میں پٹے گئے۔ اور پھر لگے ڈوبنے۔ کیونکہ تیرنا آتا نہیں تھا۔ کئی لوگ بچانے کیلئے پانی میں کودے۔ مگر جب کوئی شخص مولوی صاحب کے پاس جاتا تھا۔ تو وہ اُسے ایسا پکڑتے تھے۔ کہ وہ خود بھی ڈوبنے لگتا تھا۔ اس طرح مولوی صاحب نے کئی غوطے کھائے۔ آخر شاید قاضی امیر حسین صاحب نے پانی میں غوطے لگا لگا کر پکڑے سے انکو کنارے کی طرف دھکیلا۔ تب وہ باہر آئے۔ جب مولوی صاحب حضرت صاحب سے اس واقعہ کے بعد ملے۔ تو آپ نے سکرانے ہوئے فرمایا۔ مولوی صاحب آپ گھر سے کے پانی سے ہی نہ لیا کریں۔ ڈھاب کی طرف نہ جائیں۔ پھر فرمایا۔ کہ میں بچپن میں اتنا تیرتا تھا۔ کہ ایک وقت میں ساری قادیان کے ارد گرد تیر جاتا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ برسات کے موسم میں قادیان کے ارد گرد اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ کہ سارا گاؤں ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ جلنے کیلئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے گہروں کے ساتھ کبھی معاملہ تھا۔ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم معذور کی تصنیف سیرت مسیح موعود کے مندرجہ ذیل فقرات ایک عمدہ ذریعہ ہیں۔ مولوی صاحب موصوف فرماتے ہیں:-

”عمر وہ قریب پندرہ برس کا گذرتا ہے۔ جبکہ حضرت صاحب نے بار دیگر خدا تعالیٰ کے امر سے معاشرت کے بھاری اور نازک فرض کو اٹھایا ہے۔ اس اثناء میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ کہ خانہ جنگی کی آگ مشتعل ہوئی ہو۔ وہ ٹھنڈا دل اور بھٹی قلب قابل غور ہے۔ جسے اتنی مدت میں کسی قسم کے رنج اور تنگی فطرت کی آگ کی آج تک چھوٹی ہو۔ اس بات کو اندرون خانہ کی خدمت گزار عورتوں میں جو عوام الناس سے ہیں۔ اور فطری سادگی اور انسانی جاہد کے سوا کوئی تکلف اور کھنصق زیر کی اور استنباطی قوت نہیں رکھتیں۔ بہت عمدہ طبع حساس کرتی ہیں۔ وہ تعجب سے دیکھتی ہیں۔ اور زمانہ اور گرد و پیش کے عام عرف اور برتاؤ کے بالکل برخلاف دیکھ کر بڑے تعجب سے کہتی ہیں۔ اور میں نے بار بار انہیں خود حیرت سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ کہ:-

”میر جا بیوی دی گل بڑی تمندا اے“

صاحب کی طرف سے مندرجہ ذیل الفاظ درج ہیں :-

• اقرار یہ ہے کہ عرصہ تین سال تک ٹک الومن مرہونہ نہیں کراؤں گا۔ بعد تیس سال فکر کے ایک سال میں جب چاہوں زرہن دونوں تمہا تک الومن کراؤں ورنہ بعد انفصال میعاد بالا یعنی اکتیس سال کے تیسویں سال میں مرہونہ بالالین ہی روپوں میں بیچ بالوفا ہو جائیگا اور مجھے کو ملکیت کا نہیں رہیگا۔ قبضہ اس کا آج سے کر دیا ہے اور دخل خارج کرادوگا اور منافع مرہونہ بالا کی قائمی رہن تک مرتبہ مستحق ہے اور معاملہ نہ کاری فصل خریف ۱۹۵۹ء (بکری) سے مرتبہ دے گی اور پیداوار لے گی :-

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ عبارت ظاہر کرتی ہے کہ اس کے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام

کے تجویز کردہ نہیں ہیں بلکہ کسی ذمیتہ نویس نے حضرت صاحب کے مشارک کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے :-

(۳۶۷) بسم اللہ الرحمن الرحیم - خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب ہماری ہمیشہ وہاں تک بیگم کا

تکاح حضرت صاحب سے نواب محمد علی خان صاحب کے ساتھ کیا تو ہر چھپن ہزار روپے مقرر کیا گیا

تھا اور حضرت صاحب نے ہر نامہ کو باقاعدہ رجسٹری کروا کے اس پر بہت سے لوگوں کی شہادتیں ثبت

کروائی تھیں باوجود جب حضرت صاحب کی وفات کے بعد ہماری چھوٹی ہمیشہ امت الحفیظہ بیگم کا تکاح

خان محمد عبداللہ خان صاحب کے ساتھ ہوا تو ہر ۱۰۰۰ روپے مقرر کیا گیا اور یہ ہر نامہ بھی باقاعدہ

رجسٹری کرایا گیا تھا۔ لیکن ہم بیٹوں بھائیوں میں سے جن کی شادیاں حضرت صاحب کی زندگی

میں ہو گئی تھیں کسی کا ہر نامہ تحریر ہو کر رجسٹری نہیں ہوا اور ہر ایک ایک ہزار روپے مقرر ہوا تھا۔

دراصل ہر کی تعداد زیادہ تر خاندان کی موجودہ حیثیت اور کسی قدر بیوی کی حیثیت پر مقرر ہو کرتی

ہے اور ہر نامہ کا باقاعدہ لکھا جاتا اور رجسٹری ہوتا یہ شخصی حالات پر موقوف ہے۔ چونکہ نواب

محمد علی خان صاحب کی جائداد سرکار انگریزی کے علاقہ میں واقعہ نہ تھی بلکہ ایک ریاست میں تھی

اور اس کے متعلق بعض تنازعات کے پیدا ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا اسلئے حضرت صاحب نے ہر نامہ

کو باقاعدہ رجسٹری کروانا ضروری خیال کیا اور ویسے بھی دیکھا جاوے تو عام حالات میں یہی بہتر

ہوتا ہے کہ ہر نامہ اگر رجسٹری نہ بھی ہو تو کم از کم باقاعدہ طور پر تحریر میں آجائے اور معتبر لوگوں

کی شہادتیں اس پر ثبت ہو جاویں۔ کیونکہ اصل ہر بھی ایک قرضہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی خاندان پر

کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے اس دعویٰ سے کبھی انکار نہیں کیا۔ البتہ اس کا وہ مفہوم اور منطوق بھی کبھی قرار نہیں دیا جو آپ کے معاندین و مکرین نے آپ کی طرف منسوب کیا۔ (عرفانی)

## مکتوب نمبر ۴ ملفوف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

محبی عزیز ی اخویم نواب صاحب سلمہ تعالیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کسی قدر تریاق جدید کی گولیاں ہمدست مرزا خدا بخش صاحب آپ کی خدمت میں ارسال ہیں اور کسی قدر اس وقت دے دوں گا۔ جب آپ قادیان آئیں گے یہ دو تریاق الہی سے فوائد میں بہت بڑھ کر ہے۔ اس میں بڑی بڑی قابل قدر دوائیں پڑی ہیں۔ جیسے مشک۔ عنبر۔ زنبی۔ مروارید۔ سونے کا کشتہ۔ فولاد۔ یاقوت احمر۔ کونین۔ فاسفورس۔ کہربا۔ مرجان۔ صندل۔ کیوڑہ۔ زعفران۔ یہ تمام دوائیں قریب سو کے ہیں اور بہت سا فاسفورس اس میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ دوا علاج طاعون کے علاوہ مقوی دماغ۔ مقوی جگر۔ مقوی معدہ۔ مقوی باہ اور مراق کو فائدہ کرنے والی۔ معطلی خون ہے۔ مجھ کو اس کے تیار کرنے میں اول تا اتمل تھا کہ بہت سے روپیہ پر اس کا تیار کرنا موقوف تھا۔ لیکن چونکہ حفظ صحت کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ اس لئے اس قدر خرچ گوارا کیا گیا۔ چالیس تولہ سے کچھ زیادہ اس میں یاقوت احمر ہے۔ اگر خریداجاتا تو شاید کئی سو روپیہ سے آتا۔ بہر حال یہ دوا خدا تعالیٰ کے فضل سے تیار ہو گئی ہے گو بہت ہی تھوڑی ہے۔ لیکن اس قدر بھی محض خدا تعالیٰ کی عنایت سے تیار ہوئی۔ خوراک اس کی اول استعمال میں دو رتی سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔ تا گرمی نہ کرے۔ نہایت درجہ مقوی اعصاب ہے اور خارش اور شہورات اور جذام اور ذیابیطس اور انواع واقسام کے زہرناک امراض کے لئے مفید ہے اور قوت باہ میں اس کو ایک عجیب اثر ہے۔ سرخ گولیاں میں نے نہیں بھیجیں۔ کیونکہ صرف بو اسیر اور جذام کے لئے ہیں اور ذیابیطس کو بھی مفید ہے۔ اگر ضرورت ہوگی تو وہ بھی بھیج دوں گا، موجود ہیں۔

مرزا خدا بخش کو نصیحت میں بھیجے کی پختہ تجویز ہے۔ خدا تعالیٰ کے راضی کرنے کے کئی موقع

چنانچہ حضرت صاحب نے تمہارے تایا صاحب کی تمام جائیداد مرزا سلطان احمد کے نام کرا دی۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ حضرت صاحب نے متبے کی صورت کس طرح منظور فرمائی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ یہ تو یونہی ایک بات تھی۔ ورنہ وفات کے بعد متبے کیسا۔ مطلب تو یہ تھا کہ تمہاری تالی کی خوشی کے لئے حضرت نے تمہارے تایا کی جائیداد مرزا سلطان احمد کے نام داخل خارج کرا دی۔ اور اپنے نام نہیں کرائی۔ کیونکہ اس وقت کے حالات کے ماتحت ویسے ہی مرزا سلطان احمد کو آپ کی جائیداد سے نصف حصہ جانا تھا۔ اور باقی نصف مرزا فضل احمد کو۔ پس آپ نے سمجھ لیا کہ گویا آپ نے اپنی زندگی میں ہی مرزا سلطان احمد کا حصہ الگ کر دیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب مرزا فضل احمد فوت ہوا۔ تو اسکے کچھ حصہ بعد حضرت صاحب نے مجھے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے ساتھ جائیداد کا حصہ بٹانے والا ایک فضل احمد ہی تھا۔ سو وہ سچا رہی گزر گیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ہمارے دادا صاحب کے دو لڑکے تھے ایک حضرت صاحب بن کا نام مرزا غلام احمد تھا اور دوسرے ہمارے تایا مرزا غلام قادر صاحب جو حضرت صاحب سے بڑے تھے۔ ہمارے دادا نے قادیان کی زمین میں دو گاؤں آباد کر کے انکو اپنے دونوں بیٹوں کے نام موسوم کیا تھا۔ چنانچہ ایک کا نام قادر آباد رکھا۔ اور دوسرے کا احمد آباد۔ احمد آباد بعد میں کسی طرح ہمارے خاندان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور صرف قادر آباد گیا۔ چنانچہ قادر آباد حضرت صاحب کی اولاد میں تقسیم ہوا اور اسی میں مرزا سلطان احمد صاحب کا حصہ آیا۔ لیکن خدا کی قدرت کہ اب قریباً چالیس سال کے عرصہ کے بعد احمد آباد جو ہمارے خاندان کے ہاتھ سے نکل کر غیر خاندان میں جا چکا تھا۔ اس ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اور اب وہ کلیتہً صرف ہم میں بھائیوں کے پاس ہے۔ یعنی مرزا سلطان احمد صاحب کا اس میں حصہ نہیں۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ قادر آباد قادیان سے مشرق کی جانب واقع ہے۔ اور احمد آباد جانب شمال ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا ہم سے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب جو خاکسار کے تعلق ماموں ہیں کہ جب حضرت شیخ مجدد علیہ السلام نے لدھیانہ میں دعویٰ مسیحیت شروع کیا۔ تو میں نے لوں چھوٹا بچہ تھا اور



ٹیپال سے خط آیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اسحق میرے چھوٹے بھائی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور پھر خط کے اخیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اسحق بھی فوت ہو گیا ہے اور بڑی جلدی سے بلایا کہ دیکھتے ہی چلے آویں۔ اس خط کے پڑھنے سے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ اس وقت میسر گھر کے لوگ بھی سخت تپ سے بیمار تھے..... تب مجھے اس تشویش میں ایک دفعہ غنودگی ہوئی اور یہ الہام ہوا۔

إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ

یعنی اسے عورتوں! تمہارے فریب بہت بڑے ہیں..... اس کے ساتھ ہی تفصیم ہوئی کہ یہ ایک خلاف واقعہ بیان بنا گیا ہے تب میں نے..... شیخ عادل کو جو میرا لاکر تھا ٹیپال روانہ کیا جس نے واپس آکر یہ بیان کیا کہ اسحق اور اس کی والدہ ہر دو زندہ موجود ہیں۔ (نزول المسیح صفحہ ۲۳۳، ۲۳۴، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۶۱۱، ۶۱۲)

۳۰ ستمبر ۱۸۹۲ء

ظلمات الأتلاء۔ ہذا یوم عینیب۔ یولد لك الولد وینة فی منک  
الفضل۔ ان نوری قریب۔ ایسی من حضرة النور

از بستر متفرق یا وداشتیں از حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۱۵۰

۳۱ اکتوبر ۱۸۹۲ء

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهْمُ۔ إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ لِشَيْءٍ أَنْ  
تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ أَنْتَ بِنَا مَلِيحٌ۔ إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ لِشَيْءٍ أَنْ تَقُولَ لَهُ  
كُنْ فَيَكُونُ۔ إِنِّيكَ عَذَابُكَ رَبِّكَ الْأَعْلَى۔ أَنْتَ بِنَا مَلِيحٌ۔ إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ  
لِشَيْءٍ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ أَنْتَ مِنْ تَأْوِيلِ تَأْوِيلِ نَشْرِ۔ أَنْتَ بِنَا مَلِيحٌ  
إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ لِشَيْءٍ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ أَنْتَ مَعْنَى بِسْمِ اللَّهِ كَوْحِي

لے (ترجمہ از قرب) ابگاہ کے انجیر سے یہ سخت دل ہے مجھے ایک بیٹا عطا ہوگا اور نضل تیرے نزدیک ہوگا۔ بستر اور  
قرب ہے۔ میں جناب باری سے آتا ہوں۔

لے (ترجمہ از قرب) اللہ تجھے معاف کرے ان کو کہنے کیوں اجازت دی۔ تیرا کام یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو  
مے کہے کہ ہو جا تو ہو جائے گی۔ تو تم سے طے والا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہے کہ ہو جا تو وہ  
ہو جائے گی۔ میں تیرے پاس کل آؤں گا۔ تیرا پتہ اعلیٰ تیرے پاس آیا۔ تو تم سے طے والا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا  
ارادہ کرے تو اسے کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ تو تم سے پانی سے ہے اور وہ بزدل سے۔ تو تم سے طے والا ہے۔ تیرا  
کام یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ تو تم سے ایسا ہے جیسے میری توجید اور

پڑ گیا ہے کر یہ کھاؤ پیو ہے اس سے کس تقویٰ اور نیک سستی کی امید ہو سکتی ہے  
ہمارے سید و مولیٰ افضل الانبیاء خیر الاصفیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کا تقویٰ دیکھئے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاکدامن اور  
نیک بخت ہوتی تھیں اور ہیبت کر لینے کے لئے آتی تھیں بلکہ دور ٹھا کر صرف زبانی  
تلقین تو بہ کرتے تھے مگر کون عقلمند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا جو  
جو ان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب  
بیٹھی ہے کہ بالنگل میں ہے لیکن ہاتھ لبا کر کے سر پر طرل رہی ہے یہی بیرون  
کو پکارتی ہے اور یہی اپنے خوشنما اور سیاہ بالوں کو بیرون پر رکھ دیتی ہے اور  
گو دین تماشہ کر رہی ہے لیکن صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں  
اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں اور طرفہ کہتے ہیں جو ان  
اور سرب پینے کی عادت اور پھر مچرو اور ایک خوبصورت کسی عورت  
سامنے پڑی ہے جسم کے ساتھ جسم نگاری ہے کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے  
اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کسی کے چھونے سے شیوع کی شہوت تے  
جنتیں نہیں کی تھی رافسوس کہ شیوع کو یہ بھی میسر نہیں تھا کہ اس فاسقہ پر  
لنگڑا لے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا بخت زانیہ کے چھونے  
سے اور تاز واد کرنے سے کیا کچھ نفسانی جذبات پیدا ہوئے ہوں گے۔  
اور شہوت کے جوش نے پورے طور پر کام کیا ہو گا۔ اسی وجہ سے شیوع کے  
منہ سے یہ بھی نہ نکلا کہ اسے حرام کار عورت مجھ سے دور رہ۔ اور یہ  
بات انجیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ عورت طوائف ہیں سے تھی اور  
زنا کاری میں سارے شہر میں مشہور تھی۔

درخت کی طرف دوڑے گئے کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ درخت ان کیلئے ان کے والد صاحب کی ناک میں سے تھا پس جو شخص بیگناہ درخت کو دیکھ کر اپنے نفس پر غالب نہ آسکا اور میٹ کو بھینٹ چڑھانے کے لئے اس کی طرف دوڑا گیا وہ خدا تو کیا بلکہ بقول آپ کے فردا کمال بھی نہیں۔

الغرض کسی کے دل میں یہ خیال گذرنا کہ یہ چیز خوبصورت ہے یہ ایک علیحدہ امر ہے جس کو خدا نے انہیں دی ہے جیسے وہ کائے اور پھول میں فرق کر سکتا ہے ایسا ہی وہ خوبصورت اور بدصورت میں فرق کر سکتا ہے۔ آپ کے خدا صاحب کو شاید یہ قوت مہیضہ فطرت سے نہیں ملی ہوگی مگر پریت کی شہوت کے لئے تو انجیر کے درخت کی طرف دوڑے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کس کا انجیر ہے؟

تعب کہ ایک شرابی اور کھاف پیو کو شہوت پرست د کہا جائے اور وہ پاک ذات جس کی زندگی اور اس کا ہر ایک فعل خدا کے لئے تھا۔ اس کا نام اس زمانہ کے پلید طبع شہوت پرست کہیں عجیب ناریلی کا زمانہ ہے یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہرگز قصداً کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو کہ یہ بد نظری کا پیش خمبہ ہے۔ اور اگر اتفاقاً کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو اپنی عورت سے صحبت کر کے اس خیال کو طال دو۔ خوب یاد رکھو کہ یہ تعلیم اور یہ حکم حفظاً مقدم کے طور پر ہے جو شخص مثلاً ہمیضہ کے دنوں میں ہمیضہ سے بچنے کے لئے حفظاً مقدم کے طور پر کوئی دوا استعمال کرتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہمیضہ ہو گیا ہے یا ہمیضہ کے آثار اس میں ظاہر ہو گئے ہیں بلکہ یہ بات اس کی دانشمندی میں محسوب ہوگی اور سمجھا جائے گا کہ وہ اس بیماری سے طبعاً نفرت رکھتا ہے اور اس سے

اور رسول کے نزدیک معنی میں۔ ان کا نماز روزہ اور کوئی عمل منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ کوئی عورت نیک نہیں ہو سکتی جب تک پوری پوری اپنے خاوند کی فرمانبرداری نہ کرے اور دل محبت سے اس کی تعظیم بجا نہ لائے اور پس پشت یعنی اس کے پیچھے اس کی خیر خواہ نہ ہو۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے مردوں کی تابعدار رہیں۔ ورنہ ان کا کوئی عمل منظور نہیں۔ اور نیز فرمایا ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم کرتا کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے حق میں کچھ بدزبانی کرتی ہے یا اہانت کی نظر سے اس کو دیکھتی ہے اور حکم ربانی سن کر پھر بھی باز نہیں آتی تو وہ لعنتی ہے۔ خدا اور رسول اس سے ناراض ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کا مال نہ چڑاویں اور نامعروم سے اپنے تئیں بچاویں۔ اور بد رکھنا چاہیے کہ بغیر خاوند اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو عورتیں نامعروم لوگوں سے پردہ نہیں کرتیں شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ عورتوں پر یہ بھی لازم ہے کہ بدکار اور بد وضع عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں اور ان کو اپنی خدمت میں نہ رکھیں کیونکہ یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ بدکار عورت نیک عورت کی ہم صحبت ہو۔

④ عورتوں میں یہ بھی ایک بد عادت ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند کسی اپنی مصلحت کے لیے کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اور اس کے اقارب سخت ناراض ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور اس بندہ خدا کو ناحق ستاتے ہیں۔ ایسی عورتیں اور ایسے ان کے اقارب بھی تاجار اور خراب ہیں۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت کاملہ سے جس میں صداہ معاملہ ہے۔ مردوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت یا مصلحت کے وقت چار تک بیویاں کریں۔ پھر جو شخص اللہ رسول کے حکم کے مطابق کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو کیوں بڑا کہا جائے۔ ایسی عورتیں اور ایسے ہی اس عادت والے اقارب جو خدا اور اس کے رسول کے حکموں کا مقابلہ کرتی ہیں نہایت مردود اور شیطان کی بنیں اور بھائی ہیں کیونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمودہ سے منہ پھیر کر اپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسی بد ذات بیوی ہو تو اُسے مناسب ہے کہ اس کو مزادینے کے لیے دوسرا نکاح ضرور کرے۔

⑤ بعض جاہل مسلمان اپنے ناہوشہ کے وقت یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کرنا منظور ہے اس کی پہلی بیوی بھی ہے یا نہیں۔ پس اگر پہلی بیوی موجود ہو تو ایسے شخص سے ہرگز نکاح کرنا نہیں چاہئے۔ سو یاد رکھنا چاہئے کہ ایسے لوگ بھی صرف نام کے مسلمان ہیں اور ایک طور سے وہ ان عورتوں کے دو گد ہیں جو اپنے خاوندوں کے دوسرے نکاح سے ناراض ہوتی ہیں۔ سو ان کو بھی خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے۔

⑥ ہماری قوم میں یہ بھی ایک نہایت بد رسم ہے کہ دوسری قوم کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتے بلکہ حتیٰ الوسع دینا ہی پسند نہیں کرتے۔ یہ سراسر تکبر اور نخوت کا طریق ہے جو سراسر احکام شریعت کے برخلاف ہے۔ بنی قوم سب خدا تعالیٰ کے بندے ہیں ہر شہ ناطہ میں صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے

پنی جگہ چلے۔ چنانچہ یہ تجریز کارگر ہوئی اساس کی اصلاح ہوئی۔ علم تو جسے لکھری میں پہنچا کر  
کہتے ہیں وہی اسی معنی کلی رو کا نتیجہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ سپورٹزم میں تو جو ڈالے والا ارادہ  
اور شور کے ساتھ اپنی توجہ کا ایک مرکز قائم کرتا ہے۔ لیکن اس قسم کی عام حالت میں بلا ارادہ ہر  
شخص کے قلب سے ایک روح جاری رہتی ہے اور اسی لئے یہ رو پہنچا کر ہم کی رو کی نسبت بہت کمزور  
اور نالی اثر ہوتی ہے۔

(۳۰۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی شیری علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک کٹر  
مخوفا میں ان صاحب بروم نے حضرت مسیح موعود سے عرض کیا کہ میرے ساتھ شغلہ نماز میں ایک تجریز  
یہی دیکھ کر کام کرتی ہے اور وہ ایک بڑھی عورت ہے وہ کبھی کبھی میرے ساتھ مصافحہ کرتی ہے  
اسکے متعلق کیا حکم ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں ہے۔ آپ کو خدا کر دینا چاہئے  
کہ ہمارے ذریعہ میں یہ جائز نہیں ہے۔

(۳۰۲) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی شیری علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی سید  
سرور شاہ صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ قادیان کے قصابوں نے کوئی خیریت سے تراپہر  
حضرت صاحب سے حکم دیا کہ ان سے گوشت خریدنا بند کر دیا جاوے۔ چنانچہ کئی دن تک گوشت بند  
رہا اور سب لگ وال وغیرہ کھاتے رہے۔ ان دنوں میں نے (مولوی سید سرور شاہ صاحب سے)  
حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ میرے پاس ایک بکری ہے وہیں مضمون کی خدمت میں  
چینا کرتا ہوں مضمون سے منع کروائے اپنے استعمال میں لائیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمارا  
دل بہات کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے دوست واپس کھائیں اور ہمارے گھوس گوشت پکے۔  
خاکہ عرض کرتا ہے کہ اس کے بعد انہیں ہر جگہ حضرت صاحب اسیات کے قائل تھے کہ سب  
مومنوں کے گھوس بیکسا کھانا پکھا چاہئے اور سب کا تمدن و طریق ایک سا ہونا چاہئے۔ بلکہ  
صرف یہ ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ گوشت خریدنے کی ممانعت کی گئی تھی آپ کے افلاق نے  
یگوارا نہیں کیا آپ اپنے لئے جو کوئی خاص انتظام کر لیں اور دوسرے ذمی استطاعت اجاب  
جو گوشت خریدنے کی طاقت تو رکھتے تھے مگر بوجہ ممانعت کے رکھنے والے تھے وہیں خاص  
دالا لیسے گھوس ہر شخص کو اختیار ہے کہ اقتدال کو منظور رکھتے ہوئے ہی حیثیت کو مطالب

دعا اور ذکر الہی کے طریق پر بعض فقرات کی تلقین فرماتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ بعض خاص فقرات حضور کی زبان پر اکثر جاری رہتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے۔ الدعاء مع العبادۃ۔ لا یلدغ المؤمن من جحرٍ واحد مرتین۔ یہ کیا سانس و ہرجم خواہی کن۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فقرہ دعا کا تجربہ بھی اکثر سنا ہے یعنی مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں کاٹا جاتا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عورتوں سے بیعت صرف زبانی لیتے تھے۔ ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے تھے نیز آپ بیعت ہمیشہ اُردو الفاظ میں لیتے تھے مگر بعض اوقات ہنگامی لوگوں یا دینیاتی عورتوں سے پنجابی الفاظ میں بھی بیعت لے لیا کرتے تھے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث سے یہ گھٹا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے چھٹے ان کے ہاتھ کو نہیں چھوتے تھے۔ دراصل قرآن شریف میں جو یہ آہ ہے کہ عورت کو کسی غیر محرم پر اظہار زینت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر لیس کی ممانعت بھی شامل ہے۔ کیونکہ ہر قسم کے چھونے سے بھی زینت کا اظہار ہو جاتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب مرحوم نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ جو استغفر اللہ ربی من عقل ذنب و القوب الیہم پر مٹنے کا کثرت سے حکم آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی کزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے انسان کو گناہ ایک ذنب یعنی دم لگ جاتی ہے جو کہ حیوانی عضو ہے۔ اور یہ انسان کے لئے بدنام اور اس کی خوبصورتی کے لئے ناموزوں ہے۔ اس واسطے حکم ہے کہ انسان بار بار یہ دعا ملتے اور استغفار کرے۔ تاکہ اس حیوانی دم سے بچکر اپنی انسانی خوبصورتی کو قائم رکھ سکے۔ اور ایک مکرم انسان بنا رہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس روایت میں غالباً یہ نقلی لطیفہ بھی نظر ہے کہ ذنب یعنی گناہ حقیقتاً ایک ذنب یعنی دم ہے۔ جو انسان کی اصلی نظرت کے خلاف اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے۔ گویا جس طرح ذنب اور ذنب یعنی دم کے الفاظ اپنی ظاہری صورت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح ان میں معنوی مشابہت بھی ہے۔ واللہ اعلم۔



۴۲

خود پر خود قابض ہو گئے۔ مرزا غلام حسین کی چونکہ نسل نہیں چلی اسلئے ان کا حقہ پسران مرزا غلام مرتضیٰ صاحب و پسران مرزا غلام علی الدین کو آگیا۔

خاک و عرض کرتا ہے۔ کہ اس وقت مرزا تصدق جیلانی اور مرزا قاسم بیگ کی تمام شلخ معدوم ہو چکی ہے۔ علی بن القیاس مرزا غلام جید کی بھی شلخ معدوم ہے۔ ہمارے تایا مرزا غلام قادر صاحب اور مرزا امام الدین احمد مرزا کمال الدین بھی اولاد فوت ہوئے۔ ہاں مرزا نظام الدین کا ایک لڑکا مرزا گل محمد موجود ہے۔ مگر وہ احمدی ہو کر حضرت صاحب کی روحانی اولاد میں داخل ہو چکا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔ ینقطع ابائک و یبدأ منک اللہ یہ الہام اس وقت کا ہے۔ جب آپ کے شجرہ خانہ دانی کی یہ تمام شاخیں سرسبز تھیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح بر عروہ علیہ السلام تمہارے دادا کی فیشن وصول کرنے گئے تو پیچھے چلے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے فیشن وصول کر لی۔ تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دیکر بجائے قادیان لانے کے باہر لیگیا اور ادھر ادھر پھرتا رہا پھر جب اُس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے۔ اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کاشنر کی کپہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ اور کچھ عرصہ تک وہاں عازمت پر رہے۔ پھر جب تمہاری دادی بیمار ہوئیں۔ تو تمہارے دادا نے آدمی بھیجا۔ کہ ملازمت چھوڑ کر آ جاؤ۔ پھر حضرت صاحب فوراً روانہ ہو گئے۔ امرتسر پہنچ کر قادیان آنے کے واسطے یکہ کرایہ پر لیا۔ اس موقع پر قادیان سے ایک اور آدمی بھی آپ کے لینے کے لئے امرتسر پہنچ گیا۔ اس آدمی نے کہا یکہ جلدی چلاؤ کیونکہ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ پھر لتوڑی دیر کے بعد کہنے لگا۔ بہت ہی نازک حالت تھی جلدی کرو کہیں فوت نہ ہو گئی ہوں۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی تھیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ میں ہاں



دقت سمجھ گیا۔ کہ دراصل والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتیں تو وہ شخص ایسے  
الفاظ نہ بولتا۔ چنانچہ قادیان پہنچے تو پتہ لگا کہ واقعی وہ فوت ہو چکی تھیں۔ والدہ کا  
بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ میں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادر  
اوس پھر تارہ۔ آخر اُس نے چائے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا مگر مقدمہ میں  
رہا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ  
سے ہی اسے قید سے بچا یا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا ہمارے مخالف ہی کہتے  
کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت  
سیح موجود علیہ السلام کی سیالکوٹ کی ملازمت ۱۸۹۵ء کا واقعہ ہے۔

اس روایت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہ حضرت سیح موجود علیہ السلام کا  
سیالکوٹ میں ملازم ہونا اس وجہ سے تھا۔ کہ آپ سے مرزا امام الدین نے داد صاحب  
کی نیشن کاروبار دھوکا سے کراڑا لیا تھا۔ کیونکہ جیسا کہ خود حضرت سیح موجود  
علیہ السلام نے اپنی تصنیفات میں تصریح کی ہے۔ آپ کی ملازمت اختیار کرنیکی  
وجہ صرف یہ تھی۔ کہ آپ کے والد صاحب ملازمت کے لیے زور دیتے رہتے تھے۔ ورنہ  
آپ کی اپنی رائے ملازمت کے خلاف تھی۔ اسی طرح ملازمت چھوڑ دینے کی  
بھی اصل وجہ یہی تھی۔ کہ حضرت سیح موجود علیہ السلام ملازمت کو ناپسند فرماتے  
تھے۔ اور اپنے والد صاحب کو ملازمت ترک کر دینے کی اجازت کے لیے لکھتے  
رہتے تھے۔ لیکن داد صاحب ترک ملازمت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مگر  
بالآخر جب دادی صاحبہ بیمار ہوئیں۔ تو داد صاحب نے اجازت بھجوا دی۔ کہ  
ملازمت چھوڑ کر آ جاؤ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ طبابت کا علم ہمارا خاندانی  
علم ہے۔ اور ہمیشہ سے ہمارا خاندان اس علم میں ماہر رہا ہے۔ داد صاحب نہایت ماہر  
مشہور معاذق طبیب تھے۔ تاپا صاحب نے بھی طب پڑھی تھی۔ حضرت سیح موجود بھی  
علم طب میں خاصی دسترس رکھتے تھے۔ اور گھر میں ادویہ کا ایک ذخیرہ رکھا کرتے تھے

(۵)

یہی مسئلہ پیش کیا۔ آپ کی بعض تحریروں سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ حضرت صاحب نے اسکی تشریح فرمائی کہ میری مراد اس سے کیا ہے۔ جسپر ان مولوی صاحب نے کہا۔ کہ اچھا آپ تحریر کریں۔ کہ آپ کی تحریرات میں جہاں کہیں نبوت کا لفظ ہے، وہ ایسا نہیں۔ کہ جو ختم نبوت کے منافی ہو۔ اور اس سے مراد محدثیت ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ کہ بیشک میں لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت حضور نے ایک تحریر لکھ کر مولوی صاحب کو دیدی۔ جو کہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ تاکہ ان لوگوں کو دکھائیں۔ جو جس وجہ سے حضرت صاحب پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک دن بعض شریر لوگ مخالف مولویوں کے ہمارے مکان سے اس مکان پر حملہ کر کے آگئے۔ جہاں پر ہم ٹھیرے ہوئے تھے۔ اور مکان کے اوپر زنانہ میں گھسنا چاہتے تھے۔ مگر چند احمدیوں نے جو ساتھ تھے۔ بڑی ہمت سے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو روکا۔ اور بعد میں پولیس کے پہنچ جانے سے وہ لوگ منتشر ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امر سے جانے کی خبر سے بعض اور اصحاب بھی مختلف شہروں سے وہاں آگئے۔ چنانچہ کپور تھلہ سے محمد خاں صاحب مرحوم اور منشی ظفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھیرے رہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ اور منشی صاحب اور میں ہر دو نجیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چار پائی پر دونوں لیٹ جاتے تھے۔ ایک شب ڈن سے بچے کے قریب میں تھیلٹر میں چلا گیا۔ جو مکان کے قریب ہی تھا۔ اور تماشہ ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا صبح منشی ظفر احمد صاحب میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی۔ کہ مفتی صاحب رات تھیلٹر چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ تاکہ معلوم ہو۔ کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا۔ منشی ظفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ میں تو حضرت صاحب کے پاس آپکی شکایت لیکر گیا تھا۔ اور میرا خیال تھا۔ کہ حضرت صاحب آپکو بلا کر تنبیہ کریں گے۔ مگر حضور نے تو صرف یہی فرمایا۔ کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ اور اس سے معلومات حاصل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ

ذکر حبیب صفحہ 18 از مفتی محمد صادق قادیانی

یہ حوالہ صفحہ 130 پر درج ہے

**دستی خط معرفت مولوی یار محمد صاحب**

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند روز سے سخت بیمار ہوں۔ بعض وقت جب دورہ دوران سر شدہ مند سے ہوتا ہے تو خانہ زندگی محسوس ہوتا ہے۔ ساتھ ہی سردی بھی ہے۔ ایسی حالت میں روضن بادام سر اور پیروں کی ہتھیلیوں پر ملنا اور ہینا فائبرہ مند محسوس ہوتا ہے۔ اس لئے میں مولوی یار محمد صاحب کو بھیجتا ہوں کہ آپ خاص ملاسن سے ایسا روغن بادام کہ جو تازہ ہو۔ اور گھنٹہ نہ ہو اور نیزمٹے ساتھ کوئی ملوئی نہ جو ایک بونل خرید کر بھیجیں۔ پانچ روپیہ قیمت اسکی ارسال ہے۔ اور نیز ہمارا ہینا کلاک یعنی گھنٹہ بگڑ گیا ہے۔ اس لئے ایک کلاک عودہ دو سو خرید کر منسکے لئے مبلغ لکھ بھیجتا ہوں۔ یہ کلاک بخوبی امتحان کر کے ارسال فرمادیں۔ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اس کے ساتھ نیم گھنٹہ کی آواز دینے والی کل ہرگز نہ ہو۔ مرث گھنٹوں کی آواز دے کہ اس صورت میں بسا اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کئی دوسری چیزیں بھی خریدنی ہیں۔ ان چیزوں کی تفصیل ذیل میں ہے۔ والسلام + مرزا غلام احمد علی خاں

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مُحَمَّدٌ وَصَلَّى عَلٰی سَعْدِ الْکَرِیْمِ**

بھی انجیم حکیم محمد حسین صاحب قریشی  
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مولوی یار محمد لاہور بھی گئے۔ مگر انہوں نے نہایت ضروری کام یاد نہ کیا ہے۔ تاکہ انکے ہاؤس کو ایک لکھ تک عودہ جس میں بھیجتا نہ ہو۔ ورنہ اول درجہ کی خوشبو اور جو۔ اگر شرمی ہو تو ستر ہو۔ ورنہ اپنی نرس واری پر بھیجیں۔ اور دو دو گیا سردی کی کیا کیا حسین تباہی کی طرح کیا ہوتی ہیں۔ مگر ٹری ملکی ہو۔ روغنہ بودی۔ پی روانہ فرمادیں زیادہ خیریت ہے۔ والسلام۔ خاکسار مرزا غلام احمد علی خاں

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مُحَمَّدٌ وَصَلَّى عَلٰی سَعْدِ الْکَرِیْمِ**

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزارت میں ہمیں نیا فکر ہے۔ بیت الدعا میں بہت دعا کی گئی۔ خدا تعالیٰ شفا بخشے۔ پہلے اس سے اسام ہوا تھا کہ لاہور سے افسوسناک خبر آئی۔ وہی خبر پہنچی۔ خدا تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ آمین۔ پھر میں عاکر زنگا

سے زیادہ نہ ہو۔ اور گورنگا ہوا ہو۔ عید سے پہلے جلد کر کے بھیجیں۔ قیمت اسکی کسی کے اتھ بھیج دیا جائیگی۔ یا آپ کے آٹے پر آپ کو دیکھا جائیگی۔ رنگ کوئی ہو مگر پارہ ریشمی یا جالی ہو۔ اندازہ قیمتیں کا آپ کی روٹی زمین کے اندازہ پر ہو۔ والسلام۔ خاکسار مرزا غلام احمد علی خاں  
۱۴ فروری سنہ ۱۳۱۲ھ

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مُحَمَّدٌ وَصَلَّى عَلٰی سَعْدِ الْکَرِیْمِ**

بھی انجیم حکیم محمد حسین صاحب سندھ لکھنے  
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں یار محمد بھیجا جا رہا ہے۔ آپ اشیا خریدنی خود خریدیں لکھ ایک بونل ٹانگے این کی بلور کی دوکان سے خریدیں۔ مگر ایک واٹن چاہئے۔ اسکا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام  
مرزا غلام احمد علی خاں

ذیل کا خط بجا اب برت آج سے لکھنے کے ہے جبکہ ہم بوجھال و اطفال قایمان میں تھے ورنہ ہی کے وقت چونکہ برسات کے دن تھے ماسہ سخت خطر تک نہ اور میں نے اپنے گھر کے لوگوں کے ٹو یعنی برخور مار محمد بوسنت کی والدہ کے لئے ضرورتاً حضرت سے اسکی پیش طلب کی۔ کیونکہ بچے کی سواری نالت عمل میں خطر تک ہوتی ہے بہر حضور نے کمال برائی و شہادت کے ذیل کا خط لکھا۔

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاؤ اللہ عاکر زنگا آپ کو اختیار ہے کہ پیش سے جائیں۔ مگر میں نے مسئلہ کے جلال کی سزا تک راستہ نہایت خراب ہے۔ پیش کی سولہ فی خطر تک ہے۔ اور ایسا ہی دوسری سواری بھی۔ شاید دس روز تک راستہ کسی قدر درست ہو جائیگا۔ میں گزشتہ دنوں میں ایک وقت گورواپور سے شانہ کی راہ آ رہا تھا جب بارشیں پر ایک ہیٹ گذر چکا تھا۔ تب بھی خوفناک راہ تھا۔ تھانے بہت ہی خطرناک ہو گا۔ عمل کی حالت میں ان دنوں میں ساتھ ہی ناگوارا ہوا ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ آپ خود شانہ کی سزا تک راہ کی حالت دیکھ لیں۔ میرے نزدیک تو بہت بیزگرنے دس بارہ روز کے سخت خطرناک اور خوفناک ہے۔ والسلام +

غلام احمد علی خاں

یہ حوالہ صفحہ 131 پر درج ہے

نمونہ ۱۰، مہنامہ غلام، صفحہ 5، مرزا قادیانی، بنام حکیم محمد حسین قریشی قادیانی

۲۹۶

اور اچھی مدنی رکھتا تھا۔ گو حضرت مولوی صاحب بجمال بے نفسی و مسکینی مدتوں اسی کھانے کو کھاتے رہے اور کوئی اشدہ تک اس کی اس حرکت کے متعلق نہ کیا۔ پھر اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ لوگ اپنے گھروں میں انتظام کھانے کا کرنے لگے تو ان دنوں میں چند دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت مولوی صاحب اگر کسی بیزار ہوتے اور حضرت صاحب کو معلوم ہوتا کہ مولوی صاحب کے کھانے کا انتظام ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے ہاں سے ان کے لئے کھانا بھجوانا شروع کر دیتے تھے۔ جو مدت تک باقاعدہ ان کے لئے جاتا رہتا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے۔ لاہور کی پہلی شادی حضرت سیح مولانا علیہ السلام نے گورداسپور میں کرائی تھی۔ جب دستہ ہونے لگا۔ تو لڑکی کو دیکھنے کے لئے حضور نے ایک عورت کو گورداسپور بھیجا کہ وہ آکر رپورٹ کرے کہ لڑکی مسرت و شکل و غیرہ میں کیسی ہے اور مولوی صاحب کے لئے موزوں بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ عورت گئی۔ مانتے ہوئے اسے ایک یوواہت نکھکری گئی۔ یہ کاغذ میں لکھا تھا اور حضرت صاحب نے مشورہ حضرت ام المؤمنین بکھجایا تھا۔ اس میں مختلف باتیں نوٹ کرائی تھیں۔ مشافہہ کہ لڑکی کانگہ کیسا ہے۔ قد کتنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نقص تو نہیں۔ ناک۔ ہونٹ۔ گردن۔ دانت۔ چال۔ عمل وغیرہ کیسے ہیں۔ غرض بہت ساری باتیں ظاہری شکل و صورت کے متعلق لکھا دی تھیں۔ کمان کی بابت خیال رکھے۔ اور دیکھ کر واپس آکر بیان کرے۔ جب وہ عورت واپس آئی انداس نے ان سب باتوں کی بابت اچھا یقین دلایا۔ تو رشتہ ہو گیا۔ اسی طرح جب خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم نے اپنی بڑی لڑکی حضرت میاں صاحبہ یعنی خلیفہ السیح الثانی کے لئے پیش کی۔ تو ان دنوں میں یہ نکلا ڈاکٹر صاحب موصوف کے پاس چکا تہ پہاڑ پر جہاں وہ متعین تھے۔ بعد تبدیل آب و ہوا کے گیا ہوا تھا۔ واپسی پر مجھ سے لڑکی کا خلیفہ وغیرہ تفصیل سے پوچھا گیا۔ پھر حضرت میاں صاحب سے بھی لڑکی سے پہلے کئی لڑکیوں کا نام لے لے کر حضور نے ان کی والدہ کی معرفت دریافت کیا کہ ان کی کہاں مرضی ہے چنانچہ حضرت میاں صاحب نے بھی والدہ ناصر احمد کو انتخاب فرمایا اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شادی کر

(۱۶۹۵) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے میاں عبد اللہ صاحب سندھی نے کہ کھڑے  
 زمانے کے کچھ دنوں تک جو دنیا میں ساوگی سو زندگی بسر کرتے تھے، بہت سی باتیں کہتے ہیں۔  
 (۱۶۹۶) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے میاں عبد اللہ صاحب سندھی نے کہ کھڑے  
 صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کہ مرضی مراد از ہمد اولیٰ (یعنی خدا کی رضا سے متقدم ہونی چاہیے)۔  
 (۱۶۹۷) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے میاں عبد اللہ صاحب سندھی نے  
 کہ مت کی بات ہو جب میں ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کی پہلی بیوی فوت ہو گئی اور ان کو  
 دوسری بیوی کی تلاش ہوئی۔ تو ایک دفعہ حضرت صاحب نے ان سے کہا کہ ہلکے گھر میں  
 لڑکیاں رہتی ہیں ان کو بیٹا لانا ہوں آپ ان کو دیکھ لیں۔ پھر ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس  
 سے آپھی شادی کر دی جاوے۔ چنانچہ حضرت صاحب گئے اور ان سے لڑکیوں کو بٹا کر کر کے  
 باہر کھڑا کر دیا اور پھر اندر آ کر کہا کہ وہ باہر کھڑی ہیں آپ چک کے اندر سے دیکھ لیں چنانچہ  
 میاں ظفر احمد صاحب نے ان کو دیکھ لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کو رخصت کر دیا۔ اور  
 اسکے بعد میاں ظفر احمد صاحب سے پوچھنے لگے۔ کہ اب بتاؤ۔ تمہیں کونسی لڑکی پسند ہے  
 ہم تو کیا جانتے نہ تھے۔ اس لئے اپنی دل نے کہا کہ جس کا منہ لبا ہے۔ وہ اچھی ہے اسکے  
 بعد حضرت صاحب نے سیری رٹے لی۔ جس طرح من کیا۔ کہ حضور میں نے تو نہیں دیکھا۔ پھر آپ خود  
 زمانے گئے۔ کہ ہلکے خیال میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے۔ جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرمایا جس شخص  
 کا چہرہ لبا ہوتا ہے۔ وہ بیماری وغیرہ کے بعد عموماً بد نما ہر جاتا ہے۔ لیکن گول چہرہ کی بڑھتی  
 قائم رہتی ہے۔ میاں عبد اللہ صاحب نے بیان کیا۔ کہ اس وقت حضرت صاحب اور میاں  
 ظفر احمد صاحب اور میرے سوا اند کوئی شخص وہاں نہ تھا۔ اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکیوں  
 کو کسی من طرف سے دہل لائے تھے اور پھر ان کو منب طرف پر رخصت کر دیا تھا۔ جس سے  
 ان کو کچھ معلوم نہیں ہوا مگر ان میں سے کسی کے ساتھ میاں ظفر احمد صاحب کا منہ نہیں ہوا۔ یہ  
 بات کی بات ہے۔

خانکار مرمن کرتا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں نور بصورتی کا احساس بھی بہت ہوتا ہے۔  
 دراصل جو شخص حقیقی شخص کو پہچانتا اور اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ مہمانی من کو بھی منور پہچانتا ہے۔

۱۸۹۲ء

”یاد رہے اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے“

(نشان آسمانی صفحہ ۱۵۰۔ روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ ۷۷۵)

۱۸۹۲ء

”یہ عاجز خدا نے تعالیٰ کے اسمائے کاشفات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس تکفیر کے وقت میں کہ ہر ایک

طرف سے اس زمانہ کے علماء کی آوازیں آرہی ہیں کہ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

ایک طرف حضرات مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس شخص کی تباہی کرو۔ اور ایک طرف امام ہوتا ہے

يَسْتَرْبِصُونَ عَلَيْكَ الْبَدَايِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ لَسُوْرِيَّةٌ

اور ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شخص کو سخت ذلیل اور رسوا کریں اور ایک طرف خدا وعدہ کر رہا

ہے۔

إِنِّي مُهَيِّنٌ مِّنْ أَرَادَ هَا نَتَكَ. اللَّهُ أَجْرَكَ. اللَّهُ يُعْطِيكَ جَلَا ذَكَ

اور ایک طرف مولوی لوگ فتوے پر فتوے بچ رہے ہیں کہ اس شخص کی ہم عقیدگی اور پیروی سے انسان کافر ہو جاتا ہے

اور ایک طرف خدا تعالیٰ اپنے اس امام پر تواتر زور دے رہا ہے۔

”قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

غرض یہ تمام مولوی صاحبان خدا تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھئے کہ فتح کس کی ہوتی ہے“

(نشان آسمانی صفحہ ۲۹۱، ۲۸۰۔ روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ ۷۹۸، ۷۹۹)

۲۵ جولائی ۱۸۹۲ء

۲۵ جولائی ۱۸۹۲ء مطابق ۲۰ ذی الحجہ ۱۳۰۹ھ روز دو شنبہ آج میں نے بوقت

۱۔ (ترجمہ از مرتب) کہ مجھے ۸ مور کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ایمان لانا ہوں۔

۲۔ (ترجمہ از مرتب) وہ تجھ پر حوادث کے نزول کا اٹھلا کر رہے ہیں۔ بڑی گردش نہیں پڑے گی۔

۳۔ (ترجمہ از مرتب) جو تیری ذلت چاہے میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا جلال عطا کرے گا۔

نوٹ از مرتب۔ امام ابی مہینہ من اراد امانتک حضرت اقدس کو ۱۸۹۲ء میں تمام ماہرہ شیخ محمد حسین بناوی کی نسبت بھی

ہوا تھا۔ دیکھئے الکر جلد نمبر ۶ سورہ ۳۔ نومبر ۱۸۹۵ء صفحہ ۱۲۔

۴۔ (ترجمہ از مرتب) کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اسی طرح وہ بھی تم سے محبت کرے گا۔

صبح صادق ساڑھے چار بجے دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے اس میں میری بیوی ڈالہ محمد اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی ایک کسرخ اور خوشن رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آگئی۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے۔ پیروں سے تڑتک کسرخ لباس پہنے ہوئے شاید جالی کا کپڑا ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لئے اشتہار دئے تھے لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آگئی ہوں میں نے کہا یا امہ تجاوسے اور پھر وہ عورت مجھ سے بغلیگر ہوئی۔ اس کے بغلیگر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ قَالَ لِحَمْدِ رَبِّكَ عَسَىٰ ذَالِكُمْ

اس سے دو چار روز پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ روشن بی بی میرے والائن کے دروازہ پر آکھڑی ہوئی ہے اور میں والائن کے اندر بیٹھا ہوں۔ تب میں نے کہا کہ روشن بی بی اندر آجاء۔  
(رجسٹر متفرق یادداشتیں صفحہ ۳۲ از حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

ماہ اگست ۱۸۹۲ء  
”مجھے تین چار روز ہوئے ایک متوحش خواب آئی تھی جس کی یہ تعبیر تھی کہ تمہارے ایک دوست پر دشمن نے حملہ کیا ہے اور کچھ مضر پہنچا ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا بھی کام تمام ہو گیا۔“  
مکتوب بنام حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ مورخہ ۲۶ اگست ۱۸۹۲ء مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر ۲۷ صفحہ ۲۷

۱۔ (نوٹ از مرتب) یہ متوحش خواب حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کے متعلق تھی اور اس میں ایک دوست سے مراد بھی آپ ہی ہیں چنانچہ حضرت اللہی اسی مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-  
”کل کڈاک میں آن مکرم باقت نامہ سپنج کر بو بر بشریت ان کے پلٹنے سے ایک حیرت دل پر عاری ہوئی مگر ساتھ ہی دل پر کھل گیا یہ خداوند حکیم و کریم کی طرف سے ایک ابتلاء ہے۔ انشاء اللہ تقدیر کوئی خوف نہ کجگنہیں.....  
مجھے معلوم نہیں کہ یہاں اشتعال حکم کن اشتعال کی وجہ سے دیا گیا۔ کیا بد قسمت وہ ریاست ہے جس سے ایسے مبارک قدم نیک نخت اور سچے غیر خواہ نکالے جائیں اور معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔“

مکتوب مذکور مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر ۲۷ صفحہ ۲۷ تا ۲۸

حضرت مولانا یعقوب علی صاحب عرفانیؒ ہیں پر اشتعال حکم کے سبب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت اور مولانا محمد علی پشٹیؒ پر ایک سیاسی الزام آپ کے دشمنوں نے لگایا تھا۔ راہب امر سنگھ صاحب کو حضرت حکیم الامت سے بہت محبت تھی اور وہ آپ کی عملی زندگی اور صداقت پسندی کا عاشق تھا اور وہ ایک مدبر اور صاحب ارادت نوجوان تھا۔ وہ سیاسی

۲۲۲

۸۲۱  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - خواجہ عبدالرحمن صاحب متوطن کشمیر نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت  
 مسیح موعود علیہ السلام گھر میں جب رفع حاجت کے لئے پانچاٹھ میں جاتے تھے تو پانی کا لٹولا لانا  
 ساتھ لے جاتے تھے اور اندر پہارت کرنے کے علاوہ پانچاٹھ سے باہر اگر کسی ہاتھ صاف کرتے تھے  
 خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کا طریق تھا کہ پہارت سے فارغ ہو کر ایک دو سو وارہ  
 پانی سے ہاتھ دھوتے تھے۔ اور پھر مٹی مل کر دوبارہ صاف کرتے تھے۔

۸۲۲  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص پتھر سنگ  
 ریاست جموں کے تھے۔ وہ قادیان آ کر مسلمان ہو گئے۔ نام ان کا شیخ عبدالعزیز رکھا گیا۔ ان کو لوگ  
 اکثر کہتے تھے کہ غنہ کرالو۔ وہ بچا سے چونکہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے۔ اس لئے بچکا پاتے تھے۔ اور  
 حکلیف سے بھی ڈرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ذکر کیا گیا کہ آیا غنہ مزودی ہے فرمایا  
 بڑی عمر کے آدمی کے لئے ستر حورت فرمن ہے مگر غنہ مرت سنت ہے۔ اس لئے ان کے لئے  
 مزودی نہیں کہ غنہ کروائیں۔

۸۲۳  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب  
 کے خادم میاں حامد علی مرحوم کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا جب میں  
 نے یہ روایت سنی تو بہت تعجب ہوا۔ کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ پھر بعد فکر کرنے  
 کے اور طبی طور پر اس مسئلہ پر غور کرنے کے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ احتلام تین قسم کا ہوتا ہے  
 ایک فطرتی۔ دوسرا شیطانی خواہشات اور خیالات کا نتیجہ اور تیسرا مرض کی وجہ سے۔ انبیاء کو فطرتی  
 اور بیماری والی احتلام ہو سکتا ہے۔ مگر شیطانی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے سب قسم کے احتلام کو شیطانی  
 سمجھ رکھا ہے جو قلط ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ میر صاحب محکم کا یہ خیال درست ہے کہ انبیاء کو کسی بعض اقسام کا  
 احتلام ہو سکتا ہے اور میرا ہمیشہ سے یہی خیال رہا ہے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بچپن میں  
 اس حدیث کو پڑھا تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بھی میں نے دل میں ہی کہا تھا کہ  
 اس سے شیطانی تغارہ والا احتلام مراد ہے نہ کہ ہر قسم کا احتلام۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ میر صاحب  
 نے جو فطرتی احتلام اور بیماری کے احتلام کی اصطلاح رکھی ہے یہ غالباً ایک ہی قسم ہے جس میں



پورا زور لگایا اسپرنگمان بیٹے دیکھا کہ وہی شیر میرے اوپر کوڑ کر نماز اور ہوا ہے اس وقت بیٹے  
 یہ خود جو کہ بیچ ماری اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ حضرت خلیفہ ثانی بیان فرماتے تھے کہ وہ شخص  
 پھر حضرت صاحب کا بہت مقصد ہو گیا تھا اور ہمیشہ جب تک زندہ رہا آپ سے خط و کتابت  
 رکھتا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ منشی محمد ار وڑ صاحب مرحوم کبیر گھلووی  
 حضرت مسیح موعود کے نوکر کا بہت تھے کہ ہم تو آپ کے مذہب کے ہو گئے تھے یہ بھی  
 ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ دیکھنے سے بہت جوڑتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ منشی صاحب  
 مرحوم پرانے مخلصوں سے تھے۔ ان کا بیچ موعودوں میں ان کا بہت سبب اول میں شمار  
 ہوتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول نے کہ  
 ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کسی سفر میں تھے سٹیٹن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں تھی  
 تھی آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ سٹیٹن کے پلیٹ فارم پر بیٹھ گئے یہ دیکھ کر مولوی  
 عبدالکریم صاحب جکی طبیعت غیور اور جوشیلی تھی میرے پاس آ کر اور کہنے لگے کہ بہت لوگ  
 پھر غیور لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں  
 الگ بٹھا دیا جاوے مولوی صاحب فرماتے تھے کہ بیٹے کہا میں تو نہیں کہتا آپ بکھر دیکھ لیں۔  
 ناپار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور لوگ بہت  
 ہیں بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں۔ حضرت صاحب نے مسدایا جاؤ گی میں ایسے  
 پردے کا قالی ہیں ہوں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبدالکریم  
 صاحب سر نیچے ڈالے میری طرف آئے میں نے کہا مولوی صاحب اجواب دیا اور

(۷۸)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جن دنوں میں ہمارا چھوٹا بھائی مبارک احمد  
 بیمار تھا ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نے حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ  
 اول کو اسکے دیکھنے کے لئے گھر میں بلایا۔ اس وقت آپ صحن میں ایک چارپائی  
 پر تشریف رکھتے تھے اور صحن میں کوئی فرش وغیرہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب آؤ ہی آپ کی

خاکسار عرض کرتا ہے کہ پیر کا مرہ کی نذر رو کر نامریہ کے لئے مت سے بڑھ کر ہوتا ہے اس لئے  
سوائے اس کے کہ کسی پر کوئی خاص نارا منگی ہو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سب کی نذر قبول فرما لیتے تھے  
اور سب کے لئے دعا کرتے تھے اور ہر ایک کو اپنے رنگ میں دعا فائدہ پہنچاتی تھی کسی کو فتح کے  
رنگ میں اور کسی کو اور رنگ میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مائی رسول بی بی صاحبہ بیوہ عاتقہ حامد علی صاحب مرحوم نے فرمایا مولوی  
عبدالرحمن صاحب جٹ مولوی فاضل مہار سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے  
وقت میں میں اور اہلیہ بابو شاہ دین رات کو پہرہ دیتی تھیں۔ اور حضرت صاحب نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر  
میں سونے میں کوئی بات کیا کروں تو مجھے جگا دینا۔ ایک... کا... اقد سے کہ میں نے آپ کی زبان پر  
کوئی الفاظ جاری ہوتے سنے اور آپ کو یاد دیا۔ اس وقت رات کے بارہ بجے تھے۔ ان ایام میں عام  
لحد پر پہرہ پر مائی غوث منشیانی اہلیہ منشی محمد دین گو جوالوالہ اور اہلیہ بابو شاہ دین ہوتی تھیں۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مائی رسول بی بی صاحبہ میری رضامی ماں ہیں اور عاتقہ حامد علی صاحب  
مرحوم کی بیوہ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بانی خادم تھے۔ مولوی عبدالرحمن صاحب ان کے  
داماد ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ منشی نضر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ  
ایک دفعہ جب میں قادیان میں تھا اور اوپر سے رمضان شریف آگیا۔ تو میں نے گھر آنے کا ارادہ کیا  
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ نہیں سدا رمضان ہیں رہیں۔ میں نے عرض کی۔ حضور ایک  
شرط ہے کہ حضور کے سامنے کاجو کھانا ہو۔ وہ میرے لئے آجایا کہ سے۔ آپ نے فرمایا۔ بہت اچھا۔  
چنانچہ دونوں وقت حضور ہمارا اپنے سامنے کاجو کھانا بچھے بچھوتے رہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی یہ خبر ہو گئی  
اور وہ مجھ سے پچھین لیتے تھے یہ کھانا بہت سا ہوتا تھا۔ کیونکہ حضور بہت کم کھاتے تھے۔ اور بیشتر  
عقدہ سامنے سے اسی طرح اشکرا جاتا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی کیسی زبان  
سر کی تکلیف ہو جاتی تھی جو بعض اوقات چانگ پیدا ہو جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت  
صاحب گھر میں ایک چار بالی کو کھینچ کر ایک طرف کرنے لگے۔ تو اس وقت آپ کو چانگ چکر آگیا

۲۲۲

نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا آپ نے اُسے کچھ نہیں کہا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میرے گھر سے یعنی والدہ عزیزہ مظفر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم گھر کی چند لڑکیاں تر بوز کھا رہی تھیں۔ اس کا ایک پھلکا مائی تابی کو جا لگا جس پر مائی تابی بہت ناراض ہوئی۔ اور ناراضگی میں بد عیاشی دینی شروع کر دیں۔ اور پھر خود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس جا کر شکایت بھی کر دی۔ اس پر حضرت صاحب نے ہمیں بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ ہم نے سارا واقعہ سُنا دیا جس پر آپ مائی تابی پر ناراض ہوئے کہ تم نے میری اولاد کے متعلق بد دعا کی ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مائی تابی قادیان کے قریب کی ایک بوڑھی عورت تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی اور اچھا اخلاص رکھتی تھی۔ مگر ناراضگی میں عادتاً بد عیاشی دینے لگتی تھی۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ میرے گھر سے خان بہادر مولوی غلام حسن صاحب پشاور کی لڑکی ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود کے پرانے صحابی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ مولوی صاحب بھوت کو خلافتِ ثانیہ کے موقع پر مٹو کر گئی۔ اور وہ غیر مبایعین کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ لیکن الحمد للہ کہ میرے گھر سے بدستور جماعت میں شامل ہیں اور اب استکانِ خلافت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مائی امیر بی بی عرف مائی کا کو ہمیشہ میاں امام الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیشتر طور پر عورتوں کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ نماز باقاعدہ پڑھیں۔ قرآن شریف کا ترجمہ سیکھیں اور خاندانوں کے حقوق کو ادا کیا جب کہ کسی کوئی عورت بیعت کرتی تو آپ عموماً یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم قرآن شریف پڑھی ہوئی ہو یا نہیں۔ اگر وہ نہ پڑھی ہوئی ہو تو نصیحت فرماتے تھے کہ قرآن شریف پڑھنا سیکھو۔ اور اگر صرف ناظرہ پڑھی ہوئی۔ تو فرماتے کہ ترجمہ بھی سیکھو۔ تاکہ قرآن شریف کے احکام سے اطلاع ہو۔ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ملے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مائی کا کونے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے سامنے میاں عبد العزیز صاحب پٹواری سیکھواں کی بیوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لئے کچھ تازہ جلیبیاں

۲۲۲

نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا آپ نے اُسکے نہیں کہا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میرے گھر سے یعنی والدہ عزیزہ منظر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم گھر کی چند لڑکیاں تو بوز کھا رہی تھیں اس کا ایک چھلکا مائی تابی کو جا لگا۔ جس پر مائی تابی بہت ناراض ہوئی۔ اور ناراضگی میں بددعا میں دینی شروع کر دیں، اللہ بھر خود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس جا کر شکایت بھی کر دی۔ اس پر حضرت صاحب نے ہمیں بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے ہم نے سارا واقعہ سنا دیا جس پر آپ مائی تابی پر ناراض ہوئے کہ تم نے میری اولاد کے متعلق بددعا کی ہے۔

۸۲۸

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مائی تابی قادیان کے قریب کی ایک بوڑھی عورت تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی اور اچھا اخلاص رکھتی تھی۔ مگر ناراضگی میں عادتاً بددعا میں دینے لگتی تھی۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ میرے گھر سے خان بہادر مولوی غلام حسن صاحب پشاور کی لڑکی ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود کے پرانے صحابی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ مولوی صاحب فوت ہو گئے۔ خلافتِ ثانیہ کے موقع پر بھڑک کر چلے گئے۔ اور وہ غیر مبایعین کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ لیکن الحمد للہ کہ میرے گھر سے بدستور جماعت میں شامل ہیں اور اب استعجابِ خلافت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مائی امیر بی بی عرف مائی کا کو ہمشیرہ میاں امام الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیشتر طور پر عورتوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ نماز باقاعدہ پڑھیں۔ قرآن شریف کا ترجمہ سیکھیں اور خاندانوں کے حقوق کو ادا کیا جب کبھی کوئی عورت بیعت کرتی تو آپ عموماً یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم قرآن شریف پڑھی ہوئی ہو یا نہیں۔ اگر وہ نہ پڑھی ہوئی ہوتی تو نصیحت فرماتے تھے کہ قرآن شریف پڑھنا سیکھو۔ اور اگر صرف باظہر پڑھی ہوئی۔ تو فرماتے کہ ترجمہ بھی سیکھو۔ تاکہ قرآن شریف کے احکام سے اطلاع ہو۔ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ملے۔

۸۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مائی کا کونے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے سامنے میاں عبد العزیز صاحب پٹواری سیکھواں کی پوسی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لئے کچھ تازہ جلیبیاں

۸۳۰

لائی حضرت صاحب نے ان میں سے ایک مجلسی اٹھا کرتے میں ڈالی۔ اس وقت ایک راولپنڈی کی عورت پاس بیٹھی تھی۔ اس نے گہرا کہ حضرت صاحب سے کہا۔ حضرت یہ تو ہندو کی بی بی ہوئی ہیں۔ حضرت صاحب نے کہا۔ تو پھر کیا ہے۔ ہم جو بڑی کھاتے ہیں۔ وہ گو برا اور پانچا نہ کی کھاد سے تیار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اور مثالیں دے کر اسے سمجھایا۔

۸۵۱ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- مائی کا کونے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے سے بمبائی خریدین کی بیوی نے مجھ سے کہا کہ شام کا وقت گھر میں بڑے کام کا وقت ہوتا ہے اور مغرب کی نماز عموماً قضا ہوتی ہے۔ تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دریافت کرو کہ ہم کیا کیا کریں۔ میں نے حضرت صاحب سے دریافت کیا۔ کہ گھر میں کھانے وغیرہ کھا نظام میں مغرب کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا میں اس کی عبادت نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا کہ صبح اور شام کا وقت خاص طور پر رکات کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت فرشتوں کا پہرہ بدلتا ہے۔ ایسے وقت کی برکات سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کسی مجبوری ہو تو عشاء کی نماز سے ملا کر مغرب کی نماز جمع کی جاسکتی ہے۔ مائی کا کونے بیان کیا کہ اس وقت سے ہمارے گھر میں کسی نے مغرب کی نماز قضا نہیں کی اور ہمارے گھروں میں یہ طریق عام طور پر رائج ہو گیا ہے کہ شام کا کھانا مغرب سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں تاکہ مغرب کی نماز کو صحیح وقت پر ادا کر سکیں۔

خاکسای عرض کرتا ہے کہ مائی کا کونے جو قضا کا لفظ استعمال کیا ہے یہ عرف عام میں غلط طور پر استعمال ہونے لگا ہے۔ دہنہ اس کے اصلی معنی پورا کرنے اور ادا کرنے کے ہیں نہ کہ کھونے اور مٹانے کرنے کے۔ مجھے اس کا اس لئے خیال آیا کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت صاحب نے بھی ایک جگہ اس لفظ کے غلط استعمال کے متعلق ذکر کیا ہے۔

۸۵۲ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- مائی کا کونے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ جب حضرت صاحب نے جماعت میں بکروں کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ تو ہم نے بھی اس ارشاد کی تعمیل میں بکروں کی قربانی (صدقہ) کروانے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بھاری مجلس آرا ہے اور اس مجلس کے آگے کوئی شخص رتھ میں سوار ہو کر چلا آ رہا ہے۔ جس کے ارد گرد پردے پٹے ہوئے ہیں اور لوگوں میں شور ہے کہ محمد صلعم آگئے۔ محمد صلعم آگئے۔ میں نے آگے بڑھ کر رتھ کا

۲۱۰

جو تم میرے بیٹے ہو گے تو ناول نہیں پڑھو گے؟

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مجھے یہ واقعہ یاد نہیں۔ مگر اس روایت سے مجھے ایک خاص مرد حاصل ہوا ہے کیونکہ میں بچپن سے محسوس کرتا آیا ہوں کہ مجھے ناول خوانی کی طرف کسی توجہ نہیں ہوئی۔ نہ بچپن میں نہ جوانی میں اور نہ اب۔ بلکہ ہمیشہ اس کی طرف سے بے رغبتی رہی ہے۔ مالا مال اکثر نوجوانوں کو اس میں کافی شغف ہوتا ہے اور خانان میں بھی بعض افراد کبھی کبھی ناول پڑھتے رہے ہیں۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت صاحب نے کسی کو ناول پڑھتے دیکھا ہو گا۔ یا کسی اور وجہ سے ادھر توجہ ہوئی ہوگی جس پر بطریق اتباہ مجھے نصیحت فرمائی۔ اور محض نہیں حضرت صاحب کی توجہ سے خدا کے فضل کے ساتھ اس نونعل سے محذور رہا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نے ایک دن شنایا کہ حضرت صاحب کے ان ایک بوڑھی ملازمہ سہ ماہی بھانوی تھی۔ وہ ایک ماہ جیکہ خوب مردی پڑ رہی تھی۔ حضور کو دبانے بیٹھی۔ چونکہ وہ سحاف کے اوپر سے رہا تھی۔ اس لئے اُسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں۔ وہ حضور کی ناگین نہیں ہیں بلکہ ہنگ کی ہٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا۔ بھانوی آج بڑی مردی ہے۔ بھانوی کہنے لگی: ان جی تہ سے تہاڑی لتاں لکڑی دانگ ہویاں ہویاں ایں۔ یعنی جی ان جی تو آج آپ کی لائیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو بھانوی کو مردی کی طرف توجہ دلائی تو اس میں بھی غالباً یہ جانا متصور تھا کہ آج شاید مردی کی شدت کی وجہ سے تہاڑی جس کزور ہو رہی ہے اور تمہیں پتہ نہیں لگا کہ کس چیز کو دبا رہی ہو۔ مگر اس نے سامنے سے اور ہی لہیفہ کر دیا۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ بھانوی مذکورہ قادیان کے ایک قریب کے گاؤں بسرا کی رہنے والی تھی۔ اور اپنے ماحول کے لحاظ سے ابھی غلغلا اور دیندار تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ تقریباً ۱۹۹۹ء یا ۱۹۹۸ء کا واقعہ ہے کہ کہیں سے ایک بہت بڑا لوہے چینی کا پیالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آیا جس کی بڑائی کی وجہ سے معلوم نہیں اہل بیت نے یا خود حضرت صاحب نے اس کا نام

۴۱۱

سیرت الہدی، جلد سوم صفحہ 210 از مرزا بشیر احمد ایم اے

یہ حوالہ صفحہ 136 پر درج ہے

کس خیال میں پھر رہے تھے۔ درہ حضور کو اکیلے پھرتے لدھیانہ میں نہ دیکھا تھا۔ اور خاکسار بھی اسی خیال سے سامنے دہڑا کہ شاید کوئی مجید ہوگا۔ پھر اسی لدھیانہ میں خاکسار نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جب حضرت اقدس علیہ السلام وہلی سے واپس لدھیانہ تشریف لائے۔ تو حضور کی زیارت کے لئے اس قدر استیصال بہ ہجوم ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے معزز لوگ آدمیوں کی کثرت اور دکھا پیل سے زمین پر گر گئے تھے اور پولیس والے بھی عاجز آ گئے تھے کہ درخیز آسمان کو جابجا سقا اور حضور اقدس علیہ السلام کے بھی بڑی محبت سے لوگوں کو فرمایا کہ ہم تو یہاں جو بیس گھنٹے ٹھہریں گے ملنے والے وہاں قیامگاہ پر آجائیں۔ ایک وقت اکیلے یہاں پھرتے دیکھا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اس قدر ہجوم آپ کی زیارت کے لئے جمع ہو گیا تھا۔

اس موخر الذکر سفر میں حضور علیہ السلام نے لدھیانہ میں ایک لیکچر دیا جس میں ہندو میسائی مسلمان اور بڑے بڑے معزز لوگ موجود تھے۔ تین گھنٹے حضور اقدس نے تقریر فرمائی۔ ماہنامہ بوجہ سفر وہلی کچھ طبیعت بھی درست نہ تھی۔ رمضان کا ہیضہ تھا۔ اس لئے حضور اقدس نے بوجہ سفر روزہ نہ رکھا تھا۔ اب حضور اقدس نے تین گھنٹے تقریر جو فرمائی تو طبیعت پر منفعت سا طاری ہوا۔ مولوی محمد حسن صاحب نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ جس پر نادان مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ مرد رمضان میں دودھ پیتا ہے۔ اور شور کرنا چاہا۔ لیکن چونکہ پولیس کا اترنامہ اچھا تھا۔ فوراً شور کرنے والے مسلمان وہاں سے نکال دیئے گئے۔ اس موقع پر یہاں پر تین تقاریر ہوئیں۔ اول مولوی سعید محمد حسن صاحب کی دوسرے حضرت مولوی فدا الدین صاحب کی۔ تیسرے حضور اقدس علیہ السلام کی پھر یہاں سے حضور اہل بیت مرثیہ لے گئے۔ وہاں سننا ہے کہ مخالفوں کی طرف سے سنگباری بھی ہوئی خاکسار عرض کرتا ہے کہ بازار میں اکیلے پھرنے کی بات تو خیر ہوئی مگر مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور بازار کے اندر ہونے میں پھر رہے تھے۔ اور جسم پر کوٹ نہیں تھا۔ کیونکہ حضرت صاحب کا طریق تھا کہ گھر سے باہر ہمیشہ کوٹ پہنکر نکلتے تھے۔ پس اگر میرے صاحب کو کوئی فتنی نہیں لگی تو اس وقت کوئی خاص بات ہوگی یا ملدی میں کسی کام کی وجہ سے نکل آئے ہوں گے۔ یا کوٹ کا خیال نہیں آیا ہوگا۔

پس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر سعید عبدالستار شاہ صاحب نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ مجھ سے میری لڑکی زینب بیگم نے بیان کیا کہ تین ماہ کے قریب حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت

سیرۃ المہدی صوم

۲۷۳

میں رہی ہوں۔ گرمیوں میں پنکھا وغیرہ اور اسی طرح کی خدمت کرتی تھی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ نصف رات یا اس سے زیادہ مجھ کو پنکھا ہلاتے گزر جاتی تھی۔ مجھ کو اس اثنا میں کسی قسم کی تسکین نہ ملتی تھی۔ بلکہ خوشی سے دل بھر جاتا تھا۔ دو دفعہ ایسا موقع آیا کہ عشاء کی نماز سے نئے کومبج کی اذان تک مجھے ساری رات خدمت کرنے کا موقع ملا۔ پھر بھی اس حالت میں مجھ کو نہ نیند نہ غنودگی اور نہ تسکین معلوم ہوئی۔ بلکہ خوشی اور سرور پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح جب مبارک احمد صاحب بیمار ہوئے۔ تو مجھ کو ان کی خدمت کے لئے بھی اسی طرح کئی راتیں گزارنی پڑیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ رتبہ اس قدر خدمت کرتی ہے کہ ہمیں اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اور آپ کئی دفعہ اپنا تبرک مجھے دیا کرتے تھے۔

۹۱۱ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح کے درس میں جب آیت وما ابڑی نفسی ان النفس لا تمادہ بالسوء الا ما رحمہ ربی۔ ان ربی غفور رحیم آیا کرتی۔ تو آپ کہا کرتے تھے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب کے سامنے بھی یہ بات کسی دوست نے پیش کر دی۔ کہ مولوی صاحب اسے علم العزیز کا قول کہتے ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے گئے کیا کسی کا فریاد بدکار خدمت کے منہ سے بھی ایسی معرفت کی بات نکل سکتی ہے۔ اس فقرہ کا تو لفظ لفظ کمال معرفت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تو سوائے نبی کے کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ عجز اور احترام کمزوری کا اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کی صفات کا ذکر یہ انبیاء ہی کی شان ہے۔ آیت کا مضمون ہی بتا رہا ہے کہ یوسف کے سوا اور کوئی اسے نہیں کہہ سکتا۔

فاکسار عن کرتا ہے کہ اس واقعہ کا ذکر روایت معتدہ میں بھی آچکا ہے۔

۹۱۲ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی تکلیف کے علاج کے لئے اس عاجز کو یہ حکم دیا۔ کہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب لاہوری ساکن بھائی دروازہ سے رجوع ہوتے وقت ہونچکے ہیں نسخہ لکھوا کر لاؤ۔ اور اپنا حالی بھی لکھ دیا۔ اور بتا بھی دیا۔ چنانچہ میں ڈاکٹر صاحب موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ان سے نسخہ لاکر حضرت صاحب کو دیا۔ ڈاکٹر صاحب سے معلوم ہوا کہ حضرت صاحب ان سے پہلے



سیرۃ المہدی ص ۱۳۷

۲۷۵

چار پائیوں پر مفتی محمد صادق صاحب اور شیخ رحمت اللہ صاحب مرحوم وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ایک ہمدی نیچے پڑی ہوئی تھی اس پر میں دو چار آدمیوں سمیت بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس مولوی عبدالستار خان صاحب بزرگ بھی تھے۔ حضرت صاحب کھڑے تقریر فرما رہے تھے کہ اچانک حضور کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے پاس چار پائی پر آکر بیٹھ جائیں۔ مجھے شرم محسوس ہوئی۔ کہ میں حضور کے ساتھ برابر ہو کر بیٹھوں۔ حضور نے دوبارہ فرمایا کہ شاہ صاحب آپ میرے پاس چار پائی پر آجائیں میں نے عرض کی کہ حضور میں نہیں اچھا ہوں۔ تیسری بار حضور نے خاص طور پر فرمایا کہ آپ میری چار پائی پر آکر بیٹھ جائیں۔ کیونکہ آپ سید ہیں اور آپ کا احترام ہم کو منظور ہے۔ حضور کے اس ارشاد سے مجھے بہت فرحت ہوئی۔ اور میں اپنے سید ہونے کے متعلق حق الیقین تک پہنچنے کے لئے جو آسمانی شہادت چاہتا تھا۔ وہ مجھے مل گئی۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو تو اپنے سید ہونے کا ثبوت ملنے پر فرحت ہوئی اور مجھے اس بات سے فرحت ہوئی ہے کہ جو وہ سو سال گذر جانے پر بھی حضرت سیدنا محمد ﷺ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا کس قدر پاس تھا۔ اور یہ پاس علم تو ہمارا رنگ میں نہیں تھا۔ بلکہ بعیرت اور محبت پر مبنی تھا۔

پس ہم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ میری لڑکی زینب بیگم نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ جب حضور علیہ السلام میاں کوٹ تشریف لے گئے تھے تو میں رعید سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان ایام میں مجھے مراق کا سخت دورہ تھا۔ میں شرم کے مارے آپ سے عرض نہ کر سکتی تھی۔ مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میری بیماری سے کسی طرح حضور کو علم ہو جائے تاکہ میرے لئے حضور دعا فرمائیں۔ میں حضور کی خدمت کر رہی تھی کہ حضور نے اپنے آنکشاف اور معافی قلب سے خود معلوم کر کے فرمایا۔ زینب تم کو مراق کی بیماری ہے ہم دعا کریں گے تم کچھ ورزش کیا کرو۔ اور پیدل چلا کرو۔ مگر میں ایک قدم بھی پیدل نہیں چلی سکتی تھی۔ اگر دو چار قدم چلتی بھی۔ تو دورہ مراق و خفقان بہت تیز ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے مکان پر جانے کے لئے جو حضور کے مکان سے قریباً ایک میل دور تھا۔ ٹانگے کی تلاش کی۔ مگر نہ ملے۔ اس لئے مجھ کو پیدل جانا پڑا۔ مجھ کو یہ پیدل چلنا سنت مصیبت اور ہلاکت معلوم ہوتی

یہ حوالہ صفحہ 137 پر درج ہے

سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 275 از مرزا بشیر احمد ایم اے

۱۲۶

جب سنا تو حضرت خلیفہ اولؓ کو تاکید اکہلا بسویا کہ بسے فوذا رخصت کر دیں چنانچہ مولوی صاحب نے  
اسے کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا۔

خاکسار عزم کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نماز میں بکراہی کے شہتیر ہوتے تھے۔ جن  
سے یہ عطر ہوتا تھا۔ کہ اگر شہتیر ٹوٹے تو ساری چھت گر جائے گی۔ مگر آجکل لوہے کے گروڈ نکل آئے  
ہیں۔ جو بہت محفوظ ہوتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب ارکان  
اسلام میں سب سے زیادہ نماز پر زور دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ نمازیں سنوار کر بے جا کرو۔  
خاکسار عزم کرتا ہے کہ سنوار کر پڑھنے سے مراد ہے کہ دل لگا کر پوری توجہ کے ساتھ ادا  
کی جاوے۔ اور نماز میں مشغوع خضوع پیدا کیا جائے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز  
میں ایسی کیفیت پیدا کر لے۔ تو وہ گویا ایک مضبوط قلعہ میں آجاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب  
لاہوری کی ایک بیوی ڈاکٹر فی سکنے نام سے مشہور تھی۔ وہ دونوں قادیان آکر حضور کے مکان میں ہی  
اور حضور کی خدمت کتنی تھی۔ اسے بیماری کو سل کی بیماری تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو اس کا ایک  
دو پڑھ حضرت صاحب نے دعا کے لئے یاد دہانی کے لئے بیت الدعا کی کھڑکی کی ایک اسٹی سٹانچ  
سے بندھوا دیا۔

خاکسار عزم کرتا ہے کہ ڈاکٹر فی موجود بہت نفع تھی اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا خیال  
بسی ترقی کر گیا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ قریباً سترہ ایک  
گول کرہ ہی مہمانخانہ ہوتا تھا۔ پھر اس میں پریس آگیا جب یہاں مہمانخانہ تھا تو یہیں کھانا وغیرہ کھلا  
جاتا تھا۔ اور کاتب بھی اسی جگہ مسودات کی کاپیاں لکھا کرتا تھا۔ اور حضرت صاحب کا ملاقات کا کرہ  
بھی یہی تھا۔ ان دنوں میں مہمان بھی کم ہوا کرتے تھے۔ بس شہدائے میں حضرت والد صاحب یعنی میر ناصر قریب  
صاحب پٹن لیسکر قادیان آ گئے۔ اور چونکہ اس وقت پریس اور مہانوں کے لئے ٹھیس قبیلہ کے قادیان  
پر مکانات بن چکے تھے۔ اس لئے میر صاحب گول کرہ میں رہنے لگے۔ اور انہوں نے اس کے آگے دیوار

مے آئندہ اشکِ مسرت دینتے شہودے

مکن تکبیرہ بر جسدِ ناپائدار سہاں امین از بازئی رودگار

و نیز اس بد صرع ثانی از دیوانِ فسخِ قادیانی تک پاش جراتِ دلِ میثودے

بنیائے قُودلِ دلِ جندِ انجواں کہ وقتِ اجل میرسد ناگہاں

لہذا مے خواہم کہ بقیہ عمر در گوشہٴ تنہائی نشینم و دامنِ از صحبتِ مردمِ بچینم و پیامِ دوسرا

مشغول شرمِ مگر گذشتہ ماخذ سے واقفیتِ ما قاسم کے شہودے

مگر گشتِ دنمانہ است جو آیا ہے چند بہ کہ در یاد کے صبحِ کسٹم شد مے چند

کہ دنیا را اس سے محکم نیست و زندگی ما اعتبار سے نے واپس من بخاف علی نفسہ من اُفت

فیروزہ والسلام

نکارِ عزمِ کرتا ہو کہ مئے شہ صاحب سے دریافت کیا تھا کہ آپ نے یہ دعوت کہاں سولی پر؟

انہوں نے جواب دیا کہ مرزا سلطان احمد صاحب نے مجھے چند پرانے کاغذات دیئے تھے جن میں سو حضرت کی

یہ تحریر تھی لیکن خاکسار کی ہاٹی میں مگر حضرت صاحب کی صورت تحریر ملی کہ اس سے استدلال ضروری نہیں ہوتا

کہ آپ پر یہ خطا پر والد صاحب کے پیش ہی کیا تھا بلکہ غلطی کے نتیجے میں خطا اور تاویل کا نہ ہونا اس شبہ کو قوی کرتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا ہے کہ حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت صاحب

کی نالی کا نام لادوتا۔ امدہ ماگونا کو بر والوں سکھنے قادیان کی ماں تھی جب بنی ہوئی دیکھا تھا تو وہ بیت

بڑھی ہو چکی تھی مرزا سلطان احمد بلکہ مرزا احمد کرہی ماسی نے جہاں تھا۔ ایک روز حضرت صاحب نے

اس کو اپنی پیدائش کے متعلق کچھ شہادت بھی لی تھی۔ اپنی فن میں ماسی بوشیار عورت تھی جہاں ایک روز

یہاں کسی عورت کے بچہ جنم لیا اور پیدائہ ہوتا تھا تو حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ لادو کر ہلا کر دکھاؤ

وہ بوشیار ہی جہاں سے لایا گیا تو اللہ کے فضل سے بچا سالی سو پیدا ہو گیا۔ مگر والدہ صاحبہ کہتی تھیں

کہ تم میں سے کسی کی پیدائش کی وقت اس نہیں جہاں گیا۔ کیونکہ بعض درجات سے اس پر کچھ شبہ پیدا ہو گیا تھا۔

یہ والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ عورت احمد کی پیدائش کے وقت جب لادوئی۔ تو ان دنوں میں سے

خاندان کی مرض تھی جہاں اس سے عورت احمد کو خارش ہو گئی۔ اور پھر آہستہ آہستہ تھلک سے تالک کے گھر میں

اکثر لوگوں کو خارش ہو گئی۔ اور آخر اس سے ہمارے گھر میں بھی خارش کا اثر پہنچا جہاں حضرت صاحبہ

nuzararun

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



سیرت  
۱۲۵

سیرت  
۱۲۵

سیرت  
۱۲۵

سیرت  
۱۲۵

سیرت  
۱۲۵

سیرت  
۱۲۵

# الفضل قادیان

روزنامہ

THE DAILY ALFAZL QADIAN

۲۶ مؤرخہ ۵ ربیع الثانی ۱۳۵۷ھ بمطابق ۳۱ اگست ۱۹۳۸ء نمبر ۲۰

## البتیج

تہ دن ۱۹ اگست مسیحا حضرت ابراہیم علیہ السلام  
آج اتالی ایہ امور سے بفرہ اعزیز کے  
سیرت اور سیرت کی ذرا ذرا کر رہے ہیں کہ  
آج دن بھر کے اور سرور کی تکلیف ہی  
دست قاتلانہ کے فضل سے لیتا ہی ہے نہ  
حضرت ام المومنین زوجہ امالی کے تعلق آج کی  
آج اہل بیت علیہم السلام کو حضرت مدوہ کو سرور کی  
تکلیف ہے آپ کو بطور عالی سبیل دیا گیا ہے  
بیب و ان کے محبت کرتے ہیں نہ  
ماجرادہ فرما نظر انداز صاحب بر سر ایش لا  
حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے متعلق آج  
نئے اظہار موصول ہوئی ہے کہ ان کی دست قاتلانہ  
کے فضل سے جی ہے  
حضرت سوزی قرآن میں صاحب ان سیرت اللہ  
کے لہجے اس کی سر انجام دی کے لئے سنہ  
آج کے لئے ہیں ان کی سیرت ان صاحب سیرت  
ان صاحب جائزہ تقریباً سال کو پہلے کرتے  
انکارت دعوت و تبلیغ کا وقت سو کہ ہے مسیحا  
آج ہی ان صاحب اور سوزی والی کہ ہے  
آج کے صاحب میں سیرت کے لئے جی ہے  
آج یہ نہ وقت مسیحا درجست میں سوزی ان سیرت  
سیرت کے لئے کہ ہے پھر یہ کہ وہ وقت سیرت  
السلام کی ذرا ذرا کے حالات سننے کے

## ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

### اولیاء اللہ کے دشمنوں کے پاس سیرت لفظی اور زبانی قیل و قال

مذکورہ اولیاء اور ان سے دشمنی وقت اول سن  
کونست اور دنیا سستی میں ڈالتا ہے اور جو اور اپنے اور  
انفال صدق اور افعال کل ان سے تو فریق نہیں لیتا ہے اور  
پھر آخر سیرت بیان کا موجب ہو کر وہ ایسی کی اصل حقیقت اور  
متر سے ان کو بے نصیب اور بے پروا کرتا ہے اور ہی سنے  
میں اس حدیث کے کہ من عادوننا فی حقدنا انتم علیہ  
چیتے ہو یہ الی کا دشمن ہے۔ زوی اس کو کہا ہوں  
کہ بس صاحب میری اولی کے لئے ظاہر ہو جا اگرچہ اولی  
معاذت میں خداوند کریم و رحیم کے آگے ایسے لوگوں کی حرکت  
کسی قدر نہ ہو سکتی کہ نہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اس دل بند  
کا تالیف میں آپ اور حضرت ان ظاہر ہوئے شروع ہوئے  
میں اور اور وہ سب اس کو شہادت کھاتا ہے اور اس کی  
آپ سیرت کی سماعت آسمان اور زمین دونوں کی حرکت سے  
یہ آواز کا کہ ان کہ سنائی دیتی ہے تو خود باہر میں صاحبی  
میں ہم نفس عداوت اور عداوت سے پہنچیں انہی اور طریق قرآنہ  
کو فعلی اور اولی کہ وہی کہ سیرت کہ سیرت اور سوزی اور سوزی  
حہ برات وہ ہے ان کا ہے۔ اور اس حالت میں وہ حضرت  
مذکورہ صاحب کا تحت جو آپ نہ انہی اور ان کے سرور اور  
ان انسان کو ہرگز نہیں پائے۔ لیکن جب سیرت لفظی اور  
کرنا کہ ہرگز نہ کرنا۔ اور ہرگز نہ کرنا۔

یہ حوالہ صفحہ 139 پر درج

روزنامہ الفضل قادیان دارالامان مورخہ 31 اگست 1938ء



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لِحَمْدِہٖ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

آریہ سماج کا جلسہ اور انکی شرافت کا نمونہ

ان کی تعلقہ اور ان کے سانس کا ازالہ

آریہ سماج لاہور کا جلسہ ۲۳ دسمبر ۱۹۰۷ء کے بعد جو رات تھی اس میں ختم ہو گیا۔ جو لوگ  
ہمارے مضمون کے پڑھے جانے کے وقت حاضر تھے ان کو معلوم ہو گا کہ کس تہذیب اور  
زری اور حکمرانی کا وہ مضمون تھا اور کس ادب سے ہم نے ان کے رشیدیوں اور اوتاروں اور ان  
لوگوں کے نام لئے جن کی طرف وید منسوب کئے جاتے ہیں اور جو ان کی قوم کے پیشوا اور  
رہبر خیال کئے جاتے ہیں۔ لیکن بقول شخصیکہ ہر ایک برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے  
اندر ہے۔ آریہ سماجوں نے اپنے مضمون میں وہ گند ظاہر کیا اور اس قدر توہین اور تحقیر  
انبیاء و علیہم السلام کی کی جو اس سے بڑھ کر متصور نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص ہمارے سید و مولیٰ  
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ دلازار اور گندے لفظ اور توہین اور تحقیر  
کے کلمے اور سر اسر دروغ اور جھوٹی تہمتیں اور بے جا الزام جو سر اسر گالیوں تھیں اس قدر

مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور وہ مسابقت پوری ہو گئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بے مذی طور پر وہی کرتوت یہودیوں والی پوری ہوتی تھی اور یہ اس طرف اشارہ کرتی تھیں کہ آنے والا دو رنگ لے کر آوے گا۔ اسی لئے یہودی اور مسیح کے زمانہ کی علامت ایک ہی ہیں اور ان دونوں کا فعل بھی ایک ہی۔

(السید جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۸-۲۵۹ موز ۱۲ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۲ اگست ۱۹۰۳ء

### مومنوں کو چاہیے کہ اشاعتِ فحش سے پرہیز کریں

عام طور پر یہ ایک مرض لوگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مردِ پاحویت کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ بدکار ہے یا اس کا دوسرے سے تعلق بدکاری کا ہے تو ہرگز نفس ویسے معلومات کی وسعت سے لذت پاتا ہے۔ اس لئے اس بدامی کے بیان پر بلا تحقیق یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اُسے شہرت دینے میں سعی کی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے نیک مرد اور نیک عورتوں کی نسبت ناپاک خیال لوگوں کے دلوں میں مشکن ہو جاتے ہیں اور جن کی شہرت ہوتی ہے اُن کے دلوں پر اس سے کیا صدمہ گزرتا ہے اس کو ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے ایسی شہرت دینے والوں کے لئے اسی دوزخ سے سزا مقرر فرمائی ہے۔

اس مضمون کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں شہرت دینے والوں کے لئے بشرطیکہ وہ اُسے شہرت نہ کر سکیں ۸۰ دوزخ سے عذاب رکھی ہے اس لئے کہ جو شہرت دیتا ہے اسے اس مقدمہ میں مدعی گردانا گیا ہے اور اسی سے چار گواہ طلب کئے گئے ہیں کہ اگر وہ سچا ہے تو اپنے علاوہ چار گواہ روایت کے لئے۔ یہ غلطی ہے کہ ایسے شخص کو بھی گواہوں میں شمار کیا جاوے۔

کے لیے نازیں جمع کی جا رہی تھیں۔ تو یہ عظیم الشان پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ بیمار یوں میں ہمیشہ سے بستلارہتا ہوں، پھر بھی آج کل میری معروریت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا ہوں، حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دوران سر کا درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ مگر میں اس بات کی پروا نہیں کرتا اور اس کام کو کئے جاتا ہوں؛ چونکہ دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کب مر جاتا ہے۔ اسی وقت خبر ہوتی ہے جب شام کی ٹہلنے کے لیے دھنکرنے کے واسطے پانی کا لٹارہ دیا جاتا ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ کاش اتنا دن اور ہوتا؛ حالانکہ اسپتال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی دست آتے ہیں، مگر جب پاخانے کی حاجت ہی ہوتی ہے تب مجھے رنج ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی اور ایسا ہی روٹی کے لیے جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا بوجھ کر کے جلد جلد چند لمبے کھا لیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روٹی کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہوں، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھاتا ہوں۔ میری تو تجربہ اور خیال اسی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ پس یہ کام بہت ضروری ہے اور خدا چاہے تو ایک نشان ہو گا جس کی نظیر لانے پر کوئی قادر نہ ہو گا۔

[ ناظرین! حضرت اقدس کے اس جوش کا کسی قدر پتہ ان الفاظ سے مل سکتا ہے جو آپ کو اعلانے کلام اسلام کے لیے حق نے عطا فرمایا ہے۔ آپ اناذہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس دوسری میں ہیں اور وہ کس خیال میں پیرایا سبیلہ کلام میں گزرنے لگے کہ: ]

” اگرچہ یہ کتاب بظاہر کوئی عجیب اور اعجاز نظر نہ آتی ہو، مگر اس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم ہو جائے گا جب ہم نے ہوتو کے لیے مضمون لکھنا شروع کیا تو ہمارے ایک دوست نے اپنے خیال کے مطابق کہ خوشی ظاہر ہوئی مگر خدا تعالیٰ نے اہلنا خوشخبری دی کہ وہ مضمون بالارہا؛ چنانچہ یہ اہتہار جلسہ سے پہلے ہی شائع کر دیا گیا۔ آخر جب وہ جلسہ میں پڑھا گیا تو اس کی عظمت اور اس کے حقائق کو سب نے تسلیم کیا یہاں تک کہ لاہور کے انگریزی اُردو اخبارات نے اس کے بالادہ بننے کا اعتراف کیا۔ اسی طرح پر جب یہ کتاب شائع ہو کر باہر نکلے گی، تب پتہ لگے گا۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو دہلی سے عطر لانے کے لیے کہا وہ کہنے لگا کہ جب میں عطار کی دوکان پر گیا، تو جو عطر وہ دکھاتا تھا، میں اس کو ہی واپس کر دیتا تھا۔ آخر عطار نے کہا، میاں تم یہاں دوکان میں بیٹھے ہو نہیں پتہ نہیں لگتا جب دوکان سے باہر لے کر جاؤ گے، تب اس عطر کی حقیقت معلوم ہوگی؛ چنانچہ جب وہ عطر لے کر آیا تو اس نے بیان کیا کہ جو عطار میں ہم سے پیچھے آئی تھیں ان کے سوا کہتے تھے کہ کس کے پاس عطر ہے۔ گویا اس کی مانتی خوشبو تھی۔“

[ اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے دعویٰ کی صداقت اور اپنے مآثر من اشد ہونے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ



کے ملنے میں کچھ قصور نہیں ہے بلکہ حسب آیت تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ اُن کی طبیعت ہی اُن بد بخت کفار کے مشابہ واقع ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ کے نشانات کو قبول نہیں کرتے تھے اور اپنی طرف سے اختراع کر کے درخواستیں کرتے تھے کہ ایسے ایسے نشان دکھاؤ۔ لیکن اگر افسوس ہے تو صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے مولوی کہلا کر ہنسی ٹھٹھا اپنا شیوہ بنا لیا ہے۔ جو شخص عبدالحق کے اشتہار کو غور سے پڑھے گا اس کو قبول کرنا پڑے گا کہ انہوں نے انویم مولوی عبدالکریم صاحب کا شرارت اور بے ادبی سے ذکر کر کے ان کی ٹانگ کی درستی یا آنکھ کی نظر کی نسبت جو نشان مانگا ہے یہ ایک اور با شانہ طریق پر ٹھٹھا کیا ہے جو کسی پر میز گاراد نیک بخت کا کام نہیں ہے۔ پلید دل سے پلید باتیں نکلتی ہیں اور پاک دل سے پاک باتیں۔ انسان اپنی باتوں سے ایسا ہی پہچانا جاتا ہے جیسا کہ درخت اپنے پھلوں سے۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرما دیا کہ لا تَسَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ یعنی لوگوں کے ایسے نام مت رکھو جو ان کو بُرے معلوم ہوں تو پھر برخلاف اس آیت کے کرنا کن لوگوں کا کام ہے۔ لیکن اب تو نہ ہم عبدالحق پر افسوس کرتے ہیں نہ اس کے دوسرے رفیقوں پر کیونکہ ان لوگوں کا ظلم اور نا انصافی اور دروغ گوئی اور افسردہ سے گذر گیا ہے اسی اشتہار کو پڑھ کر دیکھ لو کہ کس قدر جھوٹ سے کام لیا ہے کیا کسی جگہ بھی خدا تعالیٰ سے عیا کی ہے چنانچہ ہم بطور نمونہ بطرز قولہ واقوال اس ظالم شخص کے جھوٹوں کا ذخیرہ ذیل میں لکھ دیتے ہیں جو اسی اشتہار میں اس کے استعمال کئے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

**قولہ** میرزا بارہا متفرق مواضع کے مباحثات میں شرمندہ اور لاجواب ہوا اور ہر جمع میں خائب اور خاسر اور نامراد رہا۔

پہلی فصل

۳۹۳

براہین احمدیہ

۳۳۳ کے پید کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا۔ جس نے خود انسان کو بغیر باپ اور ماں کے

۳۳۳ ان امور کا صحیح ہونا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ کیونکہ جیسا کہ خدا بمثل وہ مانند ہے اسی طرح جو چیز اسی کی طرف سے صادر ہے وہ بمثل وہ مانند چاہیے جس کی نظیر بنانے پر انسان قادر نہ ہو سکے۔ پس قرآن شریف نے جو اپنے کمالات میں بمثل ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ کوئی بے مواضع دعویٰ نہیں۔ یہ یہی قانون قدرت کا مسئلہ ہے جس پر جتنا انسان کی دانشمندی ہے۔ جس سے انحراف کرنا حماقت کی نشانی ہے۔ ذرا اپنے ہی دل میں سوچ کر آپ انصاف فرمائیے کہ خدا کے کلام کا بے نظیر ہونا قانون قدرت کے لحاظ سے لازم ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے نزدیک لازم نہیں۔ اور خدا کے کاموں میں شرکت غیر بھی جائز ہے تو پھر صاف یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہم کو خدا کے واحد لا شریک ہونے میں ہی کلام ہے۔ کیا آپ اس جہی بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ خدا کی وحدانیت تب ہی ترک ہے جب تک اس کی تمام صفات شرکت غیر سے منزہ ہیں۔ اگر خدا کے کلام کی یہ حیثیت ہو کہ انسان بھی ایسا ہی کلام بنا سکے۔ تو گویا خدا کی ساری حیثیت معلوم ہو گئی۔ گویا اسی کی خدائی کا سارا جھید ہی کھل گیا۔ ۴

۳۳۳ اس بات پر عیسائیوں کو بھی نہایت توجہ سے غور کرنی چاہیے کہ خدائے بمثل وہ مانند اور کامل کی کلام میں کس کس نشانیوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی انجیل بوجہ محرف اور مبتذل ہو جانے کے ان نشانیوں سے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہے۔ بلکہ الہی نشان تو یکطرف سے معمولی راستے اور صداقت بھی کہ جو ایک منصف اور دانشمند منکلم کے کلام میں ہونی چاہیے انجیل کو نصیب نہیں۔ کم بخت مخلوق پرستوں نے خدا کے کلام کو، خدا کی ہدایت کو، خدا کے نور کو اپنے ظلمانی خیالات سے ایسا طلا دیا۔ کہ اب وہ کتاب بجلتے رہبری کے رہزنی کا ایک پکا ذریعہ ہے۔ ایک عالم کو کس نے توحید سے برگشتہ کیا؟ اسی مصنوعی انجیل نے ایک دنیا کا کس نے خوں کیا؟ انہیں تالیفات اربعہ نے جن اعتقادوں کی طرف مخلوق پرست کا نفس اتارہ جھکتا گیا۔ اسی طرف ترجمہ کرنے کے وقت ان کے الفاظ بھی جھکتے گئے۔ کیونکہ انسان کے الفاظ ہمیشہ اس کے خیالات کے تابع ہوتے ہیں۔ غرض انجیل کی ہمیشہ کا یا پلٹ کرتے رہنے سے اب وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اور خدا بھی اس کی تعلیم

نسبت ہے جو ہجرت کر کے قادیان میں آئے۔ سو جس کا جی چاہے آکر دیکھے۔  
یہ سات قسم کے نشان ہیں جن میں سے ہر ایک نشان ہزار ہا نشانوں کا جامع ہے۔ مثلاً یہ  
پشیلوئی کہ نیٹینگ من ٹچل فچہ عیمیق جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک جگہ سے اور ہندو از  
ملکوں سے نقد اور مجلس کی امداد آئیگی اور خطوط بھی آئیں گے۔ اب اس صورت میں ہر ایک جگہ سے  
جو اب تک کوئی مدد یہ آتا ہے یا پارچاٹ اور دوسرے ہدیے آتے ہیں یہ سب بجائے خندیک  
ایک نشان میں کیونکہ ایسے وقت میں ان تمام باتوں کی خبر دی گئی تھی جبکہ انسانی عقل اس  
کثرتِ مدد کو دُر از قیاس و محال سمجھتی تھی۔ ایسا ہی یہ دوسری پشیلوئی یعنی یلقتوت من ٹچل  
فچہ عیمیق جس کے یہ معنی ہیں کہ دُور دُور سے لوگ تیرے پاس آئیں گے یہاں تک کہ وہ  
سڑکیں ٹوٹ جائیں گی جن پر پہنچیں گے یا اس زمانہ میں یہ پشیلوئی بھی پوری ہو گئی چنانچہ اب تک  
کئی لاکھ انسان قادیان میں آچکے ہیں اور اگر خطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جائیں جنکی کثرت  
کی خبر بھی قبل از وقت گنما می کی حالت میں دی گئی تھی تو شاید یہ اندازہ کر ڈرتے نہ ہونے چاہیگا  
مگر ہم صرف مالی مدد اور بیعت کنندوں کی آمد پر کفایت کر کے ان نشانوں کو تھمنا دس لاکھ نشان  
قرار دیتے ہیں بے جیا انسان کی زبان کہ قابو میں لانا تو کسی نبی کے لئے ممکن نہیں ہوا لیکن وہ لوگ  
جو حق کے طالب ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے گنما می کے زمانہ میں جس کو قریبا پچیس برس گذر  
گئے جبکہ میں کچھ بھی چیز نہ تھا اور کسی قسم کی شہرت نہ رکھتا تھا اور کسی بزرگ خاندان پریرانی  
سے نہ تھا تا رجوعِ خلائق سہل ہوتا۔ اس قدر کھلے طبع پر آئندہ زمانہ کے عروج اور ترقیات کی  
خبر دینا اور پھر ان چیزوں کا اسی طرح بعد زمانہ دراند وقوع میں آجانا کیا کسی انسان سے ہو  
سکتا ہے اور کیا ممکن ہے کہ کوئی کذاب اور مفتری ایسا کر سکے۔ میں باور نہیں کر سکتا کہ جو  
شخص پہلے انصاف کی نظر سے اس زمانہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے جبکہ بل میں احمدیہ تالیف  
کی گئی تھی اور ابھی شائع بھی نہیں ہوئی تھی اور ایک جوڈیشل تحقیقات کے طور پر خود موقع پر آکر  
دیانت کرے کہ اس زمانہ میں میں کیا چیز تھا اور کس قدر غول اور گنما می کے زاویہ میں پڑا ہوا تھا

نزل امیح

۱۰۹

ضمیمہ

ہے کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا سو تمہارا اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو  
 پندرہ مہینہ میں ہلاک کئے جاؤ گے۔ سو آتم نے اسی مجلس میں رجوع کیا اور کہا کہ معاذ اللہ میں نے  
 آنجناب کی شان میں ایسا لفظ کوئی نہیں کہا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور زبان منہ نکالی  
 اور لڑتے ہوئے زبان سے انکار کیا جس کے نہ صرف مسلمان گواہ بلکہ چالیس سے زیادہ عیسائی  
 بھی گواہ ہو گئے پس کیا یہ رجوع نہ تھا! اور کیا اس کا ثبوت اور میعاد پیشگوئی میں اس بحث کو  
 بجلی ترک کر دینا جو ہمیشہ میرے ساتھ کرتا تھا اور نیز شیخ علامہ حسن صاحب مرحوم رئیس اعظم امرتسر  
 کے ساتھ بھی اور میاں علامہ نبی صاحب برادر میاں اسد اللہ صاحب مرحوم مکمل امرتسر کے ساتھ بھی  
 کیا کرتا تھا۔ کیا یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ ضرور ڈرا۔ اور کیا اس کا امرتسر کو چھوڑنا اور غربت میں  
 خاموش زندگی بسر کرنا اور اکثر وہ تھے رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا دل ترسان اور  
 لرزان ہوا۔ اور کیا اس کا وجود چار ہزار روپیہ دینے کے قسم نہ کھانا حالانکہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ  
 عیسائی مذہب میں جواز قسم ہے اور خود مسیح نے بھی قسم کھائی اور پولوس نے بھی۔ اس بات کی  
 دلیل نہیں ہے کہ وہ ڈر گیا؟ پس کیا اب تک دجال کہنے کے قول سے اس کا رجوع ثابت نہیں ہوا؟  
 اور کون ثابت کر سکتا ہے کہ بعد اسکے اس نے پیشگوئی کی میعاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال  
 کر کے پکارا۔ اور پھر باوجود اس کے جیسا کہ میری پیشگوئی میں تھا کہ کاذب صادق کی زندگی میں  
 مرجائے گا۔ کیا وہ میری زندگی میں نہیں مرے۔ اگر پیشگوئی سچی نہیں نکلی تو مجھے دکھلاؤ کہ تم کہاں ہو۔  
 اس کی عمر تو میری عمر کے برابر تھی یعنی قریب ۶۴ سال کے۔ اگر شک ہو تو اسکی پیشینہ کے  
 کاغذات دفتر سرکاری میں دیکھ لو کہ کب اور کس عمر میں اس نے پیشینہ پائی۔ پس اگر پیشگوئی  
 صحیح نہیں تھی تو وہ کیوں میرے پہلے مر گیا۔ خدا کی لعنت ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔  
 جب انسان جیا کو چھوڑ دیتا ہے تو جو چاہے بکے۔ کون اس کو روکتا ہے۔  
 دیکھو لیکھرام کی نسبت جو پیشگوئی کی گئی تھی اس میں صاف بتلایا گیا تھا کہ وہ چھ برس  
 اندر قتل کے ذریعہ سے ہلاک کیا جائیگا اور عید کے دن سے وہ دن ملا ہوا ہوگا۔ وہ کیسی صفائی

۵

اب مختصر کلام یہ ہے کہ علاوہ نگر خانہ اور میگزین کے جو انگریزی اور اردو میں نکلتے ہیں وہ کسی نے اکثر دو ستوں نے سرگئی ظاہر کی ہے ایک مدرسہ بھی قادیان میں کھولا گیا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ نو عمر بچے ایک طرف تو تعلیم پاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے سلسلہ کے اصولوں سے واقفیت حاصل کرتے جانتے ہیں۔ اس طرح پر بہت آسانی سے ایک جماعت طیار ہو جاتی ہے۔ بجز اسی اوقات ان کے دل باپ بھی اس سلسلہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں ہمارا یہ مدرسہ بڑی مشکلات میں پڑا ہوا ہے۔ اور باوجودیکہ حاجی عزیز علی انور صاحب نے نواب محمد علی خان صاحب رئیس ڈیرہ کوٹا اپنے پاس اس مدرسہ کو باہر اس مدرسہ کی مدد کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی استادوں کی تنخواہیں ماہ بہ ماہ ادا نہیں ہو سکتیں۔ مدرسہ مدرسہ قرضہ سر پر رہتا ہے۔ علاوہ اس کے مدرسہ کے متعلق کئی عمارتیں ضروری ہیں جو اب تک طیار نہیں ہو سکیں۔ یہ غم علاوہ اور غموں کے میری جان کو کھار رہا ہے اس کی بابت میں نے بہت سوچا کہ کیا کروں آخر یہ تدبیر میرے خیال میں آئی کہ میں اس وقت اپنی جماعت کے غمخواروں کو بڑے زور کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ وہ اگر اس بات پر قادر ہوں کہ پوری توجہ سے اس مدرسہ کیلئے بھی کوئی مالانہ چندہ مقرر کریں تو چاہئے کہ ہر ایک ان میں سے ایک دستکم عہد کے ساتھ کچھ نہ کچھ مقرر کرے جس کیلئے وہ ہرگز تخلف نہ کرے۔ مگر کسی جمودی سے جو قضاء و قدر سے واقف ہو۔ اور جو صاحب ایسا نہ کر سکیں ان کیلئے بالضرورت یہ تجویز سوچی گئی ہے کہ جو کچھ وہ نگر خانہ کیلئے بیچتے ہیں۔ اس کا پورا پورا براہ راست مدرسہ کیلئے نواب صاحب موصوف کے نام بھیج دیں۔ نگر خانہ میں شامل کر کے ہرگز نہ بیچیں۔ بلکہ علیحدہ منی آڈیٹر کر کے بھیجیں۔ مگر نگر خانہ کا فکر ہر روز مجھے کنا پڑتا ہے۔ اور اس کا غم براہ راست میری طرف آتا ہے۔ اور میری اوقات کو مشوش کر رہا ہے۔ لیکن یہ غم بھی مجھ سے دلچسپ نہیں جاتا۔ اس لئے نئی کتابوں کا اس سلسلہ کے جوانوں کو جس سے میں ہر طرح امید رکھتا ہوں کہ وہ میری اس اہمیت کو مدد کی طرح نہ پھینکیں اور پوری توجہ سے اس پر کار بند ہوں۔ میں اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کتابوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے۔ میں نے خوب سوچا ہے اور بار بار مطالعہ کیا ہے میری دانست میں اگر یہ مدرسہ قادیان کا قائم رہ جائے تو بڑی برکات کا موجب ہوگا اور اس کے ذریعہ سے ایک فوج نئے تعلیم یافتوں کی ہماری طرف آسکتی ہے۔ اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اکثر طالب علم

۵۸

انگ کو ٹھنڈا کر دینے کی خاصیت اسکے اندر قائم رہے گی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے  
ہی اللہ نکتہ ہے جسے نہ کھنک دہرے فصلی اور ہندو مذہب تباہ ہو گئے اور لاکھوں مسلمان  
کہلانے والے انسان بھی عیسیٰ کا شکار ہو گئے۔

(۳۰۶) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی شیر علی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ  
السلام کی زبان مبارک پر بعض فقرے کثرت کے ساتھ رہتے تھے مثلاً آپ اپنی گفتگو میں اکثر فرمایا  
کرتے تھے دست در کار دل بایار۔ خدا داری چہ غم داری۔ الامم بالنیات۔ انا عند اللہ۔ انا عند اللہ۔  
آپناں شیل زونڈکا آئینہ ساند۔ گر خط مراتب نہ کنی زینتی۔ ملا بد رک کلف کا پتو  
کلمہ الطریقۃ کما ادب ادب تا جیت از لطف الہی۔ بند بر سر ہر جگہ خواہی۔  
(۳۰۷) بسم اللہ الرحمن۔ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب نے فرمایا  
تھے کہ ہماری جامعہ کے آدمیوں کو چاہئے کہ ان کے ذہن و فہم ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں  
اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا۔ اسکے ایمان کے متعلق گھوٹا ہے۔

(۳۰۸) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ  
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بچہ نے گھر میں ایک چھپکلی ماری اور پھر  
اسے مذاقاً مولوی عبد الکریم صاحب کو دکھائی اور پھر بچہ نے پھینک دیا جس پر پد سے ڈسکان کی  
چٹخیں نکل گئیں اور چونکہ مسجد کربتھان کی آواز مسجد میں بھی سنائی دی۔ مولوی عبد الکریم صاحب  
بہ گھوٹے تو انہوں نے طیرت کے جوش میں پی بڑی کوریت کہ تخت شست کہا جاتا ہے کہ  
یختی کی تواز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مکان میں بھی سن لی۔ چنانچہ  
اس واقعہ کے متعلق اسی شب حضرت صاحب کو یہ ہمام ہوا کہ یہ طریق اچھا نہیں۔ اس سے کیا  
ہوا جائے مسلمانوں کے لیے عبد الکریم کو یہ لطیفہ یہ ہوا کہ صبح مولوی صاحب مرحوم تو اپنی اس  
بات پر ہنسنے لگے۔ اور آگ انہیں مبارکبادوں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام  
مسلمانوں کا لیا رکھا ہے۔

(۳۰۹) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب  
حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک شہادت کے لئے لندن شہر میں گئے تو رہتے ہیں

## وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۗ

اور انسان کہ اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے ۛ اس دن وہ اپنی (ساری ہیروشیہ) خبریں بیان کر دیگی ۛ

مٹیوں کے رنگوں اور ان کی ٹوٹوں سے اب کانوں وغیرہ کے پتہ لگانے کا علم نکل آیا ہے۔ اس علم کے ماہر انجینئر ہارڈوا کی چوٹیوں پر پے جلتے ہیں اور پتھروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتے یا زمین کو سونگتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کہ یہاں فلاں قسم کی کانیں ہیں۔ اسی طرح بجلی کی رو کے ذریعے سے کانوں کی اقسام اور ان کی گہرائیوں کا پتہ لیا جاتا ہے۔ یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین میں کس چیز کی کان ہے۔ لوہے کی ہے یا تیل کی ہے۔ اور پھر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سوگڑ چمبے یا دو سوگڑ چمبے ہے یا چار سوگڑ چمبے ہے۔

غرض اس ذریعہ سے زمین اپنی خبریں بتا رہی ہے۔ وہ زمینی جو پہلے گونگی تھی اب کلام کرنے لگ گئی ہے۔ علم لوگ گندے ہیں تو بگتے ہیں کہ زمین خاموش ہے وہ کچھ کہہ نہیں رہی۔ لیکن ایک انجینئر گذرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ زمین اسے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے پیچھے مٹی کا تیل ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اتنی ڈوبے یا یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے پیچھے سونے کی کان ہے اور یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ سونے کی کان اتنی ڈوبے یا یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے پیچھے پتھر کا کوئلہ ہے اور یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے پیچھے پورنیم یا پلاٹینم یا نکل دھات ہے اور یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ دھاتیں اتنی گہرائیوں پر ہیں۔

آخر حجت انذامن آتفا نفا کے پیچھے جو یہ سنے بتائے گئے تھے کہ لوگ اپنے گندے خیالات بیان کرنے لگے ہیں۔ ان کے لحاظ سے اس آیت کے یہ سنے بھی بدل گئے کہ نہ صرف لوگوں کے دل بے ہوشے خیالات اس زمانہ میں ظاہر ہونے لگے ہیں بلکہ ان زمین اپنے ان عیوب کا نام نثر کر کے میں لذت محسوس کریں گے یا انہوں نے کوئی شائع کرنے میں

تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اپنے اٹھنے کو نکال باہر کرے گی یہاں تک کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان حیرت سے کہ اٹھے گا کہ مانتھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے اس دنیا میں کیا کچھ راز و شہدہ تھے جو ظاہر ہو رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں مخفی تھیں جن کو زمین اگل رہی ہے۔

وہ سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ آکسیجن سے ہر انسان مراد ہو بلکہ کائنات انسان مراد ہو۔ اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ کائنات انسان دنیا کی عریانی اور مذہبیت کی حالت دیکھ کر کہے گا کہ اس دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ خدا تو سے اس قدر ڈر رہی گئی ہے۔

تفسیر۔ انذامن آتفا نفا کی تشریح بھی ہو سکتا ہے۔ نئے مضمون کے لحاظ سے میرے نزدیک اس کے یہ سنے ہیں کہ پیدائش زمین کے بارہ میں اس سے پہلے دنیا کو ایک جمل اور ناقص علم حاصل ہو گا مگر فرماتا ہے اس زمانہ میں علم سائنس جیالوجی کی شکل میں اس قدر ترقی کر جائے گا کہ زمین کی بناوٹ اور شعاعوں اور نور و فیس کے ذریعے زمین کی پیدائش کے سلسلے پر بہت کچھ روشنی ڈالنے لگے گی گویا آج بڑھا سہرا وہ ہے کہ زمین اپنی حقیقت اور کیفیت پیدائش کے بارہ میں بہت کچھ باتیں بتانے لگ جائے گی۔ یہ اس لئے فرمایا کہ علم جیالوجی کا بڑھنا خود مٹی کی ماہیت اور اس کے رنگوں اور اس کی تہوں پر ہے۔

یہ نہیں کہ کسی اور ذریعہ سے وہ ان معلومات کو حاصل کرتے ہیں بلکہ علم جیالوجی کے ماہر مٹی کا رنگ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس قسم کے تغیرات زمین پر گذرے ہیں اس کی تہوں سے اندازہ لگا کر بتا دیتے ہیں کہ اس تہ پر یہ شکل ہے اور اس تہ پر یہ شکل ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فلاں تغیر واقع ہوا اور پھر فلاں تغیر پیدا ہوا۔ اسی طرح

## بَانَ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

اس نے کہ تیرے رب نے اس (زمین) کے حق میں وحی کر چھوڑی ہے

بے حیائی سے پہنچی کرتی ہیں اور پھر وہ ڈاٹریاں  
ہنڑوں کی تعداد میں چھٹی اور لوگوں کے مطالعہ میں آتی ہیں۔  
غرض ایک اندھیرے پونج راہے اور ایک زلزلہ طغیر ہے  
جو دنیا پر آیا ہوا ہے۔ گذشتہ تاریخ پر غور کر کے دیکھ لو  
اس کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملے گی۔ یہی وہ زمانہ ہے  
جس میں یہ زلزلہ طغیر آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ  
پیشگوئی ٹری شان سے پوری ہوئی کہ **يَوْمَ مَبْدُؤِ فَتْحِهَا  
أَخْبَارُهَا**

**سہ حل لغات**۔ اَوْحَىٰ اَلَيْهِ رَاجِعًا وَكَيْفَ  
ہوتے ہیں **بَعَثَهُ**۔ اُس کو کسی مقصد کے لئے کھڑا کیا اور  
اَوْحَىٰ بِكَذَابِكَ مَعْنَىٰ اَللَّهُمَّ بِهٖ كَسَىٰ كَيْفَ  
میں کوئی بات ڈالی۔ اور اَوْحَىٰ بِهٖ اَنَّىٰ مَعْنَىٰ اَللَّهُمَّ  
ہے چنانچہ اَوْحَىٰ اَلَيْهِ رَاجِعًا وَكَيْفَ اَللَّهُمَّ  
اُس نے اشارہ کیا۔ **اَدَسَلَّ اَلَيْهِ رَسُوْلًا اُسْ كَلِمَاتٍ  
بَيْنَا مَبْرُؤِهَا**۔ اور اَوْحَىٰ اَللَّهُمَّ فِى قَلْبِہٖ كَيْفَ  
کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اُس کے دل میں غلامی بات ڈالی۔  
اور اَوْحَىٰ اَلَيْهِ رَاجِعًا وَكَيْفَ اَللَّهُمَّ  
اُس کے ساتھ وہ سبوں سے علیحدہ ہو کر غلطی و گمراہی میں  
وَفِى الْاَسْمَاءِ وَحَيْثُ اَلَيْهِ وَ اَوْحَيْتُ لَهَا اَلْكَلِمَةَ  
بِمَا تُحْفِيْہِ عَنْ عَذَابِہٖم۔ زخمی کی کتاب اس میں  
لکھا ہے کہ **وَ حَيْثُ اَلَيْهِ اَوْ حَيْثُ اَلَيْهِ اَمْرًا  
ہوتے ہیں جب تم کسی سے کوئی ایسی بات کرو جو تم دونوں سے  
چھپانا چاہتے ہو۔ وَ فِى الْاَسْمَاءِ وَحَيْثُ اَلَيْهِ  
يَقُوْلُ وَ حَيْثُ اَلَيْهِ وَ حَيْثُ اَلَيْهِ وَ اَوْ حَيْثُ اَلَيْهِ  
وَ اَوْ حَيْثُ اَلَيْهِ۔ اور معتبر میں لکھا ہے کہ بعض عرب عرب  
وَ حَيْثُ اَلَيْهِ اور اَوْ حَيْثُ اَلَيْهِ ہی استعمال  
نہیں کرتے کہ **وَ حَيْثُ اَلَيْهِ** اور اَوْ حَيْثُ اَلَيْهِ ہی استعمال کرتے**

دیکھا گیا ہم حیرت میں ہیں کہ وہ وہاں کیوں گئے؟ اور کیوں گئی  
گاڑی اس دور وازہ پر کھڑی دیکھی گئی؟ ہاں گھنٹا ہوں حدیث  
میں اسی طرف اشارہ ہے مفسرین نے اسے غلطی سے قیامت  
پر چھپا کر دیا ہے حلا کہ قیامت کے ذکر میں قرآن کریم میں یہ  
کیوں بیان نہیں کیا گیا کہ اُس روز زمین بھی کلام کرے گی۔ یہ تو آتا  
ہے کہ اتھ بولیں گے یا پاؤں بولیں گے اور وہ انسان کے  
خلاف شہادت دیں گے مگر یہ کیوں ذکر نہیں آتا کہ اُس روز  
زمین بھی بولے گی۔ لیکن کسب کو خود کے زمانہ کے متعلق تو قیامت  
احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اُس وقت زمین کلام کرے گی چنانچہ  
حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ زمین بولے گی وہ پتھروں کے پیچھے  
کافر چھپا ہوا ہو گا بولے گا اور کہے گا اے نبی اللہ یہ کافر  
چھپ کر سب سے غرض زمین سے بولنے کا مدخلی میں جہاں بھی ذکر  
آتا ہے کسب کو خود کے زمانہ کے متعلق ہے اور قرآن کریم میں  
جہاں قیامت کے وقت شہادت دینے کا ذکر آتا ہے وہاں اقول

اور پتھروں کے بولنے کا ذکر آتا ہے مگر زمین کا نہیں۔ اس سے  
صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مراد وہ زمانہ کے متعلق ہے اور  
اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خبر دی گئی ہے کہ لوگ اپنے  
گند اخباروں میں ظاہر کریں گے۔ کتابوں اور ڈاٹریوں میں  
ان کو شائع کریں گے اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے بہت بڑا  
کاغذ سرسبز بنام دیا ہے گو یا جن امور کو لوگ پسے چھپایا کرتے  
تھے وہ کو مرنے سے لے کر بیان کریں گے اور شرمناک جیسا کہ  
معلوم اُس زمانہ میں بالکل بدل جائے گا چنانچہ یہ اخبار سرسبز  
مرد اور عورت کے پیچھے آدمی لگاتے ہیں اور ان کے مخفی حالات  
اخبارات میں چھاپتے اور ان کی بکری سے لاکھوں روپے لگاتے  
ہیں۔ بعض ادنیٰ اخبار بیکنگ میٹنگ سے روپے کساتے ہیں۔  
اسی طرح عورتیں۔ شریف کھلانے والی عورتیں بڑے بڑے معزز  
ادب و رسوخ فاندانوں کی طور میں ڈاٹریاں لکھتی ہیں جن میں نہایت



تو مناسب تھا کہ یہ اس بحث میں اپنے تئیں نہ ڈالتے اور چُپ ہی رہتے اور خواہ مخواہ اپنے  
 موجودہ وید کی پروردہ درمی نہ کراتے۔ جو کچھ وید نے اپنا فلسفہ اور علم طبعی ظاہر کیا ہے  
 وہ یہی ہے کہ ہندوؤں کے پریشتر کو ایک انسان کا فرزند قرار دیتا ہے اور  
 کہتا ہے کہ انار آریوں کا پریشتر کشتلیا کا بیٹا ہے۔  
 اور نیز یہ کہ عنانہ اور اجرام سماویہ سب پریشتر ہی ہیں اور نیز وہ تعلیم دیتے ہیں کہ ان  
 تمام چیزوں سے مرادیں مانگی جائیں اور نیز یہ تعلیم جو نہایت گندی اور قابل شرم تعلیم ہے  
 یعنی یہ کہ پریشتر ناف سے دس انگلی نیچے ہے (سمجھنے والے سمجھ لیں) ہم  
 یہ نہیں کہتے کہ کسی پہلے زمانہ میں یہی وید تھا۔ بلکہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ایک معروف متبدل  
 کتاب ہے کچھ تو باعتبار الفاظ کے اور کچھ باعتبار معنوں کے۔ اور ہمارے نزدیک ممکن اور اغلب  
 ہے کہ کوئی اصل کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے جوگی پھر کچھ کم کی گئی ہے اور کچھ زیادہ کی گئی۔ اور  
 صورت بدلائی گئی ہے اور موجودہ وید بلاشبہ ایک گمراہ کر نیوالی کتاب ہے۔  
 جس میں پریشتر کا بھی پتہ نہیں لگتا اور اس قدر مخلوق چیزوں کی اس میں پرستش کی تعلیم ہے  
 کہ گویا وہ مخلوق پرستی کی ایک دوکان ہے پس جس جگہ ہم وید پر کوئی حملہ کرتے ہیں یا اسکی  
 تکذیب کے دلائل پیش کرتے ہیں اس جگہ ہی موجودہ وید مراد ہے جو سراسر معروف متبدل  
 ہے نہ وہ اصل وید جو کسی زمانہ میں خدا کی طرف سے آیا تھا اور ہم خدا کی تمام کتابوں پر  
 ایمان لاتے ہیں اور ایسا ہی اس وید پر جو کسی زمانہ میں ملک ہند کے کسی نبی پر نازل ہوا ہوگا  
 مگر موجودہ وید کی نسبت ہم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس قدر گندے فوسے  
 مخلوق پرستوں کے اس ملک میں پھیلے ہوئے ہیں یہ سب وید کی ہی مہربانی ہے اور  
 انسانی پاکیزگی کی نسبت جو کچھ وید نے سکھایا ہے اس کا عمدہ نمونہ نیوگ ہے۔ یہ نیوگ  
 کی ہی پاک گارروائیوں میں سے ہے کہ آریہ قوم میں اس بات کا ثبوت طنا مشکل  
 ہے کہ کون آریہ صاحب اصل باپ کے لطفہ میں سے ہے۔ اور کون آریہ



پر کچھ اعتقاد رکھتا تھا اُس نے صرف لالہ دیوٹ کی صحبت کی باتیں سُن کر اُس کے خوش کرنے کے لئے اس میں اُن ملاوی گھراپنے دل میں بہت ہنسنا کہ اُن دیوٹ کی پُتر لینے کے لئے کہاں تک نوبت پہنچ گئی پھر اس کے بعد ہر سنگ تو رخصت ہوا اور لالہ گھر کی طرف خوش خوش آیا اور اُسے یقین تھا کہ اُس کی ہتھی رام دہی بہت ہی خوشی کی حالت میں ہوگی کیونکہ مراد پوری ہوئی۔ لیکن اُس نے اپنے گمان کے برخلاف اپنی عورت کو روتے پایا اور اس کو دیکھ کر تو وہ بہت ہی روتی یہاں تک کہ تینیں نکل گئیں۔ اور چپکی تانی شروع ہوئی۔ لالہ نے حیران سا ہو کر اپنی عورت کو کہا کہ "ہے بھاگو اُن آج تو خوشی کا دن ہے کہ دل کی مرادیں پوری ہوئیں اور بیچ ٹھہر گیا پھر تو روتی کیوں ہے؟ وہ بولی میں کیوں نہ روؤں تو نے سارے کنبے میں میری مٹی پلید کی اور اپنی تاک کاٹ ڈالی اور ساتھ ہی میری بھی اس سے بہتر تھا کہ میں پہلے ہی مر جاتی۔ لالہ دیوٹ بولا کہ یہ سب کچھ ہوا مگر اب بچہ ہونے کی بھی کس قدر خوشی ہوگی وہ خوشیاں بھی تو تو ہی کہے گی مگر رام دہی شاید کوئی نیک عمل کی تھی اُس نے تڑت جواب دیا کہ حرام کے پھر کوئی حرام کا ہی ہو تو خوشی مناوے لالہ تیز ہو کر بولا کہ ہے سے کیا کہہ دیا یہ تو دید آگیا ہے عورت کو یہ بات سُن کر آگ گنگی بولی میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیسا دید ہے جو بدکاری سکھاتا اور نانا کاوی کی تعلیم دیتا ہے یوں تو دنیا کے مذاہب ہزاروں باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں مگر کبھی نہیں سنا کہ کسی مذہب نے دید کے سوا یہ تعلیم بھی دی ہو کہ اپنی پاک عملوں کو دوسروں سے بہتر کراؤ۔ آخر مذہب پاکیزگی سکھانے کے لئے ہوتا ہے نہ بدکاری اور حرام کاری میں ترقی دینے کے لئے۔ جب رام دہی یہ سب باتیں کہہ چکی تو لالہ نے کہا کہ چپ رہو اب جو ہوا سو ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ شریک سُنیں اور میلاک کاٹیں۔ رام دہی نے کہا کہ اسے بیچا کیا ابھی تک تیرے منہ پر باقی ہے ساری رات جو بے شریک نے جو تیرا ہمسایہ اور تیرا پکا دشمن ہے تیری سہروں کی سیاہتا اور عورت کے خاندان والی سے تیرے ہی بستر پر بٹہ کر تیرے ہی گھر میں خرابی کی اور ہریک ہاک حرکت کے وقت جتا بھی دیا کہ میں نے خوب بد لایا سو کیا اس بے غیرتی کے بعد بھی تو جیتا ہے۔ کاش تو اس سے پہلے ہی مرا ہوتا۔ اب وہ شریک اور پھر دشمن باتیں بنانے اور ٹھٹھا کرنے سے کب باز رہے گا بلکہ وہ تو کہہ گیا ہے

کہ میں اس فتح عظیم کو چھپا نہیں سکتا کہ جو تاج و ساواں کے مقابل پر مجھے حاصل ہوئی۔ میں ضرور رام دئی  
 کا سدا نقشہ محسد کے لوگوں پر ظاہر کروں گا سو یاد رکھ کہ وہ ہر ایک مجلس میں تیراناگ کاٹھے گا اور ہر ایک  
 لڑائی میں یہ قصہ تجھے بتائے گا اور اُس سے کہہ تجھ نہیں کہ وہ دعویٰ کر دے کہ رام دئی میری ہی  
 عورت ہے کیونکہ وہ اشارہ سے یہ کہہ بھی گیا ہے کہ آئندہ جی میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ دوں گا لالہ وقت  
 نے کہا کہ نکاح کا دعویٰ ثابت ہونا تو مشکل ہے البتہ یارانہ کا اظہار کرے تو کرے تاہماری اور بھی  
 رسوائی ہو بہتر تو یہ ہے کہ ہم دیش ہی چھوڑ دیں۔ بیٹا ہونے کا خیال تھا وہ تو ایشرنے دے ہی دیا بیٹے  
 کا نام سُکر عورت زہر خنڈہ منسی اور کہا کہ تجھے کس طرح اور کیونکر یقین ہوا کہ ضرور بیٹا ہوگا اول  
 تو بیٹے ہونے میں ہی شک ہے اور پھر اگر ہو بھی تو اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ لڑکا ہی ہوگا کیا بیٹا  
 ہونا کسی کے اختیار میں رکھا ہے کیا ممکن نہیں کہ حمل ہی خطا جانے یا لڑکی پیدا ہو لالہ وقت بولے  
 کہ اگر حمل غلط گیا تو میں کہہ کر سنگہ کو جو اسی محل میں رہتا ہے نیوگ کے لئے بولا لالہ کا عودت نہایت  
 غصہ سے ہوئی کہ اگر کہہ کر سنگہ کسی کچھ نہ کرے گا تو پھر کیا کریگا لالہ بولا کہ تو جانتی ہے کہ زبان سنگہ کی  
 دہلیوں سے کم نہیں اس کو بلا لادوں گا پھر اگر ضرورت پڑی تو جیل سنگہ۔ اپنا سنگہ۔ پڑے سنگہ۔ جیون سنگہ  
 صوبہ سنگہ۔ جیون سنگہ۔ راجن سنگہ۔ رام سنگہ۔ کیشن سنگہ۔ ویال سنگہ سب اس محل میں رہتے ہیں اور نہ  
 اور قوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر میں میرے کہنے پر سب حاضر ہو سکتے ہیں عودت دہلی کہ میں  
 اس سے بہتر تجھے صلاح دیتی ہوں کہ مجھے بلار میں ہی بٹھانے سے تباہی میں کیا ہزاروں لاکھوں آ  
 سکتے ہیں منہہ کا لاجو ہونا تھا وہ تو ہو چکا گیا کہ کہ بیٹا ہونا پھر بھی اپنے بس میں نہیں اور اگر ہو بھی  
 تو مجھے اُس سے کیا جس کا وہ لطف ہے آخر وہ اسی کا ہوگا اور اسی کی خوبوائے گا کیونکہ وہ حقیقت وہ  
 اسی کا بیٹا ہے اس کے بعد آہدی نے کچھ سوچ کر پھر یہ شروع کیا اور وہ دھڑ دھڑنگ آواز گئی اور آواز  
 سن کر ایک پنڈت نہال چند ہم دوڑا آیا اور آتے ہی کہا کہ لالہ شکہ تو ہے یہ کیسی رونے کی آواز گئی۔  
 لالہ تاک کٹا پاتا تو نہیں تھا کہ نہال چند کے آگے قصویان کہے مگر اس وقت سے کہ رام دئی  
 اس وقت غصہ میں ہے اگر میں بیان نہ کروں تو وہ ضرور بیان کر دے گی کچھ کسیلا سا ہو کر زبان دبا کر

کہنے لگا کہ مہاراج آپ جانتے ہیں کہ وید میں وقت ضرورت نیوگ کیلئے آگیا ہے سو  
 میں نے بہت دنوں سوچ کر رات کو نیوگ کر لیا تھا مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے نیوگ کے لئے  
 مہر سنگ کو بلا لیا ہے معلوم ہوا کہ وہ میرے دشمن کرم سنگ کا بیٹا اور نہایت شریر آدمی ہے وہ مجھے  
 اور میری ستری کو خود خراب کر لیا اور وہ وعدہ کر گیا ہے کہ میں یہ ساری کیفیت خوب شایع کروں گا  
 نہال چند لہو کہ درحقیقت بڑی غلطی ہوئی اور پھر لولا کہ وسا قابل تیری سمجھ نہایت ہی افسوس ہے  
 کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ نیوگ کے لئے پہلا حق برہمنوں کا ہے اور غالباً یہ بھی تجھ پر پوشیدہ نہیں ہوگا  
 کہ اس محلہ کی تمام کھترانی عورتیں مجھ سے ہی نیوگ کراتی ہیں اور میں دن رات اسی سبوا میں لگا ہوا  
 ہوں پھر اگر تجھے نیوگ کی ضرورت تھی تو مجھ سے لیا ہوتا سب کام بند ہو جاتا اور کوئی بات نہ نکلتی  
 اس محلہ میں اب تک تین ہزار کے قریب ہندو عورتوں نے نیوگ کر لیا ہے مگر کیا کہی تم نے اس کا ذکر  
 بھی سنا یہ پرہ کی باتیں ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر ذکر نہیں کیا جاتا لیکن مہر سنگ تو ایسا نہیں کرے گا  
 ذرا دو چار گھنٹوں تک دیکھتا کہ سارے شہر میں رام دئی کے نیوگ کا شور و غوغا ہوگا۔ لالہ دیوٹ  
 لہو کہ درحقیقت مجھ سے سلت غلطی ہوئی اب کیا کروں۔ اس وقت شری پٹت نے جو سامعہ نہ  
 ہونے رسم پرند کے رام دئی کو دیکھ چکا تھا کہ جوان اور خوش شکل ہے نہایت بیچاری کا جواب دیا کہ  
 اگر اسی وقت رام دئی مجھ سے نیوگ کرے تو میں ذرا وار ہوتا ہوں کہ مہر سنگ کے فتنہ کو میں نہیں  
 لوں گا اور پہلا محل ایک لگی بات ہے اب بہر حال یقینی ہو جائے گا تب وسا قابل دیوٹ تو اس  
 بات پر بھی راضی ہو گیا مگر رام دئی نے شکر سخت گالیاں اس کو نکالیں تب وسا قابل نے پٹت  
 کو کہا کہ پہلا راج اس کا ہی محل ہے ہر گز نیوگ کرنا نہیں چاہتی پہلے بھی شکل سے کر لیا تھا جس کو  
 یادک کے بنگ روری ہے کہ میرا مشہور لاکا کیا اسی سے تو اس نے جنھیں ماری تھیں جن کو آپ شکر  
 دہ سے لگے تب وہ شہوت پرست پنڈت وسا قابل کی یہ بات سن کر رام دئی کی طرف متوجہ ہوا اور  
 کہا میں سجاگوں نیوگ کو نہ مانوں ماننا چاہیئے یہ دیدا گیا ہے مسلمان بھی تو عورتوں کو طلاق دیتے  
 ہیں اور عورتیں کسی دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں سو جیسے طلاق جیسے نیوگ بہت ایک ہی ہے

۱۸۹۸ء

(الف) "وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّنَا دَوْعَدَ فِي أَنَّهُ سَيَنْصُرُنِي فِي حَشَىٰ سِبْطِ أَمْرِي  
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. وَتَتَمَوَّجُ بِهُوَ الرَّحِيقُ حَتَّىٰ يُعْجِبَ النَّاسَ حَبَابُ  
غَوَارِبِهَا." (تجوید النور صفحہ ۲۶ - روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۴۰۸)

اب: حضرت اقدس امام الزمان سلمہ الرحمن کو اللہ کو یہ کہنے وعدہ دیا ہے کہ  
میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا  
میں دیکھتا ہوں کہ اس مقدس الہام کے پورا ہونے کی بہت سی صورتیں نکلتی آتی ہیں۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۵، مورخہ ۲۶، باب ۲۰، اپریل ۱۸۹۸ء صفحہ ۱۳)

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۳، مورخہ ۲۰، ۲۶، اگست ۱۸۹۸ء صفحہ ۱۳)

۲۱ جنوری ۱۸۹۸ء

"میں نے تہجد میں اس کے متعلق دعا کی تو الہام ہوا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

اب خیال ہوتا ہے کہ وہ الہام جو ہوا تھا کہ

کون کہہ سکتا ہے، اسے مجھلی! آسمان سے مت گر

شاید اس کے متعلق ہو۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۶، مورخہ ۲۳، جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۱)

۱۷ (ترجمہ از مرتب) میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی اور وعدہ فرمایا کہ وہ مجھے مدد دے گا یہاں تک کہ  
میرا کلام مشرق و مغرب میں پہنچ جائے گا اور راستی کے دریا موج میں آئیں گے یہاں تک کہ اس کی موجوں کے  
حباب لوگوں کو تعجب میں ڈالیں گے۔

۱۸ یعنی ایڈیٹر الجسکم۔ (مرتب)

۱۹ یعنی طاعون کے متعلق۔ (مرتب)

۲۰ نواب محمد علی خان صاحب آف دایر کوٹلہ کی ڈائری سے معلوم ہوتا ہے کہ اس الہام کے نزول کی تاریخ ۱۳ جنوری ہے۔  
دیکھئے اصحاب احمد ص ۵۲۵۔ (مرتب)

مثلاً دانت توڑ دے۔ یا آنکھ بھوڑ دے۔ فاس کی سزا اسی قدر بدی ہے جو اس کی۔ لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو۔ کہ اس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو۔ اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے۔ یعنی مثلاً مجرم آئندہ اس عادت سے باز آجائے۔ تو اس صورت میں معاف کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا۔

اب دیکھو۔ اس آیت میں دونوں پہلو کی رعایت رکھی گئی ہے اور عفو اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ سو یہی حکیمانہ مسلک ہے۔ جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے۔ رعایت محل اور وقت سے گرم اور سرد دونوں کا استعمال کرنا ہی عقلمندی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں ڈال سکتے۔ بلکہ حسب موقع گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں۔ اور جاڑے اور گرمی کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں۔ پس اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے۔ ایک وقت رعب دکھلانے کا مقام ہوتا ہے۔ وہاں نرمی اور درگزر سے کام لگنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے وقت نرمی اور تواضع کا موقع ہوتا ہے۔ اور وہاں رعب دکھلانا سفلہ پن سمجھا جاتا ہے۔ غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے۔ پس جو شخص رعایت مصلح اوقات نہیں کرتا وہ حیوان ہے۔ نہ انسان۔ اور وہ وحشی ہے نہ مہذب۔

اب ہم آریہ مذہب میں کلام کرتے ہیں۔ کہ اس میں انسانی پاکیزگی اور انسانی نیک چلنی کیلئے کیا تعلیم ہے۔ پس واضح ہو۔ کہ آریہ سماج کے اصولوں میں سے نہایت قبیح اور قابل شرم نیوگ کا مسئلہ ہے۔ جس کو پنڈت دیانند صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں درج کیا ہے۔ اور وید کی قابل فخر تعلیم اس کو ٹھہرایا ہے۔ اور اگر وہ اس مسئلہ کو صرف بیوہ عورتوں تک محدود رکھتے۔ تب بھی ہمیں کچھ غرض نہیں تھی کہ ہم اس میں کلام کرتے مگر انہوں نے تو اس اصول، انسانی نظرت کے دشمن کو،

نسیم دعوت

۳۲۹

انتہا تک پہنچا دیا۔ اور حیا اور شرم کے جامے سے بالکل علیحدہ ہو کر یہ بھی لکھ دیا کہ ایک عورت جو خواہند زندہ رکھتی ہے۔ اور وہ کسی بدنی عارضہ کی وجہ سے اولاد فریضہ پیدا نہیں کر سکتا۔ مثلاً لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ یا باعثِ رقتِ منی کے اولاد ہی نہیں ہوتی۔ یا وہ شخص کو جماع پر قادر ہے۔ مگر بانجھ عورتوں کی طرح ہے۔ یا کسی اور سبب سے اولاد فریضہ ہونے میں توقف ہو گئی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اس کو چاہیے کہ اپنی عورت کو کسی دوسرے سے ہم بستر کرادے۔ اور اس طرح پر وہ غیر کے لطف سے گیارہ بچے حاصل کر سکتا ہے گویا قریباً بیس برس تک اس کی عورت دوسرے سے ہم بستر ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ ہم نے مفصل کتاب کے حوالے سے یہ تمام ذکر اپنے رسالہ آریہ دھرم میں کر دیا ہے اور حیا مانع ہے کہ ہم اس جگہ وہ تمام تفصیلیں لکھیں۔ غرض اسی عمل کا نام نیوگ ہے۔

اب ظاہر ہے کہ یہ اصول انسانی پاکیزگی کی بیخ کنی کرتا ہے اور اولاد پر ناجائز ولادت کا داغ لگاتا ہے۔ اور انسانی فطرت اس بیخیاہی کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتی۔ کہ ایک انسان کی ایک عورت منکوحہ ہو۔ جس کے بیلہنے کے لئے وہ گیا تھا۔ اور والدین نے صد ہا یا ہزار روپیہ خرچ کر کے اس کی شادی کی تھی جو اس کے تنگ و ناموس کی جگہ تھی۔ اور اس کی عزت و آبرو کا ہمارا تھا۔ وہ باوجودیکہ اس کی بیوی ہے۔ اور وہ خود زندہ موجود ہے۔ اس کے سامنے رات کو دوسرے سے ہم بستر ہو دے اور غیر انسان اس کے ہوتے ہوئے اسی کے مکان میں اس کی بیوی سے منہ کالا کرے۔ اور وہ آواز میں سنے اور خوش ہو۔ کہ اچھا کر رہا ہے۔ اور یہ تمام ناجائز حرکات اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ اور اس کو کچھ بھی خوش نہ آوے۔ اب بتلاؤ کہ کیا ایسا شخص جس کی منکوحہ اور بہروں

✽ مجھے ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں کہ نیوگ میں یعنی اپنی بیوی کو دوسرے سے ہم بستر کر دیا اور صرف گیارہ بچوں تک لینے کا حکم ہے یا زیادہ۔ مدت ہوئی کہ میں نے ستیا رتھ پرکاش میں پڑھا تو تھا مگر حافظہ اچھا نہیں یاد نہیں رہا۔ آریہ صاحبان خود مطلع فرمادیں۔ کیونکہ جو روز کی مشق کرنے کے لئے کو خوب یاد ہوگا۔ منہ



کے ساتھ بیابھی ہوئی بیوی اسکی آنکھوں کے سامنے دوسرے کے ساتھ خراب ہو۔ کیا اسکی انسانی غیرت اس بیبیائی کو قبول کرے گی۔ دیکھو راجہ راجندر نے اپنی بیوی سیتا کیلئے کس قدر غیرت دکھلائی۔ حالانکہ راون ایک برہمن تھا۔ اور سیتا کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اور بموجب اس قاعدہ کے برہمن سے نیوگ جائز تھا۔ تاہم راجندر کی غیرت سنہ اپنی پاکدامن بیوی کیلئے راون کو قتل کیا۔ اور لٹکا کر جلا دیا۔ وہ شخص انسان کہلانے کا مستحق نہیں جس کو اپنی بیوی کیلئے بھی غیرت نہیں۔ اور کیا وجہ کہ اس کا نام دیوت نہ رکھا جاوے۔ حیوانوں میں بھی یہ غیرت مشاہدہ کی گئی ہے۔ پرندوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک پرندہ روا نہیں رکھتا کہ دوسرا پرندہ اس کی مادہ سے تعلق پیدا کرے۔ پھر انسان ہو کر یہ حیوان کی دور حرکت کیا کوئی پاک فطرت اس کو قبول کرے گی۔ اور دیانند کا یہ لکھنا کہ یہ ویدیکی شرقی ہے ہم نہیں قبول کر سکتے کہ ایسی کوئی شرقی وید میں ہوگی۔ نادانوں میں پنڈت دیانند نے جس قدر چالاکیاں مار لیں۔ ورنہ کامل علمی فضیلت حاصل کرنا جو انسان کے دل کو روشن کرتی ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں۔ بعض الفاظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ اور ایک جاہل اپنی جلد بازی اور جہالت سے ایک معنی کو پسند کر لیتا ہے۔ پس ایسا شخص جس میں بلوہ حیا کا کم ہو۔ اُسے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میرا قول شرافت اور طہارت سے بعید ہے۔ مگر اس جگہ طبعا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے قابل شرم امر پر دیانند نے کیوں زور دیا۔ اور کیوں دلیری کر کے یہ گندی تعلیم اپنی کتاب ستیا رتھ پر کاش میں لکھ دی۔ پس جہانتک میں نے سوچا ہے۔ میرے خیال میں اس کا یہ جواب ہے کہ چونکہ پنڈت دیانند تمام عمر مجھ رہا ہے۔ اور بیوی نہیں کی۔ لہذا اس کو اس غیرت کی خبر نہیں تھی کہ جو ایک شریف اور غیور انسان کو اپنی بیوی کی نسبت ہو کر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی نا تجربہ کار فطرت نے محسوس نہ کیا۔ کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ دیانند کو معلوم نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کی نسبت تو کنجروں کو بھی غیرت ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ جو بازاری عورتوں

## قانون دکھائی

وفاقت کے تبدیل ہوتے ہی ولایت کے نامدار سربراہان نے جس زور شور سے قانون دکھائی کو پھیرا کرتے تھے اس سلسلہ میں ان کی یہ ہے وہ نامدار پنڈتوں کی جاکھی ہے۔ کنسرٹو وزارت سے جو سرکاری امیدواران کی رائے کو پیشتر ہی وقت سے دیکھتی ہے امید ہو سکتی ہے کہ بالخصوص وہ اس معاملہ پر بھی طرح خود کرے گی۔ کیونکہ اس قانون کی منسوخی کے وقت سربراہان صاحب کنسرٹو انجینئر فوج ہند نے جو پروردہ مخالفانہ رائے ظاہر کی تھی وہ اس قابل ہے کہ منور کنسرٹو گورنمنٹ اس پر توجہ کرے۔ گورنمنٹ ہند بھی اس قانون کے منسوخ کرنے پر رضامند نہ تھی پس ان واقعات کی روش سے طور پر خیال ہو سکتا ہے کہ قانون دکھائی پھر جاری کیا جائے اس میں شک نہیں ہے کہ قانون دکھائی کے منسوخ ہونے کے دن سے گرن سپاہیوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ کوشش کے بہادر سپاہی ہزاروں میں آتشک کی ریش ہوشہ حور توبہ کے ساتھ خراب ہوتے پھرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ حسب آتشک آہ انجینئر صاحب بہادر بہت خوفناک مٹکنے کی امید ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ سرکاری طور پر اس بات کی خبر نہیں ملی کہ سال ۱۹۶۸ء میں کتنے گورے سپاہی مرض آتشک میں مبتلا ہوئے۔ گورنمنٹ قانون دکھائی نے ہم چھری کی گورہ فوج کی صحت کو دیکھ کر نہایت مسرت ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ میدان قانون دکھائی کی رائے کہ اس قانون کے منسوخ ہونے سے تمام گورے سپاہی مرض آتشک وغیرہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ غلط ٹھہرتی ہے۔ مگر یہ واقعہ اس قابل نہیں ہے کہ جس سے تشفی ہو سکے کیونکہ ہم چھری میں جیدہ اور تندرت جو ہیں بھیجے گئے تھے نیز لڑائی اور جنگی ملک کی وجہ سے وہ کہیں خواب ہو کر بیمار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس امر کا دیکھنا ضروری نہیں کہ گورے سپاہی ہرگز بالکل کم تسلیم یافتہ اور دیہاتی فوجان ہیں نیز بوجہ گوشت خورد ہونے کے وہ زیادہ گرم مزاج کے ہیں۔ اس لئے ان سے فحاشی خواہش روکے رکھنے کی امید رکھنا محض وسائل ہے۔ قانون دکھائی کے جاری ہونے کے دنوں ہر ایک گورے بلٹن کے لئے کسی طور میں ملازم رکھی جاتی تھیں جن کا ہوشہ فاکٹری معائنہ ہوتا رہتا تھا اور تمام گورے لوگوں کو ان ملازم نڈیوں کے علاوہ اور کچھ

جاننے کی بھی شاید مخالفت تھی اس طریق سے ان کی صحت میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ نیز اس طریق کے بند ہونے کی وجہ سے اور بھی کئی ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جن سے اہل ہند کی طرف سے بہت ناہنجی پھیلتی جاتی ہے جن میں سے میانمیر کا مقدمہ ناما بالجبر جو گورہ سپاہیوں کی طرف سے ایک بڑھوت بڑھی اور مذہبی عورت سے کیا گیا تھا۔ قابل غور ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ملاس کے صوبہ میں ہوا جہاں ایک دیوے پھاگ کے چکیدار نے ہندوستانی عورتوں کی صفت پہلنے میں اپنی جان دے دی تھی۔ اگر چندے گورہ سپاہیوں کے لئے انتظام سرکاری طور پر نہ کیا گیا تو حلال اس کے کہ تمام فوج بیماری سے ناکار ہو جائے ملک میں بڑی بھاری بددلی پھیلنے کا اندیشہ ہے اور یہ دونوں امور قسیم سلطنت کے لئے فیر مفید ہیں اس وقت جبکہ قانون دکھائی کو پھر جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں یہ نظر کر دینا بھی نہایت ضروری ہے کہ اگر اب پھر قانون مذکور جاری کیا جاوے تو گورنمنٹ ہند اور خصوصاً کنٹرولر جنٹیل افواج ہند کو یہ بھی ضرور انتظام کرنا چاہیے کہ بجائے ہندوستانی عورتوں کے یورپین عورتیں ملازم رکھی جائیں کیونکہ قانون دکھائی کے متعلق ہندوستانی اور انگریز مخالفین کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ ہندوستان کی غریب عورتوں کو دلالہ عورتوں کے ذریعے سے فحش ملازمت کی ترقیب ہی جاتی ہے اور بعض اوقات نہایت کمینہ فریبوں سے بچے گھروں کی تمیم لڑکیوں کو اس پیشہ کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور یہی وجہ تھی جس سے ہند کے بہت سے باشندگان نے قانون دکھائی کی منسوخی میں مصدول سے بڑھ کر انٹرسٹ لیا تھا۔ کسی معمولی سمے کے آدمی کو بھی ان ہر معاشی حالتوں سے ہرگز بھڑکی نہیں ہو سکتی تھی قانون دکھائی کے نکر اہل کی کوشش محض اسی غرض سے کی جاتی ہے کہ گورن سپاہی کی خواہش انسانی کو پورا کرنے کے لئے سرکاری طور پر انتظام کیا جاوے ورنہ ایسی لوگوں کی بہتری کلاس میں زیادہ بھی خیال نہیں۔ اس لئے اگر مخالفین قانون مذکور کی دلوئی گورنمنٹ کو منظر ہو۔ تو یہی ایک طریق ہے جس سے قانون مذکور کے جاری کرنے کے مقصد مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر حسب تجویز ہمارا کے عدین سپاہیوں کے لئے یورپین عورتیں بہم پہنچائی جائیں تو ان سے مرض آشک کا خدشہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ایک تو یہ سپاہیوں میں مرض مذکور شاید ہو گا ہی نہیں دوم ان عورتوں کو بروقت بھرتی ہونے کے لیے

فی کثرتوں کے ذریعہ شل فوجی سپاہیوں کے ملاحظہ کرایا جاوے گا اس سے فریقین کے مرض مذکور سے پاک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹری معاینہ کی ہمیشہ کے لئے ضرورت ہی نہ رہے گی۔ اس طرح بغیر قانون دکھائی جباری کرنے کے سپاہیوں کی خواہش نفاذی کے لئے عمدہ طور سے انتظام ہو سکتا ہے۔

اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ولایت میں شل ہندوستان کے فاحشہ عورتوں متوجہ ہیں اس لئے گورنمنٹ کو اس انتظام میں ذرا بھی دقت نہ ہوگی بلکہ ہمیں یقین ہے کہ روپ کی تہذیب کبیاں بہادر سپاہیوں کو خوش رکھنے کے لئے نہایت خوشی سے اپنی خدمات سپرد کر دیں گی یہ بات کہ ان عورتوں کے ہندوستان ہٹنے اور واپس لے جانے میں گورنمنٹ کو رقم کثیر خرچ کرنی پڑے گی۔ اس کا ہندوستان کے باشندوں کو ذرا بھی لگنا نہ ہوگا جہاں وہ ملٹری ڈیپارٹمنٹ کے اخراجات کے لئے پہلے سے ہی لاکھوں روپیہ خوشی سے دیتے ہیں اس رقم کے اضافہ سے بھی ہرگز انہیں اختلاف نہ ہوگا بلکہ وہ اس تجویز کو جس سے ہندوستان کی بدبخت عورتوں کی محنت بچے گی اور برٹش گورنمنٹ کے بہادر گروے سپاہی تندرست اور خوش رہ سکیں گے۔ نہایت خوشی سے پسند کریں گے۔

اگر گورنمنٹ بند کو یہ مطلوب ہے کہ ہندوستان کے نوجوان بھی جن میں ایسی بلیٹوں اور رسالوں کے سپاہی بھی شامل ہیں ہتھیاری عورتوں کے ذریعہ مریض ہونے سے بچاؤ میں تو ہم تمام ہندوستان کی فاحشہ عورتوں کے لئے قانون دکھائی کے جاری ہونے کو صدق دل سے پسند کرتے ہیں۔ کسی شریعت ہندوستانی کو ان بیکار فاحشہ عورتوں کے ساتھ جو تمام قسم کے لوگوں کے لئے ہارٹ خرابی ہیں۔ ذرا بھی امدادی نہیں ہو سکتی۔ ہم قبل ازیں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایسی عورتوں کے لئے جنہوں نے اپنے خاندان کے سونے کو خیر یاد کہہ دی ہے قانون دکھائی کی آزمائش ہارٹ شرم نہیں ہو سکتی ہے وہ عورتیں تنہا سے پیسوں میں بھنگی کے ساتھ منہ کالا کرنے کو تیار ہیں۔ معزز ڈاکٹر کے معاینہ سے کب شرم نہ ہو سکتی ہیں۔ بے شک یہ افسوسناک امر ہے کہ عورتوں کی محنت کا مردوں کے ذریعہ امتحان کرایا جائے۔ مگر کیا ہو سکتا ہے ان بے شرم ہرقات عورتوں کے لئے جنہوں نے دنیا کی شرم کو الٹا لٹا کر رکھا ہے حق بات تو یہ ہے کہ قانون دکھائی کی ہندوستان میں سخت ضرورت ہے جب یہ قانون جاری تھا تو ہر

ایک بیکار عورت کو خوف ہونا تھا کہ اگر وہ فحش پیشہ اختیار کرے گی تو اسے قانون دکھائی کی سخت آزمائش بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ بہت سی عورتیں اسی خوف کی وجہ سے اپنی زندگی خواب کرنے سے نکال رہی تھیں۔ اس زمانہ میں جبکہ دکھائی کا طریقہ بند ہے۔ مرض آتشک کے ادویات کے اشتہارات کتب سے شائع ہوتے ہیں۔ جو اس امر کا کافی ثبوت ہیں کہ ملک میں مرض آتشک بہت پھیلا ہوا ہے اول تو ہیں اس خراب فرقہ کے وجود سے ہی سخت اذیتوں ہے مگر ایسے زمانہ میں جبکہ اخلاق اور مذہب کی سخت کمزوری ہو رہی ہے یہ امید کرنا فضول ہے کہ یہ شیطانی فرقہ نیست و نابود ہو جائے گا اس لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کے لئے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس سے یہ اخلاق اور مذہب کو بگاڑنے کے علاوہ عوام کی صحت کو ہمیشہ کے لئے خراب کرنے کے قابل نہ رہ سکیں اور وہ قانون صرف قانون دکھائی ہی ہے۔ ہم نہایت شکر گزار ہوں گے اگر دوبارہ ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جائے گا۔ مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورہ لوگوں کے لئے یورپین منڈیاں ہم پہنچائی جاویں۔ یقین ہے کہ گورنمنٹ ہند اور معزز مہصلان اس معاملہ پر ضرور توجہ اور غور فرمادیں گے۔

دین و دنیا میں ان کی خواری ہے  
عقل و تہذیب سے وہ علی ہے  
ان کی شیطان نے عقل بلدی ہے  
اب تو ناسخ کی پردہ تاری ہے  
وہ تو اک خبیث کی پٹاری ہے  
جبکہ رسم نیوگ جاری ہے  
اس کے نظار میں تو طاری ہے  
آریوں کا اصول بھدی ہے  
بید کے خادموں میں ساری ہے

جن کو رسم نیوگ پیاری ہے  
جس کے دین میں ہے ایسی بے شری  
جن کو آتی نہیں نیوگ سے عدل  
بید کی کھل گئی حقیقت کل  
جس کے ہاٹ یہ گندگی پھیلی  
دوسرا بیاہ کیوں حرام نہو  
کیوں نہ پرشیدہ ہو نیوگ کی رسم  
چکے چکے حرام کروانا  
اوسے یہ خبیث اور بد رسم

وہ اس تخم کی طرح ہے جس نے ہنوز زمین سے کوئی تعلق نہیں کھڑا اور ابھی وہ رحم کی کشش سے بہرہ نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ اندام نہانی میں پڑ کر ضائع ہو جائے۔ جیسا کہ تخم بعض اوقات پتھر کی زمین پر پڑ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ وہ نطفہ بذاتہ ناقص ہو یعنی اپنے اندر ہی کچھ نقص رکھتا ہو اور قابل نشوونما نہ ہو۔ اور یہ استعداد اس میں نہ ہو کہ رحم اس کو اپنی طرف جذب کرنے اور صرف ایک مردہ کی طرح ہو جس میں کچھ حرکت نہ ہو۔ جیسا کہ ایک بوسیدہ تخم زمین میں بویا جائے۔ اور گو زمین عمدہ ہو مگر تاہم تخم بوجہ اپنے ذاتی نقص کے قابل نشوونما نہیں ہوتا اور ممکن ہے کہ بعض اور عوارض کی وجہ سے جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں نطفہ رحم میں تعلق پذیر نہ ہو سکے اور رحم انکو اپنی کشش سے محروم رکھے۔ جیسا کہ تخم بعض اوقات پیروں کے نیچے کھلا جاتا ہے۔ یا پرندے اس کو چمک جاتے ہیں یا کسی اور حادثہ سے تلف ہو جاتا ہے۔

یہی صفات مومن کے روحانی وجود کے اول مرتبہ کہہ میں اور اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ مشورع اور رقت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یاد الہی میں مومن کو میسر آتی ہے یعنی گداز میں اور رقت اور فروتنی اور عاجز و نیاز اور روع کا انکسار اور ایک تڑپ اور تعلق اور تپش اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور ایک خوف کی حالت اپنے پروردگار کے خدائے عزوجل کی طرف دل کو جھکانا جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ یعنی وہ مومن مراد پائے جو اپنی نمازوں میں اور ہر ایک طور کی یاد الہی میں فروتنی اور عاجز و نیاز اختیار کرتے ہیں۔ اور رقت اور سوز و گداز اور تعلق اور قرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ مشورع کی حالت جس کی تحریر کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے روحانی وجود کی تیاری کے لئے پہلا مرتبہ ہے یا یوں کہو کہ وہ پہلا تخم ہے جو عبودیت کی زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ اجمالی طور پر ان تمام قوی اور صفات اور اعضاء اور تمام نقش و نگار اور حسن و جمال اور خط و خال اور شمائل روحانیہ پر مشتمل ہے

جو پانچویں اور چھٹے درجہ میں انسانِ کامل کے لئے نمودار طور پر ظاہر ہوتے اور اپنے کشمکش پر ایسے میں تبدیلی فرماتے ہیں۔ اور چونکہ وہ نطفہ کی طرح روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اس لئے وہ آیت قرآنی میں نطفہ کی طرح پہلے مرتبہ پر دکھایا گیا ہے۔ اور نطفہ کے مقابل پر دکھایا گیا ہے یا وہ لوگ جو قرآن شریف میں غور کرتے ہیں سمجھیں کہ نماز میں خشوع کی حالت روحانی وجود کے لئے ایک نطفہ ہے اور نطفہ کی طرح روحانی طور پر انسانِ کامل کے تمام قوی اور صفات اور تمام نقش و نگار اس میں مضمون ہیں۔ اور جیسا کہ نطفہ اس وقت تک معروضِ خطر میں ہے جب تک کہ رحم سے تعلق نہ پکڑے۔ ایسا ہی روحانی وجود کی یہ ابتدائی حالت یعنی خشوع کی حالت اس وقت تک خطرہ سے خالی نہیں جب تک کہ رحمِ خدا سے تعلق نہ پکڑے۔ یاد رہے کہ جب خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ جو کچھ خدا نے زمین و آسمان وغیرہ انسان کے لئے بنائے یا خود انسان کو بنایا۔ یہ سب فیضِ رحمانیت سے ظہور میں آیا۔ لیکن جیسا کہ کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض میں ہو وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے۔ یہی سنتِ اللہ بنی آدم کے لئے جاری ہے پس جبکہ انسان نماز اور یادِ الہی میں خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے تب اپنے میں رحیمیت کے فیضان کے لئے مستعد بناتا ہے۔ اور نطفہ میں اور روحانی وجود کے پہلے مرتبہ میں جو حالت خشوع ہے صوف فرق یہ ہے کہ نطفہ رحم کی کشش کا محتاج ہوتا ہے اور یہ رحم کی کشش کی طرف احتیاج رکھتا ہے اور جیسا کہ نطفہ کے لئے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش سے پہلے ہی ضائع ہو جائے

پانچوں درجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی وَالَّذِينَ  
 خَشَرُوا مَا تَابَهُمْ وَتَوَلَّوْا وَاَعْتَدُوا لَهَا عَذَابًا  
 اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی وَالَّذِينَ خَشَرُوا عَلٰی اٰصْلُوٰتِهِمْ لِيُحَافِظُوْنَ۔ اور یہ پانچوں  
 درجہ جسمانی درجات کے پنجم درجہ کے مقابل پر ہوتا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے یعنی  
 لَكُنْتُمْ اِلٰهًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ فَتَنَّا اَنْ تَكْفُرُوْا بِالَّذِي كَفَرْتُمْ  
 جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے فَتَنَّا اَنْ تَكْفُرُوْا بِالَّذِي كَفَرْتُمْ۔

ایسا ہی روحانی وجود کے پہلے مرتبہ کے لئے یعنی حالت خشوع کے لئے ممکن ہے کہ وہ رحیم کی کشش اور تعلق سے پہلے ہی برباد ہو جائے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ابتدائی حالت میں اپنی نمازوں میں بدلتے اور وجد کرتے اور نصرتے مارتے اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں اور چونکہ اس ذات خدا افضل سے جس کا نام رحیم ہے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس کی خاص تعلق کے جذبہ سے اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں اس لئے ان کا وہ تمام عموذ و گداز اور تمام وہ حالت خشوع بے بنیاد ہوتی ہے اور بسا اوقات ان کا قدم پھسل جاتا ہے یہاں تک کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔ پس یہ عجیب دلچسپ مطابقت ہے کہ جیسا کہ نطفہ جسمانی وجود کا اولی مرتبہ ہے اور جب تک رحم کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ کچھ چیز ہی نہیں ایسا ہی حالت خشوع روحانی وجود کا اول مرتبہ ہے اور جب تک رحیم خدا کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ حالت خشوع کبھی چیز نہیں۔ اسی لئے ہزار ہا ایسے لوگوں کو پاؤں گئے کہ اپنی عمر کے کسی حصہ میں یاد الہی اور نماز میں حالت خشوع سے لذت اٹھاتے اور وجد کرتے اور بدلتے تھے اور پھر کسی ایسی نصبت نے ان کو کھلا لیا کہ ایک مرتبہ نفسانی امور کی طرف گر گئے اور دنیا اور دنیا کی خواہشوں کے جذبات سے وہ تمام حالت کھو بیٹھے۔ یہ نہایت خوب کا مقام ہے کہ اکثر وہ حالت خشوع رضییت کے تعلق سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے اور قبل اس کے کہ رحم خدا کی کشش اس میں کچھ کام کرے وہ حالت برباد اور تالو ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں وہ حالت جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اس نطفہ سے مشابہت رکھتی ہے کہ جو رحم سے تعلق پکڑنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ غرض روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے اور جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نطفہ ہے باہم اس بات میں تشابہ رکھتے ہیں کہ جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی نطفہ بغیر کشش رحم کے بیک ہے اور روحانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی حالت خشوع بغیر جذبہ رحیم کے بیک اور جیسا کہ دنیا میں ہزار ہا نطفے تباہ ہوتے ہیں

۲۵



کردہ ہیں اس لئے وہ باوجود اپنے طور کے وجود اور رقص اور اشعار خوانی اور سرود وغیرہ کے رحیم خدا کے تعلق سے سخت بے نصیب ہوتے ہیں اور اس نطفہ کی طرح ہوتے ہیں جو آشک کی بیماری یا جذام کے عارضہ سے جل جائے اور اس قابل نہ رہے کہ رحم بھی تعلق پکڑ سکے۔ پس رحم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایک ہی بنا پر ہے صرف روحانی اور جسمانی عوارض کا فرق ہے۔ اور جیسا کہ نطفہ بعض اپنے ذاتی عوارض کی رُو سے اس وقت نہیں رہتا کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے ایسا ہی حالت خشوع جو نطفہ کے درجہ پر ہے بعض اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے جیسے تکبر اور عجب اور دیر یا اند کسی قسم کی ضلالت کی وجہ سے یا شرک سے اس وقت نہیں رہتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے پس نطفہ کی طرح تمام فضیلت روحانی وجود کے اول مرتبہ کی جو حالت خشوع ہے رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے جیسا کہ تمام فضیلت نطفہ کی رحم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے۔ پس اگر اس حالت خشوع کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں لود نہ حقیقی تعلق پیدا ہو سکتا ہے تو وہ حالت اس گندے نطفہ کی طرح ہے جس کو رحم کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یلہا میں جو کبھی انسان کو حالت خشوع میں ملتا ہے اور وہ خود ذوق پیدا ہو جاتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے جیسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفہ کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے بلکہ تعلق کے لئے طہیزہ آثار اور علامات ہیں۔ پس یاد الہی میں ذوق شوق جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں نطفہ کی اس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ جسمانی عالم میں ایک مکمل لذت کا وقت ہوتا ہے لیکن تاہم فقط اس قطرہ منی کا اندر گرنا اس بات کو مستلزم نہیں



شعروں کے سننے اور سرود کی تاثیر سے رقص اور وجد اور گریہ و زاری شروع کر دیتے ہیں اور اپنے رنگ میں لذت اٹھاتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مل گئے ہیں۔ مگر یہ لذت اس لذت سے مشابہ ہے جو ایک زانی کو حرامکار عورت سے ہوتی ہے۔

اور پھر ایک اور مشابہت شروع اور نطقہ میں ہے اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کا نطقہ اس کی بیوی یا کسی اور عورت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نطقہ کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت پکڑ کر رول ہو جانا یعنی نہ رولنے کی صورت پر ہوتا ہے جیسا کہ خشوع کی حالت کا نتیجہ بھی رونما ہی ہوتا ہے۔ اور جیسے بے اختیار نطقہ داخل کر صورت انزال اختیار کرتا ہے۔ یہی صورت کماں خشوع کے وقت رونے کی ہوتی ہے کہنا آنکھوں کے پھلنے اور بیوی انزال کی لذت کبھی عمل طور پر ہوتی ہے جبکہ اپنی بیوی کے ان سے صحبت کرتا ہے اور کبھی حرام طور پر جبکہ انسان کسی حرام کار عورت سے صحبت کرتا ہے۔ یہی صورت خشوع اور سوز و گداز اور گریہ و زاری کی ہے یعنی کبھی خشوع اور سوز و گداز محض خدا کے واحد لا شریک کے لئے ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی بدعت اور شرک کا رنگ نہیں ہوتا۔ پس وہ لذت سوز و گداز کی ایک لذت حلال ہوتی ہے مگر کبھی خشوع اور سوز و گداز اور اس کی لذت بدعات کی آمیزش سے یا مخلوق کی پرستش اور بتوں اور دیویوں کی پوجا میں بھی حاصل ہوتی ہے مگر وہ لذت حرامکاری کے جامع مشابہ ہوتی ہے۔ غرض مجرد خشوع اور سوز و گداز اور گریہ و زاری اور اس کی لذتیں تعلق باللہ کو مستلزم نہیں بلکہ جیسا کہ بہت سے ایسے نطقہ میں جو منافع جاتے ہیں اور ہم ان کو قبول نہیں کرتا۔ جیسا ہی بہت سے خشوع اور تقویٰ اور زاری ہیں جو بعض آنکھوں کو کھوتا ہے اور ہم خدا ان کو قبول نہیں کرتا۔ غرض حالت خشوع کو جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے نطقہ ہونے کی حالت کے جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے ایک کھلی کھلی مشابہت ہے جس کو ہم تفصیل سے دکھانے کے ہیں اور یہ مشابہت کوئی معمولی امر نہیں ہے بلکہ صانع قدیم جل شانہ کے خاص ارادہ سے ان ذہنوں میں اکل اور اتم مشابہت ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ

ایک ہمارے عورت کو خوف ہوتا تھا کہ اگر وہ فحش پیشہ اختیار کرے گی تو اسے تسانوں دکھائی کی سخت آزمائش بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ بہت سی عورتیں اسی خوف کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرنے سے بچ رہتی تھیں۔ اس زمانہ میں جبکہ دکھائی کا طریق بند ہے۔ مرض آتشک کے ادویات کے اشتہارات کٹر سے شائع ہوتے ہیں۔ جو اس امر کا کافی ثبوت ہیں کہ ملک میں مرض آتشک بہت پھیلا ہوا ہے اور اس لیے اس خراب فرقہ کے وجود سے ہی سخت احتیاط ہے مگر ایسے زمانہ میں جبکہ اخلاق اور مذہب کی سخت کمزوری ہو رہی ہے یہ امید کرنا فضول ہے کہ یہ شیطانی فرقہ نیت و تابعد ہو جائے گا اس لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کے لئے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس سے یہ اخلاق اور مذہب کو بگاڑنے کے علاوہ عوام کی صحت کو ہمیشہ کے لئے خراب کرنے کے قابل نہ رہ سکیں اور وہ قانون صرف قانون دکھائی ہی ہے۔ ہم نہایت شکر گزار ہوں گے اگر وہاں ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جاوے گا۔ مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورہ لوگوں کے لئے یورپین انڈیاں ہم پہنچائی جاویں۔ یقین ہے کہ گورنمنٹ ہند اور معتزہ سمیٹلر اس معاملہ پر ضرور توجہ اور غور فرما دیں گے۔

دین دنیا میں ان کی خواری ہے  
عقل و تہذیب سے وہ عاری ہے  
ان کی شیطان نے عقل مادی ہے  
اب تو مانتی کی پردہ عاری ہے  
وہ تو ایک خبیث کی پٹاری ہے  
جبکہ رسم نیوگ جلدی ہے  
اس کے نظار میں تو خواری ہے  
آریوں کا اصول بھدی ہے  
بید کے خادوں میں ساری ہے

جن کو رسم نیوگ پیاری ہے  
جس کے دین میں ہے ایسی بے شری  
جن کو آتی نہیں نیوگ سے عند  
بید کی کھل گئی حقیقت کل  
جس کے باعث یہ گندگی پھیلی  
دوسرا بیابان کیوں حرام نہو  
کیوں نہ پرشیدہ ہو نیوگ کی رسم  
چکے چکے حرام کروانا  
اد سے یہ خبیث اور بد رسم

جس کو دیکھو وہی شکاری ہے  
 اُن کی تاری ہر ایک تاری ہے  
 جس میں واجب حرام کاری ہے  
 شرم و غیرت کہاں تہا ہے  
 ناک کے کاٹنے کی آری ہے  
 کہ یہ پوشیدہ ایک ماری ہے  
 اعتقاد اس پہ بد شعاری ہے  
 سخت جہت اہل نابکاری ہے  
 وہ نہ بیوی زن بزاری ہے  
 جنت اس کی کوئی چماری ہے  
 آریہ دیس میں یہ خواری ہے  
 یہ نہ اولاد قہر باری ہے  
 ساری شہوت کی بیقراری ہے  
 یار کی اس کو آہ و زاری ہے  
 پاک دامن ابھی بچاری ہے  
 اُن کی لالی نے عقل ماری ہے  
 ایسی جہود کی پاسداری ہے  
 سر بازار اُن کی باری ہے  
 وہ نیوگی پہ اپنے داری ہے  
 کس قدر اُن میں مدد باری ہے  
 خوب جہود کی حق گزار ہے

زن بیگانہ پر یہ شیدا ہیں  
 لایق سوختن ہیں اُن کے مرد  
 وہاں کیا وہم ہے کیا ایمان  
 آریہ اول میں غور سے سوچو  
 جس کو کہتے ہیں آریوں میں نیوگ  
 کچھ نہیں سوچتے یہ دشمن شرم  
 ترکیب اس کا ہے بڑا دیوث  
 غیر مردوں سے مانگتا لطف  
 غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے  
 ہے وہ چندال دشت اور پانی  
 ہیں کہڑوں نیوگ کے بچے  
 ناپسی اولاد پر خدا کی مار  
 نام اولاد کے حصول کا ہے  
 بیٹا بیٹا پکارتی ہے خلع  
 دس سے کروا چکی زنا لیکس  
 اللہ صاحب بھی کیسے احمق ہیں  
 گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو  
 اس کے یاروں کو دیکھنے کے لئے  
 جہود بھی پر فنا ہیں یہ جی سے  
 شرم و غیرت ذرا نہیں باقی  
 ہے تو ہی مرد کی تلاش انہیں

فكان بكلماتي يجذب قلوبهم  
 پس وہ میرے کلموں کے ساتھ نکلے دلوں کو کھینچتا تھا  
 واضعني يعضر الماء ماء فصاحة  
 اور اس نے شروع کیا کہ ہر ایک مستعد  
 وكل ادعوا من اسار يروحهم  
 اور ہر ایک نے اپنے چہرے کے نقشوں سے  
 ومن سمع قولنا غير ما قرو فاشتكى  
 اور جس نے میرے قول کے سوا کوئی اور قول سنا۔ پس اس کو گلا گیا جیسا کہ اونٹ بروق کی بوٹی کھا کر زہمت کی شکایت کرتا ہے  
 وكانوا كمحو بعالم يسكتة  
 اور وہ لوگ عالم سکتہ میں محو کی طرح تھے  
 وكم حككم كانت بلغت كلامنا  
 اور بہت سی حکمتیں ہمارے کلام میں تھیں  
 جرائد اقوام تصيدت لذي كرها  
 انہوں نے اخباروں نے اس کا ذکر کیا ہے  
 تری زمر الادباء في اخبارهم  
 تو انکو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اخباروں میں  
 وكانت مضاميني كعقيد بلطفها  
 اور میرے مضامین نازک اندام عورتوں کی طرح تھے  
 ولما راها اهل راعي تمايلت  
 اور جب اس مضمون کو اہل رائے لوگوں نے دیکھا  
 ومتر على الملاعداء بعض رشاشها  
 اور بعض رشاشات اس کے دشمنوں پر گرے  
 الى هذه الايام لم ينس ذكرها  
 ان دنوں تک ان کا ذکر فراموش نہیں ہوا

اليه ولم يسحر ولم يتعلق  
 اور نہ کوئی سحر تھا اور نہ کوئی دیبوتی تھی  
 على كل قلب مستعد مجتفق  
 دل پر جو طیار ہو فصاحت کا پانی گراتا تھا  
 سر راو ذوقا ماينا في التآزق  
 وہ سر دکھتا ہر کیا جو تنگ دل کے منافی تھا  
 كما تشكى ابل عقيب التبرق  
 جیسا کہ اونٹ بروق کی بوٹی کھا کر زہمت کی شکایت کرتا ہے  
 فيا عجبا من ميلهم كالمعشق  
 پس کیا عجیبانہی میل تھی جو عشق کے مانند ساتھ تھی  
 وكم درر كانت تلوح وتبرق  
 اور بہت سے موتی ستارہ کی طرح چمک رہے تھے  
 لمار غبوا في وصف قول كمنشوق  
 کیونکہ انہوں نے ان کے چمنہ اللہ کی طرح میرے قول کی بے رغبتی کی ہے  
 اشاعوا كلامي لانا من كمشوق  
 میرے کلام کو لوگوں میں مشفق کی طرح شائع کیا  
 فاصبت بحسن ثم لحن كيلمق  
 پس میں نے تم پر اس آواز کیسا بولتا رہا کہ تمہاری دل اس کی بولتے ہو گئے  
 عليه عيون قلوبهم بالتومق  
 تو انکے دلوں نے تمہاری آنکھوں کیسی تھام لیا کہ اس طرح تمہارے گہن  
 فنضياتها قد غسل او ساخ خنبق  
 پس انکے آنسو والے قطروں نے تمہارے بچیل کے میلوں کو دھو دیا  
 وكل لطيف لا محالة يسرق  
 اور ہر ایک لطیف ناپا رہیٹہ دیکھا جاتا ہے اور نظروں کی طرف سے ہر ایک

أنت تخارب قدرة أيها الشقي  
کیا تو اسے شقی اس کی قدر سے جنگ کرے گا  
و انا تو کنگنا علی حافظ یقی  
اور میں اس غیبی پر توکل ہی نگہ رکھنے والا ہے

رضیتنا بعشر این قضی او تفنق  
اور ہم تنگدستی پر راضی ہو گئے اگر وہ پہلے اور یا تنہم پہ  
احلقت بجهلك ايها الخول فائق  
یہ تو کلمہ محفل منہ پر لایا پس توبہ کر

فأيدني سرتي معيني موفقني  
پس خدا تو فائق و جندہ نے میری مدد کی۔

فمزقتكم بالله كل الممزق  
پس میں نے خدا کے ساتھ تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا

فيسعني نيرانا و كالبرق يخفق  
پس آگ کو سٹگاتی ہے اور برق کی طرح ہتی ہے

كداب اجار عند موقد مازق  
جیسا کہ لڑائی کے میدان میں عمدہ گھوڑوں کی عادت ہے

كناروما النيران منه بأحرق  
اور آگ اس سے کچھ زیادہ جلائے والی نہیں

يخذرو من المفسدين وينفرو  
مفسدوں کا سرکاشی اور حُبہ کرتی ہے

فتاولني ربي افانين منطقي  
پس میں اپنے رب سے گونا گوں فصاحت کلام دیا گیا

كحجاء و مرقال تزيج و تدبق  
جو اس اور نئی نئی کلموں سے جلد اور ہر ایک لفظی پر مقدم رہتی ہو

اتنكر اية خالق الارض والسماء  
کیا تو خدا کے نشاندہ سے انکار کرے گا

اتذعونا كالذئب يا كلب جيفة  
اے مردار کے گتے کیا تو ہمیں بھیڑیے کی طرح ڈراتا ہے

رضيتنا بريت يظهر الخيرو الهدى  
ہم خدا سے جو خیر اور ہدایت کو ظاہر کرتا ہو راضی ہو گئے

او انت تؤيد فاسقا غير صالح  
کیا تو فاسق ہونے کی حالت میں مدد کیا جائے گا

وانى اذا ما قمت بالله مخلصا  
اور میں جب اخلاص سے خدا کے لئے کھڑا ہوا

وكان لي الرحمن في كل موطن  
اور خدا میرے لئے ہر میدان میں تھا

وأعطيت قلمًا مثل مجمر الوغى  
اور میں قلم لڑائی کے گھوڑے کی طرح دیا گیا ہوں۔

مكز مغز مقبل مذ بز معًا  
حکمت کرنی والے جاکو وائے گے ہونیوالے ویچھے ہونیوالے

وان يراعى صارم يحرق العدا  
اور میرا ظم ایک تلوار ہو جو دشمنوں کو جلاتا ہے

وان كلاهني مثل سيف مقطع  
اور میرا کلام تیغ بران کی طرح ہے

وانى اذا حاولت كلما فصيحة  
اور جب میں نے خدا سے کلمات فصاحت طلب کئے

وأعطيت في سبل الكلام قرينة  
اور کلام کی راہوں میں ایسی طبیعت دیا گیا ہوں

وقد صقلت كل من كمثل سيجل  
 اور میرے کلمے آئینہ کی طرح صاف کئے گئے ہیں  
 لاری عثید اسرار نضض لرمقنا  
 میں دیکھتا ہوں کہ زوم اندام جو میں اسرار کی جہت لئے لکھے ہو گئے ہیں  
 اذ املخرجن من الخبيط بزينة  
 اور جبکہ وہ ہودہ سے زینت کے ساتھ نکلیں  
 اذ اما تجلى حسنهن بنومرا  
 اور جب ان کا حسن اپنے نور کے ساتھ چمکا  
 وقل من الاخذ ان من كان حسنه  
 اور معشوقوں میں سے بہت کم ہو گا جس کا حسن بہار سے  
 فجعلت به ذات الكسور لنا السوا  
 پس ہمارے لئے ان کے ساتھ نشیب فراز کی راہ سیہ چمکائی  
 وليس كشرح الصدار للمرد نعمة  
 اور انسان کیلئے شرح صدر جیسی اور کوئی نعمت نہیں  
 ونفس كموماة السباع مبيدة  
 اور بہت سی نفس ہیں کہ جگمگ کر رہتی ہیں جگمگ کر رہتی ہیں  
 فما خفت صولتهم وحقرت امرهم  
 پس میں ان کے علم کو نہیں ڈرا اور ان کے کاروبار کو حقیر جانا  
 وكائن ترى من مفسد هو صائل  
 اور بہت مفسد تو دیکھ لگا وہ مجھ پر چلا کر رہتا ہے میں  
 تجللت من الرحمن انوار حجتى  
 خدا کی طرف سے میری حجت کے نور ظاہر ہو گئے ہیں  
 سيدنصرني ربي ويعلى عمارتي  
 حقیر بنی اللہ ہے اور میری عمارت کو بلند کرے گا

فترنوا اليها مقلة المتانق  
 پس توجھ کر نیوالے کی نظر اسکو ٹمکنی لگا کر دیکھتے ہے  
 ومن غيرنا يا عدن كالمتابق  
 اور غیروں سے وہ چھیند والیوں کی طرح دور ہو گئیں  
 فاصبي رشاقتهن قلب مرموق  
 پس ان کا حسن اندام دیکھنے والوں کا دل لے گیا  
 فرحلت كجالية ظلام يفسق  
 پس اندھیرائیوں چلا گیا جیسا کہ وہ لگ بولے گئے ہیں اور پھر تھیں  
 كحسن عذارانا وخذ آسراق  
 ان بکرہ مضامین کی طرح ہو گا اور خسار روشن ہونگے  
 وانست وهد الجاثرين كصالح  
 ہم میں غم گزینیوں کے گروہوں کو برابر زمین کی طرح دیکھا  
 ومن اردد الاوقات وقت التازق  
 اور سب قتل سے زیادہ وہی وقت تکمل کا وقت ہے  
 بها الذئب يعوى كالاسير المخنق  
 انہیں بھیڑنا جیسا کہ ہمارے جیسا کہ لوبہ جیسا کہ لوبہ لگا گیا ہو  
 بما صانني ربي بعين التومق  
 کیونکہ خدا نے اپنی محبت کے آنکھ سے مجھ پر پایا  
 علي قيد نعه الحفيظ ويخفق  
 پس ظالم دشمن کو دفع کرے اور اسکو تلامذہ پانہ ملتا ہے  
 فما الخوف ان تعرض وان تتعزق  
 پس کچھ خوف کی جگہ نہیں لگے تکتہ کرے یا بخل کرے  
 فهدا واورضوا من اكف و آشوق  
 پس لگن چھتائیں عمارت کو تمہیں اور پھر تھیں جیسا کہ وہ



چونتیسویں پیشگوئی۔ یہ پیشگوئی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۲ میں درج ہے اور وہ یہ ہے وہ مجھے بہت برکت دیگا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اور اسی کے متعلق ایک کشف ہے اور وہ یہ ہے کہ عالم کشف میں میں نے دیکھا کہ زمین نے مجھ سے گفتگو کی اور کہا یا ربی اللہ کنت لا اعرفک یعنی اسے خدا کے ولی میں تجھ کو پہچانتی نہ تھی۔

پینتیسویں پیشگوئی۔ شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب رسالہ اشاعت السنۃ جو بانی مبنی تکفیر ہے اور جس کی گروں پر نذیر حسین دہلوی کے بعد تمام مکفروں کے گناہ کا بوجھ ہے اور جس کے آثار بظاہر نہایت ردی اور یاس کی حالت کے ہیں۔ اسکی نسبت میں مرتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی اس حالت پر ضلالت سے جو رخ مگیا اور پھر خط اسکی آتھیں کھولے گا۔ واللہ علی کل شیء قدير ۵۰

اور ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں محمد حسین کے مکان پر گیا ہوں اور میرے ساتھ ایک جماعت ہے اور ہم نے، میں نماز پڑھی اور میں نے امامت کرائی اور مجھے خیال گذرا کہ مجھ سے نماز میں غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ظہر یا عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا تھا پھر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے سورہ فاتحہ بلند آواز سے نہیں پڑھی بلکہ صرف تکبیر بلند آواز سے کہی پھر جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد حسین ہمارے مقابل پر بیٹھا ہے اور اس وقت مجھے اس کا سیاہ رنگ معلوم ہوتا ہے اور بالکل برہنہ ہے پس مجھے شرم آئی کہ میں اسکی طرف نظر کر رہا ہوں اسی حال میں وہ میرے پاس آگیا میں نے اس سے کہا کہ کیا وقت نہیں آیا کہ تو صلح کرے اور کیا تو چاہتا ہے کہ تجھ سے صلح کی جائے اس نے کہا کہ ہاں پس وہ بہت نزدیک آیا اور بنگلہ جو لا اور وہ اس وقت چھوٹے بچے کی طرح تھا پھر میں نے کہا کہ اگر تو چاہے تو ان باتوں سے درگزر کر جو میں نے تیرے حق میں کہیں جن سے تجھے دکھ پہنچا وہ شہب یاد رکھ کہ میں نے کچھ نہیں کہا مگر صحت نیت سے اور ہم ڈرتے ہیں خدا کے اس بھاری دن سے جبکہ ہم اسکی سامنے کھڑے ہونگے اس نے کہا کہ میں نے درگزر کی تب میں نے کہا کہ گواہ رہ کہ میں نے

ایک برس تک انتظار کریں۔ اور یا مباہلہ کر لیں۔ ششم۔ اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ کریں تو مجھ سے

کیا تم میں ایک بھی سوچنے والا نہیں جو اس بات کو سوچے۔ کیا تم میں ایک بھی دل نہیں جو اس بات کو سمجھے۔ زمین نے عزت دی۔ آسمان نے عزت دی اور قبولیت پھیل گئی۔

**پانچواں** وہ امر جو مباہلہ کے بعد میرے لئے عزت کا موجب ہوا۔ علم قرآن میں اتنا مہمت ہے۔ میں نے یہ علم پا کر تمام مخالفوں کو کیا عبدالحق کا گروہ اور کیا بطالوی کا گروہ۔ غرض سب کو بلند آواز سے اس بات کے لئے مدعو کیا کہ مجھے علم حقائق اور معارف قرآن دیا گیا ہے۔ تم لوگوں میں سے کسی کی مجال نہیں کہ میرے مقابل پر قرآن شریعت کے حقائق و معارف بیان کر سکے۔ سو اس اعلان کے بعد میرے مقابل ان میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ اور اپنی جہالت پر جو تمام ذلتوں کی بڑ ہے انہوں نے ٹہر لگا دی۔ سو یہ سب کچھ مباہلہ کے بعد ہوا۔ اور اسی زمانہ میں کتاب کرامات الصادقین لکھی گئی۔ اس کرامت کے مقابل پر کوئی شخص ایک حرف بھی نہ لکھ سکا۔ تو کیا اب تک عبدالحق اور اس کی جماعت ذلیل نہ ہوئی۔ اور کیا اب تک یہ ثابت نہ ہوا۔ کہ مباہلہ کے بعد یہ عزت خدا نے مجھے دی۔

چھٹا امر جو مباہلہ کے بعد میری عزت اور عبدالحق کی ذلت کا موجب ہوا۔ یہ ہے کہ عبدالحق نے مباہلہ کے بعد اشتہار دیا تھا کہ ایک فرزند اس کے گھر میں پیدا ہوگا۔ اور میں نے بھی خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اشتہار انوار اسلام میں شائع کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے لڑکا عطا کرے گا۔ سو خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میرے گھر میں تو لڑکا پیدا ہو گیا۔ جس کا نام سقرین احمد ہے اور قریباً پونے دو برس کی عمر رکھتا ہے۔ اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس کا وہ مباہلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا۔ کیا افسردہ ہی اندر پیٹ میں تحلیل پا گیا یا پھر رجعت قہقری کر کے نطفہ بن گیا۔ کیا اس کے سو کسی اور چیز کا نام ذلت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ پورا نہ ہوا۔ اور جو کچھ میں نے خدا کے الہام سے کہا خدا نے اس کو پورا کر دیا۔ چنانچہ ضیاء الحق میں بھی اسی لڑکے کا ذکر لکھا گیا ہے۔

**ساتواں** امر جو مباہلہ کے بعد میری عزت اور قبولیت کا باعث ہوا خدا کے راستباز بندوں کا وہ مخلصانہ بخشش ہے جو انہوں نے میری خدمت کے لئے دکھلایا۔ مجھے کبھی یہ طاقت نہ ہوگی کہ میں خدا کے ان احسانات کا شکریہ ادا کر سکوں۔ جو روحانی اور جسمانی طور پر مباہلہ کے بعد میرے وار وصال ہو گئے۔ روحانی انعامات کا نمونہ میں لکھ چکا

یعنی خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہو اور جس سے

کہ جو اللہ نے مہابہ کے بعد کونسی عزت دنیا میں پائی۔ کونسی قبولیت اس کی لوگوں میں پھیلی۔ کونسی مانی  
فروحات کے دروازے اس پر کھلے۔ کون سی علمی فضیلت کی بگڑی اس کو پہنائی گئی۔ صرف فضول گوئی کے  
طرز سے ایک مہابہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ تا یہی مہابہ کا اثر سمجھا جائے۔ مگر اس کی بدبختی سے وہ دعوے  
بھی باطل نکلا۔ اور اب تک اس کی صورت سکریٹ میں سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔ مگر اس کے مقابل پر  
خدا تعالیٰ نے میرے اہام کو روکا کر کے مجھے لڑکا حلا کیا \*

یہ دوست برکتیں مہابہ کی ہیں جو میں نے لکھی ہیں۔ پھر کیسے خبیث وہ لوگ ہیں جو اس  
مہابہ کو بے اثر سمجھتے ہیں۔ فعلیہ ہم ان پست بتوں اور بیگنوں کی حدیث العشرۃ الکاملۃ۔

بالا تو ہم دہ بد ہر ایک مخالف مکر مذبذب پر نظر کرتے ہیں کہ وہ مہابہ کے میدان میں آویں اور  
یقیناً ہمیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے عبد الحق کے مہابہ کے بعد یہ دس قسم کا ہم پر نعام و اکرام کیا۔ اور اس  
کو قبول کیا۔ اور اس کا بیٹے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ اور کوئی عزت اس کو حاصل نہ ہوئی۔ اور خدا تعالیٰ نے  
اس کے تمام دعویٰ کو رد کیا۔ اس سے بڑے کڑے کڑے مہابہ میں ہو گا۔ میں نے اس روز بد دعا  
نہیں کی۔ کیونکہ وہ نا سمجھ اور ضعیف تھا۔ اور اس کی جہالت اس کو قابل رحم ٹھہراتی تھی مگر اب  
میں بد دعا کروں گا۔ سو چاہیے کہ ہر ایک مہابہ کی درخواست کرنے والا اپنی طرف سے چہا  
ہوا اشتہار شائع کرے۔ اور ضروری ہو گا کہ مہابہ کرنے والا صرف ایک نہ ہو۔ بلکہ کم سے کم  
دس ہوں۔ اور چونکہ مہابہ کے لئے ہر ایک شخص بویا گیا ہے خواہ پنجاب کا ہو یا ہندوستان کا۔ یا  
باز عرب کا یا بلاد فارس کا اس لئے یہ مشقت محافل پر جائز نہیں رکھی گئی کہ وہ دروازہ سفر  
کو کب نہیں بلکہ حسب منطوق وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ یسید اللہ بکم الیسر  
ولا یرین بکم العسر۔ یہ تجویز قرار پائی ہے کہ ہر ایک شخص اشتہارات کے ذریعہ  
سے مہابہ حاصل کرے۔ مگر شرط ضروری ہے کہ جو اہامات میں نے رسالہ انعام اتہم میں  
صفحہ ۱۰۷ سے صفحہ ۱۲۰ تک لکھے ہیں۔ وہ کل اہامات اپنے اشتہاد مہابہ میں لکھے۔ اور بعض حوالہ  
نہ دے بلکہ کل اہامات صفحات مذکورہ کے اشتہار میں درج کرے۔ اور پھر بعد اس کے عبارت ذیل  
کی دُعا اس اشتہار میں لکھے۔ اور وہ یہ ہے

دُعا

اے خداوند عظیم خیر میں جو فلاں امین فلاں ساکن قصبہ فلاں ہوں اس شخص کو

مہابہ کی طرف سے جو اشتہار لکھتا ہے اس کو اس نعمت کی مہابہ کو دیکھنے کی ہوس کے لئے ہر گز نہیں ہے ایک اشتہار دیا ہے اس اشتہار کو جواب میں  
یہ لکھنا چاہئے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے تئیں تیار ہو کر ہے۔ بہت خوب ہی نشان دیکھے

حقیقتہ الہی

۴۴۴

نتمہ

۱۳

نہ اٹھایا مگر پادریوں کی اطاعت کا جو اٹھا لیا۔ پس ان معنوں کے رُو سے بھی وہ اَبتر ٹھہرا۔ پھر جیسا کہ بیان کر چکا ہوں ان معنوں کے رُو سے بھی اَبتر ہوا کہ اُس وقت سے جو اسکی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اِلَّا بِئْرٌ كَرِيْمٌ سے خدا تعالیٰ نے اُسکی بیوی کے رحم پر مہر لگادی اور اُسکو یہ الہام کھلے کھلے لفظوں میں سنایا گیا تھا کہ اب موت کے دن تک تیرے گھر میں اولاد نہ ہوگی اور نہ آگے سلسلہ اولاد کا چلنے گا اور یقیناً اُس نے اس الہام کو توڑنے کے لئے اولاد حاصل کرنے کی غرض سے بہت کوشش کی ہوگی مگر وہ کوشش ضائع ہو گئی۔ آخر نامراد مرا۔ اور اَبتر کے ہر ایک معنی اُس پر صادق آگئے۔ اور دوسری طرف جو میری نسبت وہ بار بار بددعا میں کرتا تھا کہ یہ شخص مفتری ہے ہلاک ہو جائیگا اور اولاد بھی مرگی اور جماعت متفرق ہو جائیگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس الہام کے بعد یعنی اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اِلَّا بِئْرٌ كَرِيْمٌ کے بعد میں لڑکے میرے گھر میں پیدا ہوئے اور تین لاکھ سے زیادہ جماعت ہو گئی اور کئی لاکھ روپیہ آیا اور کئی عیسائی اور ہندو میری دعوت سے مسلمان ہوئے۔ پس کیا یہ نشان نہیں اور کیا یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اور یہ کہنا کہ سعد اللہ کے لڑکے کی عبد الرحیم کی: نتر سے نسبت ہو گئی ہے اور شادی ہو جائے گی اور اولاد بھی ہوگی یہ ایک خیالی پلاؤ ہے اور محض ایک گپ ہے جو ہنسی کے لائق ہے اور اس کا جواب بھی یہی ہے کہ خدا کے وعدے ٹل نہیں سکتے۔ یہ بات تو اُس وقت پیش کرنی چاہیے کہ جب شادی ہو جائے اور اولاد بھی ہو جائے۔ بالفعل تو ایمان داری کا یہ تقاضا ہے کہ اس بات کو غور سے سوچیں کہ جیسا کہ قرآن شریف کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اِلَّا بِئْرٌ

۱۴

کَرِيْمٌ۔ یہ اسی طرح کی امید ہے جیسا کہ عبد الحق غزنوی تمام تہذیبوں کے مبالغہ کے بعد اپنی نسبت مبالغہ کا اثر یہ ظاہر کیا تھا کہ میل بھائی مر گیا ہوا اسکی بیوی سونے نے نکاح کیا ہوا اور اسکو گل ہو گیا ہوا اور اب اسکو لڑکا پیدا ہو گا اور وہ مبالغہ کا اثر سمجھا جائیگا مگر اُس عمل کا انجام یہ ہوا کہ کچھ ہی پیدا نہ ہوا اور اب تک وہ باوجود گذرنے چودہ برس کی عمر دی اور ذات کی زندگی بھگت رہا ہوا اور بخلاف اسکے مبالغہ کے بعد میرے گھر میں کئی لڑکے پیدا ہوئے اور کئی لاکھ انسان نے بیعت کی اور کئی لاکھ روپیہ آیا اور دنیا کے کناروں تک عورتوں کے ساتھ میری شہرت ہو گئی اور اکثر دشمن مبالغہ کے بعد مر گئے اور ہزار ہا نشان آسمانی میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ حسن علی

یہ حوالہ صفحہ 162 پر درج ہے

نتمہ حقیقتہ الہی صفحہ 444 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 444 از مرزا قادیانی



کھے گا۔ درد خود لڑا کے گریز کر سکا رہا ہے۔ کچھ بائیں گے۔ کہ جھوٹا ہے۔ لیکن نعمت اس عذ کوٹن سکتا ہے۔ کہ ایک آدمی کہتا ہے۔ کہ تمہارا دیدنا قس ہے۔ تم یہ احکام دیدے خالد و اگر ناقص نہیں تم یہ جو یہ دیتے ہو میں فرست نہیں۔ دید کہاں موجود نہیں۔ بیلا بجا جو اب ہے اس جواب سے کہ تم جوٹے ٹیرتے ہو۔ میں حالت میں ہم پانسور و پیرہہ تقد و پینا کرتے ہیں۔ ٹونون لکھ دیتے ہیں۔ رجسٹری کر دیتے ہیں۔ تو پھر اگر تمہارا دید بھی کچھ چیز ہے۔ تو کس دن کے واسطے رکھا ہوا ہے۔ اس میں روز کی ہم سے نہلت لے لو۔ پتلت دیا تم کو اپنا مد حار بنا لو ہم کو وہ احکام خالد جو ہم نیچے فرقان مجید سے نکال کر لکھیں گے۔ یا یہ اقرار کرو۔ کہ یہ احکام ہمارے نزدیک ناجائز ہیں۔ تب پھر انکے ناجائز ہر جگہ نمبر اور دید سے حوالہ دو۔ عرض تم ہمارے ہاتھ سے کہاں بھاگ سکتے ہو۔ اور یہ جو تم شخص شرارت سے بارادہ تو میں حضرت خاتم النبیا کی نسبت ہد زبانی کرتے ہو۔ یہ شخص تمہاری باصالی ہے۔ اپنے پر پر میں ہی تم نے اسے ایسی انتساب سے بیرون کی نسبت لکھی ہے۔

ہم کو خدا نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم سید پیغمبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور جیسا کہ خدا نے ہم کو فرمایا ہے۔ نجات سب مخلوقات کی اسلام میں سمجھتے ہیں۔ تم کو اگر حضرت خاتم النبیا پر کچھ اعتراض ہے۔ تو زبان انہدیب سے وہ اعتراض جو سب سے بھاری ہو تحریر کر کے پیش کرو۔ ہم تحریر کر دیجئیں۔ کہ اگر وہ اعتراض تمہارا صحیح ہوگا۔ تو ہمارے دید پر (نستند) ہم تم کو دینگے۔ اور تم ایک ٹونون لکھ دو کہ اگر وہ اعتراض جوٹا نکلا۔ تو سو روپیہ بطور جرمانہ تم کو دو گے۔ اعداب اگر ہاری ہو تحریر کر چپ ہو جائے۔ اس شخص پر بحث شروع نہ کرو۔ تو ہر ایک شخص کچھ جائیگا۔ کہ وہ سب زمین تم نے ایمان سے کی تھی۔ اکثر لوگ کا اکثر قاعدہ ہے کہ تمہارے پر توکتے ہیں۔ اور تمہارا ہوا چراغ لے بیٹھے ہو۔ دنیا کو بڑی چیز بکھکھا ہے۔ کہ سوت سے ڈرتے نہیں۔ درت ایسے آفتاب کی تو میں کرنا جو لڑ دینا کا ہے زنی حرمزدگی ہے۔ جوٹے آدمی کی یہ نشان ہے۔ کہ باہلوں کے دوپرو آہستہ آہستہ گزانتے ہیں۔ مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پچھے کہ ذرا ثبوت دیکر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے۔ وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نیچوہ احکام فرقان مجید کے لکھتے ہیں۔ کہ جن میں ہمارا یہ دعویٰ ہے۔ کہ دید میں یہ تمام احکام ضروری ہرگز موجود نہیں۔ اسلئے دیدنا قس تعلیم ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ میں اللہ ہم کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں اور لعنت اس شخص پر کہ جھوٹا ہے۔

اول۔ خدا تعالیٰ کی نسبت جو احکام فرقان مجید کے ہیں۔ خلاصہ آیات کا نیچے لکھتا ہوں۔

(۱) تم خدا کو اپنے جہوں اور روحوں کا رب سمجھو۔ جس نے تمہارے جہوں کو بتایا۔ اسی نے تمہاری روحوں کو پیدا کیا۔ یہی تم سب کا خالق ہے۔ اس بن کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔

(۲) آسمان اور زمین اور سہارا اور پائند اور پستی نسبتیں زمین آسمان میں نظر آتی ہیں۔ یہ کسی عمل کنندہ کے عمل کا پاداش

کیا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار مکہ کے قریش نے کیا۔  
یودیوں نے کہا کہ یہ وہ مسیح نہیں ہے جس کی آمد کی خبر ہے کہ وہ کسی نیند  
زمانہ میں آویگا۔ بلکہ یہود تو اب تک مسیح کے انتظار میں ہیں۔

اس شخص نے کہا کہ کیا ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم اپنے گریبا  
میں منہ ڈال کر کہو کہ تم اسے قول و فعل کیلئے ملتے جلتے ہیں۔ اس بات پر  
وہ شخص سخت غضبناک ہو کر کہنے لگا۔ دیکھو جی مرزا رات کو لگائی  
سے بدکاری کرتا ہے اور صبح کو بے غسل لوٹا بھرا ہوا ہوتا  
ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا اور وہ الہام ہوا میں  
مہدی ہوں مسیح ہوں۔ مجھ جیسا انسان غیرت مند کبار دار کہہ  
سکتا تھا کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام فدائے جانی و روحی یعنی  
دُائی و ابی کی نسبت ایسا گندہ جلد سن سکے۔ بس میں نے اُسکے ایک  
ایسا حقیر مارا کہ اُسکی ٹوپی گڑھی سنہرے اتر کر دور جا پڑی اور  
کہا لا مرد و دشمن مقبول الہی تو ایسا جملہ ناپاک ایسے صادق مصدق  
ظاہر و مظهر انسان کی نسبت اور میرے سامنے بکتا ہے۔ اور نہیں  
جانتا کہ میں انکا خادم اور مرید ہوں مادر وہ میرے آقا اور مرشد  
اور رہنما ہیں۔ خبر دے جو آج سے میرے پاس آیا۔ اور یا مجھ سے ملائے

۱۵۷ یہ بیسہ وہی الفاظ ہیں جو اس مرد کے منہ سے نکلے ہیں نے  
وہی الفاظ نقل کر دیئے ہیں۔ تاکہ اُس کا انجام سنکر لوگوں کو یہی  
عبرت ہو۔ سنئے

مرد و معین ہو۔ خاوندوں کی حاجت براری کے بارے میں جو عورتوں کی فطرت میں ایک نقصان پایا جاتا ہے جیسے ایام حمل اور حیض نفاس میں یہ طریق بابرکت اس نقصان کا تدارک تام کرتا ہے اور جس حق کا مطالبہ مرد اپنی فطرت کی رو سے کر سکتا ہے وہ اسے بخشتا ہے۔ ایسا ہی مرد اور کئی وجوہات اور موجبات سے ایک سے زیادہ بیوی کرنے کیلئے مجبور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مرد کی ایک بیوی تخییر عمر یا کسی بیماری کی وجہ سے بد شکل ہو جائے تو مرد کی قوتِ فاعلیٰ جس پر سارا مدار عورت کی کارروائی کا ہے بیکار اور مشغول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مرد بد شکل ہو تو عورت کا کچھ بھی سرج نہیں کیونکہ کارروائی کی کل مرد کو دینی ہے اور عورت کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر مرد اپنی قوتِ مردی میں قصور یا عجز رکھتا ہے تو قرآنی حکم کے رو سے عورت اس طلاق لے سکتی ہے اور اگر پوری پوری تسلی کرنے پر قادر ہو تو عورت یہ عقد نہیں کر سکتی کہ دوسری بیوی کیوں کی ہے۔ کیونکہ مرد کی ہر روزہ حاجتوں کی عورت ذمہ دار اور کارِ برار نہیں ہو سکتی اور اس سے مرد کا استحقاق دوسری بیوی کرنے کے لئے قائم رہتا ہے۔ جو لوگ قوی الطاقت اور متقی اور پارسا طبع ہیں ان کیلئے یہ طریق نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ بعض اسلام کے مخالف نفسِ آمارہ کی پیروی سے سب کچھ کرتے ہیں مگر اس پاک طریق سے سخت نفرت رکھتے ہیں کیونکہ بوجہ اندرونی بے قیدی کے جو ان میں پھیل رہی ہے ان کو اس پاک طریق کی کچھ پروا اور حاجت نہیں۔ اس مقام میں عیسائیوں پر سب بڑھ کر افسوس ہے کیونکہ وہ اپنے مسلم الثبوت انبیاء کے حالات سے انکھ بند کر کے مسلمانوں پر ناحق و انتہائی بیسے جاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں کا اقرار ہے کہ حضرت مسیح کے جسم اور وجود کا تخییر اور اصل جڑ وہ اپنی ماں کی جہت سے وہی کثرتِ اندواج ہے جس کی حضرت داؤد (مسیح کے باپ) نے نہ دیکھا تھا نہ تین بلکہ سو بیوی تک زہت پہنچائی تھی وہ بھی ایک سے زیادہ بیوی کرنا نہ کرنے کی بات سمجھتے ہیں اور اس پر خجستہ کلہ کا نتیجہ جو حضرت صلیب



جائزہ کا زمانہ ہے یہ وہی زمانہ تھا اور جس ساعت کے یہ لوگ مختصر ہیں اس کا تو ابھی کہیں پتہ بھی نہیں ہے ایک پہلو سے اول سکا کے وقت یہودیوں نے بد بختی لے لی اور دوسرے وقت میں نساڑی نے بد بختی کا حصہ لے لیا مسلمانوں نے بھی پوری مشابہت یہود سے کر لی۔ اگر ان کی سلجنت یا اختیار ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی سکا والا معاملہ کرتے۔

### نشانوں کے ظہور کا وقت

جس طرح کھاگو بیہینس کا دورہ نکالنا بہت مشکل ہے اسی طرح خدا کے نشان بھی سخت تکلیف کی حالت میں اترتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اِنَّا لَمَذْرُؤُونَ (الشعراء : ۳) وہ ایسا سخت مشکل کا وقت تھا کہ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ان کو موت ہی موت نظر آتی تھی سامنے سنندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس وقت موسیٰ نے جواب دیا كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيَنِي (الشعراء : ۳)

پس ایسی ضرورتوں اور اہلا کے اوقات میں نشان ظاہر ہوا کرتے ہیں جبکہ ایک قسم کی جان کنلی پیش آجاتی ہے چونکہ خدا کا نام غیب ہے اس لئے جب نہایت ہی اشد ضرورت آتی ہے تو امور غیبیہ ظاہر ہوا کرتے ہیں لیکر ام کے قتل کی طرز اور وضع اور وقت اور تاریخ وغیر سب کچھ کس صفائی سے بتلایا گیا۔ مگر بے ایمانوں کے واسطے تموڑا سا شبہ اور ایمان والوں کے واسطے تموڑی سی بات ایمان کے لئے باقی رکھ لی تھی بے ایمانی کی بات ہی ہوئی جو کہا کہ شاید ان کی جماعت میں سے کسی نے اس کو قتل کر دیا ہو۔

(بعد از نماز مغرب)

بعد اوائے نماز مغرب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب معمول اجلاس فرما ہوئے تو قادیان میں جو پوڑھنوں میں چند گوی مر گئے ہیں۔ یہ اس وجہ کہ ان ایام میں انہوں نے کئی ہلاک شدہ بیہینس کھائی تھیں ان کا ذکر ہو کرتے ہوئے آخر طاعون کا تذکرہ ہو پڑا فرمایا :-

خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو

ایک بار مجھے الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہو گا اپنے وعدہ کے موافق اور پھر یہ بھی

تھا۔ "اَلَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ"

بشمیر اور ہندوستان

بشمیر اور ہندوستان

# خطبہ عید الفطر

## خوشی میں غم اور غم میں خوشی کا خیال ہے

حضرت حلیقہ امیر السانی اید اللہ تعالیٰ انظر العزیز

فرمودہ 16 جنوری 1934ء

### زمین و آسمان میں

اس کا مثال میں دی جا سکتی ہے کہ پتے پڑا ہے۔ وہ بھی کڑے سے  
ہی جی۔ پھر وہ کھڑکی میں پڑے گا۔ نام کو پڑا ہوا ہے  
مگر وہ کھڑکی سے نہیں نکلتا ہے۔ وہ بھی وہی ہے۔

### زمین و آسمان میں

یہ کیوں کہ تمام مخلوق کے لئے ہے۔ اس کا کوئی حصہ  
نہیں ہے۔ اس پر سب چیزیں آتی ہیں۔ وہ خود ہی نظر آتا ہے۔  
نہیں صواب سے اور یہ ساق ہے۔ کہہ کر کے کہہ لیں۔  
وہ کاش۔ چلے رہی ہیں۔ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ خود ہی نظر آتا ہے۔  
سے واقف نہ ہو۔ مگر یہ ایک چیز ہی ہے۔ جس کا نام  
ہے کیا ہے۔ اس پر سب چیزیں آتی ہیں۔ وہ خود ہی نظر آتا ہے۔  
یہ کہہ کر کہہ لیں۔ اس پر سب چیزیں آتی ہیں۔ وہ خود ہی نظر آتا ہے۔  
یہ کہہ کر کہہ لیں۔ اس پر سب چیزیں آتی ہیں۔ وہ خود ہی نظر آتا ہے۔

### جسم کا ہر حصہ بالکل نکل گیا

نکل گیا ہے۔ ہر وہ ایک جہاں ہے۔ ہر بندہ مخلص ہے۔ ہر بندہ مخلص ہے۔

سوائے ان کی حالت کے بعد فرمایا۔

اس کا علم اور دوسرے صاحب کی تعلیم میں ایک  
تاجہ الامتیاز

ہو گیا ہے۔ وہ جانتا ہے۔ وہ سب صاحب کی تعلیم میں  
ایک حد تک اشتراک

پایا جاتا ہے۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
یہ کہہ کر کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔

### اجمالی رنگ

یہ کہہ کر کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔

### تخصیصات اور اعلیٰ اہمیت

برور نہیں کہا جاتا۔ کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
کئی فرق ان میں نہیں ہے۔ کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔

پہاں ہلے۔ فوشاہ نکلے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ  
وہ سوائے ان کی حالت کے بعد فرمایا۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔

اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔  
اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔ اس کا نام کہہ لیں۔

روزنامہ دارالامان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 اِنَّا نَحْمَدُكَ اَللّٰهُمَّ وَنُصَلِّیْ وَسَلِّمْ عَلٰی رَسُوْلِكَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ  
 ۲۸  
**فضل**  
**روزنامہ**  
**THE DAILY ALFAZLOQADIAN**  
 قادیان

۲۴ ستمبر ۱۹۳۸ء  
 جمعہ ۲۰ ستمبر ۱۹۳۸ء  
 ۳۱ اگست ۱۹۳۸ء

### البتیج

تہ این ۱۹ اگست، سونا حضرت ابوالحسنین  
 ایچ اشانی ایچ اندھانے پھرہ المیزیک  
 آج پورے شب کی ڈاکڑا روٹ کلہ پھرہ کہ  
 آج کو آج دن بھر کے اور سردی کی عجیب ہی  
 بہت فاقے کے فضل سے طبیعت بھی ہے بہ  
 بہت ام المہین روزا انالی کے متعلق آج کی  
 پہلے پہل ہے کہ حضرت عہدہ کو سردی کی  
 بہت ہے آپ کو بطور علاج سہل دیا گیا ہے  
 ہوا کے وقت کرتے ہیں وہ  
 ہا جزادہ فرنا ظفر احمد صاحب بر سر ایشی لا  
 حضرت ترا شریف احمد صاحب کے متعلق آج  
 ایچ اطلاع معقول ہوئی ہے کہ ان کی صحت بہت  
 بڑے فضل سے آج بھی ہے  
 صاحب مولوی فرقہ ذیل صاحب نامہ بیت المال  
 کے بیٹے احمد کی سزہ نام دی کے لئے سند  
 ہوتے ہیں، ان کی جگہ فاضل صاحب منشی  
 صاحب جائز نامہ ناکریت اعلان کام کر رہے  
 ہوتے ہوتے وینچ کاہرت مولوی کے سلیم  
 گیانی صاحبین صاحب اور مولوی دل محمد صاحب  
 شہر کے جلسے میں شمولیت کے لئے بھیجے گئے ہیں  
 ایچ نہ ہاڑنشا کسہ دار حضرت مولوی دارالامان  
 نے ذکر صیب پر تقریر کی اور حضرت سید محمد  
 کلام کے ذریعے حالات سنائے۔

### ملفوظات حضرت سید محمد علی رضا علیہ السلام

#### اولیاء اللہ کے دشمنوں کے پاس ہشر لفظی و زبان کی قیل و قال نہجانی

انکار اولیاء اور ان سے دشمنی رکھنا اول انسان  
 کو فحش اور دنیا پرستی میں ڈالتا ہے اور خیر اہل جنہ اور  
 افعال صدق اہل صفا میں کیان سے تو حق نہیں لیتا ہے اور  
 پیرانوں سے ایمان کا موجب ہو کر دنیا کی کمال حقیقت اور  
 مغز سے ان کو بے نصیب اور بے بہرہ کر دیتا ہے اور یہی سنی  
 میں اس حدیث کے کہ من عاد اوئیا لی فخذ اوئنتہ الخیر  
 لینے جو میرے دل کا دشمن ہے۔ تو میں اس کو ہتھیوں  
 کہیں اس میری لڑائی کے لئے طیارہ بھیجا۔ اگرچہ اول  
 عداوت میں عداوت کریم درج کے آگے ایسے لوگوں کی طرف  
 کہ تم ہم کو ہشت کا خدا ہو سکتے۔ لیکن جب اس الیہ  
 کی تائید میں چاہوں طرفت نشان کا بھرہ ہے شرع ہویت  
 ہیں۔ اور نہ قلب اس کو ششمت کر لیتا ہے۔ اور اس کی  
 قبہت کی شہادت آسمان اور زمین دونوں کی طرف سے  
 ہے اور جن کا دل کو سنا ہی دیتا ہے۔ لا فخر ہا میں حالت میں  
 میں تم کو عداوت اور ہشت سے باز نہیں آتا۔ ان طریق تقریر  
 کو پہلی اولاد کی ہیکر دل کو شمت کر لیتا ہے۔ اور خدا اور ہشت  
 سے ہر وقت در پھرا رہتا ہے۔ تو اس حالت میں و ہشت  
 نہ کوہ بان کا شمت آجاتا ہے خدا نے بڑا کریم اور بھی  
 وہ انسان کو ہمہ نہیں پڑتا۔ یہی جب انسان خدا کے  
 کرنا کرنا ہے کہ جگہ اور بہر حال اور جگہ

اور اس بات کو جاننا چاہتا ہے جس کو خدا نے نہایت  
 سے عیا کر لیا ہے۔ تو اس صورت میں قوم سے اور حبیب کریم  
 بہت کی بنیاد پڑی ہے۔ عداوت اللہ ہی ہے، کہ وہ ایسے ہشت کا  
 دشمن ہوتا ہے اور سب کے ہوش ایمان اس سے حسین لیتا  
 ہے۔ تب ہم کی طرف صرف لفظی اور زبان کی قیل و قال اس کے  
 پاس نہ جاتی ہے۔ اور جو نیک بندوں کی خداوند کی طرفت  
 اس اور شوق اور توفیق اور بہت اور تہل اور تہل شکر ہوتی  
 وہ اس سے سکوئی جاتی ہے۔ اور وہ خدا کی عبادت کی ایام  
 موجود ہے اس لیے جو کچھ اس کو رفت اور اشراہ اور سب  
 اور خدا کی طرفت جھکنے اور دنیا اور اول دنیا سے بیزاری کی  
 دل میں موجود ہے اور جس طرح سچے ہونے کی سبکداری میں کو آگ  
 کرتی ہے۔ کہ وہ خدا کے ہوا عالمین میں سے بہت ہے ایچ  
 جگہ جگہ اس کے ہاڑے جان رہی ہے۔ اور دنیا میں کی ایچ  
 آگ اس کے اندر بھڑک اٹھتا ہے اور گا۔ اور انہ کی بہت  
 سے اس کو بھی خیال نہیں آتا۔ کہ میں اچھا کر کے دکھا دی  
 نیک اور پاک اور یہ ہے ہوش سے رائے  
 اور اس

اور جسے جو وہ سائق غلط قرار دے رہے ہیں۔ اس نے آپ ہی آپ ایک بات قرآن کریم میں لکھ دی۔ حالانکہ اسے چاہئے تھا۔ وہ ہیے ان سائقوں سے مشورہ لیتا اور دیکھتا کہ سائق کون ہوتا ہے۔ پھر برترین پر تاج تھے اسے قرآن میں نازل کرتا۔ لیکن اس خود اعتراضات کر کے باوجود ہر خط میں بڑا اظہار بھی ظاہر کیا ہوا ہے۔ اور لکھا جاتا ہے۔ ہم سلسلہ کے خادم ہیں۔

اس کی سلسلہ سے محبت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ کہ ایک خط میں جس کے متعلق اس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ اس پر یہ تحریر لیا ہے۔ کہ حضرت سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کی خدمت سے لڑائی کر کے اسے مارا تو اس کی موت ہے۔ اور اس میں حرج کیا ہوا۔

پھر لکھا ہے۔ میں حضرت سید محمد علیہ السلام پر اعتراض نہیں کیا کرتے۔ وہ بھی کہیں نہ لکھا کرتے تھے۔ ہمیں اعتراض پر جو وہ تفسیر کرے۔ کیونکہ یہ اعتراضات لڑائی کا نتیجہ ہیں۔ اس اعتراض سے یہ گمان ہے کہ یہ شخص بھائی ظہیر ہے۔ اس لئے کہ ہمارا حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق اعتقاد ہے۔ کہ اس نے اپنی اللہ سے۔ مگر یہ تو اس بات پر تکیہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو گرفتاری دیتے ہیں۔

تو جب کوئی شخص ایک سہجائی پر اعتراض کرتا ہے۔ اسے لازماً دوسری سہجائیوں پر بھی اعتراض کرنا چاہئے۔ مناصب صائب کو سب سے پہلے میری خلافت پر تعارض نظر آئے۔ اب اس کا مزہ تو ہو گیا۔ کہ حضرت عیسیٰ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا حملہ ہے۔ کیونکہ جس طرف سے ان کا حملہ ہے۔ وہ بھی غلط ہے۔ جس طرف سے یہ کہتے ہیں۔ کہ ان کا لہجہ۔ اور یہ سب غلط ہے۔

ہے۔ کسی انسان نے نہیں بنایا۔ اسی طرح آپ بھی فرمایا کرتے تھے۔ کہ مجھے خلافتِ ظہیر بنایا ہے۔ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں۔ کہ مجھے خلافت سے معزول کرے۔ پھر آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ کہ جو شخص میری خلافت پر اعتراض کرے گا۔ وہ ابلیس بن جائے گا۔ اور جب میں مر جاؤں گا۔ تو پھر وہی کھڑا ہوگا۔ جس کو خدا چاہے گا۔ اور خدا اس کو آپ کو آکر بھیگا۔

پس جب انہوں نے یہی بھی بائیں کہی ہیں۔ تو سزا میں اپنے دل میں سوچنا ہے کہ کتاب ہے۔ اگر حضرت ظہیر اولیٰ کی باتیں صحیح تھیں۔ تو جو وہ خلافت ہے۔ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ خود خلافت قابل اعتراض ہے۔ تو حضرت ظہیر اولیٰ کی خلافت بھی باطل ہے۔ اور چونکہ اس کے دل میں بغض ہوتا ہے۔ اس لئے وہی اعتراض جو وہ کہہ کر تھے۔ حضرت ظہیر اولیٰ پر بھی کر دیتا ہے۔ اور اس طرف ان کی خلافت کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے اور بڑھ کر حضرت سید محمد علیہ السلام کی آن پستھونوں کو دیکھنا ہے۔ جو آپ نے میرے متعلق لکھا ہے۔ آپ کی ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ جو آپ نے میرے لئے اور اپنی باقی تمام اہلداد کے لئے کی ہیں۔ تو اسے کہنا چاہئے۔ کہ میں غلط ہی ہوں۔ وہ پیشگوئیاں سچا اور کچھ ہے۔ یہ وہی نہیں ہوئیں۔ اور دعاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ تو کہا ہے۔ ان حضرت سید محمد علیہ السلام نے دعائیں دیکھ کر انہیں مگر وہ بول نہیں ہوئیں۔ ان کم بختوں کی دعائیں تو لہلہ ہو جائیں۔ لیکن اگر دعائیں قبول نہ ہوں۔ تو خدا کے سچے اور اس کے نبی کی اپنے شعلے تو ان کا یہ دوسرے سے کہ وہ بار بار کہتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے۔ اللہ ہمیں نصیب دے گا۔ اللہ ہمیں کیسنا ہے۔ مگر کوئی سچ بولتا ہی نہیں ہے اللہ ہمارے زبان کے مطابق کتاب اللہ و حال تھا۔ کہ خدا نے اس کی دعاؤں کو نہ مانا۔ وہ سنتا ہے۔ قابل

مناظروں اور بد باظنوں کی۔ بھریا کہنے والا مجھے لکھتا ہے۔ تم جماعت سے نڈر آئے

وصول کر کے اسے قریب کر دیا۔ تم اس وقت یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی تمہارے کہتا ہے۔ کہ میں نے بھی ایک جیسے کا میں اس سے نڈر ہوا تھا۔ میرا طریق ہمیشہ یہ ہے کہ بعض دوست میرے پاس آتے ہزار کہتے ہیں۔ ہم فلاں چیز تمہارے لئے لانا چاہتے ہیں۔ وہ کس ساڑھی ہو۔ مثلاً روٹ کا کیا ساڑھو ہو۔ یا جرابیں کس طرح کی ہوں۔ مگر میں بھی انہیں جواب نہیں دیتا۔ سوائے اس کے کہ بعض نے کوئی پیچھے پر کہ پاؤں کا ناپ لے لے تو یہ دوسری بات ہے۔ درمیان سے کبھی کبھی ایسی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ بلکہ بعض تو کوئی کٹی ٹپ لکھتے ہیں۔ اور جب میں جواب نہیں دیتا تو وہ شکایت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ شاہد میں ان کے خطوط کا اس لئے جو نہیں دیتا۔ کہ اسے آپ کو بڑا لکھتا ہوں۔ حالانکہ میں جواب لکھتا ہوں دیتا۔ کہ یہ بات میری طبیعت کے خلاف ہے۔ اور میں اسے بھی سوال کا ایک نمونہ سمجھتا ہوں۔ ان لوگوں کی دوستی تو بگڑ کر کوئی قسم سے جاسے نہیں اسے دہلی نہیں کرتا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ ایسے کھافت قبول فرمایا کرتے تھے کہ زیادتی ہے۔ کہ بغیر مشورہ نہیں بغیر نفس کی خواہش کے کوئی شخص تمہارے قرائت قبول کرے۔ یہ کہ اللہ تک فیہ اللہ تعالیٰ تمہیں میں برکت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے کھافت قبول کر لیا کرتے تھے۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی کوئی جائداد بھی نہیں تھی۔ پھر آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ایسی صورت میں مجھ پر کیا کوئی اپنی مرضی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیشہ پیش کرتا۔ تو آپ

اسے قبول فرمائیے۔ اور اگر کوئی آپ کو اپنی مرضی سے خدمت کرنا چاہے تو اس کا احسان جتا ہے۔ تو اس کے پاس سے پاس لے کر گئے شخص اللہ کو ہر سکتا ہے۔ اللہ کب اسے کہا گیا تھا کہ کہیں کسی طرف میں پیشہ پیشا رہتا ہوں۔ کہ مجھے کچھ مدت داد۔ اور اگر کوئی مجھ سے کچھ لانے کے لئے چاہتا ہے تو میں اسے جواب نہیں دیتا۔ ایسی حالت میں میری خواہش کے مطابق شخص مجھے تمنا دیتا ہے تو وہ میری مرضی سے دیتا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے نڈر نہ نہیں مانگا۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بلکہ سادہ کی زندگی میں ایک دفعہ بلکہ سادہ کے ایام میں سب کوٹ کے ایک زمیندار دوست نے میرے آدھ پر چوں رکھ دی۔ مجھے یاد ہے۔ کہ اس وقت شرم کے مارے میرا جسم پسینہ پست ہو گیا۔ اور میں اس مجلس سے بھاگا۔ اور سب حاضرین سے علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت سے میں بچا۔ اور وہ چوں کر مجھ کے سامنے بیٹھ کر دلا۔ اور لکھا کہ ایک شخص نے آن میرے آدھ پر چوں رکھ دی ہے۔ اس پر حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس کا لعل اچھا نہیں لگا۔ فرمایا نہیں اس کے بندے کی قدر کرنا چاہئے۔ اس نے جو بچ کر کیا ہے۔ محبت کے ثمرات کیا ہے۔ تمہاری ہنک کر کے کے خیال سے نہیں کیا۔ حدیث میں بھی آیا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کچھ دے۔ تو وہ سب سے زیادہ چنانچہ اب اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کچھ دے دے۔ تو میں سے جتنا ہوں۔ اللہ مانگے کے لحاظ سے کوئی شخص محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی کسی سے کچھ مانگا۔ باقی رہے۔ چنانچہ اگر میں نے اپنے لئے دوستی کے لئے نڈر لے لئے جو کہ نہیں ہو سکتا ہے۔

یہ حوالہ صفحہ 166 پر درج ہے | روزنامہ اخبار الفضل قادیان دارالامان مورخہ 31 اگست 1938ء



جو کہ ایک دوسرے کے قریب ہونے  
 جارہے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے  
 پہ اس طرح گریبے جس طرح کہ جاننا  
 جعتی کے لئے جمع ہوتے ہیں جیسا ایک  
 دوسرے پر کودنے کی کوشش کرتے ہیں  
 تو میں نے دیکھا کہ دوسرے نے اوپر  
 گرنے والے بچھو کو زور سے ڈنگ  
 مارا۔ اور وہ آچھل کر مانتے جا پہنچا۔  
 پھر اس نے دوسرے کی طرف تہہ کر کے  
 پتلی کا شعلہ دکھا اور اس نے تہہ اور  
 دوسرے تک جانا ہے۔ اور دوسرے  
 نے بھی اس کے جواب میں آگ کا شعلہ  
 دکھا اور شروع کر دیا۔ اور وہ دونوں  
 شعلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے  
 ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد  
 تہہ اور تہہ پیدا ہو گئے۔ ان کے  
 قدموں اسی طرح سات آٹھ کر کے قریب  
 پہنچا۔ پھر ایسا نہ سمجھی آگ کے شعلوں  
 سے لڑائی شروع کر دی۔ اور ان کے  
 شعلوں کا نظارہ نہایت سہمت کی گئی  
 ہے۔ دیکھا کہ کبھی م ایک تہہ کے  
 پتلی دکھا، اور آدمی کی شکل اختیار  
 کر لی۔ اور اس نے اس کے طرف  
 پہنچنا شروع کیا جہاں میں بیٹھا تھا  
 میں کھڑا کر وہ اس سے چل پڑا ہوں۔ اس  
 وقت مجھے پیچھے کی طرف سے آواز آئی  
 یہ حضور نہیں کہ وہ نہ تھکتے تو آواز  
 ہے یا کسی کی آواز ہے۔ قرآن پا جو  
 میں تو نہ تھکتے تھے تو میں نے قرآن  
 شروع کیا اور سر ملی آواز سے پڑھنا  
 شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ  
 میری آواز نہایت سرتاز اور بلند ہے  
 اور میں جس طرف سے گذرتا ہوں۔  
 میری آواز پہنچا ہوں اور وہ انہوں میں  
 گونج پیدا کرتی ہے۔ گویا ساری  
 میں پھیل رہی ہے اور جس کے گوشے  
 سادہ آواز پڑتی ہے وہی قرآن کریم  
 پڑھنے لگ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں  
 ہوں اور قرآن کریم پڑھتا ہوں تو  
 جادوں طرف سے قرآن کریم کے  
 کی صدا میں میرے کانوں میں آتی ہے  
 میری آواز کے بعد میں نے محسوس کیا  
 نہ کوئی عورت بھی قرآن کریم پڑھتی

ہوئی میرے پیچھے آ رہی ہے۔ یاد رکھو  
 کہ قرآن ہے۔ رستہ میں کئی ہل آئے  
 ہیں جن کے گریبے نہایت خوبصورت  
 اور جلیساں ہیں۔ اور ان گروں میں  
 خوبصورت گوتھیں اور کرسٹوں  
 ہوں ہیں۔ میں رستہ چلتے ہوئے کسی  
 حجر کو لیک طرف کر کے نہیں گذرنا بلکہ  
 چوپڑے رستے میں آئی ہے (اس کے کبھی  
 تھا) ایک گرنے والے ہوں۔ اور اوپر اور  
 سے گذرے۔ ان کے کئی رستہ تو کئی  
 نہیں کرتا۔ بہت بڑے بڑے ہل  
 میں سے رستہ میں آتے ہیں۔ میں ان کے  
 زخم سے ان کے سائلوں پر پاؤں رکھ کر  
 باکو دکھ کر گذر جاتا ہوں۔ آخر ایک ایسی  
 قدر میں پہنچی ہوں جہاں ایک میدان ہے  
 اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک ماہی  
 جس میں میرے کان ہے۔ میرے پیچھے  
 وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی ہے۔ میں  
 سمجھتا ہوں کہ یہ جنت میں میرے ساتھی  
 رہنے کے لئے آئے ہیں۔ وہ بہت جانا  
 خوبصورت عورت ہے۔ میں اس میں  
 پہنچا ہوں کہ کیا ہوں۔ کہ کیا ہم بھی جنت  
 میں میرے ساتھ رہیں گے۔ اس کے پہنچنے  
 میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔  
 میں نے اسے کہا کہ تمہیں میری ہواؤں کے ساتھ  
 رہنا پڑے گا۔ وہ کچھ حیرت خاطر  
 کرتی ہے کہ جو میں نے کہا تھا ان کے  
 ایک نہیں ہیں۔ اس وقت کچھ میرے  
 دل میں خیال رہا تھا کہ یہ خوبصورت  
 عورت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ  
 جنت میں رہیں گے۔ اور میری آواز ان کی  
 حضور نے حیرت خیز جملہ فرمایا۔ جہاں تک  
 میں نے اس خبر پر غور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ  
 نے اس خواب میں روحانی ظہور کیا ہے۔  
 اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام  
 کو آواز ہے یا شخص یا قرآن سے سواد  
 سے جاوے۔ سواد کی خاصیت یہ ہے کہ وہ  
 جادو کے مشابہت ہے۔ اور اس کی خاصیت  
 یہ ہے کہ وہ سواد سے روکٹی رہتے  
 گو یا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود  
 علیہ السلام کو سواد کہا اور خود جاننا  
 بنا۔ اس طرح عورت مرد سے نطفہ نہیں  
 ہے۔ اور مرد نطفہ دیتا ہے۔ سواد کا لطف

ہے۔ اور چاند کا قائم مقام عورت ہے۔  
 اسی وقت بھی لوگ انہی حضرت مسیح موعود  
 علیہ السلام پر اختراع کیا کہ خود سواد  
 ہے۔ میں اور اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں کہ  
 اور اب میں لوگ اختراع میں کر سکتے ہیں کہ  
 اللہ تعالیٰ کو عورت دیکھا۔ اسلئے  
 ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں  
 دیکھ سکتیں۔ اس لئے وہ خود اپنے تہہ کو  
 زور پر لانا پڑتا ہے۔ اور جس کے زور  
 سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے وہ اجزاء  
 اور ولایت کا زور ہوتا ہے۔ جیسا کہ  
 تاملے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ  
 زہویدرک الایضد۔ انکھیں اللہ تعالیٰ  
 تک پہنچ نہیں سکتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظہور  
 تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حیرت  
 ہر سے میں ہوتا ہے۔ یہی آواز اور اللہ  
 تعالیٰ کے حیرت کو انہوں کے لئے رہتے  
 کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہی انہوں  
 والی نہیں ہوا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی  
 طرف سے۔ اور اس لئے وہ  
 جانتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے راز  
 فرماؤں مخلوق نقلہ نگاہ سے مختلف نام  
 خود اتنا لئے کہ بندوں کو ملے ہیں۔ ایک  
 سے دوسرے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ  
 بندوں دوسری حیرت سے وہ جانتا ہوں  
 ہیں اور اللہ تعالیٰ سواد ہے۔ کوئی  
 نہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لئے قرار  
 کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے  
 اللہ تعالیٰ رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور  
 اور اللہ تعالیٰ کرتے لئے اپنے صفات  
 اور اس کے صفات کے مطابق ظاہر کرنے  
 ہے۔ اس کے لئے کہ ایک رنگ میں خدا  
 تعالیٰ ہر سے بندے کی فرشتہ میں اپنی  
 حق تعالیٰ کر کے دوج کی شکل بتیاد  
 ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ  
 علیہ وسلم نے فرمایا جب ہندہ اللہ تعالیٰ کا تو  
 ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں ہوا ہے۔  
 ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ  
 کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا  
 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے  
 سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس  
 پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا  
 ہے۔ اور جس طرح ہلا کھیر اللہ تعالیٰ

میں کے تابع ہوتی ہیں۔ جب  
 کہ ہے تو وہ بڑے ستمی۔  
 تو وہ نہیں پڑتے۔ اور  
 ہے کچھ تو وہ  
 نہیں دیکھتا جانتا ہوں  
 اللہ تعالیٰ کی صفات  
 میں سلطان ظاہر ہونے لگی ہیں  
 جانتا ہے کہ اس طرح ہوا  
 جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض دفعہ  
 ہے تو وہ کوئی علی جاتا ہے۔  
 ماں بچوں پر حاکم ہوتا ہے۔  
 اللہ تعالیٰ اس طرح  
 ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ  
 ہے ایسے مقام پر پہنچ  
 کہ جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ  
 کر دیتا ہے۔ اس مقام  
 نے اختیار کون کو مقام رکھ  
 اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ  
 کرتا ہے کہ وہ ہے۔ اس لئے  
 صفات میرے تابع کی گئی ہیں  
 کے لئے ہیں۔ خواب میں  
 دیکھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ  
 آئی کہ یہ حیرت انگیز  
 نے حیرت کو پہنچا دیا ہے  
 سے کچھ کا زور ہوتی ہے  
 ہے۔ اور بچھوؤں کے  
 ایک اور نکتہ بھی مل گیا ہے۔  
 اور عیسائی لٹریچر میں ہے  
 کہ دوزخ میں انسان کو بچھو  
 تو اس خواب نے اس کو مل  
 دوزخ میں ہی ایک اور  
 کہ میں گئے۔ اور وہ لوگ  
 طبیعت رکھنے والے ہیں جن  
 ان کو بچھوؤں کی شکل  
 دوزخ میں ہی ہیں۔  
 سے بچھو لا کر نہیں  
 جائیں گے۔  
 اس رویہ میں جاہلیت کے  
 رنگ میں بھی اشارت ہے۔  
 اس عورت سے کہا کہ میری  
 کے ساتھ تمہیں دینا ہوگا۔  
 صامت ہو گئی۔ جنت میں میری

قادیانی غلیفہ مرزا محمود کا خواب مندرجہ روزنامہ الفضل قادیان، 20 مارچ 1947ء، جلد 35، شمارہ 67، صفحہ 2

یہ حوالہ صفحہ 166 پر درج ہے

۱۱۔ کیا حضرت یحییٰ مومنانوں نے بھی کسی کسی کا بائیکاٹ و مقاطعہ کیا۔ یا مخالفین آپ کو ڈکھ و تکالیف دیتے رہے۔ آپ کے راستہ میں یوں کیا کھینچ کر سڑا رہے مام ماموں پر گزرنے سے روکنے سے۔ آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ و مقاطعہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بعض امدیوں کو سرسری لابل میں بڑی بے رحمی سے سخت سے سخت تکالیف لاکھڑے مشق سن کر سسگسا کر کیا گیا۔

۱۲۔ پھر لای حضرت خلیفہ اول نے بھی کسی اپنے ستر ضعیف کا بائیکاٹ کیا یا خلفا و راشدین کے نقش قدم پر چل کر اپنی بریت کرتے رہے۔

بائیکاٹ و مقاطعہ سے اللہ ادا اس کے رسول کی افران لازم آتی ہے اس لئے خدا تقاطع کے ماننے والے تقاراد باطل پوسٹوں کے حربہ اپنے با مقاطعہ کو اختیار نہیں کر سکتے۔

### مسائل طہ جائز ہے

حضرت یحییٰ مومنانوں نے بھی جو اہل بیت خدمت میں ہیں، اس میں زنا کے الزام پر مباہلہ کرنے کی پوری پوری بیعت و مسامتت موجود ہے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ زنا کے الزام لگانے والے خواہ چار گروا کہیں نہ بھی کریں، تو وہ میدان مباہلہ میں نکل آئیں۔ تو ان سے مباہلہ کرنا چاہیے یا پھر صفحہ کا حکم ملاخلف فرمانیجے۔

۱۱۔ مباہلہ صرف ایسے شخصوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع

اور رضی پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو سترسی اور زانی قرار دیتے ہیں۔  
(الحکم ۲۲، ماہ ۱۹)

۲۔ دوم اس مخالف کے ساتھ جو بے جا تہمت کسی پر لگا کر اور اس کو ذلیل کن جا رہا ہے، مثلاً ایک کسٹوں جو برت کو کہتے ہیں کہ میں یقیناً جانا ہوں کہ یہ تہمت زانیہ ہے۔ کیونکہ میں نے کچھ خود میں کو زنا کرتے دیکھا ہے یا مثلاً ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ مجھ خود اسے شراب پیتے دیکھا ہے۔ تو اس حالت میں بھی مباہلہ جائز ہے کیونکہ اس میں کوئی ہتھیادی اختلاف نہیں۔ کیونکہ ایک شخص اپنے یقین اور روایت پر بنا رکھ کر ایک دوسرے کو زنت یقیناً جاتا ہے۔

(الحکم ۲۲، ماہ ۱۹)

۳۔ یہ تو کسی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کہے کہ میں نے اسے کچھ خود زنا کرتے دیکھا ہے یا پھر خود شراب پیتے دیکھا ہے۔ اگر یہی ہے تو زیادہ التواؤ کے لئے مباہلہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟

دینیغ رسالت جلد اول ص ۱۱

### خلیفہ صاحب کی عتباری

خلیفہ صاحب ریوہ لئے جب یہ دیکھا کہ میری بد چینی لا بھارت

جو کہ ہے میری بھارت رہا ہے اند حضرت یحییٰ مومنانوں نے اسلام کے فوجی کی تھی یہی چاہا کہ انہوں کی میں حضرت یحییٰ اور کہیں امدی جماعت کے افراد

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

یہ حوالہ صفحہ 168 اور

۲۵

جیسے مہابلی کے لئے تیار ہی شروع نہ کر دیں۔ خود کہاں ہا کھدستی سے بیتریا  
ہوں جلا کہ جی مہابلی کے لئے تیار ہوں۔ مگر گناہ شخص دعوت مہابلی سے  
ہا ہے۔ اس لئے اس سے مہابلی کا سوال ہی پسید ما نہیں ہوتا۔ اور پھر  
کے انفس میں کہ ایسوں کو روکتے ہوئے مہابلی نہ کہی کہ سزا با اور  
بیل فرمایا۔

کہ جیسے اور سے بے چینی کی ضرورت نہیں۔ میرے لئے مہابلی

تاہی کہ وہی اسی بنا مافظہ کالی ہے۔

(انفس، مہابلی)

انفس ۳۱، روحانی شہدہ میں مہابلی محمد احمد صاحب خلیفہ ربیع نے  
یہ بھی شککہ فرمایا ہے کہ ہر قتل منہ انسان کوہ سکتا ہے کہ گناہ  
شخص سے مہابلی کوہ کر سکتا ہے۔

(انفس، ۳۱، روحانی شہدہ)

مہابلی زیادہ سے بیکری ہو مہابلی پر وہ نہیں کر تھیں۔

جو خود خلیفہ صاحب کو لینے مافظہ یہ ہے۔ بیرون بھی ان کے ہیں  
کہ بات نہیں۔ حفظہ اللہ کہے طہ یہ یاد کوہ تا انصروفی خیال کرتا ہوں۔ باں باہی  
مہابلی ناہی ہیں جی کہ آپ نے ہونہ انفس میں فرمایا تھا کہ بیکری کے مہابلی  
سے پڑنا نہیں کرتیں۔ انفس میں عرض کیا تھا۔ یہ دونوں صورتیں مہابلی ہفت پڑی  
کہوں۔ جو ان کے مہابلی حفظہ ہر ہے اس لئے تم سے مافظہ کیجئے۔

شہادت خدیوہ

فہم شہادت اللہ انک صحت صحیحی

۳۲

# تہج مہابلی

بنام مہابلی

## صدق کذب میں فیصلہ کا اسان طریق

اب نہاں زہد صاحب کا بیان مہابلی بیکری صوفیہ کے شائع کرنے کی عادت  
حاصل کر رہے ہیں، اور مہابلی محمد احمد صاحب ان کی گوہی از خود تسلیم کر چکے ہیں  
اس لئے آپ بیکری تاویلی کے حضرت کسی سے ہر دور کے فتویٰ کی تہج  
میں اس مہابلی کہ قبول فرمائیے۔ "دہابلیہ لیسے لوگوں سے ہونہ  
جو اپنے قول کی قطع اور یقین کی بنا کہ کر دوسرے کو سفتری اور زانی قول  
دیتے ہیں۔" اخبار اکرم



۲۷

کیونکہ آپ مجیب و عزیز تفرقہ انگیز فتویٰ مثلاً یہ کہ تمام روئے زمین کے  
 لوگوں کو مسلمان لائے۔ ان کے پیچھے نماز قطعی سلام ہے۔ ان کے احوال کے  
 معام بہل کا جنازہ تک پڑھنا ناجائز ادا ان سے کثرت۔ و ناظر حرام ہے  
 حاد و فرانسے کی وجہ سے مسلمانوں میں خصوصاً۔ ادا باقی دنیا میں مگر انا لہجرت  
 رکھتے ہیں، آنکھ کا دعوئی ہے۔ کہ آپ خدا کے متوکر و خلیفہ المسلمین  
 ہیں۔ ادا خدا نے ہی آپ کو دنیا کی ہدایت و اصلاح کے لئے اس قدر فرمایا ہے  
 ادا اگر فی زمانہ کوئی اور حانیت کا مہم نوز ادا سلام کا سماحی طہیز  
 ہے۔ تو وہ آپ کی ذات والا صفات ہے۔  
 خلافت آپ کے ان ظہیر طشا ان و عادی نے ایک دنیا کو میریت میں  
 ڈال رکھا تھا۔ لیکن یہ کہہ کر ممکن تھا کہ اس قاعدہ مطبق خیر و عظیم جس سے کوئی  
 نہاں و نہاں فعل پوش بہ نہیں۔ ادا جس نے ابتداء کے عالم سے طوق  
 کو لگایا ہے۔ ان کے سامان پیدا کیے اور بالا خر ہمارے سولے قوا  
 سیدہ کبریٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لئے  
 مبعوث فرمایا۔ کسی ایسے شخص کو زیادہ مہلت دینا جو اس کے ادا کیے  
 ایک دسلی کے اسم کی اڑ میں بندہ گمان خدا کو گمراہ کرے۔ ادا ہو۔ آج اس  
 سبب ادا کے سیدہ کردہ یہ مسلمان ہیں کہ خود خلیفہ قادیان کے شخص  
 مرید آنخاب کے چشمیدہ، مذہب الاہلثات کر ہے ہیں۔ ادا مرصہ سے  
 خلافت آپ کو، ابو پیتر انی بر مخالف کو مبادلہ کے لئے بلا یا کرتے تھے  
 ان سے کشتہ خیال چلن ہو سب ادا کی دعوت دے رہے ہیں

۲۸

مگر آج تک اس در حانیت پائیزگی ادا تعلق بالشرک کے مذہبی کو سیدان  
 میں آنے کی بورت نہیں۔  
 خاکسار اپنے فرض سے کسب کوشش ہونے کے لئے ادا دینا پر حقیقت  
 کو بے نقاب اور مجاہد پروران اسلام کی آکاہی کے لئے بذریعہ اشتہار  
 ہذا اس امر کی اطلاع دینا ہوں۔ کہ یہ عاجز بھی حرمہ سے خلافت آپ  
 کو بھی پہنچ دے رہا ہے کہ اگر ان کی ذات پر حاد کر دہ اذونات خلا  
 ہیں تو وہ میدان مبادلہ میں اگر اپنی روحانیت و صداقت کا ثبوت میں لگ  
 خلافت آپ نے آج تک اس پہنچ کو قبول کیا نہیں کیا۔ آج پھر  
 اتمام الحجت بذریعہ اعلان ہذا میں خلیفہ قادیان کو جس پہنچ دینا ہوں کہ  
 ان کے و عادی میں فترہ صبر بھی صداقت ہے تو اپنے چال چلن  
 پر الزامات کے خلاف دعا سب لہ کر ہی تاکہ فریقین میں سے جو  
 جھوٹا اور لاذب ہو وہ پیچھے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے اور  
 دنیا اس سبب حاد کے نتیجے سے حق و باطل میں فیصلہ کر کے۔  
 کہ یا جس امید کر دل کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت  
 کا دعویٰ کر کے، ادا سلام کے دنوں کو مجہد ذبح کرنے والا ادا  
 تمام زمیندار کی پیش گوئیوں کا مصداق ہونے کا دعوے و ادا اس  
 دعوت مبادلہ کو قبول کر کے اپنی صداقت کا ثبوت دے گا۔  
 ذیل میں یہ عاجز اس سچی کا فتویٰ درج کرتا ہے جس کے قائم  
 مقام ہونے کا خلافت آپ کو دعویٰ ہے ادا میں کو آپ بعداً حضرت

۲۱

اللہ علیہ وسلم طبعی نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تاکہ خلیفہ صاحب یہ کہنے کی جرأت نہ کر سکیں کہ ایسا سب ایک جائز نہیں۔

مباہلہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر دوسرے کو مغزری اور زانی تسلط دیتے ہیں  
 (بخاری الحکم)

خاک خلیفہ قادریوں کا ایک سابق مرید محمد احمد اخبار مباہلہ قادیان

## شہادت نمبر ۲

چونکہ شریعت نے حور تولد کو پسنے کی اجازت ہی ہے اس لئے اس نام کو بے پرو نہیں کہا گیا۔ اس کی فی الحال ضرورت تو نہ تھی۔ لیکن اس خوف سے کہ خلیفہ صاحب کو مثال رسول کا موقع نہ ملے کہ حور تولد کی گواہی کسی کی جس نہیں پاسکے مباہلہ نامی اخبار قادیان میں بیان شائع ہوا ہے وہ ایک احمدی قادیانی خاتون کا ہے۔ وہ پیش خدمت ہے۔

## ایک احمدی خاتون کا بیان

میں بیان صاحب کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اور لوگوں میں میں ظاہر کر دینا چاہتی ہوں۔ کہ وہ کیسی روحانیت رکھتے ہیں۔ میں اکثر اپنی

خاتون مباہلہ قادیان نے ساتھ ہی یہ کلمہ دیا کہ ہاں سے نزدیک قادیانی خاتون کا محبت قابل فاد ہے۔ جو میں نے میں کلمہ دیا ہے۔ اگر خلیفہ صاحب مباہلہ پر آمادہ ہوں تو نام کا اظہار تو کوئی اٹنے بات ہے

۳۰

سستیوں سے نکتا نکتی تھی کہ وہ جیسے زانی شخص ہیں۔ مگر غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ ان کی سوزنا زسوزت اسی کی کشش میں آتے تھے۔ ہرگز یہ اجازت نہ دینا تھی کہ ان پر ایسا التزام لگا یا جاسکے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے والد صاحب نے جوہر کام کے لیے حضرت سے اجازت حاصل کیا کرتے تھے انہیں سخت غصہ اٹھ گیا ہے۔ ایک رفقہ حضرت صاحب کو پہنانے کے لیے دیا۔ جس میں اپنے ایک کام کے لیے اجازت مانگی تھی خیر میں رفقہ کرتی تھی۔ اس وقت میں صاحب نے سلطان اقصیٰ خان سے اپنی بیگم سے کہا کہ ایک لڑکی لی جو وہاں تک میرے ساتھ آتی ہیں بیگم سے۔ میں نے اپنے ہر پہر ایک لڑکی لی جو وہاں تک میرے ساتھ آتی تھی۔ اور ساتھ ہی واپس آگئی۔ چند دن بعد مجھے میرا ایک رفقہ لے کر جانا پڑا۔ اس وقت بھی وہی لڑکی میرے ہمراہ تھی۔ جو نکاح میں نہ رہی تھی صاحب کی نسبت کا وہ میں نہیں تو وہی لڑکی کو کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں پہلی رہ گئی۔ میں نے رفقہ پیش کیا۔ اور جواب کے لیے عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم کو جواب دے دوں گا۔ مگر نوبت۔ باہر ایک دو آدمی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے مل آؤں۔ مجھے یہ کہہ کر وہاں سے گئے۔ باہر کی طرف چلے گئے اور چند منٹ بعد پیچھے کے تمام کمرے کو تھکا لگا کر غصہ داخل ہوئے اور اس کا بھی باہر والا معاذہ بند کر دیا اور کھینچا لگا دی۔ جس کمرے میں بیگم تھی وہ اندک کا چوٹا کمرہ تھا۔ میں یہ حالت دیکھ کر سخت گھبرائی اور طرح طرح کے خیال ذہن میں آنے لگے۔ آخر یہاں صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ شروع کی اور مجھ سے بڑا نفس کروانے

۳۱

کو کہا۔ میں نے انکار کیا۔ آخر بڑے کچھ نہیں نے مجھے پٹنگ پر لڑا کر میری عزت برباد کر دی اور ان کے منہ سے اس قدر بولے تھے کہ مجھ کو چل گیا اور وہ گھٹکے بھی ایسی کرتے تھے کہ بازاری آدمی بھی ایسی نہیں کرتے تھے کہ مجھے لوگ شرمناک سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پی بو۔ کیونکہ ان کے ہونٹا چوڑے تھے۔ جی دنت نہیں تھے۔ مجھ کو دھمکایا کہ اگر کسی سے ذکر کیا تو تہا رہی بڑی ہونگی۔ مجھ پر کوئی شک بھی نہ کرے گا۔

اور حضرت مرزا غلام احمد ربیع سوم کی قریب میں مرزا محمد باصحاکی تصویر

### شہادت نمبر ۳

خاکسار پرانا قادیان ہے اور قادیان کا ہر فرد بدتر ہے خوب جانتا ہے، ہجرت لا شوق ہے جسے مانسٹ گیری کا۔ اور میں قادیان ہجرت کر آیا قادیان میں حکومت اختیار کی۔ خلیفہ قادیان کے حکم تھا۔ میں بھی کچھ عرصہ لاکر گیا۔ مگر دل میں آرزو آزاد مدد کار کی تھی اور اخلاص مجھ کو کرتا تھا کہ اپنا کاروبار شروع کر کے خدمت میں جانا ہوگی۔ چنانچہ خاکسار نے امدید دیا مگر کے نام ایک دعا خانہ کھولا۔ میں نے اس کے ہاتھ ہاتھ جوڑا اور اخبار اضل میں شائع ہوتے رہے۔ مگر میں یہ کہوں تو بھلا ہوگا کہ قریب قادیان کی ہدایت میری شخصیت کو زائل کرنے کا باعث ہوئی مدد مگر میں اور قادیان جا نہیں کی مگر دور دور ہی رہتا۔ تو آج مجھے اس جھلمائی

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

کے ایکڑوں کے تربیت سازوں کا اگستاف نہ ہوتا۔ یا اگر میں خاص تالیان میں اپنا سکان بناتا یا خلیفہ قادریان کا ملازم ہو جاتا۔ تو جس جیسے آج اس اعلان کی جرأت نہ ہوتی.....

خاکسار و شیخ شائق احمد۔ احمدیہ دوا گھر تالیان

### شہادت نمبر ۴

میں خدا تعالیٰ کو حاضر زناظر جان کر اسی کی قسم کھا کر میں کی حیوانی قسم کھاتا لعینوں کا کام ہے۔ یہ شہادت دیتا ہوں۔ کہ میں اس مکان اور بیٹھن پر ہوں۔ کہ موجودہ خلیفہ مرزا محمود احمد۔ دنیا ناپسند ہیں اور ہمیشہ پرست انسان ہے۔ میں ان کی بیعتی کے متعلق خاندان خدا خواہ نہ ہو سہو ہو یا بیت اللہ شریف یا کوئی اور۔ تقدس مقام ہو۔ میں حلف کج بختاب اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار ہوں۔ اگر خلیفہ صاحب مباہلہ کے لئے نکلیں۔ تو میں مباہلہ کے لئے حاضر ہوں۔

یہ الفاظ میں نے ملی ارادہ سے کھائے ہیں۔ تاکہ دوسروں کے لئے ان کی حقیقت کا انکشاف ہو سکے۔ والسلام

خاکسار  
( ڈاکٹر محمد عبداللہ بنگھوں کا سپتال تالیان حال لاہور )

شہادت نمبر ۵

### حلفیہ شہادت

میں خدا کو حاضر زناظر جان کر اس کی قسم کھا کر یہ تحریر کرتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ مرزا محمود بنیا دار و پیش پرست اور بدترین انسان ہے۔ میں ہر وقت اس سے مباہلہ کے لئے تیار ہوں

سکرن اللہ بخش اھلکی تالیان

### شہادت نمبر ۶

علیم صاحب ڈاکٹر عبداللطیف صاحب مرحوم پر زلف خلیفہ بریلوی نے کہا کہ مرزا محمود احمد خلیفہ ربوہ، بدترین، زنا کار انسان ہیں۔ میں نے ان کو خود زنا کر کے دیکھا۔ اور میں اپنے دونوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود بعدیہ حلف اٹھاتی ہوں۔

### بے خوف مجب باہل

خان عبدالرب خان صاحب بریلوی صدر انجمن کے ذمہ داریت انماں میں کام کرتا اور حضور خاندان اللہ کی کوئی قسم کے ایک حصہ میں، بائیں ہاتھ سے آپ نے مرزا محمود کی پیشرو کا دودھ بھی پیا ہوا ہے۔ اس سے آپ تہرے مراسم کا اندازہ لگا لے۔ باوجود اس قدر گہرے تعلقات کے جب تم کی بات لاہور آیا حق کو مقدم کر کے خدا کو خوش کر لیا۔

۳۳

نبردالغہ... چنے کو آپ نے ایک شخص قادیانی دوست کو مرزا شہزاد احمد صاحب خلیفہ قادیانی کے حضور رخصتی حقائق سنانے کس نے یہ کہہ دیا۔ اہل شکایت کے چند محفلے بعد۔ مرزا ابیشیر احمد الہی کے پاس سے آپ کی طبیعت کے واقعات سن کر مجھے حیرت کر دیا۔

مرزا ابیشیر احمد صاحب کے دل میں خیال آیا اب میں کاسم نہ گیا۔

مرزا ابیشیر احمد صاحب کے دل میں خیال آیا اب میں کاسم نہ گیا۔ ان کے ایک آدمہ گھنٹہ بعد برہم صاحب کو قہر خلافت میں مرزا محمود احمد صاحب نے بلایا جب آپ وہیں گئے تو وہ شخص احمدی بدعت بھی سرحد تھا اور خانہ صاحب برصوف کے والد محترم بھی وہی تھے اور وہ بین تنخواہ دار ایکٹ بھی تھے اور سب کو اکٹھے کرنے کا سلیب یہ تھا تا کہ سب ڈال کر ستن کو بدلا جاسکے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ صاحب نے جب خانہ صاحب برصوف سے دریافت کیا تو اس نے صرف مجاہدے کہا جو کہ میں نے آپ کے بدعتی کے متعلق ان صاحب سے کہا وہ صرف بروت درست ہے۔ آخر جب کام نہ بنا تو کھڑے ہو کر خلیفہ صاحب نے احسان گھنٹے شروع کر دیئے۔ اندر سے ہی یہ کہا کہ تم نے میری آہیرو کا درد بھی پایا ہوگا۔ خاں صاحب کو خوف نہ تھا کہ یہ بدعت ہے۔

۳۵

لیکن یہ حق کا معاملہ ہے۔ دنیا داری کے مقابلہ میں حق عقہم ہے اور اہل حق کے لئے ہم نے حضرت یحییٰ کو وطیر اسلام کو ناما ہے۔ اس لئے آپ نے قہر خلافت سے آگرا زور دینے سے طہدگی کا اعانہ کر دیا۔ آپ نے ایک کتاب بلانے و حق بھی لکھی ہے جس میں حضرت یحییٰ کو وطیر السلام کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ خلیفہ قادیانی غیر صالح ہے۔ اس کا ہتھیار اس کتاب کے ختم پھلا ہنگامہ ہے۔ خانہ صاحب کا ملفیہ بیان درج ذیل ہے۔

شہادت نمبر ۱  
حلفیہ شہادت

میں شرمی طہد پر پورا ملینان حاصل کرنے کے بعد خدا کو حاضر بنا کر جان کر یہ کہتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب یعنی مرزا محمود احمد کا چال چلن نہایت خراب ہے اگر وہ سابلہ کے لئے آوازی کا اظہار کریں اور میں خدا کے فضل سے ملنے کے وقت سابلہ کے لئے بوقت تیار ہوں۔

عبدالرب خاں برہم

شہادت نمبر ۲  
حلفیہ شہادت

میری قادیانی جماعت سے ملنے کی کے جو بات نہ بدو گے دلائل و کے برابر ہیں ایک وجہ اظہر منابہ خلیفہ صاحب کی سبیا و کاریاں اور بندیاں

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

ہیں یہ حقیقت ہے کہ خلیفہ صاحب مقصد اور پاکیزہ انسان نہیں۔ کوئی نہایت  
 ہی کسی بار اور بدکار ہے۔  
 مگر خلیفہ صاحب اس امر کے تصنیف کے لئے مہذب و کمال چاہتے تھے۔  
 طیب خاطر مہربان پہلو ہیں آنے کے لئے تیار ہوں۔ فقط  
 دھمک اور جتن دشمن فاروق سابقین سے جو امت محمدیہ (کا وہاں)

شہادت خبر  
 حلقہ شہادت

ہیں مذاق اعلیٰ کو حاضر زمانہ زبانوں کی قسم کھا کر مسیح کی جھوٹی  
 قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ہندو پر زلی جہادت گستاخوں بیان کیا ہے  
 میری والدہ نے کہ میں حضرت خلیفہ مرزا گورداس صاحب کے  
 بھائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب ہوں ناہرم بھائیوں پر  
 عمل کسب ہر قسم کر کے نہیں کیا۔ کیا کہتے تھے۔ میرا آپ بانی کو کئی جگہ  
 سے اترتے لائے۔ تب ہی انہیں بھروسہ ہوئی تھی۔  
 ۲۔ ایک دفعہ حضرت صاحب کے گھر میں کسی صاحب پر سر پر کا تھی  
 کہ اوست سے حضرت صاحب انہیں میر جیوں پر اتنے آسے تھے۔ جس کا  
 میرے مقابل بیٹھے۔ تو انہوں نے میری چھائی کھائی۔ میں نے زندگی  
 چھوڑی۔  
 خاکسار۔ علی حسین

شہادت نمبر ۱۰

جناب ملک مزین الدین صاحب جرنل بلوچ کی اجمیر حقیقت پسندی  
 ہو جو قادیان جہاد کے شہر و معروف مکرّم مبلغ ملک عبدوڑی صاحب غلام  
 گورانی صندھ اسماء پاک کے حکم کے حقیقی بانی ہیں آپ وقت نہلی ہو کہ وہاں  
 حرم تک قیام نہ کر سکتے اور دفتر انورٹیکٹ کی ہیں بلوچ میرزا بخت کے  
 فرزند سردار غلام سید سے لے کر آپ فلاحی انکشاف کے پانچ ہیں خصوصاً  
 کہ شہادت جتنی قدرت ہے۔

حلقہ شہادت

ہیں اس قبلہ خدا کی قسم کھا کر میں کی جھوٹی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم  
 بیان کرتے ہیں کہ ہاکر خلیفہ احمد صاحب ریاضی دانف زندگی پر وہ حال  
 واداری نے میرے سامنے میرے لائق لائق اور پرکری ایک بیٹھا تھا  
 بیان کئے۔ جس سے خلیفہ صاحب ربہ کھلا دل و جہد کار ہونے لائیں اور  
 ۴۔ اس نے میرے اہل و عیال کو کھانے پلانے سے روک دیا۔ میری دیکھ کر  
 برابر میری بیویوں کے باقاعدہ پر درگرم کے تحت ہونا ہی کہنے ہیں  
 ٹاکسٹ صاحب نے مزید فرمایا کہ میں نے اس تمام بیماری کو کھڑا کر دیا  
 مگر وہ کس نے فرمایا کہ صاحب بیان میں زبان مذکورہ باور سے ہرگز  
 کہیں۔ تو ہم ان سے حلقہ شہادت لاسلامیہ کر کے لائیں۔

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتان

۳۸  
مجھے یہ جو خلیفہ صاحب کے دفتر پہنچا سیکرٹری میں بطور پزیرائی لکھ کر  
لا کر گئے اور خلیفہ صاحب کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں بھی  
خلیفہ صاحب سے اس ضمن میں امداد کے جوئے دینی صلح برمودہ کے بارے  
میں تبادلہ کرنے پر وقت تیار ہوں۔ نقد

شہادت نمبر ۱

### حلقہ شہادت

مگر چ میں نے خلیفہ صاحب... ۲۰۰۰ ملازم پورا کر دیا ہے۔ ہر گز  
بچہ کہ ان تحریروں میں کسی نفس کا جو ارتکاب نہیں۔ میں ممکن ہے کہ یہ  
کہیں کہ میری زنا کا۔ یہی کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس لئے سب اہل نہیں  
کر سکتے۔ وقت کی بھٹ کی خاطر محمد یوسف صاحب ناز کا بیان میرے  
خانہ کا ہے۔ محمد یوسف ناز کا حلقہ بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ آذَانَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ  
مُتَشَكِّكُ أَنْ يَأْتِيَكَ اللَّهُ وَتَكُونَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ تَأْتِيكَ وَأَنْ  
مُتَشَكِّكُ أَنْ يَأْتِيَكَ اللَّهُ وَتَكُونَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ تَأْتِيكَ وَأَنْ

میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی اور خاتم النبیین

۳۹  
ہیں۔ اہل اسلام کا مذہب ہے۔ نبی اہدیت کو برتن سمجھتا ہیں اور حضرت نوح  
علیہ السلام کا وہابی طریقہ اسلام کے ذمہ دار ہیں۔ اہل سنت و جماعت  
ہیں۔ اس کے بعد میں مگر مذہب صحت اٹھاتا ہوں۔  
— میں اپنے طریقہ پر اور دعوت میں اور انگوٹوں دیکھی بات کی بنا پر  
کو حاضرینا طرمان کر کے ایک ذات کی تم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ سزا بے سزا  
محمدی اور خلیفہ رولہ نے خود اپنے سامنے یہی زبانی کے ساتھ خلیفہ رولہ سے  
زنا کر دیا۔ اگر یہی اس صفت میں بھی ہوتا ہوں۔ تو خدا کی لعنت اور عذاب بھی  
پر نازل ہو۔ اس بات پر سزا بے سزا رولہ کی نمود اور اس کے ساتھ بالقرآن صفت  
اٹھانے کو تیار ہوں۔

وخط محمد یوسف ناز صوفیہ برہنہ اور ترقی کے لیے لوائے نہ مستقب قاریا  
بولی کر دی اور حضرت ناز علیہ السلام اور شیخ محمد رولہ کی تحریر میں سزا محمد رولہ  
کی تصویر

### شہادت نمبر ۱

خلیفہ صاحب کے ریش کاروں کو شک ہے میں اٹھتا ہوں بڑے گئے تھے  
میں ناضل بل حضرت شیخ محمد رولہ صاحب مدنی صوفی ناضل بی لئے کامل  
ہیں۔ ان کے پاس کی خلیفہ صاحب کی صفت کے مابین کا بیانی صرف ہے  
— برمودہ خلیفہ صفت دیکھتے ہیں۔ یہ نقش کے پر وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کھیت ہے۔ میں کام کے لئے اس نے جس مردوں اور جس عورتوں کو بلوایا رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ یہ مصمم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سو ساٹھی نیاں بوائے ہیں۔ جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں۔ وہ اس سو ساٹھی بوائے کو ہوتے ہے۔ وہ دراصل ماضی کا آدمی ہے۔

جناب عبد الجہید صاحب اکبر احمدی مخصوص نوجوان ہیں۔ ناویوں کی تعداد سرزین میں آپ پیدا ہوئے۔ اور مختلف طریق سے جاہلیت کی خدمت میں شہک ہے۔ اس خدمت کی وجہ سے آپ اس قدر مشغول ہو گئے۔ آپ کو ایک ہی خدمت اور عہد پر ملتے سوتے منتخب کر لیا گیا۔ آپ پر کس نام سے تعلق اور تعلق کی سے پیش آتے تھے۔ ان اوصاف عہدہ کی وجہ سے مزید شہادت حاصل ہو گئی اور سرسبز عیسائی عالم خدمت الامور کی کنیت بھی خدمت کے اصول کے پیش نظر و مزادی طور پر قبول فرمائی۔ ان کا حلیہ بیان پیش ہے۔

شہادت نمبر ۱۱

### حلیہ شہادت

قسم ہے مجھ کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی قسم ہے مجھ کو بڑا بڑا کی سچائی کی۔ قسم ہے مجھ کو حبیب کبریٰ کی مصوریت کی۔ کہ میں اپنے کسی علم کی بنا پر خیانت یا شہرت نہیں دے گا۔ اور صاحب خلیفہ ربوہ کو ایک

نا پاک انسان کہنے میں حق نہیں پتا کہ نہیں۔ نیز جسے اس بات پر بھی شہادت صدر حاصل ہے کہ آپ جیسے شہد بیان یعنی مدللان البیان، مقرر سے توت بیان کا چین جانا اور دیگر بیت سے اس میں کا نکار ہونا مثلاً انسان فاجر وغیرہ یقیناً خدا کی عتاب میں۔ جو کہ عبادت کے عزیز کی طرف سے ہو سکتی قدیم سنت کے مطابق سفیران کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔

علامہ دیگر داسلوں کے آپ کے غلط ترین سریدوں کی زبان سے ”نو قات آپ کے گھناؤنے کرنے دار کے بارہ میں عجیب و غریب گفتاوات ہوتی مابز پر ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک غلط سرید جناب محمد صاحب شمس نے بارہ سیر سے سامنے جناب خلیفہ صاحب کے چال ہیں اور غیر شرعی افعال کے ترک ہونے کے بارہ میں بیت سے نکل دیتے اور خلیفہ صاحب کے پراپرٹی خط پیش کئے۔“

اس جگہ میں ہتیا ہا یہ کہہ دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگر عمر صحیح صاحب کو میر سے بیان بالاک صحت کے بارہ میں کوئی متفرق ہو تو میں ہر دم ان کے ساتھ اپنے اس بیان کی صداقت پر سہاؤ کے لئے تیار ہوں۔

احقر العباد

عبد الجہید اکبر علانی نمبر ۱۱۔ فک کی پبلشرز

۱۱



شہادت نمبر ۱۷

## حلقہ شہادت

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو تیار و قہار ہے۔ جس کی جہول قہر کمانا یعنی اوس مرد و لاکا اسے

حسب ذلے شہادت: تیار ہوا۔  
 جس کے ہاتھ میں کمانا کھڑا ہے۔

کے گھر میں رہا۔ جس نے ملنے کی سرتیہ ایک محبت سما آغزینہ بیگم صاحبہ کے حضور خفیہ طریقہ سے اہل مہمیت پر عمل کرتے ہوئے کہہ کر ان خطوں لاکسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ غلطی گھر کے پاس سے جانا رہا۔ خفیہ مذکور بھی اسی طریقہ سے اوس پر ایت ہوا کہ نہ ہڑتے ہوئے جواب دینا رہا۔ خطروں کو گریز کیا کرتے تھے

اس کے علاوہ اس محبت کو رات کے کس نہایت پرانی رات سے لے جاتا رہا۔ جب اس کا خاندان کہیں باہر جاتا۔ محبت خیرگیوں بناؤ گنگھار کر کے خفیہ کے دفتر میں آتی تھی۔ جس پر موجب ہدایت اسے گنگھار پور و گنگھار جہد سے آتا تھا۔

ان واقعات کے علاوہ بعض اور واقعات سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خفیہ صاحب کا خیال ملین خاص ہے انہیں پرزنت الہی سے سبکدہ کر کے لئے تیار ہوں۔

حافظ عبدالسلام حنفی صاحبان صاحبان: خیال نامہ صاحب

شہادت نمبر ۱۸

## حلقہ شہادت

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کی تمکین کر کتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھ سے حضرت صاحب رضی اللہ عنہما کو دیکھا، کو خدا کے حاضر و ناظر کرتے دیکھا۔ اگر میں جہول کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی جہد پر لعنت ہو۔

حلقہ شہادت

شہادت نمبر ۱۹

## حلقہ شہادت

مجھے ذل لیتیں ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب خفیہ قادیان منتقلہ بدھن منہ کو گریز کیا ہے۔ بے شمار مہمیں شہادتیں جو مجھ تک پہنچ چکی ہیں، میں کی بنا پر میں سے ملنے کے لئے تیار ہوں کہ واقعی خفیہ صاحب قادیان ذل اور اطلاع باز ذمہ دار و مشمول بھی ہیں۔

اس دلی یقین کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ملے گا۔ اگر خفیہ صاحب قادیان اپنے کو گریز کیا ہے تو اس کے لئے ہمارے کرنے کو تیار ہوں تو ہر طرح سے قبول کرنے کو تیار ہوں۔  
 (مرزا بشیر الدین صاحب)

شہادت نمبر ۲۰

## حلقہ شہادت

میں خداوند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو پتہ خفیہ ذمہ دار نہ تھا تھا ہے مگر میں جہول ہوں تو جہد پر لعنت ہو۔  
 حلقہ شہادت

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتان

## مرزا محمود کی اپنی گواہی

حکیم عبد العزیز صاحب صاحبانی پہنچنے پر حضرت محمدی انصار احمدیہ تاربان پنجاب نے خلیفہ صاحب کی بیعتی کے پیش نظر سید اقصیٰ میں جب خلیفہ صاحب میں نام کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ علی الاطلاق کہہ کر دیا کہ آپ نہ ناکار اور بد میں ہیں۔ اس لئے یہ آپ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ پر جس وقت کہ پروردگار کا بندہ ہو، اس دن بے پستی میں ہے اور خلیفہ صاحب کو لاکھ لاکھ تے ہے۔ آپ نے مرزا محمود صاحب کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے تحریر کیا کہ سنا ہے کہ آپ نے جاہلوں کا ذکر لوگوں سے کیا ہے اگر یہ بیعت تو نہیں کیا مگر یہ بات درست ہے تو پھر آپ اسی کے لئے تیار فرمائیں۔ ہم صرف جاہلی نہیں۔ بلکہ بہت سی شہادتیں ملا وہ صورتوں اور لوگوں کی شہادت کے خود بنایا گیا کہ نبی شہادت بھی پیش کر چکے۔ اگر ہم شہادت نہ دے سکتے تو آپ کی بیعت پر جلسے کی ادھم دھم دیتے تھے ذیل ہفتے کے ملا ہر قسم کی سزا جگت کے لئے بھی تیار ہیں حکیم صاحب برصوف کا حلیہ بیان درج ذیل ہے۔

شہادت نمبر ۱۸

### حلیہ شہادت

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کی قسم کھا کر جس کی جھوٹی

۴۵

قسم کھا لی تھیوں کا لام چہ۔ یہ تحریر کرتا ہوں کہ میں مرزا محمود صاحب کی بیعت سے اس لئے خلیفہ ہوا تھا کہ میرے پاس ان کے خلاف احمدی لوگوں۔ لوگوں اور صورتوں کے صحیح واقعات نہیں تھے۔ جس کے ساتھ مرزا محمود نے بدکار کی قسم، اسی بنا پر میں نے مرزا محمود صاحب کو لکھا تھا کہ آپ کے خلاف احمدی لوگوں اور صورتوں کے اپنے واقعات بیان کرتی ہیں۔ اسی صورت میں آپ باجماعتی کیجیں گے سامنے معاذ اللہ ہونے دیں۔

پاسدیان ساہل کے لئے تیار ہوں یا حلف ہو کہ لعنہ اب اٹھائیں یا ہمیں موقع دیں بلکہ تمام واقعات پیش کر کے خلیفہ سالانہ کے موقع پر تمام احمدیوں کی موجودگی میں آپ کے سامنے حلف ہو کہ لعنہ اب اٹھائیں تاکہ سزا بردار ہو کہ ہم لوگوں کا بول بالا ہو۔ لیکن مرزا محمود صاحب کو کسی طرحی پر میں عملی پیرا ہونے کی جرأت نہیں ہوئی۔ سوائے کھانا دلا سویر یا نیکو طبع معالج اصفیٰ کرنے کے

کے لئے سے سے کرنا تھا کہ جب اسی عقیدہ پر عملی و جبر العسیرت قائم ہوں کہ سبیاں محمودا محمد ایک ترائی اور بد چلنے انسان ہے۔ جس کو خدا رسول اور اس کے خادم حضرت بھی موجود سے کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں۔ اگر میں اپنے اسی عقیدے میں باطل پر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جبر بہ صفت ہو۔

حکیم عبد العزیز صاحب پر پیدائش  
یعنی انصار احمدیہ و قادیانی

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

شہادت نمبر ۱۱

## حلقہ شہادت

میں مذاکرہ حاضر حاضر چلی کر میں کی جعلی قسم کھانا کیر وئی ہے۔ یہ  
قریب کرنا ہوں کر میں نے حضرت مرزا محمد احمد صاحب قادیان کو اپنی  
ہلکے سے زنا کرتے دیکھا ہے۔

ادھی اقر کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ میں بد فعل کی ہے۔  
اگر میں جوڑ ہوں تو مجھ پر خدا کی صحت ہو۔

میں کبھی سے وہی رہتا تھا۔ دینیز احمد

شہادت نمبر ۱۲

## حلقہ شہادت

میری عہد و عہد میں صاحب کے بڑے اور کھانا نظر بشیر احمد نے  
پہرے ماننے اور میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہہ اذنا تھا ال جے  
پارا پارا کر کے کر میں جوڑ ہوں کر سوہن غیبیہ صاحب نے جیت  
ساتھ جوڑ ہوں کر میں

میں خود کی قسم کھا کر یہ واقعہ کہہ رہا ہوں  
وہم نزد کہ عہد و عہد احمدی سینٹ فریڈر ہاؤس مسلم ٹاؤن لاہور

۲۷

شہادت نمبر ۱۱

## حلقہ شہادت

مرزا گل محمد صاحب مرحوم آپ قادیان کے نہیں اظہم تھے اور  
وہاں بڑی جائیداد کے مالک تھے اور مرزا نظام احمد صاحب کے صاحب  
کے بکن تھے اور ان کی مدرسہ بکھڑا دھڑا لگنے لگے بیان کیا کہ خلیفہ  
صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے بین کی صاحبزادی ادھی مدرسہ محمدی  
کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے خلیفہ صاحب سے ایک  
قد عرض کی۔ حضور یہ کیا بھلا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ قرآن دھڑا ہے اس کی اجازت ہے البتہ اس  
کو موم میں چھپانے کی اجازت ہے۔

نور با اللہ سن ذلحہ

میں خداوند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلیہ بیان کر کے کہہ  
ہوں۔ شاید میری مسلمان نہیں اور صحابی ان سے کوئی سبق حاصل کریں  
فقط  
سید ام صاحب کو سنت سید ابراہیم

کن آباد۔ لاہور

شہادت نمبر ۱۲

## حلقہ شہادت

جو ہمیں مل کر صاحب وقت دعا کی اپنے خاندان میں حضرت  
دیکھ ہی احمدی ہیں جنہوں نے سب کے قرآن کر کے اصدیت میں نصت

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

کہتے ہیں۔ ہم کے لئے جس نے جس مردوں اور عورتوں کو بطور حریف رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ذریعہ یہ مصمم لڑکیوں اور لڑکوں کو تارو کرتا ہے۔ اس نے ایک سماجی بنائی ہوئی ہے۔ جس میں مرزا اور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں تڑپ ہوتی ہے۔ دودھ حاضر غذا کی آفر۔

جناب مرزا، مجھے صاحب اکبر احمد کی مجلسوں میں جانا چاہیے کی رتہ سبزی میں بہا ہونے اور مختلف طریقے سے عاقبت کی خدمت میں پہنچتے ہیں خدمت کی وجہ سے آپ میں قدر بھول ہو گئے آپ کو کونسی خدمت اور مصروفیت سمجھنے کی ضرورت ہے؟ آپ پر کس دن کس سے تازت حاصل ہوئی اور میری مجلسوں میں حاضر ہونے اور مصروفیت کی خدمت کے اصول کے پیش نظر مرزا کی طرف پر تامل و رانی۔ ان کا مفید بیان پیش خدمت ہے۔

شہادت نمبر

### حافظ شہادت

تم ہے مجھ کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی قسم ہے مجھ کو ترائی ایک کی مجال کی، قسم ہے مجھ کو صیب کسرا کی مصروفیت کی، کہ میں اپنے وطن ملک کی بنا پر خانہ نشین رہتا ہوں اور احمد صاحب خلیفہ ربوہ کو ایک

نا ایک انسان کہنے میں عشق الیقین پاتا کہ ہوں۔ نیز جسے اس بات پر بھی شرم ہے، حاصل ہے کہ آپ جیسے شہد بیان یعنی سلطان ابیہان، مقرر سے آواز بیان کا عین جانا اور دیگر ہیئت سے اس میں کاشکار و بونا مثلاً بیان فاضل وغیرہ قبیلہ خاندانی جناب ہیں۔ جو کہ خاندان سے سزیز کی طرف سے ہسکی قدیم سنت کے مطابق مقرر بیان کے لئے ضرور کے گئے ہیں۔

علامہ دیگر واسطوں کے آپ کے مجلسوں میں مریدوں کی زبان و کتابوں آپ کے جھنڈا کرنے کے بارہ کے بارہ میں عجیب و غریب نکات آتے ہیں مابقیہ پر ہونے۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک مجلس میں یہ جناب کو خدمت صاحب شمس نے بارہ میر سے سامنے جناب خلیفہ صاحب کے مجال میں اور طبع شرمی افعال کے ترکیب ہونے کے بارہ میں بہت سے نکات و ثبوت اور عینہ صاحب کے پر بیویٹ خط پیش کئے۔

اس جگہ میں بتایا جا یہ کہ دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگر مقرر صدیقی صاحب کو میر سے بیان بالاک صحت کے بارہ میں کوئی اعتراض ہو تو کہ ہرگز ان کے ساتھ اپنے اس بیان کی صداقت پر سبب کے لئے تیار ہوں۔

احقر العباد

میرزا مجید اکبر علی نمبر ۱۰۔ ملک کوئی نہیں روڑ

۱۰۔

۳۲

شہادت نمبر ۱۷

حلقہ شہادت

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر جس کے اقدس میں میری جان ہے جو تیار و تیار ہے۔ جس کی جہول تم کھانا سنتی اور مرد و لاکا ہے

حسب ذیل شہادت دیتا ہوں۔  
ہی کٹھن سے لے کر مٹا کر تک مرزا گل محمد صاحب کیسی قادیان

کے گھر میں رہا۔ جس مدخلی میں کئی مرتبہ ایک محنت سما آوازینہ بیگم صاحبہ کے حضور خفیہ طریقہ سے اہل ہایت پر عمل کرتے ہوتے کہ وہ ان خطوں لاکسی سے جہی ذکر کرنا۔ خلیفہ محمود کے پاس سے آیا تھا۔ رہا۔ مذکور بھی اس طریقہ سے اوردہ ایت بلا۔ کو دہرتے ہوئے جواب دیتا رہا۔ حضور و دیگر زین کا نہیں تھے

اس کے علاوہ اس محنت کو رات کے کسی بجے پر رات سے لے جاتا رہا۔ جبکہ اس کا خاندان کہیں باہر نہ جاتا۔ محنت خیر سول، یاد کسی گھاسار کر کے خلیفہ کے دفتر میں آتی تھی۔ ہی بسویب ایت اسے گنڈو یا رو گنڈو جید سے آیا تھا۔

ان واقعات کے علاوہ بعض اور واقعات سے اس کی جھجک پہنچا ہوں۔ کہ خلیفہ صاحب کا ہال ملین فرانس ہے اند میں ہر وقت ان سے سابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔

خاندان عبدالسلام خان سلطان خان دارا نصیب تیا: میاں نامصر محمد

شہادت نمبر ۱۹

حلقہ شہادت

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھ سے حضرت صاحب دینی مرزا محمد اکبر کو مبارک کے حاضر و ناظر کرنے دیکھا۔ مگر میں جو جوت کہہ رہا ہوں۔ تو اشد تقاضے کی جہد پر لست ہوں۔

محمد حسین احمدی

شہادت نمبر ۱۸

حلقہ شہادت

بجے دلی تیار ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب خلیفہ قادیان تیار ہو میں نے مرزا بشیر الدین کو مرزا بشیر الدین جو مجھ تک پہنچا سکی وہی ہی کی بنا پر میں سے جلنے کے لئے تیار ہوں کہ واقعی خلیفہ صاحب قادیان زانی اور اطلاع باہر داخل و مشول ہیں۔

اس دل یقین کا ثبوت میں یہاں تک دے سکتا ہوں کہ خلیفہ صاحب قادیان اپنے کہیں حال میں کی منائی کے لئے تیار ہوں تو ہر طرح سے قبول کرنے کو تیار ہوں۔  
مرزا بشیر احمد نصیری

حلقہ شہادت

میں خداوند تعالیٰ کو زہر نہا کر جان کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے مرزا بشیر الدین کو مرزا بشیر الدین کو مرزا بشیر الدین کہہ کر میں جھوٹے ہوؤں تو جہد پر لست ہوں۔  
محمد حسین احمد نصیری

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

## مرزا محمود کی اپنی گواہی

حکیم عبدالغفور صاحب باہنہ بی بی خیر النساء اور میرزا محمد علی صاحب نے خلیفہ صاحب کی بی بی کے پیش نظر مسجد اقصیٰ میں صیغہ خلیفہ صاحب میں عام کے سامنے تقریر کر دی ہے۔ علی الاطلاق کہہ کر دیا کہ آپ نے نانا کا راسخہ بی بی۔ اس نکلے میں آپ کی بیعت نہیں کر سکتی۔ آپ پر بھی عیب ہے کہ یہ بیعت کیا گیا۔ بندہ نہیں دلی بستی تلی ہیں سوچے اور خلیفہ صاحب کو طلاق دے کر ہے۔ آپ نے مرزا محمود صاحب کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے تقریر کیا کہ تمنا ہے کہ آپ نے جاگو اور اہل کا ذکر لوگوں سے کیا ہے۔ اگر میرا بیعت تو نہیں کیا مگر یہ بات درست ہے تو میرا آپ اسی کے لئے تیار کیا فرمائی۔ ہم صرف چاہ ہی نہیں۔ بلکہ بہت سی شہادتیں ملاوہ کر رہی ہیں اور لوگوں کی شہادت کے خود جناب لو کی اپنی شہادت بھی پیش کر چکے۔ اگر ہم ثبوت نہ دوسرے کے تو آپ کی بیعت پر جلسے کی ادیم بیعت کے لئے ذیل ہدف کے ملاوہ ہر قسم کی مرزا جگت کے لئے ہی تیار ہیں حکیم صاحب برصوف کا حلیہ بیان درج ذیل ہے۔

شہادت نمبر ۱۸

حلیہ شہادت

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کی قسم کھا کر جس کی صورتی

۴۵

قسم کھانا لہتیروں کا کام ہے۔ یہ تقریر کرتا ہوں کہ میں مرزا محمود صاحب کی بیعت سے اس لئے حلیہ خود اٹھا کر میرے پاس الہ کے خلاف ادوی روکوں۔ روکوں اور صورتوں کے مجمع واقعات پیش کرتے ہیں کہ اترا مرزا محمود صاحب نے بدکاری کی تھی، اسی بنا پر میں نے مرزا محمود صاحب کو کھٹا اتھا کہ آپ کے خلاف ادوی روکوں اور روکیاں اور صورتیں اپنے واقعات بیان کرتی ہیں۔ اسی صورت میں آپ باجماعتی کیشن کے سامنے سنا دیں گے۔

یہ بیان سنا کر آپ کے لئے تیار ہوں یا حلف ہو کر بعد اب اٹھائیں گے۔ ہمیں سو قہ وہی کہ تم تمام واقعات پیش کر کے حلیہ سالانہ کے موقع پر تمام احموریوں کی موجودگی میں آپ کے سامنے حلف ہو کر بعد اب اٹھائیں گے کہ روز بروز لاٹھیاؤں کو کھینچ کر سن کا ہل بلا ہو۔ لیکن مرزا محمود صاحب کو کسی طرح پر میں مل پیرا ہونے کی جرأت نہیں ہوں۔ سنا کے کھانا ملا حوبہ یا ٹیکٹھ واقعہ افضال کرنے کے

سنا کر سے سے کر آج تک جی اسی عقیدہ پر مل و بر البیوت قائم ہوں کہ میں محمود صاحب ایک نرانی اور بدین انسان ہے۔ میں کو خدا رسولی اور الہ کے خادم حضرت ہے۔ سو کھنے سے کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں۔ اگر جی اپنے اسی عقیدہ میں باطل پر ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ کی جہد بہت ہے۔

حکیم عبدالغفور صاحب پر بیعت

ابن انصار اور میرزا محمد علی

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

شہادت نمبر ۱۱

## حلفیہ شہادت

میں خدا کو حاضر حاضر جان کر میں کی جھوٹی قسم کھانا کیر و گناہ ہے۔  
قریب کو کرتا ہوں کہ میں نے حضرت مرزا محمد احمد صاحب قادیان کو اپنی  
ہاتھ سے زنا کرتے دیکھا ہے۔

ادبی اتر برکتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بھی بد فعل کی ہے  
اگر میں جھوٹ ہوں تو مجھ پر خدا کی سنت ہو۔

میں یہی قسم سے اپنی برکتا تھا  
دین محمد

شہادت نمبر ۱۲

## حلفیہ شہادت

مصری عبید اللہ بن صاحب کے بڑے لڑکے کا نظر بشیر احمد نے  
میرے سامنے لایا تھا میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہہ خدا تعالیٰ کے  
پاؤں پاؤں کر کے کہ میں جھوٹ ہوں کہ مرزا محمد احمد صاحب نے جرح  
ماتھ پر پیش کی ہے۔

میں نے قسم کھا کر یہ واقعہ کھرا ہوا ہے  
وہ قسم خدا کے بعد اللہ احمدی سینٹ فرنگہ پارس سلم ٹاؤن لاہور

۲۷

شہادت نمبر ۱۱

## حلفیہ شہادت

مرزا کی محمد صاحب مرحوم آپ قادیان کے رئیس اعظم تھے اور  
وہاں بڑی جاوید ادا کے مالک تھے اور مرزا نظام احمد صاحب کے بھائی  
کے رکن تھے اللہ کی دوسری بیوی، دھوئی بیگم نے مجھے بیان کیا کہ خلیفہ  
صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مسخیزوں اور مفسدوں کی موتوں  
کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے خلیفہ صاحب سے ایک  
دفعہ عرض کی حضور یہ کیا مجال ہے؟

آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث میں اس کی اجازت ہے البتہ اس  
کو سوام میں چھپانے کی اجازت ہے۔

نور باندر من ذلے

میں خداوند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ بیان کرتے رہے  
ہوں۔ شاید میری سلمان نہیں اور جہاں اس سے کوئی سبق حاصل کریں  
فقط  
سید ام صاحب کو سنت ستیا راجہ

کن آباد - لاہور

شہادت نمبر ۱۲

## حلفیہ شہادت

جو بدی علی محمد صاحب وقت دہلی اپنے خاندان میں صورت  
لیکھی ہے انہوں نے سب کچھ قرآن کر کے اصدیت سے سن لیا

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

کو پایا۔ تب شہزی میں والد ارہم تھے۔ اود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ کے بعد آپ نے اہمیت قبول کی۔ اود حضرت صاحب قیصر کے برادر میر گلشن، ایڈیٹر امیر مہاراجت احمدیہ گورنمنٹ اسکول کے ذریعہ ۲۰۰۰ کو جماعت اہمہ میں داخل ہوئے، اود کچھ دن بعد اپنے آپ کو خدمت دین کے لئے وقف کر دیا۔ مئی ۱۹۹۹ کو ہر قاتل سے بلو و آیا۔ تو آپ بلائیل رحمت پور سے اظلام و وحدیت مستدی کے ساتھ تاراج پان شریف لے گئے، اود خدمت کی ابتداء وقت کو کیا خدمت فرمیک جدید سے کی اور ہر مختلف شبہ بات میں تحقیق کے لئے۔

مذہب منہگ لیکچر کنفرس میں بلو کو مختلف مقرر کیا گیا۔ جس میں ندوان میں نائندہ خصوصی بنا کر دی اشہور الفریقین شیبہ کریمہ پیشل آرٹ کرنے کی فون سے بھیجا گیا، اود ملکی کو حسب وہ میں فریک جدید کے حصول کی گرانے کے لئے نائندہ، خاص مقرر کیا گیا تو میں اندھڑی کسے شان ٹیڈینٹ کینی کے دفتر میں کو مختلف مقرر کیا گیا۔ تجارت اود خدمت کے دفتر میں ہیڈ کو مختلف مقرر کیا گیا اود ہی پورے آف ٹیڈینٹ لیکچر فریک مرزا محمد احمد کی ذالی منظوری سے کیا گیا۔ میں کا پیپر میں مرزا مبارک احمد ہے۔ بکستہ ماہا مال سندھ کی زمینوں۔ سلسلہ کے تجارتی لاغزوں۔ اود فضل عمر فیڈرل صاحب آڈٹ کرتے رہے۔ ریب اوقات قیام یہ

میں اکثر مالی ضیاعوں کے مشعل پر آپ کو بلو کینی مقرر کیا گیا، ۱۹۹۹ میں بلو واراضفا، مئی فیڈوں کے لئے آپ کو ہا کینی مقرر کرتے۔ تب بلو صاحب ضمیمہ الامس و مرکز میں مئی کم کرتے رہے۔ اود فیڈ صاحب جم ہدی صاحب موصوف سے خاص کا قیام مئی کیا کرتے تھے۔ اود فیڈ بلو دیکھ لفظ نے جب کسی بات پر جم ہدی صاحب کی شکایت غلیظ صاحب سے کی۔ غلیظ صاحب نے اوانامت براب بھی کہا۔ جو دوسری بلو سے میر سے نزدیک تو یہ خدمت اعدیانت دہی سے کام کرتے ہیں

فرز چو پر مئی صاحب موصوف نے مختلف شبہ بات میں کو مختلف بلو نائندہ اوڈیر کے کام کئے ان کے علم اود فیڈوں کے چینی نظرہ کو تمام مضمی راز اذہر مئی مادیوں۔ کہ رپیسہ کیسے اوس مادی سے ہم کیا گیا ہے۔ میر آپ نے ایک کتاب میں صاحب بنا کر پیش کیا ہے۔ اود کینی مئی دیا ہے۔ کہ یہاں مال بہ مزمینوں، ضیاعوں اود و حادیوں کے ریکارڈ کے بارے میں مئی مشا پہاں۔

بہر حال جم ہدی صاحب موصوف کی خدمت جلیہ قابل تہذیب مئی پڑنے پر وقت کے تقاضوں کو ضرور پورا کرینگے۔ قیام رہا میں ان سے بر محلات مئی آئے۔ اس کے ذرائع سے ان کا غلیظ سبب مئی خدمت ہے۔

میں خدا کو حاضر جان کر اسس ایک ذلت کی قسم کھا آپوں



۵۰

حلی مہر کی ذمہ داری سنبھال کا کام ہے۔ کہ صوفی سائنس دان صاحب جو بارہ سہ ماہی کی جگہ پر دو سو تک لکھ کر سترہ لاکھ کر کے ہے اور وہ زبان کے پرانے رہنے والوں میں سے ہیں۔ والد محترم صاحب کی وہ بیٹی کے سر پر گھوڑا گھوڑا صاحب اور ان کے خاندان کے بعض افراد سے قومی تعلقات تھے۔ اور خصوصاً مرزا حفیظ صاحب مرزا محمود صاحب کے صوفی صاحب صاحب کے ساتھ نہایت عقیدت مند رہا کرتے۔ ذرا تھیں صہبت کی خاطر مرزا حفیظ صاحب صوفی صاحب کے پاس روز بروز کے گھر جا کر بیٹھے اور سب اوقات صوفی صاحب کو تعریف و تخلص بھی اپنے ایک کمرے میں ہی میں سے جا کر ان کی خاطر عادت کرتے۔ انہوں نے گھر سے باہر بیان کیا کہ سسٹنڈنٹ حفیظ صاحب کی فکر خاک کرتا ہے۔ کہ میں کو تم لوگ حفیظ صاحب صاحب کے ہوتے تو کیا کرتے۔ اور یہ کہ مرزا حفیظ صاحب نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو دیکھا کرتے دیکھا۔ صوفی صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کوئی دفعہ مرزا حفیظ صاحب سے کہا کہ تم ایسا سیکھیں لازم مانتے سے قبل بھی طرح اپنی یادداشت پر نذر پڑاؤ کیسے ایسا تو نہیں کہ میں کو تم کوئی غیر سمجھتا ہوں۔ اس تباری نونی والدہ ہی تھیں۔ مبادا انہوں کے قبیلہ عصب کے بچے آجائے۔ ذراں یہ مرزا حفیظ صاحب صاحب کی بیٹی بنتی ہیں یہ حفیظ صاحب کے ان کا والد پاک سیرت نہیں ہے۔ والد یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے والد کی بھی کہی کہ راست خاں ہے نہیں کہ۔ البتہ یہ تو بے وقت

کے ساتھ پڑا ہے۔ کہ کسی طرح انہیں بخوار ملدہ و سب دی طلبہ حاصل ہو جائے۔

مگر میں اس بیان میں جھوٹا ہوں۔ اندہ افراد مجاہدت کو کس سے محض دھوکا دینا مقصود ہے۔ تو خدا تعالیٰ مجھ پر اور میری بیوی بچوں پر ایسا عجز ناک صواب نازل فرما کے جو محکمہ اور ہر ویدہ بنا کے لئے ان ذریعہ ایمان کا موجب ہو۔

اب اس نام نہاد حفیظ کی مال بوجھنا نہیں۔ خواتین اور دو خاندانوں کے ریکارڈ کی رقم میں معنی پوشا ہوں۔ کیے کو ٹھنک رہے ساڑھے نو سال تک جدید انداز میں اسدیہ کے مختلف تصویریں کو گنتاؤں ڈیڑھ آڈیو کی حیثیت سے کام لیا ہے۔

خاکسار

پونہ دی علی محمد علی مرزا حافظ مذکور

خان نندہ خصوصاً کوہستان، الہ آباد

شہادت نمبر ۲

حلیہ شہادت

جناب مولوی محمد علی صاحب مدظلہ فاضل مدرسہ اسلامیہ کوہستان  
کلات، شریک جہاد برادر، مولانا محمد یاقین صاحب تاجیک کرکٹ کے  
مشہور و نامور ہیں۔ انہوں نے کے ساتھ دوسرے اسکولوں میں شہاد

۱۲۔ شیخ محمد بن غلام احمد دارالعلوم دیوبند  
۱۳۔ نایب ختم تبلیغ سکندریہ خدام احمدیہ دیوبند  
۱۴۔ سندھ ویمنی کونسل پریذیڈنٹ ڈاکٹر کمالیہ کے بیڑے آفس میں کام کیا  
۱۵۔ رسالہ ریویو آف ریفرنڈم اور سوشل ریفرنڈم کے بیڑے آفس میں کام کیا  
۱۶۔ محاسب احمد عامر لاہور خاص دیوبند میں رہا۔ ان شعبہ جات  
کے علاوہ یہی سماجی حلقہ پر میں خدمت چریں ماسہ کی ان کی پہلی  
دیانت اور تقویٰ کی راہ پر چل کر صحیح اصولوں میں خدمت کی آپ یہاں  
میدان پر احمدیہ تحریک کا سربراہ کے قیام میں رہا۔ آپ کی پرسنال  
ہستکری و کئی اہم ترین تحریک جدید دیوبند میں تھے۔ آپ کی  
پانڈتانی انصاف اور محنت سے کام کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے  
آپ کے ذمہ مزید کام سپرد کئے جاتے تھے۔ آٹھ برس بعد جات  
کی لاکھ و لاکھ آپ کی مقبولیت کی نشاۃ ثانیہ ہے اور گہرے تعلقات لاکھوں  
میں ہیں۔ طاقا مانگتا ہے۔ آپ کا حلیہ بیان بہت ناظر کا ہے

## حلقہ خیرات

۱۲۔ حلقہ خیرات کا سربراہ شیخ محمد بن غلام احمد  
۱۳۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۱۴۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۱۵۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد

۱۶۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۱۷۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۱۸۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۱۹۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۰۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۱۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۲۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۳۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۴۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۵۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۶۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۷۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۸۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۲۹۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۰۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۱۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۲۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۳۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۴۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۵۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۶۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۷۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۸۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۳۹۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۰۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۱۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۲۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۳۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۴۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۵۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۶۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۷۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۸۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۴۹۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد  
۵۰۔ حلقہ خیرات کے سربراہوں میں شیخ محمد احمد اور شیخ محمد احمد

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

۵۴

نت کے لئے میں اپنے گھر میں رہا نہ کے لئے تیار نہ ہوا۔ تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ اس واقعہ پر امرتہ... اترشت پر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور یہ لہذا خیرات سککریں میں منظر نہ کر سکا۔ اور وہاں سے اٹھا کر دو سو سو سککریں میں چلا گیا۔ اس وقت میں ان واقعات کی بنا پر ہرین ٹھکر نذیر احمد، ریاض، محمد یوسف، تازہ، ماجہ بشیر احمد رازی سے من چلا ہوا۔ حق الیقینی کی بنا پر خلیفہ صاحب کو ایک دیگر دارالامد بہمن انسان سمجھتا ہوں، اور اسی کی بنا پر وہ آج خلیفہ کے خطاب میں گرفتار ہیں۔

### خاکسار

کوہا لوج تودہ یافت زندگی، سابق کارکن۔ کائنات نعیم

دھرمیک جدید بیلوہ

شہادت بڑا  
حضرت اکرند پیر احمد صاحب آقصر کی شہادت

خلیفہ مسلمان ہونے

حضرت گلگند پیر احمد صاحب ریاض، مولوی فاضل واقف زندگی خلیفہ ربوہ کے نام کا کرتے۔ اور خلیفہ صاحب نے انہیں خلیفہ کے فریضے سے سکت اور ان کی تعلیم و ادب۔ ان کا صاحب مولانا حاجی صاحب میں کافی سے زیادہ مبارک رکھتے ہیں۔ اور عمر و دراز کے خلاف آپ کے چہ زوں میں رہے۔ آپ نے موت

۵۵

مولوی خیر علی صاحب کی مدد و حمایت مقرب کے فرائض کی ہے جو قرآن مجید سے منہات پر عمل ہے۔ آپ جامتہ البشر میں پبلسر بھی تھے بہت ہی خدا داد و نامی سلاحتوں کی وجہ سے خلیفہ صاحب کی آورد و تعلق بھی نہیں کبھی لڑنے خانہ کے پر شیب سے پوسکی طرح یافت راہ بھی ہیں۔ یہی بہت سے بچوں کو نواز دیا جس کی کے علاوہ آپ خلیفہ صاحب کے اصل کے منتق فرماتے ہیں۔

آپ کو یاد ہو گا۔ جب تک ہم ربوہ میں رہے ہماری آپس میں کچھ ایسی تھی جو نسبت ربی کہ باہم فکر طبیعت بے حد خوش ہوتی تھی کبھی طوری طور پر آپ کے سلسلہ میں تو کبھی نفس کے سوز کی تھیں پر کھینچنے سے کہنے میں چلادان ہوا تھا۔ وسائل خلیفہ صاحب کا اصل چکر

سے مت رکھ کر ذرا کبھی بھی گام ہی میں نہیں

اور پرتہ کر کہ دو مزاج خانقاہی میں نہیں (دہلی)

اور نوز خوب رنگ رہاں ناؤ۔ میں ہر شہرت میں بسر کر۔

ہم نے تو مجال موس دل سے وقف کیا تھا۔ خدا ہی ضرور اس لا اہم کیا نہیں یہ ظہور پند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مکر و مدلل سے خود فیصد کر سے کہ کھلائے ہوئے پیر سے کتنے قیمتی اور کتنے مل نہ تھے۔

شروع شروع سے دل کی کبھی کیفیت تھی، ہر وقت دل کھنکھ

کھار کی آجکا بنا رہتا تھا، ان آپ کی یاد، عزیز دل کی جدائی لا اہم کی دستوں کے کبھی لڑنے کا ہم اس علم میں کے تیروں کی ہیں کبھی کبھی تھانگی

۷۰ ہر خانہ تھا اس میں ہی بخور و نوست

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

سب سے بڑا عظم نشان کی عظمت میرے جی میں کی بخشش ہی مخلصی اپنے  
 قہوں کو استوار رکھتا ہے اور افراد پر ڈرگانے سے بچاتا ہے۔ اگر  
 علی طور پر سچ ہو جائے تو پھر کس ۱۶ ماہ سے کیا اس میں طلب نہیں رہتا  
 اشد تامل سے دعا ہے کہ وہ اپنی رضائی ماہوں پہلو کے جی پر کلا برائوں  
 اور جی صورت ہوا نہ خدا کی سنت ہو کہ کہ

### شہادت ۱۵ حلقہ شہادت

جناب غلام حسینی صاحب احمدی..... فراتھے تھے!۔  
 میں نے اپنی شہادت کے علاوہ حبیب احمد لاہوری کو لکھا تھا۔ وہ  
 مجھے تاویلی میں مل گئے۔ میں نے ان سے رقم دیکر دریافت کیا تو انہوں  
 نے..... رقم کھار کے بتلایا کہ حضرت صاحب سہیل گویا احمد نے وہ  
 مرتبہ ان سے بوطت دینی بندے بازی کی ہے ایک مذکورہ طرف ہی اور اگر  
 دفعہ دہندہ ہی نہیں ہے اس سے تحریری شہادت دینی تو پوری تفسیل کے ساتھ نہیں  
 لیکن مکمل لکھ کر ہی حبیب احمد صاحب لاہوری پر ہی کی تھی جو رسی نلی ہے  
 بہ عہد دینی حرم دینی وایح بلوحد محمد وفضل علی رسولہ الیکم  
 حضرت شریفین جناب حاجی غلام حسین صاحب اسلام دیکھ رہتے اندر کا  
 کے عہد انہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو..... کہہ بات بتائی تھی خدا کو مانو یا  
 جانکر کہتا ہوں کہ وہ بات اصل میں ہے اگر جی صورت ہوا تو منگلی سنت ہو کہہ.....  
 نکاسا و حبیب احمد لاہوری

میں ملی جب بیہوش تھا پھر ناطق ہوں

### شہادت نمبر ۱۶ راجہ شہرا احمد صاحب لاری خلیفہ

کوئی تحریری راہ میں ملی تو صاحب ریشا کو ہسٹریل۔ میرا موت ہو کر موت  
 کے ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے خدمت دین کے لئے سلاحتہ جی اپنے آپ  
 کو وقف کیا اور پوسے خلاص کے ساتھ دینی کو دنیا پر مقدم کرنے لاہور کیا۔  
 اور خلیفہ بارہ کے بلا سے پر آپ بارہ وقت رہیں لے آئے  
 اور نائب وزیر عرصہ دینی اور بارہ بارہ کے لاہور پر اسود کیا گیا آپ نے  
 کام کو بلا جو کام جی آپ کے سپرد کئے جاتے نہایت ہی اکتال اور  
 صحت اور دوا ستوری سے سر انجام دیتے رہے۔ آپ بارہ کے کچے  
 کو رہتے تھے، راجہ شہرا احمد صاحب لاری..... وہ دوستوں کے علاوہ آپ کے ملازم  
 جناب شیخ محمد اعلیٰ صاحب آسید رہتے تھے۔ سے ہوئے۔ تو انہوں  
 نے خلیفہ صاحب کی آگے زندگی کا دیا جیسا تک نظر میں کیا آپ شہر  
 رہ گئے۔ آپ کا ذہنی اس آلودہ زندگی کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ دیا تھا  
 پکا نہیں ہو سکا۔ پھر زندگی ختم آپ کے مراسم زندگی کو تسلیم نہیں کیا  
 میں سے ہو گئے تو انہوں نے جی اس ناپاک دنیا کے مشرت کہہ کر لگے ہوئے  
 لانگ فرمایا۔ اللہ ان کی مزید بخشش کے لئے اس بریں اور سکین جاس  
 کہہ لے جانے لا وہ کہہ کر کے جی میں اسٹائل کر گیا۔ بازی صاحب

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

۶۸

سوسوت کی سب اس خاص نام میں ملنے والی ماحول کی، اور اپنی آنکھوں سے کیا منظر کو دیکھا تو آپ تو حیرت پر گئے بعد ازاں آپ نے علی الاعلان پوری دنیا تہذیب سے اس فتنہ خصوصی کو برملی دہرہ طبیعت پر سے اہلیان کے ساتھ دیکھ چکے تھے اپنے دوستوں سے کھل کھلا اظہار کرتے رہے۔ مازی و ماسب سوسوت کا بگڑا بظاہر یہاں نسیج ذیل ہے آپ فرماتے ہیں

امثالہ گراں پنجا۔ غلیظہ صاحب سے عدم وابستگی کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ

ہمارے مکرم بھائی مرزا محمد حسین صاحبی کا کام

فرمایا کرتے ہیں کہ جو سوسوم نے ماسریت سے شروع کیا، اسکا سریت پر اثر کرنا ہیں گوارا نہیں۔

مگر یہ اجمالاً شاہد آپ کے لئے دو تہیہ تہیہ ہیں۔ جیسے حضرت ہمارا

ذکر ہوا بھی سن لیجئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔ جب کہ بروہ کے بچے کو روٹا

یہ غلیظہ صاحب بروہ کے بچے کو غرض خلافت کے مدافعہ و ہاشم پذیر تھے قریب

کلاں کے سبب

مشہخ کو راجح احمد احمد کی سبب سے

سے راہ و رسم پر بھی، تو انہوں نے غلیظہ صاحب کی زندگی کے ایسے مثال

کا ذکر کیا ہے کہ ماسریت میں ہمارا وقتا ہوتا نظر آتے تھے، ماسریت سے دوری

کے لئے شیخ صاحب کی روایت مانی نہ تھی۔ خدا بھلا کہے۔

۶۹

دکتر نذیر احمد صاحب قاضی

کاہن کا ہم رکانی میں بے غلیظہ صاحب کے ایک

ذیلی عنصرت ک کا

یہ غلیظہ صاحبی ساتھی گزارنے کا سرفہرہ واقعہ آیا جس کے بعد میرے لئے غلیظہ

صاحب ربیع کی پاک: ماسریت کی کوئی بھی تاویلی و تہریہ مانی نہ تھی، وہیں

ہب بھٹل ہندی ملی، جیہہ البیروت غلیظہ صاحب: زمین کی یہ ممالیوں پر مشتمل

ہو گیا ہوں، میں صاحب قریب ہوں کہ سبب بد سانیوں ایک بھی سوچی ہوئی کسی

کے تحت: تو جہ پزیر ہوتی ہیں، اور اس میں اتفاق یا جھوں لاکوئی و مثل نہیں، جی

ذہن ہم تھے۔

محاکب کا گھر پال

ای رہیں ماسریت کے لئے سرفہرہ نام کو: غلیظہ صاحبی کی پیشین

دکھاتا تھا، اب نہ جانتے کون سا طریقہ لایا ہے۔ میرے اس بیان کو اگر

کوئی صاحب مذکورہ پہنچ کر سے تو ہی تلف ٹوٹے بعد وہ، ماسریت کو تیار ہوا

والسلام

بشیر رازی بی کام سابق نائب اڈیڑ صہ، ابن احمد رازی

نوٹ: ماسریت گھڑا ہی سے ہزاروں ایک شخص کو رات کے ذریعہ کا وقت سرفہرہ

کے لئے، وہاں ہے تو اس کی گھر میں، چنانچہ ایک جگہ صاحب کے گھر سے اسی وقت

وہ شخص زندہ نہیں آسکتا



۶۲

تو آپ نے اس وقت بھی سداقت کو ہمت خود سے لٹھیں کیا کہ تم نے  
تقدس کے پردے میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی ہمارے اس کے  
چھوڑنے کا باعث بنا۔ چنانچہ چوہدری صاحب فرماتے ہیں:

لاعبود نزال جو وصری صلیح الدین صاحب جو مشرقی پاکستانی کے  
یعنی نالے میں۔ بنگالی میں تقریباً کی آمد بتایا کہ ہم نے تقدس کے پردے میں  
جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہماری اس مہانت سے چھوڑنے کی اس کا نتیجہ  
ہے۔ انہوں نے بتایا۔ ہمیں مشرقی پاکستان کے ایک سوز خندان کا نوجوان  
ہوں اور امام مہجرت اہدیہ کی دعا لیں کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا ہوں اور  
دیانتداری سے کھٹا ہوں۔ کہ ان کے خوفناک تجربے کا ایک ذمہ ٹھونڈ  
۶۴ فرمائے پاکستانی ۲۸۰۴۰۵۶

۶۳

شہادتِ نسبت

امام جماعت احمدیہ رفیق الدین، بریلوہ کے متعلق

حضرت ڈاکٹر سید سید محمد اسماعیل خان مرحوم سلمیٰ

کی  
شہادت

حضرت ڈاکٹر سید محمد اسماعیل صاحب خلیفہ صاحب کے مہولہ اور  
شہر بھی ہیں۔ آپ کی طبی رائے ہے کہ خلیفہ عیاش ہو۔ تو میں ڈاکٹر  
ہوں۔ اور میں جانتا ہوں۔ کہ عیاشی کی وجہ سے نہ دماغ کام کرتا  
ہے۔ اور نہ عقل۔ اور نہ ہی حرکت سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب توئی  
بربا ہو جاتے ہیں۔ جس کو انگریزی میں dementia کہتے ہیں۔ زنا انسان  
کو زیادہ سے نکال دیتا ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کو سونف فرماتے ہیں۔ سب  
..... پر اور نام یہ لگایا جائے کہ خلیفہ عیاش ہے اس کے متعلق ہیں

۶۲

کہتا ہوں۔ میں ٹاکسٹوں۔ امدہ میں جاتا ہوں۔ کہ وہ لوگ جو پستوں میں توڑی ہیں پٹھانوں کی۔ وہ وہ ہو جاتے ہیں۔ جنہیں انگریزی میں ڈاکٹر کہتے ہیں ایسا ہی کا علاج کام کرتا ہے۔ نہ عقل دست رہتی ہے۔ نہ رگلات سچ طور پر کرتا ہے۔ نثر سب توئی اس کے برہاد ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑے کہ پیریک اس پر نظر ڈالنے سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عیاشی میں پڑھ کر اپنے آپ کو برہاد کر چکا ہے۔ وہی نے کہتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَخْرَجْتُ مِنْ اَلْبَسْتِ اَنَا

گزشتہ امان کو بنیاد سے نکال دیتا ہے

اعتقل اور جلائی ہو گیا

جاؤ وہ جو کہ ہر طرف سے لوٹے

خلیفہ ربوہ بھیڑنے اسکی اس ماضی میں قبلا ہی..... ان کا داغ داغ ہو چکا ہے۔ نہ عقل کام کرتی ہے نہ اعضاء صحیح طور پر کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ٹاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ زنا انہی کو بہاد سے نکال دیتا ہے۔ کن و مہی یہی حالت طاری ہے نہ عیاشی میں ہیں۔ فالک لا نکار ہیں۔ خصوصاً آپ نے ان کی عقل ہم کام انداز میں سہلانہ پھر کر لگایا ہو گا۔ کہ کس طرح وہ وہ بھی عقل پر حکمانے نکالتے رہے اور حاشیہ پر نار و دریاں بھی نظر دیتے رہے۔ اگر یہ لکھ لکھ کر ثابت ہوا لاکھ پونہ لاکھ

۶۲

حق پسند اصحاب کی توجیہ کے لئے

یہی حرف سے نہایت اختلاف کے ساتھ کہ جو اصحاب حضرت کیج سو وہ طریقہ اسلام ہیں کہ دیکھیں۔ تاکہ فیصلہ میں آسائیں۔ اہل دانش اور طالبان حق کے لئے نہایت ضروری ہے کہ غلطی سے دل سے ان تمام باتوں کو جو خلیفہ کے حال میں پڑسا ہا سال سے بلیوں کے جاسے ہیں اور وہ انہیں مثال سے ہیں۔ آپ نے دوائی کی روشنی میں روزوں کر کے خلیفہ صاحب کا احتساب کیا ہے تاکہ حضرت کیج سو وہ طریقہ اسلام کا اصول جو بدین الہ بد لکھ کے متعلق ہو جو ہے۔ اسکی بے عروسی نہ ہو۔ اگر آپ نے اس مسئلہ کو جرات نہ اندازہ آدام سے اجاگر کر دیا۔ تو آئے ذلت نہیں آپ کی کہ اس جہاد کو جو اصول کے لئے برتی جاتے کی قدر نہ نزلت کی کا ہونے سے دیکھیں گی۔

طاہرہ انہیں انسان عقلی کا پتلا ہے۔ اصول مانا کوئی بات نہیں ہوتی چونکہ حضرت مرزا ثابت پیر احمد صاحب دیکھنے حضرت جو اسے دیکھ کر زواہ دار علمنا، اس امر کے لئے کوشتاں رہتے ہیں کہ ان خلاف کو نہیں سوسے پڑا۔ مابند نہیں حوالے ان چپ پانکے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت آدم نے زانی، بدکار، عیاشی کے متعلق ایک علمی فیصلہ دیا ہے وہ ج ذیل ہے۔

۱۔ مہیا نہ صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور نثر میں پڑنا۔ کہ کسی سے دوسرے کو منسخری اور زانی قرار دیتے ہیں۔ بلکہ وہ ماہر و پختہ ہیں

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی



۴۲

۲۔ یہ تو اسکی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت بیٹھے کہ میں نے اسے عیسٰی خود زنا کرتے دیکھا یا پتھم خود مشروب پیچھے دیکھا۔ اگر میں اس لیے خیالدار لڑکھیلے مابذکر زنا تو ادا کیا کرتا۔ وہ تبلیغ رسالت جلد۲ صفحہ نمبر ۲۱) تو اس کی طرف آنے میں یہ سیکھا ہٹ کیوں ہو جب آپ کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ صاحب سے خلافت اور عبودیت میں باتیں کرتا ہے۔ اس عدالت میں حضرت اقدس کا حوالا بھی یہی سلا لیا کرتا ہے۔ میرے دوستوں نے جو وہاں میں عرض کر رہا تھا۔ حضرت اقدس کا تفسیر فیصلہ ہے یا آپ کی نکالنا یہی حضرت اقدس کی کتابوں میں آیا مراد سورج ہے۔ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بڑا لامعائش میں صلح ہو جو ہو سکتا ہے تو خدا کی قسم اگر یہ حوالہ لیرے پیر سے علم اذکبہ میں لیا تو یہی سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ نہ بصورت دیگر آپ زنی ہو گا۔ کہ حضرت اقدس کے دن سورجوں کی سورجوں میں ہو بڑا لاکے لئے آپ نے لکھا ہے۔ عمل کرنا ہو گا۔ اور ہماست کے برزخ کو احتساب کرنا پڑے گا۔

## بذکر دار صلح موعود نہیں ہو سکتا

یہ بات ظہیر من ایش ہو سکتی ہے کہ خلیفہ صاحب بڑا۔ مہیا ش بدھین نشان ہیں۔ بذکر دار صلح موعود نہیں ہو سکتا اور اپنی تمام برعاقب کو چھپانے کی خاطر مختلف ہانے اندر میں رجعت۔ قیامت و نارت۔ پانہ۔

۴۳

۱۔ در صدر سخن احمدیہ کا رد یہ ہے کہ یہ منافع کیا جاتا ہے۔ میرے افضل میں ہوں کہ آپ ہے کہ زنا کرنا برہم نہیں ہو سکتا شہیر جرم ہے۔ زنا تو آپ میں نہ نسبت کے مطابق کرتے ہیں۔ اس لئے اس کا تو جرم نہیں۔ اگر سبالب حضرت اقدس کے فرماں کے سلا لیا گیا جاتا ہے۔ وہ برہم ہے۔ خلیفہ صاحب نے حضرت اقدس کی تسلیم کو پس پشت ڈال کر اپنا سجدہ جانے کی کوشش کیا۔ افسوس کہ افسوس سے اپنے آپ کو زنا کہی صعب پر کرم کے متعلق بدینہ کا سلا لیا اور کہی اخصیت مسلم سے بھی آگے بڑھنے کا قدم اٹھا یا۔ زنا اذکبہ ایسے شخص کا انجام اچھا نہیں ہو گا۔ اس کو اس دنیا میں عوشر اول ہے۔ وہ ایک زندہ نکان ہے۔ چلنے پھرنے سے بھی عاری ہے۔ دروغ کسی تیراوت ہو گیا ہے۔ فنا کی نشانی کو پنا سلا۔ بنایا ہے۔ داخل برکت کے نشانی ایسے شخص کے ہوتی۔ دراصل اگر ضرور سے دیکھا جائے تو کس کی وجہ ہے کہ گندہ کی مچوں سب کو خواب کرتی ہے۔ اس لئے اشد تنانے نے اس آہک وجود کو وہاں سے نکال کر شدت میں لیتی کہ گھنڈو کر لیب۔

یہ عوشر کر۔ ہاتھ کر آپ عاشر برہم اس کو سبب ادا ہے جو ہے۔ کہی ٹیک کے زندہ اس کو ہوش میں آیا جاتا ہے۔ کہی شہب بیکار رہے۔ ہاں کہ باصمت کزنل دی جاتی ہے۔ بار ادرجی سے اس میں پوڈنگ کے لئے بیکین جب ایک عمارت بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کے پوڈنگ کمال نہیں سبب ادا سے نکلتے ہیں۔ بالآخر اس بوسیدہ عمارت کو طینتس نہیں

۷۵

کر کے از سر نو بتا دی جاتی ہے۔ یہی حال ٹیبلز ۲ ہے۔ اپنی برائیاں گن کر  
وہ سے تفریق نہ کرے گا۔ اس وقت مہسا را بے سرور ہے۔ یہ  
نظر طلا سار سے دیکھنے والوں کے لئے اس شخص کی بدکرداری کا نڈ  
ثبوت ہے۔ یہ ناپاک وجود تم پر کر رہے گا۔ اور حضرت اقدس کا اولاد  
یہی آپ اب سے لے کر۔ خدا کے گورنر دیو نر ہے اندھیر نہیں۔  
میں نے امدی بزرگ! اے بیٹوں! اجیت! امدی کا  
ہر فرد جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اصولوں کو پانے کے لئے  
بے تاب ہے۔ ان سے استقامت ہے کہ نیند صاحب اس وقت زندہ  
ہیں۔ ان کی موجودگی میں جس امدی شریعت کو آپ پسند فرمادیں۔ فیصلہ  
کی راہ نکالیں۔ انسان کی سوجھ بوجھ کے مطابق تک ہی سمجھیں قابل  
عمل رہی۔

عدالت کیوں مہیا ہو

### اظہار واقف کو بد زبان نہیں کہا جاسکتا

حضرت اقدس از اسلام فرماتے ہیں۔  
"دشنام وہی اندھیر ہے اور بیان واقف کا وہ کہو کیسا ہی تیغ اور  
خون ہو۔ دھڑکی۔ شے ہے ہر ایک متفق اور حق کو لا بہ فرس ہوتا ہے۔  
کو بھی بات کو کہے اپنے طور پر مخالفت کرتے۔ انوں تک پہنچا دے

۷۶

پھر وہ ہی سب سے بڑا فرقہ ہو۔ تو ہر اک سے ذرا اور نام منظم  
خلیفہ صاحب کی بددلیوں کے متعلق مختلف آقاں اور حضرت مسیح موعود  
علیہ السلام کے صحابہ اور ائمہ شریفین سے بھی  
میں تمام پسند اور حبیبہ اصحاب سے نظر مت کتا رہی۔ جینوں  
سوتہ میں کہ وہ ہیں جو صورت آپ کے لئے آسانی ہو۔ اس پر عمل  
کیں۔ وہ نہ بصورت دیگر کہ اس میں سلیت وصل کیا گیا۔ تو وہ اپنے متعلق  
ظکو کہ ہیں افسانہ کر سینگے۔ مگر یاد رکھیں۔ خلیفہ صاحب اپنی بدکرداری  
اور کہ تو ان کو اور بھی طرح مانتے ہیں۔ وہ کہی بھی مہا بل کے لئے سید ان  
میں نہیں نکلیں گے۔  
وہ کہی جتنی کہی کہی۔ افسانہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلیفہ صاحب کو  
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں بھی مرزا موعود اور مہا بل  
پر کہیں متور کیا گیا اور نہ تاپ کہ ہر دم ثابت تھا۔ مگر بدنامی کے خوف سے  
اس کو دگنڈ کیا گیا۔ اگر ہمارے بزرگان قلمت اس وقت اس خوف کو بلا کے نہ  
لے کہ اس کو گنڈ سے پیٹھ سے لے کر نکال دتے تو آج اس بدنامی اور بدست  
سے محفوظ رہتے۔

میں آپ اپنے فرسوں کو پہنچائیں۔ اس بدنامی کو مہا بل کی صورت  
میں ختم نہ کی عدالت میں لائیں۔ تاکہ تقدس اور پاکسب ازی الم شریف ہو  
کو مہانت امدیہ کے لئے خصوصاً ہدایت کا سوجب ہو۔  
طالب دعا۔ زمانہ قلمت منظر ہر ملتان!

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتان

## انتباہ!

جس قدر شہادتیں اور حلیفہ بیان کتاب پذیر ہیں۔ مدت ہیں۔ ان کی اسل  
 تحریرات موجود ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو اصل تحریرات کے عکس شائع کر دیے  
 جائیں گے۔ تاہم اگر کوئی صاحب کسی دباؤ کے ماتحت یا جماعت احمدیہ ربوہ  
 کے سزاویا یا خصوصاً سرزائیس احمد صاحب۔ ایم اے "قرآن مجید"  
 (ان کے کیریئر کے متعلق بھی شہادتیں موجود ہیں۔ جو کسی وقت منظر عام پر لائی جا  
 سکتی ہیں) اپنے حلیفانہ اور فلسفیانہ لاطفل انداز میں ان بیانات کے ترمیم کر کے پڑھا  
 کریں۔ تو اس موقع پر بھی انہیں قہار و جبار کی عدالت میں آنا ہوگا۔ اہل مذکورہ  
 بعض اب حلف اٹھانا ہوگا۔ جو صاحب تردید کریں۔ ان کے لئے ضروری  
 ہوگا کہ:۔۔۔ اس مقابل کم از کم:۔۔۔ دوسرا نشانہ اس کے سامنے سب سے پہلے ہو کر بر  
 شہادہ مندرجہ ذیل شکر لفظ اب حلف اٹھائیں

میں اس خدا کے ذریعہ جہاں جی و قیوم اور قہار اور جبار کی قسم کھا کر  
 ہوں۔ جس کے ہاتھ میں ہیرن جان ہے۔ اے میری کی جھوٹی قسم کھا کر انتہیوں  
 لاکھ ہے۔ اے میری، ہتھیوں، سیتھوں، ایوکی، بہتوں، ان کا باپ  
 کھتے وقت بھی جو شکر ہے۔ وہ نہ ذرا یا سو سو وقت ہوں۔ ان کا نام لاکھ  
 دیا جائے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر شکر لفظ اب حلف اٹھانا ہوں کہ جناب  
 مدینہ محمودیہ صاحب نام جماعت احمدیہ ربوہ ختم ہوگی نہ نایا

کو اہلیت نہیں کی۔ اے سب سے بڑی طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے  
 کہ میں نے اہلی کے واسطے کو ایسی ہی بدکاری سے خارج وار قرار  
 دیا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ میں نے کسی نہ انہیں بدکاری اور نہ انہیں  
 اور نہ کہا۔ اور نہ ہی کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب کی۔ اور نہ ہی  
 میں نے کوئی تحریر لکھی کہ وہی۔

میں نے میرے خدا میں تجھے حاضر و ناظر جان کر یہ کہنا ہوں۔ کہ  
 میرا یہ بیان بالکل سچ اور واقعات کے مطابق ہے اور میں نے کسی  
 ترغیب یا ترہیب یا کسی قسم کے دباؤ کے ماتحت یہ بیان نہیں  
 دیا۔ میں جانتا ہوں۔ کہ تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں۔ تیری  
 قوت سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں۔ تو ہی جسے چاہے عزت دیتا

اور جسے چاہے ذلیل کرنا ہے۔

میں نے میرے خدا کو اگر آپ کے سارے بیان میں جھوٹا ہوں  
 اور فریب دنا، مکاری، چال بازی، نظروں کے پیر، پیر، فقر  
 بازی اور خیانت سے کام لے کر ہوں۔ تو تیرا قسم تھوڑا ہی  
 اس قدر مجھ پر پڑے۔ تیرا غضب مجھے جھمک کر دے۔ دولت  
 تباہی۔ عزت، مہربانی عزیزوں، ارشاد و درناں، بیوی بچوں  
 کی موت اور مصائب و آلام کی مار۔ مجھ پر مار اور اپنے بیعت  
 ناک ہاتھ کے ساتھ مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔  
 میرے وہ دو دیوار پر آگ برستے۔ سب سے دھنوں کو توڑیں

## فیصلہ عدالت عالیہ پاکستان لاہور

تاریخی منہج عید الرحمن مصبری قادیان

ذہنی کمزور گنہگار سپرد نے جو حکم طبعی صواب و عدل پر مبنی ہے اس کے تحت عدالت عالیہ نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے اس کے حکم کے تحت جاری شدہ نوٹیفکیشن منسوخ کرنے کی درخواست کی ہے۔

عدالت عظمیٰ نے ۲۲ مئی ۲۰۱۱ء کو اپنی دستاویز فیصلہ منسوخ کرنے کی درخواست کی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے تحت عدالت عظمیٰ نے حکومت کو منسوخ کرنے کا حکم دیا۔

حکومت کے عدالت کی طرف سے اس بارے میں درخواست کی ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے اس بارے میں درخواست کی ہے کہ اس کے بعد عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے اس بارے میں درخواست کی ہے کہ اس کے بعد عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا جائے۔

۷۹

کر دے۔ میں ذیل اور سوا ہو جاؤں۔ اندیسری اندیسری سے باپ کی شش منقطع ہو جائے۔ اور ابد الابد کے لئے کھوپڑی بنیں۔ برستی رہیں۔ اندیسری سے منقطع کی جاوے جسے کبھی نہ ڈالیں۔

كُنْفَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

۲۴

ہی نے ڈگریٹیشن ہی میں سے ایک پیزا کا بنا دیا اور وہی قلم کیا ہے جو اس طرح شروع ہوا ہے۔

• بیوک جینڈر میگزین نے ایک ایسے ایسے قصور بیان کیے۔ اس میں جہاں وہ جو شخص آپ کو خط لکھ کر غلط فہم کے جذبے سے جھڑکنے کے لئے تیار فرمت اپنے دل اپنے دلیر معاش لکھنے کو آم کر قرار دیا ہے۔۔۔۔۔

• مئی کا مہینہ صرف ایک ایسے ہی ہے۔ جس کا خلاصہ یوں دیا جا سکتا ہے

مگر وہ طیبہ ہی ایسے سخت عیوب ہیں کہ اسے معورل کرنا ضروری ہے

ہمیں نے اپنے آپ کو محبت سے اس نے طیبہ کیلئے تاکہ میں ایک نئے طیبہ کے انتخاب کے لئے ہمد جہد کر سکوں۔

میری دل سے میں سزا کو بلا تسم کے بیانات بھلنے خود ایسے نہیں ہیں کہ کون کی بنا پر کسی خط کی منتظر اس کی ضمانت طلب کی جائے۔ مگر رسالت میں درخواست کنندہ نے ایک تحریری بیان دیا ہے۔ جس کے معانی میں اس نے کہا ہے۔

• سرکار طیبہ سخت بد چلی ہے۔ یہ تقدیر کے پہلے میں عمد توں کا شمار کیلئے ہے۔ اس کا ہم نے اس لئے بھٹن بھٹن اور بعض عمد توں کو لاپرواہی رکھا ہوا ہے۔ ان کے دلیر۔۔۔۔۔ مصوم لکھیں اور لکھیں کو تیار کرنا ہے۔ اس لئے ایک سوا سوا بنائی ہوئی ہے۔ جس میں مواد اور ترقی و ترقی میں اسی کو سوا سوا بنائی ہوئی ہے۔

• درخواست کنندہ نے لکھے ہیں کہ بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ

۲۳

• وہ تو اس قسم کے گندے شخص سے آباد کرائے۔

• اب اگر اس کو کسی کا خلاصہ میں لکھا ہے تو بیان کیا ہے۔ درخواست کنندہ کے اس بیان کی جھڑکی میں جو اس نے عدالت میں دیا ہے، پڑھا جائے۔ جیسا کہ بہت سے پڑھنے والے ایسا کریں گے تو ان کا لگ کہ اور ہی ہو جائے گا۔

• میری دل سے میں، اور تیار ہوں اور معذور اس کی ضمانت طلبی کا متقاضی ہے۔

• ایک اور امر بھی ہے۔ سرفہ ۲۳ جولائی کو طیبہ نے ایک خط دیا جو بعد میں یکم اگست کے اخبار الفضل میں ہو کر عامتہ کا سرکار دی ہو ہے۔

•

اس خط میں طیبہ نے عامتہ سے طیبہ بولنے والوں کو قصور بھلنے کے دہرا دہرا کے الفاظوں کی نسبت، استغناء کے جہاں کی نسبت میں ہے کہ پڑھیں کہ وہ طیبہ کے خط میں لکھا ہے اور اس وقت تک ہے

اس کا نتیجہ ہے جہاں کہ فرطین نے اس کا سبب لکھا ہے جس کے بعد اس کا صدقہ جہاں صحت میں ہے۔ اس کا کتاب لکھا۔ جس میں اس نے یہ کہا ہے۔

• اسی لئے تو ہم ارباب علم سے استفادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تمہارا کہہ کے نہ ہندو اس کا خلاصہ طیبہ توں اور غنی حقائق پیش ہو کر اس شخص کا خلاصہ جو طیبہ کے کہیں کا خانقاہ۔ فتنہ کا مرکز یا خانقاہ دیگر ہے

• جو طیبہ نے بیان کیا ہے۔

اب اس بیان میں طیبہ کے خط کے بیان کی طرف اشارہ ہے جس میں

اس نے اپنے دشمنوں اور عزیزین کے خاندانوں کے حلقے = کہا تھا کہ میں نے  
 سے عیاں کیا کبھی ہائی ہے ان اور وہ فتنہ کا اڑا ہی جائی گے۔ یہی دہانے  
 میں لڑا رہیں گے اس پر سڑکا مطلب صاف اعلان ہے۔ اور ایسی ہی قانون  
 میں اس کا مطلب کہا گیا کہ میں کہ صرف اللہ اور اللہ کے کتبے کے  
 قیاسی جہنوں نے نظریہ کو صیقل دیا۔

میاں محمد رفیع خان نے جو درخواست کنندہ لکھ کر ہے اس میں لکھا ہے  
 کہ شیخ عبدالرحمن صری اس کی لڑی پر سڑک کے ذمہ دار ہیں۔ واقعات  
 وہ کہہ کہ انجن ایک مختصری حیثیت رکھتی تھی میں لکھا ہے کہ میں اللہ  
 سیرانی نظریہ ہے۔ اصل سڑکا لکھا تھا تھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے  
 ہو سکتا ہے کہ اس کی نقل ایک کاپی لینے کی گئی ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے  
 کے نظریہ سیرانی میں امدید کے دستخط تھے۔ مگر اس کے خلاف  
 لڑا رہیں گے کہ نے اسل سو دہ چل گیا ہے۔ اس کے باپ نے اس  
 کی لکھی ہے کہا تھا۔ اور میں نے شیخ صری اس وقت محفوظ میں لکھی  
 تھی۔ میں کشمیر کے بیان کو قابل کہتا ہوں۔ کہ جو کہ ہے جو  
 کہنے کی کوئی وہ معلوم نہیں ہوئی۔ جو وہ مسائل کے گواہ میں پائی جائی  
 ہے۔ نیز یہ کہ اس کا مقصد اپنے لہذا کہ چھوڑ ہے۔

یہ کہ نظریہ میں اسل مستوفہ ہے سیرانی کے الفاظ نہ لکھے تھے۔  
 ظاہر نہیں کہ کہ صاف کہ وہ لکھا تھا کہ کاپی لکھی ہے الفاظ یہ ہے  
 کہتے تھے۔ میری رائے میں شیخ عبدالرحمن رفیق اس پر سڑک کے حلقے

ماتہ کمالی ہے۔ خصوصاً اس بیان کے سامنے جو انہوں نے طاعت میں دیا

۲۰۶

ان حالات میں مقامی حکام نے شیخ عبدالرحمن کے یہاں کہ  
 کاسمانی حفظ اس کی ضمانت کی کہ وہ مناسب تھی۔

ایک جو یہ ہے کہ ضمانت نہیں ہے اور ضمانت  
 دی جا چکی ہے۔ ا۔ نصف سے لے کر مراد لکھی چکے ہے۔ لہذا طاقت  
 سبکی مانی ہے۔

ایف ڈی پورٹیکو پی پی جی

رہالت عالیہ انگلٹ لکھی ہے

وَقِيمُوا الصَّالِحِينَ  
 قَادِرَانِ كَرِيمَتِي بِمَا كُنْتُمْ صِدِّيقِينَ  
 وَأَكْبَرُكُمْ  
 قَادِرَانِ كَرِيمَتِي بِمَا كُنْتُمْ صِدِّيقِينَ  
 وَأَكْبَرُكُمْ  
 قَادِرَانِ كَرِيمَتِي بِمَا كُنْتُمْ صِدِّيقِينَ  
 وَأَكْبَرُكُمْ

جلد ۱ قادیان ماہ مورخہ ۱۳۳۸ھ مطابق جون ۱۹۲۹ء نمبر ۲

خلیقہ قادیان کا چھٹا  
 جیاسور افسانہ سال کا انتخاب  
 ایک قادیانی خاتون کا سنی مہربان  
 مجھے بنگلہ اگر زبردستی میری عزت برباد کر دی  
 صفحہ ۸-۹ پر ملاحظہ فرمائیے

فہرست مضامین  
 دعوتِ اسلامیہ کی تاریخ ...  
 قادیان کے ...  
 قادیان کی ...  
 سالانہ ...  
 اہم ...  
 قادیان ...  
 قادیان ...  
 قادیان ...  
 قادیان ...  
 قادیان ...

درجہ اولیٰ کی ہے اور اس میں ...

یہ حوالہ صفحہ 168 پر درج ہے

تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق از مظہر الدین ملتانی





(۲) ایک خاندان کی بیماری دوسرے خاندان میں (یعنی اولاد وغیرہ) میں آجاتی سنی ہوگی دودھ کو ایک دفعہ جاگ لگا دی جائے تو پھر وہی جاگ کام آتی رہتی ہے۔ بعینہ اسی طرح اب یہ جاگ آخر (یعنی عیاشیوں کی رنگ رلیاں) اپنی مغلیہ خاندان کی نسل ہوتے اس خاندان میں بھی لگتی ضروری تھی سو لگی اور خوب لگی اور غالباً انکی طرز عیاشیوں کو بھی مات کر دیا ہوگا۔

جناب سیکرٹری صاحب ہوشیار باش جاگتے رہیئے نظارہ جلوہ قریب آ رہا ہے دل مضبوط کر لیجئے ہوش و حواس قائم رکھئے گا۔ قادیان کے عوام ہماری اس خاندان سے وابستگی چولی دامن کا ساتھ سمجھتے تھے۔ ایک دن ہوتا کیا ہے غور فرمائیے گا۔ حضرت خلیفہ ثانی حکم فرماتے ہیں عشاء

کے بعد ام طاہر کے صحن والی سیڑھیوں کی طرف سے آنا چنانچہ حاضر ہو کر دستک دی حضور خود دروازہ کھول کر اپنے ساتھ صحن میں لے گئے کیا

دیکھتا ہوں کہ دو بڑی چار پائیاں ہیں جن پر بستر لگے ہیں جنکی پوزیشن یوں تھی

سرانہ شمال قبلہ رخ والی چار پائی کے پاس لے جا کر اس

پر بیٹھنے کا حکم دیا تو دوسری پر حضور لیٹ گئے مقام خلیفہ

کے تقدس کے خیال سے کبھی برابری میں بیٹھنے کا وہم و خیال بھی نہ ہوتا

تھا اسی شش و پنج میں حیران پریشان کھڑا بت نیا رہا الہی کیا شامت



ہے کیا مصیبت آنے والی ہے کہ اتنے میں حضور تشریف لائے بکڑ کر بھلاتے ہوئے فرمایا فکر نہ کرو شرماؤ نہیں جس کے چند ہی سیکنڈ بعد چار پانی یز بھی چادر کے نیچے سے کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ سگڑا۔ سنبھلا کہ ایک چٹکی پیٹھ پر کھٹی ہے۔ گھبرایا ہوش و حواس گم ہی تھے کہ اب چادر کے نیچے کوئی ذرا زیادہ ہلتا معلوم ہوا دراصل کروٹ لی گئی تھی کروٹ لیتے پھر دو چار چٹکیاں کھٹی ہیں میں پھر بھی صدمہ بکھڑ بنا بیٹھا تھا۔ کہ پھر حضور آئے شرماؤ نہیں لیٹ جاؤ فرماتے چادر کے اندر منہ کر کے اس صاحبہ سے کچھ کہا جس نے نصف اٹھتے ہوئے اپنے بازو میری کمر کے گرد حائل کرتے کھینچ کر اپنے اوپر لٹا لیا اس کھینچنے کے نتیجہ میں سر ہاتھ اچانک جو اس جسم نفیس سے لگے تو حیرانی ہوئی کہ محترمہ الفت نشکی پڑی ہیں ادھر میں بے حس و حرکت پتھر بنا پڑا تھا مجھے علم نہ ہو سکا کس وقت میرے بھی کپڑے اتار پھینکے اور کیسے پوری طرح اپنے اوپر لٹانے لگیں بدستی کی شرارتیں کرنے "آخر حجت ان کی ہوئی ہار میری" گویا ان ٹرینڈ کو ٹرینڈ کر کے مستقل ممبر سرروحانی (یہ نام میرا دیا ہوا ہے) کا اظہار بنجشا گیا ہاں یہ صاحبہ آخر کون تھیں آپ جستجو تو ضرور کر رہے ہونگے لیکن فی الحال بغیر نام بتائے اتنا عرض کئے دیتا ہوں کہ وہ صاحبہ حضور خلیفہ ثانی کی بیٹی صاحبہ تھیں بس پھر کیا تھا پانچوں گھی میں سرگڑا ہی

میں والا معاملہ آئے دن بلاوے دن ہو یا رات دفتر یا چوکیدار کی گو پہلے بھی روک ٹوک نہ تھی مگر اب تو بالکل ہی ختم سیدھے اوپر بیٹیوں سے بڑھتے اب بیگمات کے پیش ہونے یا کئے جانے لگے پہلے پہل تو گھروں میں پھر قصر خلافت کے ایک کمرہ ملحقہ باتھ روم میں جو دراصل مستقل داد عیش کی رنگ رلیوں کے لئے مخصوص فرمایا ہوا تھا۔ جہاں بیک وقت ایک ہی بیٹی اودیا بیگم صاحبہ سے خود بھی اکثر شریک رنگ رلیاں ہو جاتے گویا تینوں ایک ہی چار پائی پر پڑے محومستیاں ہوتے محترم سیکرٹری صاحب امور عامہ اسلام میں پردہ کا حکم سخت بتایا جاتا ہے لیکن یہاں دیکھتے ہیں آپ کا امور عامہ خلیفہ کے اس پردہ زادہ پر کیا نوٹس لیتا ہے کونسی جماعت سے خارج کرتا ہے (خیر یہ آپ کی دردسری ہے۔

ناراض تو نہیں ہو گئے ابھی تو ابتدائے عشق ہے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے بقول کہاوت ”پانہ ٹریا متھا سٹریا“ ابھی تو سنسنی خیز جلوؤں کی روشنائی ہونی باقی ہے ہندو دل قابو میں رکھئے جناب ہوشیار رہیں غور فرمائیں ایک عرصہ جبکہ ایک بیٹی سے دونوں ہی رنگ لیاں منلتے محومستیاں تھے کہ موزوں تے آکر نماز کی اطلاع دی مجھے یوں فرمایا تم مزے کرتے چلو میں نماز پڑھا کر ابھی آیا۔ چنانچہ اسی حالت

میں جبکہ میں خراب رہتی تھی وضو تو درکنار اعضا بھی نہ دھوئے نماز پڑھی اور تینوں نوافل پھر بیٹی کے سینہ پر پڑے غرق عیش و عشرت ہو گئے کیا خوب کہا ہے

” تیرا دل تیرے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں “

رحمیں کسی نے بھی یہ کہا خوب با موقع اور اغلباً اپنی کی ذات مبارک کا نقشہ اللہ نے کچھوایا ہے مختصر کرنے کے لئے اللہ کو حاضر ناظر کرتے جن سے یہ رنگ رلیاں مناشی منوائی گئیں تی الحال تعداد لکھ دیتا ہوں بوقت کارروائی اسمائے گرامی سے مطلع کروں گا۔ بیگمات تین صاحبزادیاں بھی تین ان دو صاحبزادیوں سے دو دفعہ ایک تو قریباً مستقل۔

یہاں لگے ہاتھوں ایک بیگم صاحبہ (بڑی) ام ناصر کی حسرت جو قبر میں ساتھ لے گئے یوں فرمایا دیکھو ام ناصر ہیں کہ یہ شریک محفل نہیں ہوتیں تبھی تو موٹی بھینس ہوتی جاتی ہیں اس کے مقابل غور فرمایا جائے ام منظر کو دیکھو کیسی خوبصورت نازک سی چلتی پھرتی ہیں کیونکہ یہ کرواتی رہتی ہیں گویا بھاؤ جوں کو بھی نہ بخشا گیا یہ خیال ذہن نشین ہونا ضروری ہے جن سے یا صاحب مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ وہ پاک و صاف ہیں اور الفاظ ” رنگ یا مطلب “ جس کی نسبت بیان کئے یا کہے گئے وہی تحریر ہذا کو رہا ہوا کسی کا بلا وجہ مبالغہ قطعاً قطعاً اشارہ بھی نہ

## کروں گا انشاء اللہ

انسان گنہگار ہے اور ضرور ہے لیکن حد سے تجاوز کارکانِ اسلام سے استہزاء شاید کوئی نام کا مسلمان بھی نہ کرے گا چہ جائیکہ جو خود کو مقامِ خلیفہ پر کھڑا کرے استغفر اللہ ربی جناب عالی یہ تو رہی نماز اور اس کا احترام اب تو اچھی طرح سے سمجھ کر اپنی غیرت کے جوش کو دبا کر قرآن پاک کی عظمت پر اس اولوالعزم خلیفہ کے اس چاند سے مکھڑے کی زبان مبارک سے ادا کئے ہوئے ہوئے خواہ ایک دفعہ دوسرے کی نسبت کہ وہ یوں کہتا ہے اول تو اگر کسی نے ان کے سامنے کہے بھی تو غیرت کا تقاضا اس کو ڈانٹ تھا چہ جائیکہ ان الفاظ کو اپنی زبان مبارک سے نہ صرف ایک دفعہ بلکہ دُعا کی حدیوں کہ پھر دوسری دفعہ وہی دہرائے جاتے ہیں۔ جناب عالی یقین جانیں ان کے لکھنے کی مجھ میں نہ بہمت نہ ہی سکت ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا یوں کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن پاک کا نام لیتے ہیں میں اس کو اپنے . . . . . پر مارتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و التوب الیہ شرم کے مارے میری آنکھیں زمین میں گر گئیں کالو تو جسم میں خون کا قطرہ نہیں کیا یہی مقام خلیفہ ہے اور یہی وہ بلند باتگ پر چاہے کہ ہم ہی ہیں جو خدمت قرآن فلاں فلاں زبانوں میں کر رہے ہیں اور ادھر

اسی قرآن پاک کی فضیلت و عظمت کا عمل بجاوردہ صورت مومنوں کو توبہ  
کافراں سے دیا جاتا ہے توبہ توبہ۔

یہ بھی بتائے جاؤں کہ یہ کس موڈ میں کہے گئے ایک بیگم صاحبہ کو حضور  
کے ہر طرح کے قرب صلاح مشورے وغیرہ وغیرہ کی بنا پر چھٹی کہا جاتا

اور مانا جاتا تھا اور اہل قادیان کی مستورات خصوصاً جانتی تھیں بعد  
منانے رنگ رلیاں حضور کی خوشنودی کے لئے کھڑے ہو گئے تھے

کہ ان بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے سینہ سے لگاتے کہا "آپ مجھے اپنی چھٹی

کہتے ہیں یہ میرا چھٹا ہے" یا موقع خوب مذاق ہوا جس میں نعوذ باللہ وہ

الفاظ دو مرتبہ کہے گئے یہ الفاظ پنجابی میں نام لیتے کہ گئے جو ان کی خلافت

کی جیتی جاگتی حقیقت و اصلیت اسلام اور رسول مقبول صلعم سے

وابستگی کی نمایاں جھلک دیتی ہے اب ان کی اصلیت ضمیر کی نصیحت

و وصیت بھی لگے ہاتھوں ملاحظہ فرما ہی لے جاویں فرمایا

"میں نے تمام بچوں کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جس کے اولاد نہ ہو

ایک دوسرے سے کرنی چاہئے۔ سبحان اللہ کیا یہ نصیحت

و وصیت خلیفہ کو زیب دیتی ہے۔ گویا اس صحاف ثابت

ہو گیا کہ یہ رنگ رلیاں صرف حضور کی ذات مبارک تک

ہی محدود نہیں بلکہ کل اولاد کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں جن کو

پہلے ہی استعمال کرنا کرنا شروع کر دیا ہوا ہے  
تو بھلا اس صورت میں لڑکے کہاں متقی و پیدہ بنیر گار ہو سکتے ہیں  
تبھی تو یہ رونا حق بجانب ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں بھجواؤ جوں کی  
عزت و ناموس ہر وقت خطرے میں ہے۔ اب ان ملفوظات میں سے  
ایک اور فرمان ملاحظہ فرما لیا جائے۔

فرمایا لوگ باہر سے تبرک کے لئے اپنی بیویاں۔ بیٹیاں بہویں بھجیتے  
رہتے ہیں لیکن پھر بھی جنون عشق بازی سے تسلی نہیں ہوتی مجبوراً  
پنجابی کہادت کو جنے لائی لونی کرے کی کوئی، کے مطابق بے شرموں کے  
ساتھ بے شرم ہونا ہی پڑے گا۔ مجبوراً حقیقت حال بیان کرنا پڑے گی  
وہ یہ کہ لونڈے بازی کروانے کا بھی شوق باقی تھا۔ چنانچہ یہ چکر میرے  
ساتھ بھی ہو چکا ہے لیکن چونکہ مجھے اس قبیح عادت سے نفرت تھی  
مجبوراً خود ہی کروٹ لیتے اعضاء پکڑ کے اپنے میں ڈالنے کی تاکام عیاشی  
تو اس پر ایک دفعہ یوں فرمایا کہ خلیفہ صلاح الدین کا رجو رشتہ میں سالانہ تھا  
..... دوہی پنجابی لفظ اعضاء کتنا موٹا اور لمبا ہے اب اس سے  
غور کریں کہ ان کی عادات رنگ رلیاں اور عشق مزاحی میرے اس لفظ  
ممبر محفل سیر روحانی سے بالکل صحیح اور سچ ثابت ہو گیا ابھی اور بھی  
ممبر اور ممبرات محفل ہیں جن کی تعداد چومیرے علم میں ہے پندرہ بیس

اور ان سے آگے جاگے جاگے لازمی لگے گی جاگے کا کام ہی یہی ہے۔ اب واقعات کر سچین استانیوں کے ایک کا ذکر لاہور کے اخبارات میں ہوا خبریوں لگی کہ مرزا قادیانی ہوٹل سے ایک لڑکی لے اڑے یہ برکینر ہوٹل لاہور کا واقعہ ہے ایک دوسرے کو بھیجنے پر ناکامی کے بعد مجھ حکم ملا بعد کامیابی شاہباش علی الغرض اسے لے کر سینما جو ملک کے بت کے پاس ریڈ کراس آفس کے بالمقابل ہے (پلازا سینما ناقل) مع عملہ گئے انٹروال کے قریب یکدم بھاگم بھاگے کاروں میں بیٹھ یہ جاوہ جا بعد میں علم ہوا کہ کیبن میں یہ کر سچین لڑکی بغل میں لئے ہوئے پیار وغیرہ کرتے تھے باہر سے کسی کی نظر کا نظارہ ہو گیا گویا نام کو استانی اندر خانہ عیاشی۔ اب یہاں اصل معاملہ یوں بیٹھتا ہے کہ قادیان پہنچ کر سینما بینی میں کل دنیا جہان کی خرابیاں گنوائیں خطبہ جمعہ کے شیخ سے اخبارات رسائل تقاریر کے ذریعہ سینما بینی سے سختی سے منع فرمایا جاتا ہے مگر اس سے پہلے جب بھی لاہور گئے سینما ضرور دیکھا جاتا آیا خیال شریف میں۔

جناب سیکرٹری صاحب امور عام معلوم ہوتا ہے سینما بینی سختی سے منع ہونے پر آپ کا حلق خشک ہو گیا ہے فکر نہ کریں میرے پاس تری کا بھی سامان موجود ہے۔ سو محترم من وہ یوں قادیان سے کار لاہور جاتی وہاں سے محترم شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ



بعد جج کے ذریعہ شراب کار کی پھپھی سیٹ کے نیچے چھپا کر لائی جاتی تاکہ عیاشی میں کوئی کمی نہ رہ سکے (حلق ٹھیک ہو گیا ہوگا) مگر صاحب میں میں معافی چاہوں گا اوپر لکھا تو وجہ مظالم "تھا لیکن مظالم کی بجائے عیاشیوں کی داستانوں میں پڑ گئے مگر جناب مجبور ہوا تھا سو <sup>حلیہ</sup> میرے ساتھ قصر خلافت کے اس مخصوص کمرہ رنگینوں میں جسے اس اولوالعزم خلیفہ نے مغلوں کی عیاشیوں کا گوارا بنا رکھا تھا ملاحظہ ہو بحیثیت قین نوٹو گرانی ایسے ایسے رنگین نظاروں سے بھلا نظر کیونکر چوک سکتی تھی لہذا ہر ہی پہلو سے اچھی طرح محفوظ ہوئے بس اور بس یہی ۲۲ سالہ وجہ مظالم ہے جن کی تلاش کے لئے چوریاں خانہ تلاشیاں تالے ڈیکھیری میں توڑے توڑے گئے۔ سر توڑ گشتیں فرماتے اٹری چوٹی کا زور لگاتے ناکام و نامراد ہوتے ذلت کے اٹھانے گڑھے میں ڈیکیاں ہی کھاتے رہے۔ اب جبکہ خاموش بیٹھے بھی صبر نہ آیا مجبور کر دیا "تم صبر کرو وقت آنے دو" سو وقت آ گیا ہے ڈیکوں کی بجائے ڈوبنے کا بھلا ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے ایسی ایسی رنگینوں کی تصاویر بھلا کوئی گھروں میں رکھتا ہے خصوصاً جبکہ تلاش میں ہر قسم ذلالت کے حربے استعمال کئے کر دائے جاتے ہوں اب وقت آیا ہے ان کے منظر عام پر لانے کا جو پیش

کئے جائیں گے تا ان کی عیاشیوں کو حقیقی رنگ میں رنگا کرنے کے لئے بوقت کارروائی مدد و معاون ہوں۔ جناب والا شاید جو وجہ منظام درج کی ہے اس سے غلط مفہوم اخذ کریں کہ اس خاکسار کا سارا وقت انہی مشاغل میں مبتلا رکھا جاتا تھا زیادہ نہیں صرف تین واقعات گوش گزار کر دوں جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں کہ ہمارا اس خاندان سے عقیدہ گہرا تعلق رہا ہے جس کی وجہ سے حضور کے ذاتی باڈی گارڈ کے طور پر ہر وقت ہی حاضر خدمت رہتے جس کی وجہ سے نہ صرف قادیان بلکہ حضور کی ہمرکابی میں قادیان سے باہر جانے کا شرف نصیب رہا چنانچہ اور مواقع کے علاوہ تین اہم واقع پیش کرتا ہوں۔

۱۔ دہلی کے ایک جلسہ میں تلاوت کے لئے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو حکم ہوا تلاوت میں زیر زیر کی غلطی بسا اوقات سہوا ہو ہی جاتی ہے مگر وہاں تو مقصد دراصل جلسہ کو درہم برہم کرنے کا تھا ایک منٹ نے کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کیا ہی تھا کہ اس کے دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ مل کر لنگے بکواس کرنے نتیجہ میں ہلا گلا ہوا ایسا میدان صاف کہ ان کو ہمیش یاد رہے گا۔

۲۔ دوسرے سیالکوٹ میں حضور کی تقریر سمجھولی نہ ہوگی جہاں

دوڑے جاتے ہیں بائید بتائے باب  
 فافلو کیوں ہو رہے ہو ماشق چنگ و باب  
 نست ہو کیوں اس قدر افسد کے اتوال پر  
 کیا بتا کیوں مثل پران سب کے پتھر ہڈ گئے  
 اپنے پیچھے چھوڑے جلتے ہیں یہ اک صحن میں  
 امر المعروف کا بیڑا اٹھاتے ہیں جو لوگ  
 پر جو سولی کی رننا کے واسطے کرتے ہیں کام  
 فہ شمر ہیں سنگباروں کو بھی جو دیتے ہیں پھل  
 وگ ان کے لاکہ دشمن ہوں وہ سب کے دوست ہیں  
 یا الہی آپ ہی اب میری نصرت کیجئے  
 کیا باؤں کس قدر کمزوریوں میں ہوں چھٹا  
 میں ہوں خالی ہاتھ مجھ کو یونہی جانے دیجئے  
 شکل بزمی گنی جتنا کیا دنیا سے پیار

شاید آجائے نظر ندے دل آربے نقاب  
 آماں پر کھل رہے ہیں آج سب مرفاں باب  
 اس شہزادوں کی تم کیوں چھوڑ بیٹھے ہو کتاب  
 چھوڑ کر دیں ماشق دنیا بھگتے ہیں شیخ و شاب  
 بھاگے جاتے ہیں یہ امتی کیوں بھلا گئے جتا  
 ان کو دینا چاہتے ہیں ہر طرح کا یہ مذاہب  
 اور ہی ہوتی ہے انکی عز و شان و آب و تاب  
 ساری دنیا سے بڑا لائن کا ہوتا ہے جواب  
 خاک کے برے میں ہیں وہ پھینکتے شک و گلاب  
 کام ہیں لاکھوں مگر بے زندگی مثل جناب  
 سب جہاں بیزار ہو جائے جو ہوں میں جناب  
 شاہ ہو کر آپ کیا ہیں گے فقیروں سے حساب  
 پانی بکے تھے جسے وہ تھا حقیقت میں ہرب

رسالہ تشریح الاذان - ماہ فروری ۱۹۱۳ء

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ پس یہ بات یاد رکھو کہ جو کام بھی نلک کرتا ہے جب وہی کام انسان کرے گا تو اس سے ملائکہ کا تعلق پیدا ہو جائے گا۔

پہنچا طریق۔ جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ ایک خاص نکتہ ہے کہ کیوں حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں۔ اور جب پڑھو جب ہی خاص نکات اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ براہین احمدیہ خاص فیضان الہی کے ماتحت لکھی گئی ہے۔ اس کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی میں اس کو لے کر پڑھنے کے لئے بیٹھا ہوں۔ دس صفحے بھی نہیں پڑھ سکا کیونکہ اس قدر نئی نئی باتیں اور معرفت کے نکتے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دماغ انہیں میں مشغول ہو جاتا ہے۔

تو حضرت صاحب کی کتابیں بھی خاص فیضان رکھتی ہیں۔ ان کا پڑھنا بھی ملائکہ سے فیضان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ان کے ذریعہ نئے نئے علوم کھلتے ہیں۔ دوسری اگر کوئی کتاب پڑھو تو اتنا ہی مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ جتنا الفاظ میں بیان کیا گیا ہو گا مگر حضرت صاحب کی کتابیں پڑھنے سے بہت زیادہ مفہوم کھلتا ہے۔ بشرطیکہ خاص شرائط کے ماتحت پڑھی جائیں۔ اس سے بھی بڑھ کر قرآن کریم کے پڑھنے سے معارف کھلتے ہیں اگرچہ ان شرائط کا پانا جن کے ساتھ حضرت مسیح موعود کی کتب پڑھی جائیں اس مفہوم سے بے تعلق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں مگر پھر بھی ایک شرط کا ذکر کر دیتا ہوں۔

اسی وقت دوسری چیز داخل ہو سکتی ہے جبکہ پہلی نکال دی جائے۔ مثلاً ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوں تو جب تک وہ نہ نکلیں تب تک اور آدمی نہیں آسکتے۔ اس کے سوا نہیں۔ پس حضرت صاحب کی کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے چاہئے کہ اپنے اندر سے سب خیالات نکال دیے جائیں اور اپنے دماغ کو بالکل خالی کر کے پھر ان کو پڑھا جائے۔ اگر کوئی اس طرح ان کو پڑھے گا تو بہت زیادہ اور صحیح علم حاصل ہو گا۔ لیکن اگر اپنے کسی عقیدہ کے ماتحت رکھ کر ان کو پڑھے گا تو یہ نتیجہ نہ نکلے گا۔

پس حضرت صاحب کی کتابیں بالکل خالی الذہن ہو کر پڑھی جائیں۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اسے بہت سی برکات نمایاں طور نظر آئیں گے۔

ساتواں طریق ملائکہ سے فیضان حاصل کرنے کا یہ ہے کہ جس مقام پر ملائکہ کا خاص نزول ہوا ہو۔

۵۴۰ بخاری کتاب فضائل القرآن باب نزول السکینۃ والملائکۃ عند قراءۃ القرآن

ملائکہ اللہ صفحہ نمبر 30 مندرجہ انوار العلوم جلد 5 صفحہ 560 از مرزا بشیر الدین محمود

یہ حوالہ صفحہ 204 پر درج ہے

کریم کی ایک ایک آیت قلب میں وہ تغیر پیدا کر دیتی ہے جو دنیا کی ہزاروں کتابیں نہیں کر سکتیں۔ قرآن کریم پڑھنے کا بہترین طریق یہ ہے کہ درس جاری کیا جائے۔ بہت سی ٹھوکریں لوگوں کو اس لئے لگتی ہیں کہ وہ قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے۔ پس ضروری ہے کہ ہر جگہ قرآن کریم کا درس جاری کیا جائے اگر روزانہ درس میں لوگ شامل نہ ہو سکیں تو ہفتہ میں تین دن سہی اگر تین دن بھی نہ آسکیں تو دو دن ہی سہی۔ اگر دو دن بھی نہ آسکیں تو ایک ہی دن سہی مگر درس ضرور جاری ہونا چاہئے تاکہ قرآن کریم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ اس کے لئے بہترین صورت یہ ہے کہ جہاں جہاں ایر مقرر ہیں وہاں وہ درس دیں۔ اگر کسی جگہ کا امیر درس نہیں دے سکتا تو وہ مجھ سے اس بات کی منظوری لے کہ میں درس نہیں دے سکتا درس دینے کے لئے فلاں آدمی مقرر کیا جائے یہ نہیں کہ وہ خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر لے۔ کئی لوگ اپنے متعلق آپ ہی فتویٰ دے لیتے ہیں اور اپنا بوجھ دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ ہر جگہ کے امیر کا فرض ہے کہ وہ خود درس دے اگر نہیں دے سکتا تو مجھے لکھے میں اور آدمی مقرر کرونگا یا اسے ہی درس دینے کے قاتل سمجھوں گا تو کہوں گا وہ خود دے۔ تمام امراء کو جنوری کے مہینہ کے اندر اندر مجھے اطلاع دینی چاہئے کہ درس کے متعلق انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اور درس روزانہ ہو گا یا دوسرے دن یا ہفتہ میں دو بار یا ایک بار۔ میں سمجھتا ہوں درس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت راسخ ہو جائے گی اور بہت سے فتن کا آپ ہی آپ ازالہ ہو جائے گا۔

دوسری تجویز یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے اعلان کیا تھا قرآن کریم کا درس دیا جائے گا اور اس کے مطابق اگست ۱۹۳۲ء میں دس پاروں کا درس دیا گیا جس میں باہر سے ساٹھ ستر کے قریب دوست شامل ہوئے تھے۔ اب اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی صحت اور زندگی بخشی تو اس دفعہ جولائی کے مہینہ میں پھر دس پاروں کا گیارہویں سے لے کر بیسویں تک کا درس دوں گا جو لوگ شامل ہونا چاہیں جنوری میں ہی اطلاع دے دیں۔ کم از کم پچاس دوست باہر سے آئیں گے تو درس دوں گا۔ اس طرح تین سال کے اندر اندر باہر کی جماعتوں کے امراء اور دوسرے لوگ قرآن کریم کی موٹی موٹی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔

اصلاح نفس کے لئے دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ باقاعدہ حضرت صاحب کی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر ہر ایک احمدی یہ فیصلہ کر لے کہ حضرت صاحب کی کسی کتب کا روزانہ کم از کم

ایک صفحہ کا مطالعہ کیا کروں گا تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب میں وہ روشنی اور وہ معارف ہیں جو قرآن کریم میں مخفی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی اپنی کتب میں تشریح فرمائی ہے حتیٰ کہ ایک ادنیٰ لیاقت کا آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی کتب میں بھی وہ نور اور ہدایت ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم کو یہ نوبت ہے کہ وہ خود خدا تعالیٰ کے الفاظ میں ہے۔

پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر ایک احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب میں سے کم از کم ایک صفحہ روزانہ پڑھا کرے۔ عیسائی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو چھوڑ کر جو علی الاعلان دہریہ ہیں باقی سب اسے پڑھتے ہیں۔ وہ رات کو اپنے بچوں کو سونے نہیں دیتے جب تک کہ دعا نہ کر لیں پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن کو دہریہ اور بے دین اور کیا کہا جاتا ہے وہ تو اپنی اس مذہبی کتاب کا مطالعہ نہیں چھوڑتے جس میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہو چکا ہے مگر آپ لوگ جن کو تازہ کتابیں ملی ہیں آپ انہیں نہیں پڑھتے کم از کم ایک صفحہ روزانہ ضرور پڑھنا چاہئے۔

دوسری بات اس سائل کے پروگرام میں یہ رکھی جاتی ہے کہ منافقین کا اس سال مقابلہ کرنا چاہئے جو کئی جگہ پائے جاتے ہیں وہ ظاہر میں جماعت کے ساتھ ملے رہتے ہیں مگر باطن میں دشمن ہیں لیکن یاد رکھنا چاہئے اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ شرکاً مقابلہ شر سے کیا جائے اور جھوٹ کے مقابلہ میں جھوٹ اختیار کیا جائے۔ خواہ کچھ ہو جائے حتیٰ کہ جان بھی چلی جائے تو بھی شرارت کے مقابلہ میں شرارت نہیں کرنی چاہئے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ منافقوں کا مقابلہ کرنا چاہئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے حالات اور ان کی شرارتیں علوم کی جائیں اور ان سے جماعت کو آگاہ کیا جائے۔

منافق کی ایک موٹی علامت یہ یاد رکھو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتائی ہے کہ وہ جماعت کی عیب گیری کرے گا وہ کھلے طور پر کہے گا کہ جماعت خراب ہو گئی ہے جماعت بگڑ گئی ہے جو شخص بھی یہ کہتا ہو کہ جماعت خراب ہو گئی ہے سمجھ لو کہ وہ منافق ہے اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو اسے یہ تو حق ہے کہ کہے زید بگڑ گیا ہے یا بکر بگڑ گیا ہے اور اگر سنی سنائی بات ہے تو زید و بکر کے متعلق بھی کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ اول تو اخلاقی لحاظ سے یہ بھی جائز نہیں کہ کسی کے متعلق اس طرح کہا جائے لیکن جو زید و بکر کا نام نہیں لیتا اور نہ کوئی واقعہ پیش کرتا ہے بلکہ یونہی کہتا

جیسا کہ میں ابھی کہہ آیا ہوں۔ ثمن جاہل نہیں ہو سکتا۔ مگر جاہل نہ ہونے سے میری یہ مراد نہیں کہ خط پڑھ سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خط نہ پڑھ سکتے تھے مگر ان سے بڑا عالم کون تھا یا کون ہو گا؟ ساری دنیا کے عالم آپ کی جوتیاں اٹھا کر رکھنے کے بھی قابل نہ تھے۔ تم بے شک ظاہری علوم پڑھو مگر دین کا علم ضرور حاصل کرو اور اپنے اندر دین کی باتیں سمجھنے اور اخذ کرنے کا ملکہ پیدا کرو۔ اس کے لئے ایک تو قرآن کریم سیکھو اور دوسرے حضرت صاحب کی کتابیں پڑھو اور خوب یاد رکھو کہ حضرت صاحب کی کتابیں قرآن کی تفسیر ہیں۔ کل میں ان کے متعلق ایک خاص مکتبہ بتاؤں گا آج صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ قرآن کی تفسیر ہیں ان کو پڑھو۔

چوتھی نصیحت میں آپ لوگوں کو یہ کرنی چاہتا ہوں کہ خدا اور اس کی محبت کے مقابلہ میں باقی سب کچھ بیچ

خدا کی محبت دل میں پیدا کرو

ہے۔ آپ لوگ کہیں گے ہم مسلمان ہیں پھر خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہوگی۔ مگر بہت لوگ جوتے ہیں جن میں حقیقی محبت بہت کم ہوتی ہے۔ ان کا اعتقاد خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقلی یا رسمی ہوتا ہے۔ مگر احمدیوں کا ایسا اعتقاد نہیں ہونا چاہئے۔ تمہارا خدا تعالیٰ سے محبت کا وہ تعلق ہونا چاہئے جو ماں کو بچہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کو بھی عقلی کہا جا سکتا ہے مگر یہ عقلی سے اوپر کا درجہ رکھتا ہے۔

پس تمہیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا محبت کا تعلق ہو کہ جب ان کے خلاف کوئی بات سنو تو بیزار نہ ہو کہ عقلی اور رسمی لحاظ سے تمہارے اندر جوش پیدا ہو۔ بلکہ اس طرح جوش اور محبت پیدا ہو جس طرح تمہارے ماں باپ کو جب کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس وقت ان کی محبت تمہارے دل میں جوش مارتی ہے۔ یہ تو ضروری بات ہے کہ جس کا باپ مار جائے گا اس کو نقصان پہنچے گا۔ مگر کوئی شخص اس نقصان کی وجہ سے اپنے باپ کے دشمن سے نہیں لڑتا بلکہ اس سے لڑتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے۔ پس تم ان اعتراضات کا جو خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود بدکئے جائیں اس لئے دفاع نہ کرو کہ تمہیں ان سے عقلی یا رسمی لحاظ سے تعلق ہے۔ بلکہ اس لئے کرو کہ تمہیں ان سے الفت اور محبت ہے اور ان کی محبت تمہارے رُوآں رُوآں میں رچی ہوئی ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگوں کو گایاں دیتے پھرو یا ان سے لڑنا شروع کر دو۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی سے درشتی نہ کرو۔ ہاں میں یہ کہوں گا کہ جب تم خدا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

# کتب حضرت مسیح موعود کے متعلق حضرت مصلح موعود کی تحریکات

## مطالعہ کرنے، پھیلانے، طرز تخریر اختیار کرنے اور ان سے اردو سیکھنے کی تلقین

عبدالسمیع خان

حضرت مسیح موعود نے شریعت حق کے لہجے کے لئے حضرت مسیح موعود کی کتاب کے مطالعہ کرنے اور اس سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

### مطالعہ کی تحریک

27 ستمبر 1921ء کو حضرت نے اپنے شاگردوں کو خط لکھا کہ: "مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اپنی کتابوں کو پڑھو اور ان سے سیکھو۔" حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

### ایک خاص نکتہ

اگرچہ حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے، مگر اس میں ایک خاص نکتہ ہے۔ حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے، مگر اس میں ایک خاص نکتہ ہے۔

### روزانہ ایک صفحہ پڑھو

حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ: "روزانہ ایک صفحہ پڑھو اور اس سے سیکھو۔"

حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

### کتب کے پھیلانے کی تحریک

حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ: "کتب کو پھیلانے کی تحریک کرو اور ان سے سیکھو۔"

### حضرت مسیح موعود کی طرز تخریر

### اختیار کرنے کی تحریک

حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

### مطالعہ کتب مسیح موعود کا

#### انتظام ترتیب

1. حضرت مسیح موعود کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
2. حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
3. حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
4. حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
5. حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
6. حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
7. حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
8. حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
9. حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
10. حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت صاحب کی کتابوں کی تحریکات اور ان سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔



کی طرف سے ہو چکی ہے۔ میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا اس پیشگوئی کے ایک حصہ کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے۔ بہت دُعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو نال و سے اور دوسرے حصہ کا حادثہ خاص ہم سے اور ہمارے گھر کے کسی شخص سے متعلق ہے۔ (مکتوب ۳۳/۹ مکتوبات احمدیہ جلد ہفتم حصہ اول صفحہ ۲۵)

۱۰ نومبر ۱۹۰۶ء "ایک دبا پڑے گی"

(نمبر ۱۱)۔ معلوم نہیں یہ کس قسم کی دبا ہوگی۔

(بدجلد ۹ نمبر ۳۶ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳۳ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

نومبر ۱۹۰۶ء " (۱) قَدْ فَتِنِي قَلْبِيهِمُ الرَّعْبُ (۲) وَ عَدَّ غَيْرَ صَكِّهِ دُوبُ "

(بدجلد ۹ نمبر ۳۶ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳۳ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

۲۶ نومبر ۱۹۰۶ء " (۱) بلاؤ تا گمانی۔

(۲) ایک عربی لفظ اللہم ہو جس کے معنی ہیں تو ان کی جینیں سنے۔

(۳) یا اللہ نسخ۔

(بدجلد ۹ نمبر ۳۶ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۴)

۲۹ نومبر ۱۹۰۶ء " اِنَّمَا مَنَعُوا هُوَ كَيْدُ سَاحِرٍ - وَلَا يُغْلِبُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى -

(فرمایا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم یا گروہ اپنے دین منکر سے میدانِ مقابلہ میں سلسلہ کی عظمت کو مٹاتا چاہتی ہے مگر خدا تعالیٰ اسے بامراد نہیں کرے بلکہ حق کی عظمت ظاہر ہوگی۔

(الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳۳ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۱)

۱۹۰۶ء " ایک دفعہ مجھے بعض محقق اور عازق طبیعوں کی بعض کتابیں کشفی رنگ میں دکھائی گئیں جو طبع

نے یعنی نواب محمد علی خان صاحب آت مایر کوٹہ۔ (مرتب)

نے (ترجمہ) خدا تعالیٰ نے اسی کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ (۲) یہ ایسا وعدہ ہے جو مجھوٹا نہ ہوگا۔

نے (ترجمہ) تحقیق جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ ایک دھوکے کا منصوبہ ہے اور دھوکہ باز کامیاب نہیں ہو سکتا جس رول سے بھی وہ آئے۔

نے چونکہ نزولِ اللہ کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی اس لئے اسے سے تصنیف کتاب چشمہ معرفت و روشنی شدہ کے

تحت دست کیا گیا۔ (مرتب)

یہ حوالہ صفحہ 210 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 628، 629 طبع چہارم از مرزا قادیانی

جسمانی کے قواعد کلیہ اور اصولیہ اور سبب ضروریہ وغیرہ کی بحث پر مشتمل اور متضمن تھیں جن میں طیبہ مازق قرنی کی کتاب بھی تھی اور اشارہ کیا گیا کہ یہی تفسیر شہر آن ہے..... اور جب میں نے ان کتابوں کو پیش نظر رکھ کر جو طیبہ جسمانی کی کتابیں تھیں، قرآن شریف پر نظر ڈالی تو وہ عمیق در عمیق طیبہ جسمانی کے قواعد کلیہ کی باتیں نہایت طبع پیرایہ میں قرآن شریف میں موجود پائیں! (چشمہ معرفت صفحہ ۹۵- روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۰۳)

۱۲ دسمبر ۱۹۰۷ء (الف) "أَنْتَ مِثْنِي بِمَنْزِلَةِ النَّجِيرِ الشَّاقِبِ -  
(۲) أَنْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ هُوَ كَيْدٌ سَاجِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى -

(۳) أَنْتَ مِثْنِي بِمَنْزِلَةِ دُوجِي -

(۴) أَنْتَ مِثْنِي بِمَنْزِلَةِ النَّجِيرِ الشَّاقِبِ -

(۵) جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ "

(بدر جلد ۶ نمبر ۵ سورہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۳- الحکم جلد ۱۱ نمبر ۲۲ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۸- ضمیمہ

چشمہ معرفت صفحہ ۶۸- روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۲۳۶)

(ب) "جب میں مضمون ختم کر چکا تو ساتھ ہی مجھ کو یہ الہام خدا کی طرف سے ہوا تھا:

أَنْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ هُوَ كَيْدٌ سَاجِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى - أَنْتَ مِثْنِي بِمَنْزِلَةِ النَّجِيرِ الشَّاقِبِ -

(ترجمہ) آریہ لوگوں نے جو یہ جلسہ تجویز کیا ہے یہ مکار لوگوں کی طرح ایک مکر ہے اور اس کے نیچے ایک شہادت اور بدنتی مخفی ہے مگر فریب کرنے والا میرے ہاتھ سے کہاں بھاگے گا۔ جہاں جائے گا میں اس کو پکڑوں گا اور میرے ہاتھ سے چھسکارا نہیں پائے گا۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ وہ ستارہ جو شیطان پر گرتا ہے۔"

(اشتارہ ۱۵ مئی ۱۹۰۷ء بعنوان باعث الیقین کتاب ہذا مندرجہ چشمہ معرفت صفحہ ۷- روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۷)

۱۔ (ترجمہ) (۱) تو مجھ سے بمنزلہ اس ستارے کے ہے جو قوت اور روشنی کے ساتھ شیطان پر حملہ کرتا ہے۔

۲۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ماکر کی تدبیر ہے اور ماکر کو سواراہ سے آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ (۳) تو مجھ

سے بمنزلہ میری رُوح کے ہے (۴) تو مجھ سے بمنزلہ اس ستارے کے ہے جو قوت اور روشنی کے ساتھ شیطان پر

حملہ کرتا ہے۔ (۵) حق آگیا اور باطل بھاگ گیا۔

۳۔ (نوٹ) از مرتبہ: یہ امامت اس لیکچر کی تصنیف کے وقت ہوئے جو ۲۰ دسمبر ۱۹۰۷ء کو لاہور میں پڑھا گیا۔ (مرتبہ)

۴۔ یعنی وہ مضمون جو قادیان میں آریوں کے مذہبی جلسہ میں منانے کے لئے لکھا گیا تھا اور یہ مضمون چشمہ معرفت کے آخر

میں بطور ضمیمہ شامل ہے۔ (مرتبہ)

وقت بھر گیا۔ کہ دراصل والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتیں تو وہ شخص ایسے الفاظ نہ بولتا۔ چنانچہ قادیان پہنچے تو پتہ لگا کہ واقعی وہ فوت ہو چکی تھیں۔ والدہ کا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادرہ ادرہ پھر تیار رہا۔ آخر اُنہیں چائے کے ایک قافلہ پر ٹا کا مارا اور پکڑا گیا مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے ہی اسے قید سے بچا لیا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا، ہمارے مخالف یہی کہتے کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیالکوٹ کی ملازمت <sup>۱۸۶۸ء</sup> کا واقعہ ہے۔

(اس روایت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سیالکوٹ میں ملازم ہونا اس وجہ سے تھا۔ کہ آپ سے مرزا امام الدین نے داد صاحب کی نیشن کا روپیہ وصول کرنے کے لئے لیا تھا۔ کیونکہ جیسا کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیفات میں تصریح کی ہے۔ آپ کی ملازمت اختیار کرنیکی وجہ صرف یہ تھی۔ کہ آپ کے والد صاحب ملازمت کے لئے زور دیتے رہتے تھے۔ ورنہ آپ ہی اپنی رائے ملازمت کے خلاف تھی۔ اسی طرح ملازمت چھوڑ دینے کی بھی اصل وجہ یہی تھی۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ملازمت کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور اپنے والد صاحب کو ملازمت ترک کر دینے کی اجازت کے لئے کہتے رہتے تھے۔ لیکن داد صاحب ترک ملازمت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مگر بالآخر جب دادی صاحبہ بیمار ہوئیں۔ تو داد صاحب نے اجازت بھجوا دی۔ کہ ملازمت چھوڑ کر آجاؤ۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ طبابت کا علم ہمارا خاندانی علم ہے۔ اور ہمیشہ سے ہمارا خاندان اس علم میں ماہر رہا ہے۔ داد صاحب نہایت ماہر اور مشہور معاذق طبیب تھے۔ تاہم صاحب نے یہی طب پڑھی تھی۔ حضرت مسیح موعود بھی علم طب میں خاصی دسترس رکھتے تھے۔ اور گھر میں ادویہ کا ایک ذخیرہ رکھا کرتے تھے

۱۔ اوائل کا واقعہ ہے کہ حضرت اقدس سیدنا مسیح موعود علیہ السلام کو ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں کشفادکھایا گیا ایک باغ لگایا جا رہا ہے اور میں اس کا مال مقرر کیا گیا ہوں۔ (حیات احمد صفحہ ۲۳۵ مرتبہ یعقوب علی عرقانی صاحب)

۲۔ حضرت اُم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ”مجھے..... اللہ تعالیٰ کی طرف سے..... بتایا گیا ہے..... کہ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ

بہت پڑھنا چاہیے۔“ (سیرت الہدیٰ حصہ اول روایت بر ص ۱۲۰ طبع ۱۹۵۳ء)

۳۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا

”ہمارے امام علیہ السلام نے ان کو خاتم النبیین رسول رب العالمین نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شکل پر دیکھا ہے اور یہ سبب ان کی کمال اتباع سنت کے تھا“

(مقدمہ مرقاة المستبین فی حیاة نور الدین زیر عنوان مذہب و عقیدہ صفحہ ۱۲۹)

۴۔ (الف) مفتی محمد صادق صاحب نے بیان کیا:-

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ایک صاحب جو غالباً ریاست جیند کے رہنے والے تھے ہمارے

ہو کر علاج کے واسطے قادیان آئے اور میرے درجہ الحق صاحب کے مکان پر انہوں نے قیام کیا۔ پھر صاحب نے ان کی

سفا رشن حضرت صاحب سے کی کہ یہ ہمارے رہتے ہیں حضور ان کے لئے دعا کریں حضور نے دعا کی تو حضور کو انام ہوا۔

”گچلہ کوئین فولاد۔ یہ ہے دوائے ہمزاد“

(اخبار المصلحہ گراچی جلد ۷ نمبر ۶ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۵۴ء صفحہ ۱۳)

(ب) ”غٹ گچلہ کوئین فولاد مساوی نصف سرخ۔ الہامی ہے۔“

(ج) بیاض حضرت خلیفۃ المسیح الاول صفحہ ۱۳۔ بیاض نور الدین مرتبہ مفتی فضل الرحمن صاحب جلد ۶ صفحہ ۶۱ طبع اول)

۵۔ (الف) حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایۃ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا:-

”حضرت مسیح موعود کو انام ہوا اور دکھایا گیا کہ یہ جو مندر مبارک کے پاس مکان ہے اس میں ہم کچھ خستہ خستہ

سے داخل ہوں گے اور کچھ خستہ خستہ سے..... معلوم نہیں کہ اس انام کا کیا مطلب ہے۔“

(الفضل جلد ۷ نمبر ۲۸ مورخہ ۷ اکتوبر ۱۹۱۹ء صفحہ ۸)

۱۔ یہاں سے وہ الہامات و کشفات و رؤیا شروع ہوتے ہیں جس کے سلسلہ نزول کا پتہ نہیں چل سکا (مرتب)


۲۔ یعنی مولوی محمد اللہ صاحب غزنوی۔ (مرتب)

۳۔ یعنی مرزا نظام الدین صاحب کامکان۔ (مرتب)

۴۔ ”لیکن وقت پر معنی نکلتے ہیں..... اس کے معنی یہ ہیں..... کہ حضرت مسیح موعود..... کا وہی اختیار کہ کے بعد داخل ہوں گے.....“

رکتے تھے۔ باقیوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ علاج کے معاملہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریق تھا کہ کسی ایک قسم کا علاج نہ کرتے تھے بلکہ ایک ہی بیماری میں انگریزی دوا بھی دیتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ یونانی بھی دیتے جاتے تھے۔ پھر جو کوئی شخص مفید بات کہدے اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ اور اگر کسی کو خواب میں کچھ معلوم ہوا تو اس پر بھی عمل فرماتے تھے۔ پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے تھے۔ اور ایک ہی وقت میں ڈاکٹروں اور حکیموں سے مشورہ بھی لیتے تھے۔ اور طب کی کتاب دیکھ کر بھی علاج میں مدد لیتے تھے۔ غرض علاج کو ایک عجیب رنگ کا کرکھا بنا دیتے تھے۔ اور اصل بھروسہ آپ کا خدا پر ہوتا تھا۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ موسم گرما میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک کے بالائی حصہ میں بعد نماز مغرب تشریف رکھتے تو عموماً مغربی شاہ نشین کے نشان (X) پر بیٹھا کرتے تھے۔ مولوی عبدالکوکیم صاحب عام طور پر نشان (X) پر اور حضرت مولوی نور الدین صاحب نشان (B) پر جگہ پر ہوتے تھے اور حضرت مسیح موعود کے بائیں طرف دوسرے خاص احباب بیٹھتے تھے باقی سب نیچے یا جنوبی نشین پر بیٹھتے تھے۔ اس نقشہ کے چاروں کونوں پر چار چھوٹے کناروں کے نشان ہیں جن میں سے ایک تو توسیع کے وقت آڑ گیا تھا اور دوسرے کی دیوار میں محذب ہو گئے ہیں اور ایک جو جنوب مشرقی کونے میں ہے ابھی تک اسی طرح قائم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ حاجی محمد اسماعیل صاحب ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر حال مملو دار البرکات قادیان نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ۱۵ ستمبر ۱۹۳۳ء کو شام کے وقت میں حضرت میاں محمد یوسف صاحب مردان کے ہمراہ کھانا کھا رہا تھا چونکہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے صحابہ میں سے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہمراہ کھانا کھانے کا کتنی دنوں شرف حاصل ہوا۔ فرمایا۔ دو دنہ مختلف موقعوں پر موقوف ملا۔ پہلی دفعہ تو گول کرہ میں اور دوسری بار بنالہ کے باغ میں جو کچھ یوں کے متصل ہے۔ جہاں حضرت صاحب کسی گواہی کے لئے تشریف لے گئے تھے ماس موقع

۲۸۴

۹۱۱ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مفصلہ ذیل ادویات حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ اپنے صندوق میں رکھتے تھے۔ اور اپنی کوزیادہ استعمال کرتے تھے۔ انگریزی ادویہ میں سے کوئین۔ ایسٹن سیرپ۔ فولاد۔ ارگٹ۔ وائٹیم اپی کاک۔ کوسٹا اور کونا کے مرکبات۔ پیرٹ ایونیا۔ بیڈ مشک۔ سٹرنس وائن آف کاڈیلرڈ آئل۔ کلوروفورم کاکل پل سلفیورک ایسڈ ایرو میٹک۔ سٹالس ایمیشن۔ رکھا کرتے تھے۔ اور یونانی میں سے رشک۔ جنبر کافور ہینگت۔ جعدار۔ اور ایک مرکب جو خود تیل کیا تھا یعنی تریاق الہی رکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ہینگت غربہ کی رشک ہے۔ اور فرماتے تھے کہ انبوی میں عجیب و غریب فوائد ہیں۔ اسی لئے اسے حکماء نے تریاق کا نام دیا ہے۔ ان میں سے بعض دوائیں اپنے لئے ہوتی تھیں۔ اور بعض دوسروں کے لئے۔ کیونکہ اور لوگ بھی حضور کے پاس دوا لینے آیا کرتے تھے۔

۹۲۰ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میاں امام الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک میں نماز صبح کے وقت کچھ پہلے تشریف لے آئے ابھی کوئی روشنی نہ ہوئی تھی۔ اس وقت آپ مسجد کے اندر اندر میرے میں ہی بیٹھے رہے۔ پھر جب ایک شخص نے آکر روشنی کی تو فرمانے لگے کہ دیکھو روشنی کے آگے ظلمت کس طرح جاگتی ہے۔

۹۲۱ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میاں امام الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک روز پیر سلطان الحق صاحب سراسوی اپنے علاقہ کے آموں کی تعریف کر رہے تھے کہ ہمارے علاقہ میں آم بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کو کھاتے ہیں۔ تو گٹھلیوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں گویا لوگ کثرت سے آم چوستے ہیں۔ اس وقت حضرت اقدس بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا پیر سلطان جو آم میٹھے ہوتے ہیں وہ عموماً ثقیل ہوتے ہیں اور جو آم کسی قدر ترش ہوتے ہیں وہ سرج البصر ہوتے ہیں۔ پس میٹھے اور ترش دونوں جو سنے چاہئیں۔ کیونکہ قدرت نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔

۹۲۲ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میاں امام الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تکمیل ہدایت کا زمانہ تھا۔ اور مسیح موعود کا زمانہ تکمیل اشاعت کا زمانہ ہے۔

۹۲۳ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میاں امام الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت

قرآن مجید کا ترجمہ سادہ سا پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چند روز ہی جاری رہا۔ پھر بند ہو گیا۔ علم درس نہ تھا۔ صرف سادہ ترجمہ پڑھتے تھے۔ یہ ابتدائی زمانہ مسیحیت کا واقعہ ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ اسی طریق پر ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میاں عبداللہ صاحب سندھی کو بھی کچھ حصہ قرآن شریف کا پڑھایا تھا۔

۶۵۲ پسنم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک محکمہ سے مولوی عبدالکریم صاحب معجم نماز پڑھا کے حضرت خلیفۃ المسیح اولیٰ بھی موجود نہ تھے۔ تو حضرت صاحب نے حکیم فضل الدین صاحب مرحوم کو نماز پڑھانے کے لئے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور تو جانتے ہیں کہ مجھے بوا میر کا مرض ہے اور ہر وقت رسیخ خارج ہوتی رہتی ہے۔ میں نسا کس طرح سے پڑھاؤں؟ حضور نے فرمایا۔ حکیم صاحب آپ کی اپنی نماز باوجود اس تکلیف کے ہو جاتی ہے یا نہیں انہوں نے عرض کیا۔ ان حضور۔ فرمایا۔ کہ پھر بیماری بھی ہو جائے گی۔ آپ پڑھائیے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اخراج رسیخ جو کثرت سے ساتھ جاری رہتا ہوتا تھا دمنوں میں نہیں سمجھا جاتا۔

۶۵۵ پسنم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سل دق کے مریض کے لئے ایک گولی بنائی تھی۔ اس میں کونین اور کافور کے علاوہ انہوں نے بھنگ اور دستورہ وغیرہ زہریلی ادویہ بھی داخل کی تھیں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ دوا کے طور پر علاج کے لئے اور جان بچانے کے لئے ممنوع چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ شراب کے لئے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فتویٰ تھا۔ کہ ڈاکٹر یا طبیب اگر دوائی کے طور پر دے تو جائز ہے۔ مگر باوجود اس کے آپ نے اپنے پڑوادا مرزا گل محمد صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں ان کی مرض الموت میں کسی طبیب نے شراب بتائی۔ مگر انہوں نے انکار کیا۔ اور حضرت صاحب نے اس موقع پر ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے تو گو شراب پر تہمید دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتویٰ اور ہے اور تقویٰ اور۔

۶۵۶ پسنم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب ایک دفعہ سالانہ جلسہ پر تقریر کر کے جب واپس گھر تشریف لائے۔ تو حضرت میاں صاحب سے (خلیفۃ المسیح

نسیم دعوت

۲۲۳

پیدا کرتا ہے۔ جن سے اب یورپ بھی دن بدن واقف ہوتا جاتا ہے۔ آخر جیسے بہت سے  
تجارب کے بعد طلاق کا قانون پاس ہو گیا ہے۔ اسی طرح کسی دن دیکھ لو گے کہ تنگ کر  
اسلامی پردہ کے مشابہ یورپ میں بھی کوئی قانون شائع ہو گا۔ ورنہ انجمن ام یہ ہو گا۔ کہ  
چار پائیوں کی طرح خورتیں اور مرد ہو جائیں گے۔ اور مشکل ہو گا کہ ریشناخت کیا جائے  
کہ ظلال شخص کس کا بیٹا ہے۔ اور وہ لوگ کیونکر پاک دل ہوں۔ پاک دل تو وہ ہوتے  
ہیں۔ جن کی آنکھوں کے آگے ہر وقت خدا رہتا ہے۔ اور نہ صرف ایک موت ان کو  
یاد ہوتی ہے۔ بلکہ وہ ہر وقت عظمتِ الہی کے اثر سے مرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ حالت  
شرابِ ثوری میں کیونکر پیدا ہو۔ شراب اور خدا ترسی ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔  
خونِ مسیح کی دلیری اور شراب کا جوشِ تقویٰ کی بیخ کنی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اندازہ  
نہیں لگا سکتے کہ آیا کفارہ کے مسئلہ نے یہ خرابیاں زیادہ پیدا کی ہیں یا شراب نے۔ اگر  
اسلام کی طرح پردہ کی رسم ہوتی۔ تو پھر بھی کچھ پردہ رہتا۔ مگر یورپ تو پردہ کی رسم کا  
دشمن ہے۔ ہم یورپ کے اس فلسفہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ اس اصرار سے باز نہیں آتے۔  
تو شوق سے شراب پیا کریں۔ کہ اس کے ذریعہ سے کفارہ کے فوائد بہت ظاہر ہوتے ہیں۔  
کیونکہ مسیح کے خون کے سہارے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ شراب کے وسیلے سے ان کی میزان  
بڑھتی ہے۔ ہم اس بحث کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے۔ کیونکہ فطرت کا تقاضا الگ الگ ہے  
ہمیں تو ناپاک چیزوں کے استعمال سے کسی سخت مرض کے وقت بھی لگتا ہے۔ چہ جائیکہ  
پانی کی جگہ بھی شراب پی جائے۔ تبھی اس وقت ایک اپنا سرگزشت قاعدہ یاد آتا ہے۔ اور  
وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے۔  
اور بعض وقت سو سو دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آیا ہے۔ اور بوجہ اس کے کہ پیشاب  
میں شکر ہے۔ کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور کثرت پیشاب سے بہت  
ضعف تک ذہن پہنچتی ہے۔ ایک دلچسپ دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس

۶۹

۴۳

یہ حوالہ صفحہ 212 پر درج ہے

”نسیم دعوت“ صفحہ 67، روحانی خزائن صفحہ 434، 435 جلد 19 از مرزا قادیانی



کے لئے افیون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی۔ لیکن اگر میں ذیابیطس کے لئے افیون کھانے کی عادت کر لوں۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا۔ اور دوسرا افیونی۔

پس اس طرح جب میں نے خدا پر توکل کیا۔ تو خدا نے مجھے ان خبیث چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔ اور بلکہ مجھے غلبہ مرض کا ہٹوا۔ تو خدا نے فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے شفا دیدی۔

تب اسی وقت مجھے آرام ہو گیا۔ انہی باتوں سے میں جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جھوٹے میں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہ اُس نے رُوح پیدا کی اور نہ ذرات اجسام۔ وہ خدا سے غافل ہیں۔ ہم ہر روز اُس کی نئی پیدائش دیکھتے ہیں۔ اور ترقیات سے نئی نئی رُوح وہ ہم میں پھونکتا ہے۔ اگر وہ نیست سے ہست کر نیا لانا ہوتا۔ تو ہم تو زندہ ہی مر جاتے عجیب ہے۔ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے۔ کون ہے جو اس کی مانند ہے۔ اور عجیب

ہیں اُس کے کام۔ کون ہے جس کے کام اس کی مانند ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں بعض وقت حکمت اس کی ایک کام کرنے سے اُسے روکتی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں۔ کہ مجھے دو مرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سردرد اور دورانِ مہر اور دورانِ خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا۔ بعض کم ہو جانا۔ دوسرے جسم کے نیچے کے حصہ میں کہ پیشاب کثرت سے آتا اور اکثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں قریباً بیس برس سے ہیں۔ کبھی دُعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دور ہو گئیں۔ مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دُعا کی۔ کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں۔ تو جواب ملا۔ کہ ایسا نہیں ہوگا۔

✽ انسان جب تک خود خدا کی تجلی سے اور خدا کے وسیلہ سے اس کے وجود پر اطلاع نہ پاوے۔ تب تک وہ خدا کی پرستش نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے خیال کی پرستش کرتا ہے۔ محض خیال کی پرستش کرنا اندرونی گندگی کو صاف نہیں کرتا۔ ایسے لوگ تو پریشکر کے فوہ پر میٹھتے ہیں کہ خود اس کا پتہ آپ لگاتے ہیں۔ ہنہ

کے سخت مخالف تھے۔ اور جو لوگ یہاں آتے وہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ اپنے مہن میں چار پائیاں بچھا کر حُفّہ رکھ دیتے لوگ حُفّہ کو دیکھ کر جانتے اور وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہم ان کے رشتہ دار ہیں اور ان کے حالات سے واقف اگر کوئی بات ہوتی تو ہم نہ مان لیتے۔ اس طرح کئی لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی۔ ایک دفعہ ایک احمدی آیا اور حُفّہ پینے ان کے پاس چلا گیا۔ اُسے پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف باتیں سناتے رہے لیکن جب وہ خاموش بیٹھا رہا تو پھر اس کے سامنے حضرت مسیح موعود کو گالیاں بھی دیں۔ اس پر بھی وہ کچھ نہ بولا۔ آخر اُسے کہنے لگے تم کس سوچ میں ہو کیوں کوئی بات نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا میں اس سوچ میں ہوں کہ حُفّہ کی خبیث عادت مجھے یہاں لائی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں نہ یہاں آتا اور نہ حضرت صاحب کے خلاف باتیں سنتا۔

اس وقت میں ضمنیاً کہہ رہا تھا ہاتھوں کہ پہلے بھی کئی بار اس طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ حُفّہ بہت گندی چیز ہے اسی طرح دوسرے نشے بھی سخت مُضِرّ ہیں ان کو ترک کر دینا چاہئے۔ بعض نشے ایسے ہیں جن کی وجہ سے جھوٹ کی عادت پڑتی ہے۔ میں ان کے نام نہیں لیتا تاکہ جو ان کے عادی ہیں ان کے متعلق بد نظمی نہ پیدا ہو۔ مگر یہ بات بالکل سچی ہے بعض نشوں سے اعصاب پر خاص اثر پڑتا ہے اس لئے کس نشے کی بھی عادت نہیں ڈالنی چاہئے۔ مجھے کسی چیز کی عادت نہیں ہوتی۔ مجھے بچپن میں بیماری کی وجہ سے ایون دیتے تھے۔ چھ ماہ متواتر دیتے رہے مگر ایک دن نہ دی تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں مجھ پر نہ دینے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا۔ خدا نے چھڑا دی ہے تو اب نہ دو۔ تو میں ہر چیز جو استعمال کرتا ہوں اگر چھوڑ دوں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن باوجود اس کے چائے جس کا استعمال ہمارے گھروں میں ناشتہ کے طور پر ہوتا ہے کبھی کبھی پینا چھوڑ دیتا ہوں کہ عادت نہ ہو جائے۔ مؤمن کو کسی چیز کے نشے کی عادت نہ ڈالنی چاہئے یہ بھی بڑائی ہے۔

(۲۶) دوسروں کو حقیر سمجھنا

(۲۷) دلی عداوت۔ عداوت کا خواہ اظہار نہ کیا جائے اور دل میں رکھی جائے تو یہ بھی بڑائی ہے۔

(۲۸) دوسروں پر بے اعتباری کرنا۔ انسان دوسرے کے سپرد کوئی کام کرنا ہوا ڈرنا ہے۔

(۲۹) طمع۔ یہ بھی قلبی بدی ہے۔

دستی خط معرفت مولوی یار محمد صاحب

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس چند وقت سے سخت بیمار ہوں۔ بعض وقت جب دورہ دوران سرخ شدت سے ہوتا ہے تو خانہ زندگی محسوس ہوتا ہے۔ سناٹھی سر درد بھی ہے۔ ایسی حالت میں مدین باوام سراوہ بیرون کی ہتھیلیوں پر ملنا اور چٹیا فائبرہ مند محسوس ہوتا ہے۔ اس لئے میں مولوی یار محمد صاحب کو بھیجا ہوں کہ آپ خاص تلاش سے ایسا روغن باوام کہ جو تازہ ہو۔ اور کھنڈ نہ ہو اور نیز اس کے ساتھ کوئی بلوی نہ ہو ایک بوتل خرید کر بھیجیں۔ پانچ روپیہ قیمت اسکی ارسال ہے۔ اور نیز ہاراپٹا کلاک بینی گھنڈہ بگڑ گیا ہے۔ اسلئے ایک کلاک عودہ دو سوا خرید کر اس کے لئے مبلغ لودر بھیجا ہوں یہ کلاک بخوبی امتحان کر کے ارسال فرمادیں۔ انہیں یہ بھی شرط ہے کہ اس کے ساتھ نیم گھنڈہ کی آواز دینے والی کل ہرگز نہ صرف گھنٹوں کی آواز دے کہ اس صورت میں بسا اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری چیزیں بھی خریدنی ہیں..... ان چیزوں کی تفصیل لیں میں ہے۔ والسلام۔ مرزا غلام احمد صاحب مدنی

بسم اللہ الرحمن الرحیم  
محمد وفضل علی رسولہ الکریم

بھی اخبر حکیم محمد حسین صاحب قریشی  
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مولوی یار محمد صاحب مدنی  
بھی گئے۔ مگر انہوں نے نہایت ضروری کام یاد نہ رہا ہے  
تاکید کرتا ہوں کہ ایک لودر شک عودہ میں بھیجا  
نہ ہو۔ دور اول وہ جو کہ خوشبو دار ہو۔ اگر شرطی ہو تو بہتر  
ہو۔ درخ اپنی ذمہ داری پر بھیجیں۔ اور دو دو بیاسزور  
کی کیا کی جیسے تباہ کی طرح کیا ہوتی ہیں۔ مگر ٹری  
لگتی ہو۔ دو نو بند بیرونی پتی روانہ فرمادیں۔ زیادہ  
خیریت ہے۔ والسلام۔ خاکسار مرزا غلام احمد صاحب مدنی

بسم اللہ الرحمن الرحیم  
محمد وفضل علی رسولہ الکریم

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو دن سے ہاتھیں تباہ  
لگ رہی ہیں۔ بیت الدعایں بہت دعا کی گئی۔ خداوند نے  
شفا بخشنے۔ پچھلے اس سے اسام ہوا تھا۔ کہ لا جوڑ  
سے افسوسناک خیر سائی۔ وہی خیر بھیجی۔ خداوند نے  
آپ پر رحم کرے۔ آمین۔ پھر میں میں خاکسار مرزا

سے زیادہ نہ ہو۔ اور گڑ لگا ہوا ہو جس سے پہلے طباہکار  
بھیجیں۔ قیمت اسکی کسی کے اندر بھیج دیا جائے۔ یا آپ کے  
آگے پر آپ کو دیا جائے۔ رنگہ کوئی ہو مگر پارچہ ریشمی یا  
جالی ہو۔ اندازہ قیمتیں کا آپ کی دکان کی زینب کے اشارہ  
پر ہو۔ والسلام۔ خاکسار مرزا غلام احمد صاحب مدنی  
۱۴ فروری ۱۳۱۷ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم  
محمد وفضل علی رسولہ الکریم

بھی اخبر حکیم محمد حسین صاحب سزا اللہ نے  
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں یار محمد  
بھیجا چکا ہے۔ آپ ایشیا خریدنی خود خریدیں اچھا ایک  
بوتل ٹانگہ اینٹ کی پورمر کی دکان سے خریدیں۔ مگر ٹانگہ  
و این چاہئے۔ اسکا لحاظ ہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام  
مرزا غلام احمد صاحب مدنی

زل کا خط جو اب میرے ایک عزیز کے ہے جبکہ  
ہم بوجہ حال و اطفال قایمان میں تھے اور بچپنی  
کے وقت چونکہ برسات کے دن تھے ماسے سخت  
خطر تک بھاؤ اور جس نے اپنے گھر کے لوگوں کے ٹو  
یعنی برخور دار محمد پر سفت کی والدہ کے لئے ضرورتاً  
عطر سے اسکی پیشی طلب کی۔ کیونکہ بچے کی  
سواری حالت حمل میں خطر تک ہوتی ہے اور  
حضور نے کمال ہرانی و شفقت سے زل کا خط لکھا

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاء اللہ مالک دکان آپ  
انتہا پر ہے کہ پیشی سے جا میں نے سنا ہے کہ بٹانہ کی  
سرخ رنگ راستہ نہایت خراب ہے۔ پیشی کی سواری خطر تک  
ہے۔ اور ایسا ہی دوسری سواری بھی۔ شاید دس روز تک  
رہے کسی قدر درست ہو جائیگا۔ جس گزشتہ دنوں میں  
اسوقت گورنمنٹ سے بٹانہ کی لاؤ با تھا جب بارشیں پر  
ایک مینہ گزر چکا تھا۔ تب بھی خوفناک لاہ تھا۔ تو بسا  
بہت ہی خطر تک ہوگا۔ حمل کی حالت میں این دنوں میں  
ساتھ ہیجا بگڑا ہوا پلاکت میں داننا ہے۔ آپ خود بٹانہ کی  
سرخ رنگ ماہ کی حالت دیکھ لیں۔ میرے لئے ایک نوآب  
بیز گزرنے دس بارہ روز کے سخت خطر تک اور خوفناک  
ہے۔ والسلام

غلام احمد صاحب مدنی

یہ حوالہ صفحہ 214 پر درج ہے

خطوط امام نظام، صفحہ 5، مجموعہ مکتوبات، مرزا قادیانی، نام حکیم محمد حسین قریشی قادیانی، مالک دو خانہ دفین احمد لاہور

مئی ۱۸۸۳ء

" ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ نواب صاحب کی حالت غم سے خوشی کی طرف تبدیل ہو گئی ہے اور اسودہ حال اور شکر گزار ہیں اور نہایت عمدگی اور صفائی سے یہ خواب آئی اور یہ خواب بطور کشف تھی چنانچہ اسی صبح کو نواب صاحب کو اس خواب سے اطلاع دی گئی۔"

مکتوب بنام میر عباس علی شاہ صاحب مورخہ ۲۶ مئی ۱۸۸۳ء مندرجہ الحکم جلد ۲ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۸

مئی ۱۸۸۳ء

" پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ایک صاحب الہی بخش نامہ کو منتقل کرنے کے بعد اس کتاب کے معاون ہیں کسی اپنی مشکل میں دعا کے لئے درخواست کی اور بطور خدمت پچاس روپیہ بھیجے۔ اور جس روز یہ خواب آئی اس روز سے دو چار دن پہلے ان کی طرف سے دعا کے لئے الحاح ہو چکا تھا مگر یہ عاجز نواب صاحب کے لئے مشغول تھا اس لئے ان کے لئے دعا کرنے کو کسی اور وقت پر موقوف رکھا اور جس روز نواب صاحب کے لئے بشارت دی گئی تھی تو اسی دن خیال آیا کہ آج منشی الہی بخش کے لئے توجہ سے دعا کریں۔ سو بعد نماز صبح وقت صفا پایا اور دعا کا ارادہ کیا گیا تو پھر بھی جینے ہی چاہا کہ اس دعا میں بھی نواب صاحب کو شامل کر لیا جائے۔ سو اس وقت نواب صاحب اور منشی الہی بخش دونوں کے لئے دعا کی گئی۔ بعد دعا اسی جگہ الہام ہوا۔"

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ الْغَيْمِ

یعنی ہم ان دونوں کو غم سے نجات دین گے... پھر چند روز کے بعد نواب صاحب کا خط آ گیا کہ سر نے کام جاری ہو گیا ہے۔"

مکتوب بنام میر عباس علی شاہ صاحب مورخہ ۲۶ مئی ۱۸۸۳ء مندرجہ الحکم جلد ۲ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۸ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۹ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۷

نومبر ۱۸۸۳ء

" ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت پیش آیا کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا... میری حالت ترقی کا عدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی اس لئے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا... کہ آپ باعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے... غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی اور مجھے اس نے دفع مرض کے لئے اپنے الہام کے ذریعہ سے دو ایسے بتلائیں اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوڑ میں میرے

لے مراد نواب علی محمد خان صاحب آف جھجر۔ (مرتب)  
 لے نواب علی محمد خان صاحب آف جھجر۔ (مرتب)  
 لے جو، ۱ نومبر ۱۸۸۳ء کو دہلی میں ہوئی۔ (مرتب)

یہ حوالہ صفحہ 215 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 98، 99 طبع چہارم از مرزا قادیانی

منہ میں قال رہا ہے چنانچہ وہ دوایں نے تیار کی اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے وہی یقین سے معلوم کیا کہ وہ پُر صحت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی اور چار لڑکے مجھے عطا کئے گئے۔ (تریاق القلوب صفحہ ۲۶، ۲۵۔ روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰)

۱۸۸۳ء  
 اِنَّ اللّٰهَ بَشَّرَنِيْ فِيْ اَبْنَائِيْ بِبَشَارَةٍ بَعْدَ بَشَارَةٍ حَتّٰى يَبْلُغَ عَدَدَهُمْ  
 اِلٰى ثَلَاثَةِ رَاٰنْبَاۗتِيْ يَوْمَ قَبْلِ وُجُوْدِهِمْ بِالْاَلْحَاۗمِ

(انجامِ آتم صفحہ ۱۸۲۔ روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۱۸۲)

۳۰ دسمبر ۱۸۸۳ء  
 اِنِّيْ فَضَّلْتُكَ عَلٰى الْعَالَمِيْنَ قُلْ اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ جَبِيْعًا بَلِيْغًا  
 (مکتوب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مورخہ ۳۰ دسمبر ۱۸۸۳ء مندرجہ الحکم جلد ۱۹ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳)

۱ مارچ ۱۸۸۵ء  
 ”مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجددِ وقت ہے اور روحانی طور پر اسکے کمالاتِ مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے شدتِ مناسبت و مشابہت ہے اور اس کو خواص انبیاء و رسل کے نمونہ پر محض برکتِ متابعت حضرت خیر البشر افضل الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گذر چکے ہیں اور اس کے قدم پر چلنا موجبِ نجات و سعادت و برکت اور اس کے برخلاف چلنا موجبِ گمراہی و حرمان ہے۔“

(اشتمالِ ضمیر مورخہ چشم آریہ۔ روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۱۲۱۹)

۸ مارچ ۱۸۸۵ء  
 ”عاجز مؤلف براہی احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے ماورہوا ہے کہ نبی نامہ (مسیح) کی طرز پر کمالِ مسکنی، فروتنی و غربت و تذلل و تواضع سے امدادِ طلق کے لئے کوشش کرے

۱۔ ترجمہ از مرتب (اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بیٹوں کے بارہ میں بشارت کے بعد بشارت دی یہاں تک کہ ان کی تعداد میں تک پہنچائی اور مجھے ان کی پیدائش سے پہلے السلام کے ذریعہ ان کی خبر دی۔ (نوٹ از مرتب) اس کے متعلق حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے فرمایا ”جب میری شادی ہوئی اور میں ایک سینہ تارینا ٹھیکر پھر واپس وہی گئی تو ان پیام میں حضرت مسیح موعود نے مجھے ایک خط لکھا کہ میں نے خواب میں تمہارے تین جوان لڑکے دیکھے ہیں۔“ (سیرۃ المدیٰ صفحہ ۱۰۲)

۲۔ ترجمہ از مرتب (میں نے تجھ کو تمام جانوں پر فضیلت دی کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

۵۰

سمجھ کر بلا کر مہیا کہ لوٹے کو دھوئے وقت کرتے ہیں پھینک دیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ دودھ تھا۔ تو مجھے سخت ندامت ہوئی لیکن حضور نے بڑی نرمی اور دلجوئی سے فرمایا۔ اور بار بار فرمایا۔ کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اسے پھینک دیا۔ یہ دودھ اب خراب ہو چکا تھا۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ علماء و لداری کے حضرت صاحب کا منشا یہ ہوگا کہ لوٹے وغیرہ کی قسم کے برتن میں اگر دودھ زیادہ دیر تک پڑا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ کیاں عبد العزیز صاحب حضرت صاحب کے پرانے مخلصین میں سے ہیں اور اب ایک عرصہ سے پوار کے کام سے ہٹا کر ہو کر قادیان میں سکونت پذیر ہو چکے ہیں۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ فشی عبد العزیز صاحب کی بہت سی روایات مجھے مکرم مرزا عبدالحق صاحب دیکل گورہ اسپور نے لکھ کر دی ہیں۔ فیخزاه اللہ خیرا۔

۵۶۸  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ فشی عبد العزیز صاحب اوہلوی نے مجھ سے بذریعہ تقریر بیان کیا کہ ایک شخص مسمی سالون ساکن سیکھواں نے میرے ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی میت کی تھی۔ اب وہ مقبرہ بھٹی میں دفن ہیں۔ ان کو نزول الماد کی بیماری تھی۔ حضرت خلیفہ اولؑ کو آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے فرمایا۔ کہ پہلے پانی آکر مینائی بالکل جاتی رہے گی۔ تو پھر ان کا علاج کیا جائے گا۔ ان کو اس سے بہت صدمہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ طریق اختیار کیا۔ کہ جب کسی وہ قادیان آتے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس بیٹھنے کا موقع پاتے تو حضور کا شملہ مبارک اپنی آنکھوں سے لگا لیتے۔ کچھ عرصہ میں ہی ان کی بیماری نزول الماد جاتی رہی اور جب تک وہ زندہ رہے ان کی آنکھیں درست رہیں۔ کسی علاج دفیہ کی ضرورت پیش نہ آئی۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ اگر یہ روایت درست ہے تو اس قسم کی نبھواؤ شفا کے نمونے آنحضرت صلعم کی زندگی میں بھی کثرت سے ملتے ہیں اور حدیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔

۵۶۹  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ عاتقہ عاتقہ علی صاحب مرحوم خازم حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے تھے۔ کہ جب حضرت صاحب نے دوسری شادی کی۔ تو ایک نرنگ تجرد میں رہنے اور مجاہدات کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے قویٰ میں سخت سوس کیا۔ اس پر وہ الہامی نسخہ جو زجاج عشق کے نام سے مشہور ہے۔ ہوا کا استعمال کیا چنانچہ وہ نسخہ نہایت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت خلیفہ اولؑ بھی فرماتے تھے۔ کہ میں نے اپنے خدایک بلالہ

امیر کو کھلیا۔ تو خدا کے فضل سے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جس پر اس نے پیرے کے کڑے ہمیں  
تذریعے۔

نسخہ زہام عشق یہ ہے۔ جس میں ہر حرف سے دوا کے نام کا پہلا حرف مراد ہے۔  
زعفران۔ دارچینی۔ جالقل۔ ایفون۔ مشک۔ عترت قرحہ۔ شنگوف۔ قرقع۔ یعنی لونگ۔ ان سب  
کو ہوزن کوٹ کر گولیاں بناتے ہیں اور روغن سم الفار میں چوب کر کے۔ پختے ہیں اور روزانہ ایک  
گولی استعمال کرتے ہیں۔

الہامی ہونے کے متعلق دو باتیں سنی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ نسخہ ہی الہام ہوا تھا۔ دوسرے  
یہ کہ کسی نے یہ نسخہ حضور کو بتایا۔ اور پھر الہام نے اسے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ واللہ اعلم  
خاکسار عرض کرتا ہے کہ مجھ سے مولانا مولوی محمد اسمعیل صاحب فاضل نے بیان کیا کہ  
روغن سم الفار کی مقدار اجزاء کی مقدار سے ڈھائی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ اجزاء ایک  
ایک تولہ کی صورت میں جمع کئے جائیں تو روغن سم الفار ڈھائی تولہ ہوگا۔ اور اسی طرح مولوی صاحب  
نے بیان کیا کہ ان اجزاء میں بعض اوقات مردارید بھی اسی نسبت سے یعنی فی تولہ جزو پر ڈھائی  
تولہ مردارید زیادہ کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اولؒ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور  
حضرت خلیفۃ المسیح اولؒ روغن سم الفار اس طرح تیار کروایا کرتے تھے کہ مثلاً ایک تولہ سم الفار  
کو ہار ایک پیکر اُسے دو سیر وودھ میں حل کر کے وہی کے طور پر جاگ لگا کر جمادیتے تھے اور پھر  
اس وہی کو بلو کر جو ممکن نکلتا تھا اسے بصورت گھی صاف کر کے استعمال کرتے تھے۔ اور نسخہ میں  
جو روغن سم الفار کی مقدار بتائی گئی ہے۔ وہ اسی روغن سم الفار کی مقدار ہے نہ کہ خود سم الفار  
کی۔ اور تیار شدہ دوائی کی خوراک نصف رتی سے ایک رتی تک ہے جو دن رات میں ایک دفعہ  
کھائی جاتی ہے اور کسی کسی نامہ بھی کرنا چاہیے۔

۵۰۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود  
علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور الہام ہے کہ نزلت الرحمة  
علی السلاشۃ العین وعلی الاخریین۔ یعنی تمہارے تین اعضاء پر خدائی رحمت کا نزول  
ہے ایک ان میں سے آنکھ ہے اور دو اور اعضاء ہیں۔ فرماتے تھے۔ دوسرے دو اعضاء کا نام

کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے اس دعویٰ سے کبھی انکار نہیں کیا۔ البتہ اس کا وہ مفہوم اور منطوق بھی کبھی قرار نہیں دیا جو آپ کے معاندین و منکرین نے آپ کی طرف منسوب کیا۔ (عرفانی)

## مکتوب نمبر ۴ ملفوف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

مجی عزیز می اخویم نواب صاحب سلمہ تعالیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کسی قدر تریاق جدید کی گولیاں ہمدست مرزا خدا بخش صاحب آپ کی خدمت میں ارسال ہیں اور کسی قدر اس وقت دے دوں گا۔ جب آپ قادیان آئیں گے یہ دوا تریاق الہی سے فوائد میں بہت بڑھ کر ہے۔ اس میں بڑی بڑی قابل قدر دوائیں پڑی ہیں۔ جیسے مشک۔ عنبر۔ زنبی۔ مردارید۔ سونے کا کشتہ۔ فولاد۔ یا قوت احمر۔ کونین۔ قاسفورس۔ کہربا۔ مرجان۔ صندل۔ کیوڑہ۔ زعفران۔ یہ تمام دوائیں قریب سو کے ہیں اور بہت سا قاسفورس اس میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ دوا علاج طاعون کے علاوہ مقوی دماغ۔ مقوی جگر۔ مقوی معدہ۔ مقوی باہ اور مراق کو فائدہ کرنے والی۔ مصفی خون ہے۔ مجھ کو اس کے تیار کرنے میں اذل تا امل تھا کہ بہت سے روپیہ پر اس کا تیار کرنا موقوف تھا۔ لیکن چونکہ حفظ صحت کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ اس لئے اس قدر خرچ گوارا کیا گیا۔ چالیس تولہ سے کچھ زیادہ اس میں یا قوت احمر ہے۔ اگر خریداجاتا تو شاید کئی سو روپیہ سے آتا۔ بہر حال یہ دوا خدا تعالیٰ کے فضل سے تیار ہو گئی ہے گو بہت ہی تھوڑی ہے۔ لیکن اس قدر بھی محض خدا تعالیٰ کی عنایت سے تیار ہوئی۔ خوراک اس کی اول استعمال میں دورتی سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔ تا گرمی نہ کرے۔ نہایت درجہ مقوی اعصاب ہے اور خارش اور شجورات اور جذام اور ذیابیطس اور انواع و اقسام کے زہرناک امراض کے لئے مفید ہے اور قوت باہ میں اس کو ایک عجیب اثر ہے۔ سرخ گولیاں میں نے نہیں بھیجیں۔ کیونکہ صرف بوا سیر اور جذام کے لئے ہیں اور ذیابیطس کو بھی مفید ہے۔ اگر ضرورت ہوگی تو وہ بھی بھیج دوں گا، موجود ہیں۔

مرزا خدا بخش کو نصیبین میں بھیجے کی پختہ تجویز ہے۔ خدا تعالیٰ کے راضی کرنے کے کئی موقع

یہ حوالہ صفحہ 217 پر درج ہے

مرزا قادیانی کا اپنے داماد نواب محمد علی کے نام، مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ 250 از مرزا قادیانی



۳۲۳

ہیں ایک طرف پھر موڑے پر بازار میں جا بیٹھتی ہیں۔  
پھر شراب کو دیکھو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اس کی خم ریزی سکا نے کی۔ شراب کے جائز  
رکنے سے اکوڑھا لوگوں کی گردن پہ چھری پھر گئی جب انسان نشہ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر چھوڑنا  
مشکل ہے یہ نشہ بھی کیا شیئے ہے۔ کہ ایک طرف زندگی کو کھٹا جاتا ہے دوسری طرف زندگی کا شہتیر  
بھی ہے نشہ والوں کو نشہ نہ ملے تو موت تک نوبت کھج جاتی ہے۔

### ایک نشہ کا سائل

ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے تین دن سے نشہ نہیں ملا اس کی  
حالت بہت بدی تھی اور نشہ کے لئے مجھ سے پیرہ طلب کرتی تھی میں نے تعجب کیا کہ یہ نہ مدنی کا  
سوال کرتی ہے نہ کپڑے کا اور نشہ کے لئے ہے قرار ہے۔ اسے عادت ہو گی اور اب اس کی زندگی  
کا گوا جزو ہو گیا ہے اس لئے اس کو اپنے بیان میں سچا جان کر میں نے ایک پیرہ اسے دے دیا۔

اس موقع پر حضرت اقدس نے حکیم نور الدین صاحب سے سوال کیا کہ کتنے عرصہ کے بعد  
انسان کسی نشہ کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے چھوڑ نہیں سکتا اور مجبور ہو جاتا ہے حکیم  
صاحب نے کہا کہ کسی جگہ شاید نظر سے تو نہیں گزرے مگر چالیس دن میں ایسا ہو سکتا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہر ایک شیئے کے لئے چالیس دن ہی ہیں بات یہ ہے کہ شراب اور اس کے بہن بھرا (جنگ  
المون و فیو) ایسی خراب شیئے ہیں کہ ان سے مٹی پلید ہوتی ہے مگر پھر وہ مذہب کیسے اچھا ہو سکتا  
ہے جس میں ایسی تعلیم ہو ہاں ایک صورت ہے یہ نشہ چھوٹ سکے کہ جیلخانہ میں بند ہوں داروفا  
بھی ایسا ہو کہ کسی سے سازش نہ کرے پھر شاید یہ عادت چھوٹ جاوے۔

فرمایا کہ :-

یعنی جو نشہ نہیں چیتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی منع تھا سکا نے مرشد کی تقلید کیوں نہ  
کی۔

شائد کوئی یہ اعتراض کرے کہ اوائلی اسلام میں تو حرمت تھی نہیں۔ ۳ برس کے بعد  
حرمت ہوئی تو جواب یہ ہے کہ اسلام تو آہستہ آہستہ منافی کرتا جاتا تھا اور قوم بن رہی تھی جب  
قوم بن گئی تو حکم آگیا اہماء میں تو صحابہ کو یہ معیت تھی کہ پانی بھی بھولا ہوا ہوگا شراب کا کیا ذکر  
ہے۔

۱۳۴

دودھ کا استعمال آپ اکثر رکھتے تھے اور سوتے وقت تو ایک گلاس سرد پیتے تھے اور دن کو بھی پچھلے دنوں میں زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ کیونکہ یہ معمول ہو گیا تھا کہ اور دودھ پیا اور دوسرے دست آگیا۔ اسلئے بہت ضعف ہو جاتا تھا۔ اسکے دور کرنے کو دن میں تین چار مرتبہ تھوٹا تھوٹا دودھ طاقت قائم کرنے کو پی لیا کرتے تھے۔

دن کے کھانے کے وقت پانی کی جگہ گرمی میں آپ سی پی لیا کرتے تھے اور برت موجود ہوتی اس کو بھی استعمال فرماتے تھے۔

ان چیزوں کے علاوہ شیرہ بادام بھی گرمی کے موسم میں جس میں چند دانہ مغز بادام اور چند چھوٹی الائچیاں اور کچھ مہری ہیں کر چھنکر پڑتے تھے۔ پیا کرتے تھے۔ اور اگرچہ مہرا نہیں مگر کبھی کبھی منع ضعف کے لئے آپ کچھ دن متواتر بخنی گوشت یا پاؤں کی پیا کرتے تھے۔ یعنی بھی بہت بد مزہ چیز ہوتی تھی یعنی صرف گوشت کا اُبلتا ہوا رس پیا کرتا تھا۔

میوہ جات آپ کو پسند تھے اور اکثر قدام بلور تخم کے دیا بھی کتے تھے۔ گاہے بگاہے فوہی منگوائتے تھے۔ پسندیدہ میوہوں میں سے آپ کو انور۔ بیٹی کا کیلا۔ ناگپوری سنگترے۔ سیب۔ سرکہ اور سرولی آم زیادہ پسند تھی۔ بانی میوہ کی گلہ ہے جو آئے رہتے تھے کھالیا کرتے تھے۔

حق بھی آپ کو پسند تھا۔ شہتوت بیدانہ کے موسم میں آپ بیدانہ اکثر اپنے باغ کی جنس سے منگوا کر کھاتے تھے اور کبھی کبھی ان دونوں سیر کے وقت باغ کی جانب تشریف لجاتے اور مع سبذ فیقوں کے اسی جگہ بیدانہ تڑکا کر سب کے ہمراہ ایک نوکر کے میں نوش جان فرماتے۔ اور خشک میوہوں میں سے صرف بادام کو ترجیح دیتے تھے۔

چلنے کا میں پہلے اشارہ کر آیا ہوں۔ آپ جاڑوں میں صبح کو اکثر مہانوں کے لئے روزانہ ہوتے اور خود بھی پی لیا کرتے تھے۔ مگر عادت نہ تھی۔ بہتر چائے استعمال کرتے۔ اور سیاہ کو ناپسند فرماتے تھے۔ اکثر دودھ والی میٹھی پیتے تھے۔

زمانہ موجودہ کے ایجادات مثلاً برت اور سوڈا الیمینٹ۔ بخور وغیرہ بھی گرمی کے دنوں میں پی لیا کرتے تھے بلکہ شدت گرمی میں برت بھی لہرتا۔ لاہور سے خود منگوا لیا کرتے تھے۔

دودھ کا استعمال آپ اکثر رکھتے تھے اور سوتے وقت تو ایک گلاس مٹھی پیتے تھے اور دن بھی کھیلے دنوں میں زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ کیونکہ یہ معمول ہو گیا تھا کہ اوسر دودھ پیا اور اوسر دست آگیا۔ اسلئے بہت ضعف ہو جاتا تھا۔ اسکے دور کرنے کو دن میں تین چار مرتبہ تھوڑا تھوڑا دودھ طاقت قائم کرنے کو پی لیا کرتے تھے۔

دن کے کھانے کے وقت پانی کی جگہ گرمی میں آپ سی بی پی لیا کرتے تھے اور برت موجود ہوتو اس کو بھی استعمال فرماتے تھے۔

من چیزوں کے علاوہ شیرہ بادام بھی گرمی کے موسم میں جس میں ہندوانہ منزا کام اور چند چھوٹی الائچیاں اور کچھ معری ہیں کر چھنکر پڑتے تھے۔ پیا کرتے تھے۔ اور اگرچہ مہما نہیں مگر کبھی کبھی رفع ضعف کے لئے آپ کچھ دن متواتر یعنی گوشت یا پاؤں کی پیا کرتے تھے۔ یہ بخینی بھی بہت بد مزہ چیز ہوتی تھی یعنی صرف گوشت کا ابلنا ہوا اس ہوا کرتا تھا۔

یوہ بات آپ کو پسند تھی اور اکثر خدام بطور تحفہ کے لایا بھی کرتے تھے۔ گاہے گاہے خود بھی منگوا لیتے تھے۔ پسندیدہ میووں میں سے آپ کو انگریج بیٹی کا کیلا۔ ناگپوری سنگتے۔ سیب۔ سرکہ اور سرولی آم زیادہ پسند تھی۔ بانی میوے بھی گاہے گاہے جو آئے رہتے تھے کھایا کرتے تھے۔

مقا بھی آپ کو پسند تھا۔

شہتوت بیدانہ کے موسم میں آپ بیدانہ اکثر اپنے باغ کی جنس سے منگوا کر کھاتے تھے اور کبھی کبھی ان دونوں سیر کے وقت باغ کی جانب تشریف لجاتے اور مع سب رفیقوں کے اسی جگہ بیدانہ تڑھا کر سب کے ہمراہ ایک ڈوکرے میں نوش جان فرماتے۔ اور خشک میووں میں سے صرف بادام کو ترجیح دیتے تھے۔

چائے کا میں پہلے اشارہ کرایا ہوں۔ آپ جاڑوں میں صبح کو اکثر مہانوں کے لئے روزانہ بہاتے اور خود بھی پی لیا کرتے تھے۔ مگر عادت نہ تھی۔ بہتر چائے استعمال کرتے۔ اور سیاہ کو ناپسند فرماتے تھے۔ اکثر دودھ والی میٹھی پیتے تھے۔

زمانہ موجودہ کے ایجادات مثلاً برت اور سوڈا الیمونیا جنہو بھی گرمی کے دنوں میں پی لیا کرتے تھے بک شدت گرمی میں برت بھی لوت سار۔ لاہور سے خود منگوا لیا کرتے تھے۔

۲۱۸

تو مولوی برٹن دین صاحب جہلی مرحوم نے عرض کیا کہ حضرت کچھ ایسا ہو کہ اندر گھل جائے اس پر آپ نے فرمایا کہ ایک درگ تھے۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا بھیجا کہ میں تم کو اپنا وزیر بنا چاہتا ہوں اس بزدل نے یہ قطعہ بادشاہ کو لکھ کر بھیج دیا۔

چول چتر چنبری رخ بخت سہیاہ باد آید اگر بدل ہو سب تخت چنبرم  
زاں دم کہ یافتم خبر از ملک نیم شب صد ملک نیم روز بیک جو نمی خسرم  
اس بادشاہ کے چتر کا رنگ سیاہ تھا۔ اور اس کے ملک کا نام ملک نیم روز تھا اور بادشاہ کا لقب چنبر تھا۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ ان فارسی اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میں چنبر بادشاہ کے تخت کی ہوس کر دوں تو میرے تخت کا سنہ بھی چنبر کے چتر کی طرح سیاہ ہو جائے۔ جس وقت سے مجھے ملک نیم شب (یعنی عبادت و تہجد گزاری) پر لگا ہی ہوئی ہے۔ اس وقت سے میرا یہ حال ہے کہ میں ایک سو ملک نیم روز کو ایک جو کے دان میں بھی خریدنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ آپ ملک نیم شب کی طرف توجہ دیں اس سے آپ کا اندر بچو دگھل جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ پیر منظور صاحب ان سے بیان کرتے تھے کہ جب لیکر ام کے قتل کی خبر قادیان پہنچی تو اسے شکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمانے لگے کہ مسلمانوں کے لئے یہ ایک امتلا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے طاعون کے ایام میں ایک دوائی تریاق الہی تیار کرانی تھی حضرت خلیفہ اول نے ایک بڑی تمیلی یا قوتوں کی پیش کی۔ وہ بھی سب پسوا کر اس میں ڈالوا دیئے۔ لوگ کوٹتے پیتے تھے۔ آپ اندر جا کر دوائی لاتے اور اس میں ملواتے جاتے تھے۔ کونین کا ایک بڑا ڈبہ لائے اور وہ بھی سب اسی کے اندر ڈال دیا۔ اسی طرح وائیم اپنی کاک کی ایک بوتل لاکر ساری الت دی۔ عرض دیسی اور انگریزی اتنی دوائیاں ملا دیں کہ حضرت خلیفہ اول نے فرمانے لگے کہ طبی طور پر تو اب اس مجموعہ میں کوئی جان اور اثر نہیں رہا۔ بس روحانی اثر ہی ہے۔ ان دنوں میں جو زمین بھی حضور

ہے تو آپ نے فرمایا کہ میاں عامر علی تم نے ہم کو کیوں نہ بتایا کہ اس کی شادی کرنے لگے ہیں۔ اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیونکہ اس کو ضعف جگر کا مرض تھا۔ اور موجودہ حالت میں وہ شادی کے قابل نہیں تھا۔ چنانچہ وہ شادی کے چند روز بعد فوت ہو گئے۔

۸۴۷ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے احباب کو جب خط لکھتے تو یا تو "حسبنا فی اللہ" یا "مکرمی اخویم" لکھ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ مجھے ڈاک میں ڈالنے کو لگانے دیتے تو میں پتے دیکھتا کہ کس کے نام کے خط ہیں۔ سید عبدالرحمن صاحب مدرسی اور زین الدین ابراہیم صاحب انجینیر بمبئی اور میاں غلام نبی صاحب سیٹی راولپنڈی کے پتے مجھے اب تک یاد ہیں۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ تینوں اصحاب اس وقت جو جنوری ۱۸۶۸ء سے فوت ہو چکے ہیں وکل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال واکرام۔

۸۴۸ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر تمیم کرنا ہوتا تو بسا اوقات تکیہ یا لحاف پر ہی اتھ مار کر تمیم کر لیا کرتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ تکیہ یا لحاف میں سے جو گرد نکلتی ہے وہ تمیم کی غرض سے کافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی تکیہ یا لحاف بالکل نیا ہو اور اس میں کوئی گرد نہ ہو۔ تو پھر اس سے تمیم جائز نہ ہوگا۔

۸۴۹

۸۴۹ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں آپ کی لڑکی حضرت ہی صرت ایسی تھی جو قادیان سے باہر پیدا ہوئی اور باہر ہی فوت ہوئی۔ اس کی پیدائش انبالہ چھاؤنی کی تھی اور فوت وہ لڑھیانہ میں ہوئی۔ اسے بیٹہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کو شربت پینے کی عادت پڑ گئی تھی۔ یعنی وہ شربت کو پسند کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے لئے شربت کی بوتل ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ رات کو وہ اٹھتا تو کہتی آبا شربت پینا۔ آپ فوراً اٹھ کر شربت بنا کر اسے پلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز لڑھیانہ میں اس نے اسی طرح صرت کو اٹھ کر شربت مانگا۔ حضرت صاحب نے اسے شربت کی جگہ غللی سے چنبیلی کا تیل پلا دیا۔ جس کی بوتل اتنا قاش شربت کی بوتل کے پاس ہی پڑی تھی۔ لڑکی بھی وہ شربت

لهذه المناضلة ان كانوا من الصادقين وعلمت من ربي انهم من المغلوبين - و  
والله اني لست من العلماء ولا من اهل الفضل والدعاء وكلماء اقول من انواع  
حسن البيان او من تفسير القرآن فهو من الله الرحمان وكلماء اخطأت فيه فهو  
مضى وكلماء هو حق فهو من ربي وان ربي ارواني من كاس العرقان ومعد لك ما  
ابوء نفسي من السهو والنسيان وان الله لا يتركني على خطأ طرفه عين و  
يعصمني من كل صين ويحفظني من سبل الشياطين - فيا اهل الاهواء و  
الدعوى والرياء ان كنتم تحسبون انفسكم من اولي العلم والفضل والبر  
او من العلماء والاولياء والأتقياء او من الذين يسمع دعواتهم كالأحباء  
فاتوا بمثل ذلك الكتاب في جميع الانحاء واروني علمكم وقد ركم في حضرة  
الكبرياء وان لم تفعلوا ولن تفعلوا ايا محشر السفهاء فتادبوا مع اهل الحق والنور  
والضياء ولا تعتدوا اكل الاعداء وما هذا الا صنعة الرب القوي لا فعل الخربلم  
والضعفاء وان الكرامات تظهر في وقت توهين الاعداء وان عباد الله ينصرون  
عند انتهاك الجور من اهل الجفاء واذ بلغ الظلم غايته قيد ركبهم رب السماء  
فتوبوا من المعائب والعترات وبادروا الى المحسنات والصلوات وان الحزامة  
كل الحزامة في قبول الكرامة فاقبلوها قبل الندامة واتقوا سواد الخزي و  
الملامة ونكال القيامة فطوبى لكم ان جئتم كالتائبين المتندبين من هنا  
النصيحة وجماعة الفحام العدا واثام الحجة والسلام على من قبلنا قبل المذلة وترك  
سبيل الجرمين - و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## البراقين

المفتقر الى الله الصمد علام اسجد عافاه الله وايد

وكان هذا مكتوباً في ذم القعدة <sup>الذم</sup>  
من هجرة نبي العهد مقبول الاحد صلى الله عليه وسلم

من الازل الى الابد

دیہاتیوں کو یہ موقع کم میسر آتے ہیں۔ اس لئے وہ غوما کر دیتے ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو اعراب کا لفظ آتا ہے۔ اس کے معنی دیہاتی کہتے ہیں۔ بلکہ اس سے مجلس نبوی سے دور رہنے والے یا دیہاتین لوگ مراد ہیں۔

۶۳۸ [ پَسْمُ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن حضرت صاحب کو سخت کھانسی ہوئی جیسی کہ وہ نہ آتا تھا البتہ منہ میں پان رکھ کر قدر سے آرام معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے اس حالت میں پان منہ میں رکھے رکھے نماز پڑھی تاکہ آرام سے پڑھ سکیں۔

۶۳۹ پَسْمُ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب سواک بہت پسند فرماتے تھے۔ تازہ کیکر کی سواک کیا کرتے تھے۔ گواترانا نہیں۔ دھوکے وقت صرف انگلی سے ہی سواک کر لیا کرتے تھے۔ سواک کئی دنوں کبکرج سے بھی حکائی ہے۔ اور دیگر خدوئوں سے بھی منگوا لیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات نماز اور دھوکے وقت کے علاوہ بھی استعمال کرتے تھے۔

۶۴۰ پَسْمُ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی نے ہراسٹر مولوی عبدالرحمن صاحب پیشتر بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ ماہ رمضان کی ۷ تاریخ تھی منشی عبدالعزیز صاحب پٹواری بھی سیکھواں سے قادیان آئے ہوئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام صبح نماز فجر کے لئے تشریف لائے اور فرمایا کہ آج شب گھر میں دروزہ کی تکلیف تھی دیشیرہ مبارکہ بگیم میں بیدار ہوئی تھیں خاکسار ٹولت دعا کرتے کرتے لیکرام سنانے آ گیا اس کے معاملہ میں بھی دعا کی گئی۔ اور فرمایا کہ جو کام خدا کے منشاء میں جلد ہو جانے والا ہو۔ اس کے متعلق دعا میں یاد کرنا یا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے چوتھے روز لیکرام پورا گیا۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ خطبہ مطابق ۱۳۳۴ھ کا واقعہ ہے۔ مبارکہ بگیم ۱۷ رمضان ۱۳۳۴ھ کو پیدا ہوئی تھیں۔ جو غالباً ۲۲ مارچ ۱۸۹۶ء کی تاریخ تھی۔ اور لیکرام عید کے دوسرے دن ۲۶ مارچ بروز ہفتہ زخمی ہو کر ۶ اور ۷ کی درمیانی شب کو بعد نصف شب اس دنیا سے رحلت ہوا تھا مبارکہ بگیم کی ولادت کی دعا کے وقت حضرت صاحب کے سنانے عالم توہم میں لیکرام کا آجانا اور حضرت صاحب کا اس کے معاملہ میں بھی دعا کرنا اور پھر اس کا چارہ روز کے اندھا ندر مانا جانا ایک عجیب تعریف الہی ہے جس کے تصدیق سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔

ہو گیا۔ تب حضورؐ نے عدالت سے نماز پڑھنے کی اجازت چاہی۔ اور یا ہر آکر برآمدے میں ہی اکیلے ہرزو نمازیں جمع کر کے پڑھیں۔

## گتے سے کھانسی کا علاج

سفر گورداسپور میں ۱۹۰۳ء میں ایک فو حضرت صاحب کو کھانسی کی شکایت تھی۔ نینے عرض کی کہ میرے والد مرحوم اس کا علاج گرم کیا ہو اگنا بتلایا کرتے تھے۔ تب حضورؐ کے فرمانے سے ایک گنا چند پوریاں لیکر آگ پر گرم کیا گیا۔ اور اس کی گھڈیریاں بنا کر حضورؐ کو دی گئیں۔ اور حضورؐ نے چوسیں۔

## گل محمد عیسائی

اگست ۱۹۰۳ء میں بنوں کا ایک عیسائی گل محمد نام قادیان آیا۔ بہت گستاخی سے جھگڑنا اور بحث کرتا رہا۔ اور اسی حالت میں چلا گیا۔ اس کے چلا جانے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک رؤیا دیکھا کہ گل محمد آنکھوں میں سرمہ لگا رہا ہے۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اسے ہدایت ہو جائے گی۔ چنانچہ بہت سالوں کے بعد سنا گیا تھا کہ اسے پھر اسلام قبول کیا تھا بنوں کے مشہور ڈاکٹر پینل کی بیوہ نے بھی مجھے اپنے کارڈ میں لکھا ہے۔ کہ گل محمد نے عیسائیت کو ترک کر دیا تھا اور اپنے پہلے مذہب میں داخل ہو گیا تھا۔ جب گل محمد کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے ایک تحریر ہونے لگی جس میں غالباً اس قسم کا کچھ اقرار تھا کہ گل محمد دوبارہ کربا ہے۔ اور اس کے ساتھ کس طرح گفتگو ہو۔ تو گل محمد نے امرار کیا کہ اس کے نام کیساتھ مولوی کا لفظ لکھا جائے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ مولوی ایک عزت کا لفظ ہے۔ جو مسلمانوں کے لئے خاص ہے۔ آپ کے نام کیساتھ ہم یہ لفظ نہیں لکھ سکتے۔ تھوڑی بحث کے بعد یہ لے پایا کہ اس کے نام کیساتھ مسٹر کا لفظ لکھا جائے۔

## مسئلہ شفاعت بہت صفائی سے حل ہو گیا

اکتوبر ۱۹۰۳ء۔ ہمارے مکرّم خان صاحب محمد علی خان صاحب کا چھوٹا لڑکا عبد الرحیم سخت بیمار



یہ ایک تین ثبوت ہے کہ ایک دشمن کی تکلیف کا سنکر ہی آپ کی طبیعت پریشان ہو گئی۔ اور آپ اس کی امداد کے لئے پہنچ گئے۔

پسّم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کو کبھی کبھی پاؤں کے انگوٹھے پر نقرس کا درد ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ شروع میں گھٹنے کے جوڑ میں بھی درد ہوا تھا۔ نہ معلوم وہ کیا تھا۔ مگر دو تین دن زیادہ تکلیف رہی۔ پھر جو نیک لگانے سے آرام آیا۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ نقرس کے درد میں آپ کا انگوٹھا سوچ جاتا تھا۔ اور سرخ بھی ہو جاتا تھا۔ اور بہت درد ہوتی تھی۔ خاکسار نے بھی درد نقرس حضرت صاحب سے ہی ورثہ میں پایا ہے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کو بھی کبھی کبھی اس کی شکایت ہو جاتی ہے۔

پسّم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے ٹخنے کے پاس پھوڑا ہو گیا تھا جس پر حضرت صاحب نے اس پر سکہ یعنی سیدہ کی مچیا بندھوائی تھی جس سے آرام آ گیا۔

پسّم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلہ نے مجھ سے بیان کیا۔ ایک دفعہ مولوی محمد حسن صاحب کے ساتھ کوئی امر وہہر کا آدمی قادیان آیا۔ اس کے کان بندھے۔ اور نکلنے کی حد سے بہت اونچا سنتا تھا۔ اس نے حضرت صاحب کو دعا کے لئے کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ہم دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر قادر ہے پھر اللہ نے اپنا فضل کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ساری تقریر سن لی۔ جس پر وہ خوشی کے جوش میں کود پڑا۔ اور نکلے توڑ کر بھینک دی۔

پسّم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشی ظفر احمد صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ آتمم کے مباحثہ میں آتمم نے ایک دفعہ ایسے سوالات کئے کہ ہمارے بعض احباب گھبر گئے۔ کہ ان کا جواب فوراً نہیں دیا جاسکتا اور بعض احباب نے ایک کیٹی کی۔ اور قرآن شریف اور انجیل کے حوالہ سے چاہا کہ حضرت صاحب کو امداد دیں۔ میں نے مولوی عبد الکریم صاحب کو مزاخا کہا کہ کیا نبوتیں ہی مشورہ سے ہوا کرتی ہیں۔ اتنے میں حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ اور حضور کچھ باتیں کہنے کے جانے لگے۔ تو مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ اگر کل کے عذاب کے لئے مشورہ کر لیا جائے۔ تو کوئی حرج تو نہیں۔ اس پر حضرت صاحب نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ آپ کی دعا کافی ہے۔ اور فوراً تشریف لے گئے۔

۱۷۳

ولایت سے اودیہ وغیرہ کے نمونے منگوا کر مانتا تھا۔ غالباً اس واسطے مجھے ایک نو فرمایا۔  
 مفتی صاحب کے بالوں کے اگانے اور بڑبانے کے واسطے کوئی دوائی منگوائیں؟

## پانچویں روز ہندی

عموماً حضرت صاحب ہر پانچویں روز صراوریش مبارک پر ہندی لگواتے تھے؟

## بارش کے واسطے نماز

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کے ایام میں قادیان میں عموماً  
 موسم گرما میں متواتر گرمی ایک ہفتہ سے زائد نہ ہوا کرتی تھی۔ پانچ سات روز کے  
 بعد کچھ بادل آکر ترشح کر دیتے تھے۔ جس سے ہوا میں کچھ خشکی آجاتی تھی۔ لیکن ایک سال  
 بارش بہت کم ہوئی۔ اور ڈھا میں خشک ہو گئیں۔ اور نماز استسقاء پڑھی گئی۔ اور اسکے  
 بعد جلد بارش ہو گئی؟

## تبرک

سیرۃ اہلبیہ امام بی بی مرجم نے اپنے لڑکے عبد السلام سلمہ الرحمن کی پیدائش کو  
 کچھ عرصہ قبل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حضور کا ایک کرتہ تبرک مانگ کر  
 لیا۔ اور اس کرتہ سے چھوٹے چھوٹے کرتے بنا کر محفوظ رکھے، اور ہر بچے کو پیدا ہونے کے  
 وقت سب سے پہلے وہی کرتہ پہنایا کرتی؟

## سید محمد عبد الرحمن مدرسی کا اخلاص و ادب

فرمایا۔ ایک دفعہ میں کسی کو دینے کے لئے اندر سے مبلغ یکھد روپیہ ایک ڈال میں  
 لایا اور اس شخص کو دیا۔ کہ گن لو یہ ایک سو روپیہ ہے۔ جب اُس نے گنا تو وہ پچانوے روپیے  
 تھے۔ اسی مجلس میں سید محمد عبد الرحمن صاحب مدرسی بھی تھے۔ انہوں نے اذروئے

## خط نمبر ۳۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ❦ عُدَّةٌ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

گلے کو روئے خزاں را گئے خواہد دید

بارغِ توست اگر قسمت رسا باشد

بنا و بیضہ اسلام۔ پہلوانِ ربّ جلیل۔ پسر ملت الہدی۔ خلیفہ رشاوارض و سمنوات۔  
میخ ضائے قدیر۔ بعد از صلوة و سلام ایں نابکار و شر مسد برائے یک نظر رحمت  
بردر تو امید وار عرض گزار است کہ در اخبار سے کہ از ملک امریکہ رسیدہ بود خواندہ بودم  
کہ دوائے جدید برائے درد گردہ و امراض مشانہ و کثرت پیشاب نو ایجاد شدہ است  
یک شیشہ خورد کہ برائے تجربہ مفت مے فریسنہ طلب کردم ہماں ارسال خدمت اقدس  
است۔ والسلام۔ گداگر صاحب بیت الدعاء۔

عاجز محمد صادق عفی اللہ عنہ ۱۳۔ جون سنہ ۱۹۰۳ء

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ:-

جزاکم اللہ خیراً کثیراً فی الدنیا والآخرۃ۔ دوا بیسبب گئی۔ ایک اشتہار بالوں کی کثرت کا  
شاید لندن میں کسی نے دیا ہے۔ اور مفت دوا بھیجتا ہے۔ آپ وہ دوا بھی منگو الیں کہ تا  
آزمائی جائے۔ لکھتا ہے کہ اس سے گنجے بھی سفار پاتے ہیں۔ والسلام  
مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ

## خط نمبر ۳۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ❦ عُدَّةٌ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

حضرت اقدس مرشدنا و مہدینا سیح موعود و مہدی معہود

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب حکم تحقیقات کی گئی۔ کہ مداد اور ایک طالب علم  
عمر پندرہ سال شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے بدھ کی شام کو چاہد دیکھا تھا۔ پہلے کہ مداد  
نے اور کہ کھانے سے اس طالب علم نے دیکھا کہتے ہیں کہ چاند بلدیک  
دھندلا اور شفق کے تھا۔ اور بھی کئی لوگ مسجد میں موجود تھے۔ مگر باوجود ان کے

۲۲۲

نہیں تھا۔ بلکہ یہ تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ اعتراض ہونے پر گویا تلوار لیکر سامنے تن جاتے ہیں کہ جو کچھ اسلام نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے اور جو غم کہتے ہو وہ غلط اور جھوٹ ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے یہ بہت ہی لطیف اور درست مثال دی ہے اور یہ مثال سچی بھی انہی کی زبان سے ہے کیونکہ وہ ٹھکر کے بھیدی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے متعلق فرماتے ہیں:-

مدتے در آتش شیرفسر و افتادہ بود این کرامت میں کہ از آتش بول آمد سلیم  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک چھپرا بھائی مرزا کمال الدین تھا۔ یہ شخص جوانی میں فقراد کے پھندے میں پھنس گیا تھا۔ اس لئے دنیا سے کنارہ کش ہو کر بالکل گوشہ گزین ہو گیا۔ مگر وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح حضرت صاحب سے پرغاش نہ رکھتا تھا۔ علاج معالجہ اور دم تعویذ بھی کیا کرتا تھا اور بعض عمدہ عمدہ نسخے اس کو یاد تھے۔ چنانچہ ہماری والدہ صاحبہ میاں محمد اسحاق کے علاج کے لئے ان سے ہی گولیاں اور ادویہ وغیرہ منگایا کرتی تھیں۔ اور حضرت صاحب کو بھی اس کا علم تھا۔ آپ ہی فرماتے تھے کہ کمال الدین کے بعض نسخے اچھے ہیں۔ اب مرزا کمال الدین کو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ سگان کے تکیہ میں اب تک فیروں کا قبضہ ہے۔ عس می ہوتا ہے مگر کچھ رونق نہیں ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کے چچا مرزا غلام علی الدین صاحب کے تین لڑکے تھے۔ سب سے بڑے مرزا امام الدین تھے جو بہت لائے اور وجیہ شکل تھے اور مخالفت میں بھی سب سے آگے تھے۔ ان کی لڑکی خورشید بیگم صاحبہ ہمارے بڑے بھائی خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب کے عقد میں آئی تھیں۔ اور عزیز مرزا رشید احمد انہی کے بطن سے ہیں۔ دوسرے بھائی مرزا نظام الدین تھے جن کی نسل سے مرزا گل محمد صاحب ہیں۔ اور تیسرے بھائی مرزا کمال الدین تھے جن کا اس روایت میں ذکر ہے۔ وہ ہمیشہ مجبور رہے۔ مرزا کمال الدین مخالفت میں حصہ نہیں لیتے تھے۔

۸۳۲  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں نواب محمد علی خاں صاحب نے قادیان میں ایک فونوگراف جس کے ریکارڈ موم کے سیلنڈروں کی طرح گول ہوتے تھے منگایا تھا۔ اس میں حضرت خلیفہ اول نے اپنا لیکچر بھرا۔ مولوی عبد الکریم صاحب نے

میدانِ اضنی کے موقع پر خطبہ الہامیہ پڑھا تھا۔ اس سبب ۱۹ ذی الحج کو یعنی حج کے دن اعلان کر دیا تھا۔ کہ آج ہم دعا کریں گے۔ لوگ اپنے نام رقعوں پر لکھ کر بھیج دیں۔ چنانچہ قریناً تمام اصحابِ الصفہ اور مہمانان نے اپنے نام لکھ کر حضور کی خدمت میں پہنچا دیئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خاص خاص موقعوں پر لوگ اس طرح ناموں کی فہرست بنا کر حضور کی خدمت میں دے کے لئے بھیجا کرتے تھے۔ بلکہ بعد میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب روزانہ ہی ایسی فہرست ڈاک کے خطوط میں سے منتخب کر کے اور نیز دیگر حاجتمندانِ دُعا کے نام لکھ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ میر صاحب کی مراد اصحابِ الصفہ سے وہ اصحاب ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فیضِ محبت کی خاطر اپنے وطنوں کو چھوڑ کر قادیان میں ڈرہ ہجرت کیے تھے۔ جیسا کہ حضور کے الہام میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

۵۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب بعض مخلصین حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے رخصت ہو کر جانے لگے، اور دُعا کے لئے عرض کرتے، تو حضرت صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آپ گاہ بگاہ خط کے ذریعہ سے یاد دہانی کراتے رہیں۔ میں انشاء اللہ دعا کر دوں گا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بعض دوستوں کی عادت تھی کہ حضور کی خدمت میں دُعا کے لئے قریناً روزاً لکھتے تھے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ لاہور کے ایک دوست کو کوئی کام پیش تھا جس پر انہوں نے مسلسل کئی ماہ تک ہر روز بلاناغہ حضور کی خدمت میں دُعا کے لئے خط لکھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ حضرت والدہ صاحبہ یعنی اُمّ المؤمنین اطال اللہ بقا ہانے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مرزا نظام الدین صاحب کو سخت بیمار ہوا۔ جس کا دماغ پر بھی اثر تھا۔ اس وقت کوئی اور طبیب یہاں نہیں تھا۔ مرزا نظام الدین صاحب کے عزیزوں نے حضرت صاحب کو اطلاع دی اور آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے۔ اور مناسب علاج کیا۔ علاج یہ تھا کہ آپ نے مرغاذ حج کر کے سر پر باندھا جس سے فائدہ ہو گیا۔ اس وقت باہمی محنت مخالفت تھی۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ کی بات ہوگی۔ ورنہ آخری زمانہ میں تو حضرت خلیفہ اول جو ایک ماہر طبیب تھے ہجرت کر کے قادیان آ گئے تھے۔ یا ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت کی بات ہو۔ جب حضرت خلیفہ اول ماریطی طور پر کسی سفر پر باہر گئے ہونگے۔ مگر بہر حال حضرت صاحب کے اعلیٰ اخلاق کا

۱۳ جنوری ۱۹۰۳ء

”إِنِّي مُعِينٌ مَّنْ أَرَادَ إِهَانَتَكَ . إِنِّي مُعِينٌ مَّنْ أَرَادَ إِهَانَتَكَ .  
 أَنْتَ وَجِيهَةٌ فِي حَضْرَتِي . أَخْتَرْتُكَ لِنَفْسِي وَبِزُكِّ سِيْرِي . أَنْتَ مَعِي وَأَنَا  
 مَعَكَ وَبِزُكِّ سِيْرِي إِذَا غَضِبْتَ لَغَضِبْتُ وَكَلَّمْنَا أَحْبَبْتَ أَحْبَبْتُ . أَنْتَ مَعِي  
 بِمَنْزِلَةِ تَوْجِيهِي وَتَفْرِيدِي . فَبِحَانَ أَنْ تَعَانَ وَتَعْرِفَ بَيْنَ النَّاسِ بِحَمْدِكَ  
 اللَّهُ مِنْ عَزِيْهِ وَيُحْمَدُكَ اللَّهُ وَيَسْتَعِيْزُ بِإِيْتِكَ . أَنْتَ وَجِيهَةٌ فِي حَضْرَتِي . أَخْتَرْتُكَ  
 لِنَفْسِي وَبِزُكِّ سِيْرِي . أَنْتَ مَعِي بِمَنْزِلَةِ لَا يَعْلَمُهَا الْخَلْقُ . يَا أَحْمَدُ مَعِي أَنْتَ  
 مُرَادِي وَمَعِي . وَأَنْتَ مَعِي وَأَنَا مَعَكَ . بِبِزُكِّ سِيْرِي . إِذَا غَضِبْتَ غَضِبْتُ وَكَلَّمْنَا  
 أَحْبَبْتَ أَحْبَبْتُ . أَنْتَ وَجِيهَةٌ فِي حَضْرَتِي يَخْتَرْتُكَ لِنَفْسِي“

(کاپل الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۱۱)

۱۹۰۳ء

وَأَنَا بَشَرِيٌّ وَقَالَ

”لَا أَبْقِي لَكَ فِي الْمُخْزِيَّاتِ ذِكْرًا“

وَقَالَ

يَعْنِيَنَّكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ الْوَجِيُّ الرَّحْمَنُ“ (مواہب الرحمن صفحہ ۱۰، روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۱۲۳)

لے (ترجمہ از مرتب) میں اس شخص کی اہانت کروں گا جو میری اہانت کرے گا میں اس شخص کی اہانت کروں گا جو میری اہانت کرے گا۔ تو میری  
 درگاہ میں وجہ ہے میں نے تجھے اپنے لئے پس لیا اور تیرا بھید میرا بھید ہے۔ تو تیرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرا  
 بھید میرا بھید ہے۔ جب تو غضبناک ہوتا ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں اور جب تو محبت کرتا ہے میں محبت کرتا ہوں۔ تو تجھ سے ایسا  
 ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید پیش وقت آگیا ہے کہ تیری مدد کہ جائے اور تجھے لوگوں میں مشہور کیا جائے۔ اللہ عرض سے تیری  
 تعریف کرتا ہے۔ اور اللہ تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے۔ تو میری درگاہ میں وجہ ہے میں نے تجھے اپنے لئے پس  
 لیا اور تیرا بھید میرا بھید ہے۔ میرے نزدیک تیرا وہ مرتبہ ہے جس کو لوگ نہیں جانتے۔ اس کے میرے ہمارا تو میری راہ ہے اور میرے ساتھ  
 ہے۔ اور تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرا بھید میرا بھید ہے۔ جب تو غضبناک ہوتا ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں۔ اور  
 جب تو محبت کرتا ہے تو میں محبت کرتا ہوں۔ تو میری درگاہ میں وجہ ہے میں نے تجھے اپنے لئے پس لیا۔  
 لے (ترجمہ از مرتب) اور اس نے مجھے بشارت دی اور فرمایا میں تیرے متعلق رسوائی والوں کا ذکر تک نہیں چھوڑوں گا۔  
 لے (ترجمہ از مرتب) اور فرمایا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت میں طرف سے کہے گا اور وہی بھید ہم کہنے والا دوست ہے

یہ حوالہ صفحہ 222 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 371 طبع چہارم از مرزا قادیانی

۳۹۱

انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اس سعادت تک وہ پہنچ جائے۔ فرض خدا کے جتنے کام ہیں۔ وہ صرف موٹی صنعت پر ختم نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ان میں جس قدر کھودتے جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ باریکیاں نکلتی ہیں۔ پس جبکہ ان تمام چیزوں کی نسبت جو خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ عام قانون ثابت ہو چکا۔ کہ وہ سب نکاتِ دقیقہ اور اسرارِ عمیقہ سے پر

نہر ہے۔ اور جو خدا کی صفاتِ کاملہ تھی وہ سب ابنِ مریم پر تھاپ دی۔ اور انکے ذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ جمیع مافی العالم کا رب نہیں ہے بلکہ سب اسکی رب بیت سے باہر ہے بلکہ سب آپ ہی رب ہے اور جو کچھ عالم میں پیدا ہوا۔ وہ بزمِ باطل انکے بطور قاعدہ کلیہ مخلوق اور حادث نہیں بلکہ ابنِ مریم عالم کے اندر حدوث پا کر اور صریح مخلوق ہو کر پھر غیر مخلوق اور خدا کے برابر بلکہ آپ ہی خدا ہے۔ اور اسکی عجیب ذات میں ایک ایسا الجوبہ ہے کہ باوجود حادث ہونے کے قدیم ہے۔ اور باوجود اسکے کہ خود اپنے اقرار ایک واجب الوجود کے ماتحت اور اس کا محکوم ہے۔ مگر پھر بھی آپ ہی واجب الوجود اور آزاد مطلق اور کسی کا ماتحت نہیں۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے عاجز اور نالواں ہے۔ مگر پھر بھی عیسائیوں کے بے بنیاد زعم میں قادر مطلق ہے اور عاجز نہیں۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے

تو پھر وہ خدا کا کلام ہی نہیں رہتا۔ اس لئے وہ خود اپنے تمام بیانات کو بے پایہ ثبوت پہنچاتا ہے۔ لیکن کوئی شاعر اس بات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا کہ اس کا کلام ہر ایک قسم کے کذب اور ہزل اور غیر ضروری باتوں سے پاک اور ضروری اور لا بدی امور پر احاطہ رکھتا ہے۔ پھر جبکہ شاعروں کی فضول باتوں کو وہ مراتب حاصل نہیں ہیں کہ جو خدائے تعالیٰ کے پاک کلام کو حاصل ہیں اور نہ اس بارے میں شاعر کچھ دم مارتے ہیں اور نہ ذمہ دار ہتے ہیں۔ بلکہ اپنے عجز کے آپ ہی اقراری ہیں۔ تو کلامِ الہی کے مقابلہ پر ان کا ناچیز کلام پیش کرنا کیسی سفاهت اور نادانی ہے۔ شاعر تو اگر مر بھی جاویں تو صداقت اور راستی و ضرورتِ حقد کا اپنے کلام میں التزام

ہیں۔ تو اسے قانون قدرت کی متابعت سے یہ بھی ہر ایک عاقل کو ماننا پڑا کہ خدا کا کلام بھی نکاتِ دقیقہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اُس میں سب سے زیادہ لطائف چھپے۔ کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ اور حکیم مطلق کے علوم قدیم کا مخزن ہے جس کو خدا نے اس بات کا اُلہ بنایا ہے کہ تمام قوانین قدرت یہ جو

۳۹۲

اقرار سے امور غیبیہ کے بارہ میں نادان محض ہے یہاں تک کہ قیامت کی بھی خبر نہیں کہ کب آئے گی۔ مگر پھر بھی نصرائیوں کے خوش عقیدہ کے رُو سے عالم الغیب ہے۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے اور نیز صوف انبیاء کی گواہی سے ایک مسکین بندہ ہے۔ مگر پھر بھی حضراتِ مسیحیوں کی نظر میں خدا ہے۔ اور باوجود اسکے کہ خود اپنے اقرار سے نیک اور بے گناہ نہیں ہے مگر پھر بھی عیسائیوں کے خیال میں نیک اور بے گناہ ہے۔ غرض عیسائی قوم بھی ایک عجیب قوم ہے جنہوں نے ضدین کو جمع کر دکھایا اور تناقض کو جائز سمجھ لیا۔ اور گواہان کے اعتقاد کے قائم ہونے سے مسیح کا دروغ لگو ہونا لازم آیا۔ مگر انہوں نے اپنے اعتقاد کو نہ چھوڑا۔ ایک ذلیل اور عاجز بندہ کو رب العالمین قرار دیا۔ اور رب العالمین پر ہر طرح کی ذلت اور موت اور درد اور دکھ اور تجسم اور حلول اور تغیر اور تبدل اور حدوث اور تولد کو روا رکھا ہے۔ نادانوں نے خدا کو بھی ایک کھیل بنا لیا ہے۔ عیسائیوں پر کیا صوبے ان سے پہلے کئی عاجز بندے خدا قرار دیئے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے رام چندر خدا ہے۔ کوئی کہتا ہے

بیتہ حاشیہ نمبر ۱۱

۳۹۳

نہ کر سکیں۔ وہ تو بغیر بقول گوئی کے بول ہی نہیں سکتے۔ اور ان کی ساری کل فضول اور جھوٹ پر ہی چلتی ہے۔ اگر جھوٹ نہیں۔ یا فضیل گوئی نہیں تو پھر شعر بھی نہیں۔ اگر تم ان کا فقرہ فقرہ تلاش کرو کہ کس قدر حقائق و دقائق ان میں جمع ہیں۔ کس قدر راستی اور صداقت کا التزام ہے۔ کس قدر حق اور حکمت پر قیام ہے۔ کس ضرورتِ حقہ سے وہ باتیں ان کے مونہ سے نکلی ہیں اور کیا کیا اسرارِ ہمیشگی و مانند ان میں لپٹے ہوئے ہیں تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان تمام خوبیوں میں سے کوئی بھی خوبی انکی مُردہ حیات میں پائی نہیں جاتی۔ ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جس طرف قافیہ ردیف ملتا نظر آیا۔ اسی طرف جھک

بیتہ حاشیہ نمبر ۱۲



فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پائے جاتے ہیں۔ ان کی اصلاح کے لئے اُس میں سامان موجود ہو۔ پس اگر وہ ناقص ہو تو اتنے بڑے کام اس سے کیونکر انصرام ہو سکیں۔ اگر وہ تمام غلطیوں سے انسان کو پاک نہ کر سکتا تو پھر صرف بعض غلطیوں سے پاک

نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی طرح کوئی برہمن کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو خدا ٹھہراتا ہے۔ ایسا ہی آخری زمانہ کے ان سادہ لوحوں نے بھی پہلے مشرکوں کی ریس کے ابن مریم کو بھی خدا اور خدا کا فرزند ٹھہرایا۔ عرض عیسائی لوگ نہ خداوند حقیقی کو رب العالمین سمجھتے ہیں نہ اُسے رحمان اور رحیم خیال کرتے ہیں اور نہ جزا سزا اُسکے ہاتھ میں یقین رکھتے ہیں بلکہ اُن کے گمان میں حقیقی خدا کے وجود سے زمین اور آسمان خالی پڑا ہوا ہے اور جو کچھ ہے ابن مریم ہی ہے۔ اگر رب ہے تو وہی ہے۔ اگر رحمان ہے تو وہی ہے۔ اگر رحیم ہے تو وہی ہے۔ اگر مالک يوم الدين ہے تو وہی ہے۔ ایسا ہی عام ہندو اور آریہ بھی ان صداقتوں سے منحرف ہیں۔ کیونکہ ان میں سے جو آریہ ہیں۔ وہ تو خدائے تعالیٰ کو خالق ہی نہیں سمجھتے۔ اور اپنی رُوحوں کا رب اُس کو قرار نہیں دیتے۔ اور جو اُن میں سے بت پرست

نہیں کر سکتے تھے۔

گئے اور جو مضمون دل کو اچھا لگا دہی بھک ماری۔ نہ سنی اور حکمت کی پابندی ہے اور نہ لغو لگائی سے پرہیز ہے اور نہ یہ خیال ہے کہ اس کلام کے بولنے کیلئے کوئی سخت ضرورت درپیش ہے اور اسکے ترک کرنے میں کوئی سخت نقصان فائدہ حال ہے۔ ناسخ ہے فائدہ فقرہ سے فقرہ ملتا ہے۔ سر کی جگہ پاؤں پاؤں کی جگہ سر لگاتے ہیں۔ سراب کی طرح چمک تو بہت ہے پر حقیقت دکھو تو خاک بھی نہیں۔ شعبدہ باز کی طرح صرف کھیل ہی کھیل اصلیت دکھو تو کچھ بھی نہیں۔ نادار۔ طاقت اور ناتوان اور گئے گدھے میں آنکھیں اندھی اور اسپر عشوہ گری اُن کی نسبت تہایت ہی نرمی کیجئے تو یہ کہیے کہ وہ سب ضعیف اور سچ ہونے کی وجہ سے عنکبوت کی طرح ہیں اور ان کے اشعار نبیت عنکبوت ہیں۔ اُن کی نسبت خداوند کیسے خوب فرمایا ہے وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَكْفِيْمُونَ۔ وَاَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَنَّمَا مُنْقَلَبٌ

نہیں کر سکتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مرزا سلطان احمد صاحب نے کہ دادا صاحب نے طب کا علم حافظ روح احمد صاحب باغبانپورہ لاہور سے سیکھا تھا اسکے بعد دہلی جا کر تکمیل کی تھی ۔

(۲۲۹)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ اے نے کہ ان سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بیان کیا کہ دادا صاحب کی ایک لائبریری تھی جو بڑے بڑے پٹاروں میں رہتی تھی۔ اور اس میں بعض کتابیں ہمارے فائنان کی تاریخ کے متعلق بھی تھیں۔ میری حالت تھی کہ میں دادا صاحب اور والد صاحب کی کتابیں فیروز پوری نکال کر لے جایا کرتا تھا۔ چنانچہ والد صاحب اور دادا صاحب بعض وقت کہا کرتے تھے۔ کہ ہماری کتابوں کو یہ ایک چوٹا لگ گیا ہے ۔

(۲۳۰)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک در عرض کرتا ہے۔ کہ مرزا سلطان احمد صاحب سے مجھے حضرت سیح موعود کی ایک شعروں کی کاپی ملی ہے جو نہایت پرانی معلوم ہوتی ہے۔ غالباً نوجوانی کا کلام ہے۔ حضرت صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ بعض شعر بطور نمونہ درج ذیل ہیں سے

(۲۳۱)

عشق کا روگ ہی کیا پوچھتے ہو مکی دوا  
ایسے بیمار کا مرنا ہی دعا ہوتا ہے  
کچھ مرزا پایا میرے دل! ابھی کچھ پاؤ گے  
تم بھی کہتے ہو کہ الفت میں مرزا ہوتا ہے

ہاں کیوں ہو کے الم میں پڑے  
مفت بیٹھے۔ شاعر غم میں پڑے  
اسکے جانے صبر دل سے گیا  
پوشش بھی درطہ عدم میں پڑے

سبب کوئی خداوند بنا ہے  
کسی صدمت سے وہ صورت دکھا ہے  
کرم فرما کے آ او میرے جانی  
بہت روئے ہیں اب تک کہ ہنسنا دے  
کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر  
دکا اک بار شور و غل مچا دے

دوسری ہوش ہر تہ کو نہ پاکی  
بسمہ ایسی ہوئی قدرت خدا کی  
برے بت بک پر وہ میں رہو تم  
کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی

نہیں منظور تھی گر تم کو الفت  
تو یہ مجھ کو بھی بستلایا تو ہوتا  
جبری دوسوڑیوں سے بے خبر ہو  
مرا کچھ عبید بھی پایا تو ہوتا  
دل پانا اسکو وہوں یا ہوش باجاں  
کوئی اک حکم فرمایا تو ہوتا

کوئی راضی ہو یا ناراض ہو  
رضا مندی خدا کی دعا کر

اس کاپی میں کئی شعر ناقص ہیں۔ یعنی بعض جگہ مصرع اول موجود ہے۔ مگر دوسرا نہیں ہے۔  
اللہ بعض جگہ دوسرا ہے۔ مگر یہاں ندارد۔ بعض اشعار نظر ثانی کے لیے بھی چھوڑے ہوئے معلوم  
ہوتے ہیں۔ اور کئی جگہ قرخ تخلص استعمال کیا ہے۔

(۲۳۹)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ  
مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ اے کہ تانا یا صاحب کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی  
اور کئی دن تک جشن رہا تھا۔ اور ۲۲ طائفے ارباب نشاط کے جمع تھے۔ مگر والد  
صاحب کی شادی نہایت سادہ ہوئی تھی۔ اور کسی قسم کی خلعت شریعت و رسم نہیں ہوئی۔ خاکسار عرض کرتا ہے  
کہ یہ بھی تصویق آتی تھا۔ ورنہ وہ صاحب کو دھنلا بیٹے ایک سے تھے۔ دین پر یہ طائفے ان لوگوں کی وجہ  
سے آئے ہوں گے۔ جو ایسے تماشاخیز و چھیڑے رہتے ہیں۔ ورنہ خود داد صاحب کا کسی ہاتھ میں شہنشاہ

(۲۴۰)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی  
رحیم بخش صاحب ایم۔ اے کہ ہماری دادی صاحبہ بڑی مہمان نواز سخی اور غریب پرہیزگار

(۲۴۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی  
رحیم بخش صاحب ایم۔ اے کہ بچے سنا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ والد صاحب جشن عدالت  
میں اسیر مقرر ہوئے تھے۔ مگر آپ نے (ہکار کر دیا۔) اس جگہ دیکھو روایت (۲۳۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ الَّذِیْ رَحِمَ اللّٰهُ السَّیِّئِیْنَ

## پیش لفظ

یہ منظوم کلام ان اردو اشعار کا مجموعہ ہے جو حضرت سید مودود علیہ السلام نے اپنی مختلف تصانیف میں تحریر فرمائے۔ ان نظموں میں آپ کو اسلام کی صداقت، خدا تعالیٰ کی اُلفت، قرآن کریم کی محبت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت کے ایسے عجیب نمونے ملیں گے جن کی تمام اردو لٹریچر میں کوئی نظیر موجود نہیں۔ تبلیغی کمال سے یہ مجموعہ ایک مختصر انسائیکلو پیڈیا ہے جس میں مسائیل، آدیوں، سائنس و جرمیوں، ہنکوں اور دہریوں وغیرہ کو جتنی دلائل کیساتھ حق کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اخلاقی نصائح، دینی نکات اور پرمعارف کلمات کا بھی یہ کتاب ایسا مین گڈ ہے جس کی جیسی بھی خوشبودل و دماغ کو حیات تازہ بخشتی اور روح کو فرحت پہنچاتی ہے۔

اس طرز اور ترتیب کا پہلا ایڈیشن محترم محمد اسماعیل صاحب پانی پتی کی طرف سے سن ۱۹۶۳ء میں شائع ہوا تھا جس کی جاؤ بیت دلکشی اور حسن صحت کے پیش نظر اب شعبہ نشر و اشاعت نظارت و مطبوعہ و تبلیغ طبع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم موصوف کی س خالصتہ کوششوں کو بہتوں کی ہدایت کا موجب بنائے۔ آمین یا رب العالمین  
حاکم مرزا وسیم احمد ناظر و مطبوعہ و تبلیغ قادیان ۱۴۲۵ھ  
(بھارت)

ایک بد عورت کو خوف ہوتا تھا کہ اگر وہ نفس پشیمانہ اختیار کرے گی تو اسے قانون دکھائی کی سخت آزمائش بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ بہت سی عورتیں اسی خوف کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرنے سے بچ رہتی تھیں۔ اس زمانہ میں جبکہ دکھائی کا طریق بند ہے۔ مرض آتشک کے ادویات کے اشتہارات کثرت سے شائع ہوتے ہیں۔ جو اس امر کا کافی ثبوت ہیں کہ ملک میں مرض آتشک بہت پھیلا ہوا ہے اول تو ہمیں اس خراب فرقہ کے وجود سے ہی سخت احتکاف ہے مگر ایسے زمانہ میں جبکہ اخلاق اور مذہب کی سخت کمزوری ہو رہی ہے یہ امید کن نفعی اصول ہے کہ یہ شیطانی فرقہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کے لئے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس سے یہ اخلاق اور مذہب کو بگاڑنے کے علاوہ عوام کی صحت کو ہمیشہ کے لئے خراب کرنے کے قابل نہ رہ سکیں اور وہ قانون صرف قانون دکھائی ہی ہے۔ ہم نہایت شکر گزار ہوں گے اگر دوبارہ ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جاوے گا۔ مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورنر لوگوں کے لئے پھر میں ریڈیاں ہم پہنچائی جاویں۔ یقین ہے کہ گورنمنٹ ہند اور معزز مہصلان اس معاملہ پر ضرور توجہ اور فور فرماویں گے۔

دین و دنیا میں ان کی خواری ہے  
عقل و تہذیب سے وہ عاری ہے  
ان کی شیطان نے عقل لٹی ہے  
اب تو ماحق کی پردہ عاری ہے  
وہ تو اک خبیث کی پٹاری ہے  
جبکہ رسم نیوگ جاری ہے  
اس کے اظہار میں تو عاری ہے  
آریوں کا اصول بھاری ہے  
بید کے خادموں میں ساری ہے

جن کو رسم نیوگ پیاری ہے  
میں کے دیں میں ہے ایسی بے شری  
جن کو آتی نہیں نیوگ سے حلد  
بید کی کھل گئی حقیقت کُل  
جس کے باعث یہ گندگی پھیلی  
وہ سہرا پیاہ کیوں حرام نہو  
کیوں نہ پوشیدہ ہو نیوگ کی رسم  
چمکے چمکے حرام کروانا  
آدے یہ خبیث اور بد رسم

جس کو دیکھو وہی شکاری ہے  
 اُن کی تاری ہر ایک تاری ہے  
 جس میں واجب حرام کاری ہے  
 شرم و غیرت کہاں تہا کی ہے  
 ناک کے کاٹنے کی آری ہے  
 کہ یہ پوشیدہ ایک بانگی ہے  
 اقتقاد اس پہ بد شکاری ہے  
 سخت خیرت اور ناپکاری ہے  
 وہ نہ بیوی زن بزاری ہے  
 جفت اس کی کوئی ہماری ہے  
 آریہ دیس میں یہ خواری ہے  
 یہ نہ اولاد قہر باری ہے  
 سدا شہوت کی میقاری ہے  
 یار کی اس کو آہ و ناری ہے  
 پاک دامن ابھی بچاری ہے  
 اُن کی لالی نے عقل ماری ہے  
 ایسی جود کی پاسداری ہے  
 سر بازار اُن کی باری ہے  
 وہ شوگی پہ اپنے ولی ہے  
 کس قدر اُن میں مہرباری ہے  
 خوب جود کی حق گزاری ہے

زن بیگنہ پر یہ سشیدا ہیں  
 بوجی سوختن میں اُن کے مرد  
 وہ ما کیا وہرم ہے کیا ایمان  
 آریو! دل میں غور سے سوچو  
 جس کو کہتے ہیں آریوں میں نیوگ  
 کچھ نہیں سوچتے یہ دشمن شرم  
 مرکب اس کا ہے بٹا دیوث  
 غیر مردوں سے مانگنا لطف  
 غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے  
 ہے وہ چندال دشت اور پانی  
 میں کڑوں نیوگ کے پتے  
 ایسی اولاد پر خدا کی عار  
 نام اور کے حصول کا ہے  
 بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط  
 دس سے کروا چکی زنا لیس  
 اللہ صاحب بھی کیسے امتی ہیں  
 گھر میں لستے ہیں اس کے یاد کو  
 اس کے یادوں کو دیکھنے کے لئے  
 جود کی پر فدا ہیں یہ جی سے  
 شرم و غیرت ذرا نہیں باقی  
 ہے قوی مرد کی تلاش انہیں

بگڑنے کا احتمال تھا اس لئے دادا صاحب منع فرماتے تھے۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ والد صاحب مرزا رشید احمد سے ہمارے بھائی خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم کی بیوہ مراد ہیں جو حضرت مسیح موعود کے چچا اور بھائی مرزا علی الدین کی لڑکی ہیں اور ان کی چھوٹی صاحبہ مراد ہیں جو حضرت صاحب کی بھانجی تھیں اور مرزا اعظم الدین کی سگی بہن تھیں اور دادا صاحب سے ہمارے اپنے دادا یعنی شہر مسیح موعود علیہ السلام کے والد مراد ہیں۔

۸۶۵ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد منجیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کئی دفعہ شعر پڑھتے سنا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ زبان کے کھانڈ سے یہ بڑا صبح و بیخ شعر ہے۔

یا تو ہم پھرتے تھے ان میں یا ہوا یا انقلاب  
پھرتے ہیں آنکھوں کے آگے کوچہ لئے نکھنڈ

خاکسار عرض کرتا ہے کہ شعر واقعی بہت لطیف ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب نے اس کو صرف اس کی عام خوبی کی وجہ سے ہی پسند نہیں کیا ہو گا بلکہ غالباً آپ اپنے ذہن میں اس کے معانی کو خود اپنی ذہنی کمالات پر بھی چہان فرمانے میں لگے۔

۸۶۶ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - قاضی محمد یوسف صاحب پشاور نے بذیہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ مجھے کئی بار حضرت احمد علیہ السلام کی مٹھیاں بھرنے اور پاؤں دبانے کا موقع ملا ہے آپ کے جسم کا گوشت بہت سخت اور خوب کامیاب ہوا تھا۔ ایک دفعہ کسی بدتمیز نے میرے پاؤں دبانے کے آپ کے پاؤں پر چونڈھیاں بھرنی شروع کر دیں۔ مگر آپ خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مٹھیاں بھرنا اور چونڈھیاں لینا پنجابی الفاظ ہیں ان سے ہاتھ کی تھمیل سے جسم کو دباننا اور چنگیاں لینا مراد ہے۔

۸۶۷ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - قاضی محمد یوسف صاحب پشاور نے بذیہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ حضرت احمد علیہ السلام جب مقدمہ گورداسپور کے ایام میں عدالت کے انتظار میں لب سڑک گورداسپور میں گھنٹوں تشہیف فرما رہتے تو بسا اوقات لوگ خیال کرتے کہ آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مگر آپ اکثر کسی اور خیال میں متفرق ہوتے تھے مادہ بعض اوقات مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی مجلس سے جدا ہوتے تھے۔

۸۶۸ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - سیسی غلام نبی صاحب نے بذیہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ۱۸۹۲ء تا ۱۸۹۳ء

۲۴۰

سمجھتے ہیں۔ پس ہم قرآن کو چھوڑ کر اور کس کتاب کو تلاش کریں اور کیونکر اسکو نا کابل سمجھ لیں۔ خدا نے ہمیں تو یہ بتلایا ہے کہ عیسائی مذہب بالکل مر گیا ہے اور انجیل ایک مُردہ اور ناتمام کلام ہے۔ پھر زندہ کو مُردہ سے کیا جوڑے۔ عیسائی مذہب سے ہماری کوئی صلح نہیں وہ سب کا سب رومی اور باطل ہے اور آج آسمان کے نیچے بجز فرقان حمید کے اور کوئی کتاب نہیں۔ آج سے بائیس برس پہلے براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے میری نسبت یہ الہام درج ہے جو اسکے صفحہ ۲۳۱ میں پاؤ گے اور وہ یہ ہے:۔ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ وَخِرَافَ إِلٰهِ بَنِيْنَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَكْرَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِيْنَ۔ الْفِتْنَةُ مَهْمَا فَاصِدٌ مَّا كَصِدْرٍ اَوْلَا الْعِزْمِ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ۔ یعنی تیرا اور یہود اور نصاریٰ کا کبھی مصالحتہ نہیں ہوگا اور وہ کبھی تجھ سے راضی نہیں ہونگے (نصاریٰ سے مُراد پارسی اور انجیلیوں کے حامی ہیں) اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے ناحق اپنے دل سے خدا کیلئے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں اور نہیں مانتے کہ ابن مریم ایک عابز انسان تھا۔ اگر خدا چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کی مانند کوئی اور آدمی پیدا کرے یا اس سے بھی بہتر جیسا کہ اُس نے کیا۔ مگر وہ خدا تو واحد لا شریک ہے جو موت اور تولد سے پاک ہے اُس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عیسائیوں نے شوریچار کھا تھا کہ مسیح بھی اپنے قُرب اور وہابیت کے رُوسے واصل لا شریک ہے۔ اب خدا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اُس کا ثانی پیدا کرونگا جو اُس سے بھی بہتر ہے۔ جو غلام صاحب ہے یعنی احمد کا غلام۔

زندگی بخش جاہم احمد ہے      کیلی پیارا یہ نام احمد ہے

لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا      سب سے بڑھکر مقام احمد ہے

باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا      میرا ستل کلام احمد ہے

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو      اُس سے بہتر غلام احمد ہے

یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں اھا اگر تحریر کے رُوسے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے

۲۴۱



منفزی کہتے ہوئے اُن کو سیا آتی نہیں  
غیر کیا جانے کہ دلبر سے ہیں کیا جوڑے  
میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں  
اک شجر ہوں جسکو داؤدی صفت کے پھل لگے  
پرسیما بن کے میں بھی دیکھا روئے صلیب

دشنو! ہم اسکی رہ میں مر رہے ہیں ہر گھڑی  
کیا کرو گے تم ہماری سستی کا انتظار

سر سے میرا وہن تک وہ یار مجھ میں ہر نہاں  
کیا کروں تعریف سن یار کی اور کیا بکھول  
اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا  
اس رخ روشن کی میری آنکھ بھی روشن ہوئی  
قوم کے لوگو! ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب

کیا تاڑے ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے

پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار

کیا ایسی بات ہے کافر کی کرا ہے د  
اہل تقویٰ تمہا کرم دیں بھی تمہاری آنکھ میں  
بے سداون میں نہ تھا تمہی نصرت حتیٰ سیرے ساتھ  
پر مجھے اس نے نہ دیکھا آنکھ اسکی بندھی  
نام بھی کتاب اس کا دفتر میں رہ گیا

وہ خدا جو چاہے تھا مومنوں کا دوستدار  
جس نے ناحق ظلم کی رو سے کیا تھا مجھ پر وار  
فتح کی دیتی تھی وحی حق بشارت بار بار  
پھر سزا پا کر لگا یا سب سے دونا بار وار  
اب مٹا سکتا نہیں نام تار و ز شمار

اسے مرے پیارے مرے محسن مرے پروردگار  
 وہ زباں لائوں کہاں جس سے ہو یہ کاروبار  
 کر دیا دشمن کو اک عمل سے مغلوب اور خواہ  
 مجھ سے کیا بکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار  
 کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلعتِ قرب و جوار  
 ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار  
 دہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار  
 پر نہ چھوڑا ساتھ تو نے اسے میرے عا برار  
 بس ہے تو میرے لئے بھگت نہیں تجھ بن بکار  
 پھر خدا جانے کہاں یہ صینکائی جاتی خبار  
 میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار  
 گو میں تیری راہ میں مثل طفل شیر خوار  
 تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یاد غمگسار  
 میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا مدگ میں بار  
 جس کا شکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار  
 چاند اور سورج مجھے میرے لئے تار یک و تار  
 تادہ پورے ہوں نشانی جو میں سچائی کا مدار  
 ساری تدبیروں کا خاکہ اڑ گیا مثل خبار  
 جیسے برق کا اک دم میں ہر جا اقشار

انے خدا اسے کار ساز و عیب پوش و کردگار  
 کس طرح تیرا کروں اسے ذوالظن شکر و سپاس  
 بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ  
 کام جو کرتے میں تیری وہ میں پاتے میں جزا  
 تیرے کاموں مجھے حیرت لگائے میرے کریم  
 کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں  
 یہ سر اسر فضل و احسان، کہ میں آیا پسند  
 دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب نہیں بھنے  
 اے مرے یار یگانہ اے مرے جاں کی پند  
 میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف  
 اے خدا ہو تیری راہ میں میرا جسم جان و دل  
 ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے  
 نسل انسان میں نہیں دیکھی ذرا جو تجھ میں ہے  
 لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول  
 اس قدر مجھ پر ہو میں تیری عنایات و کرم  
 آنکھ میرے لئے تو نے بنایا اک گواہ  
 تو نے طاعون کو بھی بھیجا میری نصرت کیلئے  
 ہو گئے بیکار سب جیلے جب آئی وہ بلا  
 سر زمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی

خیال کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ امر لا یمسئہ الا المظہرون پر موقوف ہے۔ پھر میں ان کا حکم ہونا کس وجہ سے منظور کروں۔ ہاں اگر چند منتخب مولوی ان میں سے بطور طالب حق قادیان میں آجاویں تو میں زبانی انکو تبلیغ کر سکتا ہوں۔ ورنہ خدا کا کام چل رہا ہے کہ فی مخالف اسکو روک نہیں سکتا۔ مخالف سے فتویٰ لینا کیا معنی رکھتا ہے۔ ہاں البتہ ہم حافظ صاحب کے اس اشتہار سے ندوہ کیلئے ایک موقع تبلیغ کا نکالتے ہیں۔ حافظ صاحب یاد رکھیں کہ جو کچھ رسالہ قطع المؤمنین میں جھوٹے دعویٰ نبوت کی نسبت بے سرو پا حکایتیں لکھی گئی ہیں وہ حکایتیں اسوقت تک ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ مفسری لوگوں نے اپنے اس دعویٰ پر اصرار کیا اور توبہ نہ کی۔ اور یہ اصرار کیونکر ثابت ہو سکتا ہے جب تک اسی زمانہ کی کسی تخریب کے ذریعے سے یہ امر ثابت نہ ہو کہ وہ لوگ اسی افتراء اور جھوٹے دعویٰ نبوت پر مرے اور ان کا کسی اسوقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑھا، اور نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کئے گئے۔ اور ایسا ہی یہ حکایتیں ہرگز ثابت نہیں ہو سکتیں جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ انکی تمام عمر کے مفریات جنکو انہوں نے بطور افتراء خدا کا کلام قرار دیا تھا وہ اب کہاں ہیں اور ایسی کتاب انکی وحی کی کس کس پاس ہے تا اس کتاب کو دیکھا جائے کہ کیا کبھی انہوں نے کسی قطعی یقینی وحی کا دعویٰ کیا اور اس بنا پر اپنے تئیں ظلی طور پر یا اصلی طور پر نبی اشد ٹھہرایا ہے اور اپنی وحی کو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی وحی کے مقابل پر منجانب اشد ہونے میں برابر سمجھا ہے تا تقول کے معنی اسپر صادق آویں۔ حافظ صاحب کو معلوم نہیں کہ تقول کا حکم قطع اور یقین کے متعلق ہے۔ پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے اور میں خدا کا ظلی اور بروزی طور پر نبی ہوں اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور مسیح کو خود ماننا واجب ہے۔ اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہو مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور مجھے مسیح موعود ماننا ہے اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے ماننا ہے وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے کیونکہ جس امر کو اُس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا اُس کو رد کر دیا میں صرف

یادِ بیضا کہ با او تابدہ	یا ز با ذو الفقار سے یتیم
--------------------------	---------------------------

یعنی اُس کا وہ روشن ہاتھ جو انعام کے محبت کی رُو سے تلوار کی طرح چمکتا ہے پھر میں اُس کو ذو الفقار کے ساتھ دیکھتا ہوں یعنی ایک زمانہ ذو الفقار کا تو وہ گزر گیا کہ جب ذو الفقار علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھی مگر خدا تعالیٰ پھر ذو الفقار اُس امام کو دے دے گا۔ اس طرح پر کہ اُسکا چمکنے والا ہاتھ وہ کام کریگا جو پہلے زمانہ میں ذو الفقار کرتی تھی سو وہ ہاتھ ایسا ہوگا کہ گویا وہ ذو الفقار علی کرم اللہ وجہہ ہے جو پھر ظاہر ہوگی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امام سلطان القلم ہوگا اور اُسکی قلم ذو الفقار کا کام دیگی۔ یہ پیشگوئی بعینہ اس عاجز کے اُس الہام کا ترجمہ ہے جو اس وقت سے دس برس پہلے براہین احمدیہ میں چھپ چکا ہے اور وہ یہ ہے کتاب الولی ذو الفقار علی۔ یعنی کتاب اس ولی کی ذو الفقار علی کی ہے یہ اس عاجز کی طرف اشارہ ہے۔ اسی بنا پر بارہا اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے چنانچہ براہین احمدیہ کے بعض دیگر مقامات میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

عازی دوستِ دشمن کش	بخدم و یارِ غار سے یتیم
--------------------	-------------------------

وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک غازی ہے دوستوں کو بچانے والا اور دشمنوں کو مارنے والا۔

صورتِ سیرتِ حسن جو بیغمبر	علم و علمش شعار سے یتیم
---------------------------	-------------------------

یعنی ظاہر و باطن اپنا نبی کی مانند رکھتا ہے اور شانِ نبوت اُس میں نمایاں ہے اور علم اور حلم اُسکا شعار ہے مراد یہ کہ بیاعتنا اپنی اتباع نبی کریم کے گویا وہی صورت اور وہی سیرت اُسکو حاصل ہوگی ہے یہ اُس الہام کے مطابق ہے جو اس عاجز کے پاس میں براہین میں چھپ

کا نزول ہے وہ دمشق میں واقع ہے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منارہ سے اُس مسجد اقصیٰ کا منارہ مروا لیا ہے جو دمشق سے شرقی طرف واقع ہے یعنی مسیح موعود کی مسجد جو حال میں وسیع کی گئی ہے اور عمارت بھی زیادہ کی گئی۔ اور یہ مسجد فی الحقیقت دمشق سے شرقی طرف واقع ہے۔ اور یہ مسجد صرف اس غرض سے وسیع کی گئی اور بنالی گئی ہے کہ تا دمشق مفسد کی اصلاح کرے اور یہ منارہ وہ منارہ ہے جس کی ضرورت احادیث نبویہ میں تسلیم کی گئی۔ اور اس منارہ المسیح کا خرچ دس ہزار روپیہ سے کم نہیں ہے۔ اب جو دوست اس منارہ کی تعمیر کے لیے مدد کریں گے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت کو انجام دیں گے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ ایسے موقع پر خرچ کرنا برگزیدہ ہرگز ان کے منتہا کا باعث نہیں ہوگا۔ وہ خدا کو قرض دیں گے اور معہ سود واپس میں گے۔ کاش ان کے دل سمجھیں کہ اس کام کی خدا کے نزدیک کس قدر عظمت ہے جس نے منارہ کا حکم دیا ہے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی مردہ حالت میں اسی جگہ سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہوگا مگر یہ فتح ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو انسان بناتے ہیں بلکہ آسمانی حربہ کے ساتھ ہے جس حربہ سے فرشتے کامیاب ہیں۔ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سواب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کی ایک راہ نہیں۔ پس جس راہ پر نادان لوگ اعتراض کر چکے ہیں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مسلمات نہیں پاتا جی کہ اسی راہ کو پھر اختیار کیا جائے اس کی ایسی ہی شان ہے کہ جیسے جن نشانوں کی پہلے تکذیب ہو چکی وہ ہمارے سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دینے گئے۔ لہذا مسیح موعود اپنی فوج کو اس ممنوع مقام سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا ہے۔ جو بدی کا بدی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے تئیں شریک کے تملہ سے بچاؤ مگر خود شریک نہ مقابلہ مت کرنا۔ جو شخص ایک

<p>ولو فی سبیل اللہ ندحی وننحر          لہ لکھ خدا کی راہ میں ہم بھڑوچ ہو جائیں یا بڑھکے جائیں          اذا اعثروا من موت عیسیٰ واعجروا          جب ان کو حضرت عیسیٰ کے مرنے کا خبر دی گئی          وحثوا علی قتل عواما و عیروا          اور میرے قتل کیلئے عوام کو اٹھایا اور مسزوش کی          ولولا ید المولیٰ لکتا نسیر          اور اگر خدا تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے          ثم من عنایات القدیر فادبروا          خدا کی مہربانیوں کی آفتاب کے اوندھے پیٹھے پھیر کر جاکر          ففوی لامر حیت لا یباریہ منکر          اس حدیث سے فیصلہ کر دیا جس کا کوئی شکر قابل نہیں کہتا          و امری مبین واضم لو تفکروا          اور میری بات روشن اور واضح ہے اگر وہ سوچیں          ربحکم قلیل ثم باللغو یکتسبون          تمہارا فائدہ چھوٹا ہے مگر بے لگائی سے تم لوگ کھاتے</p>	<p>وکتنا علی الاعقاب موت یردنا          اور ہم ایسے پھیریں کہ کوئی موت ہمیں آگے نہ لے سکے          تنکر وجہ الجاہلین تخیظنا          جاہلین کا منہ بگڑ گیا مارے غفہ کے          وقالوا کذب کافر یتبع الہوی          اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا کافر ہے جو اپنے منہ کی پیروی کرتا ہے          فضاقت علینا الارض من شر حزمہم          میں انکے گویہ کی شرارت سے زمین پر ترس کر ہو گئی          فلم یغن عنہم مکرم عین اشرقت          پر ان کے کرنے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا جبکہ          رجعتنا وقد ردت الیہم ما حرم          ہم واپس آئے اور انکے نیرے انہیں کی طرف میں کے گئے          من المغنر والشحناء یہذون کلہم          کیسے اور دشمنی سے تمام وہ بکواس کر رہے ہیں          واصل التنازع والتخالف بیننا          اور ہم میں اور ان میں جو اختلاف ہے وہ اصل وہ</p>
--	---

اصل التنازع فی عیسیٰ علیہ السلام اعنی فی اللہ جل ہو حی او میت فذک امر واضح لتوفیکر  
 قال اللہ تع یا عیسیٰ انی متوفیک و اذک الی فقدم التوفی علی الرفع کما انتم تقرؤن فہذا  
 حکم اللہ - و من لم یحکم بما انزل اللہ فلا تکتب علیہ من الکافرین - ولا یغنی الحدیث ان یحرف  
 کلم اللہ عن مواضعہا ولقد لعن اللہ المخرین کما انتم تعلمون - ثم الشاہد الثالث قولہ تعالیٰ  
 فلما توفیتنی فطوبی للمقوم یتدبرون - ثم الشاہد الثالث من القران قولہ تعالیٰ وما محمد  
 الا رسول قد خلت من قبلہ الکرسل فی ائی حدیث بعدا تو مومنون - ولقد رانی عیسیٰ نبینا  
 علی اللہ علیہ وسلم لیلة المعراج فی الاموات ثم انتم تکفرون - منہ

لہ ال عمران ۶۱ ۶۲ لہ ال عمران ۱۳۵

برائین احمدیہ حصہ پنجم (ضمیمہ) صفحہ 153 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 321 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 238 پر درج ہے

چنگا بھلا پھرتا تھا۔ لیکن آسمان پر اس کے لیے ہلاکت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس واسطے یہ بات ایسے طور پر بیان کی گئی کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ پہلے ایک معاملہ آسمان پر ہوا تھا ہے اور پھر زمین پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہمارا امام حضرت الہدیٰ یار دالا تھا۔ منیٰ میں مسلمانوں کے گھر۔ اگرچہ گیارہ ماہ پہلے یہ زلزلہ کی پیشگوئی تھی؛ تاہم چونکہ آسمان پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ زلزلہ منور آئے گا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکانات ماریں اور مستقل سب گر گئے اور نشان بھٹ گئے۔ جو لوگ مشلہ میں انہما کے باہر نکلے بغیر وہ اعتراض کر سکتے ہیں وہ اس مادہ سے ناراض اور جاہل ہیں اور ایمان بوجھ کر تعصب کے ساتھ بند کر سکتے ہیں اور نہ یہ مادہ سب زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ آخر کچھ متعلق جب ہم نے پیشگوئی کی تھی تو اس منہ ہی مجلس میں کہا تھا کہ میں تو مر گیا۔ باوجود یسائی ہونے کے وہ ادب کا بہت ہی لحاظ رکھتا تھا اور یہی سبب تھا کہ وہ ڈر تار ڈر سینا دے کے اندر مرتے سے بچ گیا۔ اب لوہب کے متعلق مسلمان پیشگوئی تھی کہ میں کی گئی تھی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ وہ جنگ بدر کے بعد طاعون سے مر گیا تھا۔

سریلا

روح و دیمان سے مراد ہر قسم کی آسائش اور آسودگی ہوتی ہے۔

## مبارک منہ کے مبارک الفاظ معنا

(مرکز شیخ عبدالرحیم صاحب)

وقت آئے آپ باہر تشریف لائے۔ شیخ رحمت اللہ صاحب ڈوڈا اور مولوی صاحبان اور دیگر احباب

مصلح موجود تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں آپ نے فرمایا کہ:

ہم خدا کے مرسلین اور انبیاء ہیں۔ ہمیں بزدلی نہیں ہو کر سکتے بلکہ سچے سچے سوسن بھی بزدلی نہیں ہوتے۔ بزدلی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پر مہیبتوں سے بار بار حملے کیے گئے۔ انہوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ خدا تعالیٰ ان کی نسبت فرماتا ہے: **مَنْ مِّنْكُمْ فَتَمَنَّى تَحِبُّهُ فَمِثْلُ مَثَلِهِ**۔ (مترجم)۔ یعنی جس ایمان پر انہوں نے کھربہمتی بائیدگی تھی اس کو بعض نے تو نبھا دیا اور بعض منتظر ہیں کہ کب موقع ملے اور

سے بعد جلد نمبر ۱۸ صفحہ ۲۵ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۵۵ء - (بجز معلوم ہوتا ہے یہ پرچہ ۲۸ مئی کے بعد شائع ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ۲۸ مئی کی ڈائری اس میں بھیجی ہے۔ (مترجم)

۲۸ مئی ڈائری پر تاریخ نہیں لکھی۔ لہذا تا ۲۸ مئی ۱۹۵۵ء کی معلوم ہوتی ہے۔ ان دنوں میں شیخ رحمت اللہ صاحب قادیان میں موجود تھے۔ (مترجم)

لک درجۃ فی السماء و فی الذین ہم یبصرون و لک

تیرا آسمان پر ایک درجہ اور مرتبہ ہے اور نیز ان لوگوں کی نگہ میں جو دیکھتے ہیں۔ اور تیرے لئے

نزی آیات و نہدم ما یعمرون۔ الحمد لله الذی

ہم نشان دکھائیں گے اور جو عمارتیں بناتے ہیں ہم ڈھلاینگے۔ اُس خدا کی تعریف ہے جس نے تجھے

جعلک المسیح ابن مریم لا یسئل عما یفعل و ہم

مسیح ابن مریم بنایا۔ وہ ان کاموں سے پوچھا نہیں جاتا جو کرتا ہے۔ اور لوگ اپنے کاموں سے

یسئلون و قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا

پوچھے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو غلیفہ بناتا ہے جو زمین پر فساد کرتا ہے۔

قال انی اعلم ما لا تعلمون انی مہین من اراد

اُس نے کہا کہ اسی نسبت جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں اُس شخص کی اہانت کرونگا جو تیری

اہانتک۔ انی لا یخاف لذی المرسلون کتب اللہ

اہانت کا ارادہ کرونگا۔ میرے قرب میں میرے رسول کسی دشمن سے نہیں ڈرا کرتے۔ خدا نے کہہ چھوڑا ہے کہ

چوہ خدا تعالیٰ کا پاک کلام جو میری کتاب براہین احمدیہ کے بعض مقامات میں لکھا گیا ہے اس میں خدا تعالیٰ نے تصریح ذکر

کر دیا ہے کہ کس طرح اُس نے مجھے عیسیٰ بن مریم ٹھہرایا۔ اس کتاب میں پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور بعد اسکے ظاہر کیا

کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی اور پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل

ہو گیا اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا۔ پھر دوسرے مقام میں اسی مرتبہ کے متعلق فرمایا

فاجاءہ المخاصن الی جذع النخلۃ قال یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا متستی۔

اس جگہ خدا تعالیٰ ایک استعارہ کے رنگ میں فرماتا ہے کہ جب اس مامور میں مریمی مرتبہ سے عیسوی مرتبہ کا تولد

ہوا اور اس لحاظ سے یہ مامور ابن مریم بننے لگا تو تبلیغ کی ضرورت جو درود زہ سے مشابہت رکھتی ہے اس کو

امت کی خشک جڑ کے سامنے لانی جن میں فہم اور تقویٰ کا پھل نہیں تھا اور وہ طیار تھے کہ ایسا دعویٰ

سُن کر افترا کی تہمتیں لگا دیں اور دُکھ دیں اور طرح طرح کی باتیں اُس کے حق میں کریں تب اُس نے اپنے

دل میں کہا کہ کاش میں پہلے اس سے مر جاتا اور ایسا بھولا بسرا ہو جاتا کہ کوئی میرے نام سے واقف نہ ہوتا۔ ہن



برائے میر حسن

۱۳۱

کیا رہا وہ بے خبر اور تم نے دیکھا اعلیٰ زار  
 نہ تھے میری صداقت پر برا میں ہیشمار  
 جب اکٹھے ہیں تو پھر ہمیں اڑے جیسے غبار  
 بدگمانی زہر ہے اس سے بچو لے دیں شعار  
 جن کی عادت میں نہیں شرم و شکیب و احتیاب  
 پر مقدمہ کو بدل دینا ہے کس کے اختیار  
 دل تو میرے گھر میں ہم سعدوں کی ہے ہم کو سہار  
 ہاتھ تھیوں پر نہ ڈال سے رو بہ زار و نزار  
 پس نہ بیٹھو میری رہ میں اسے شریان دیا  
 تاہم ہوں کون پاک اور کون ہے مرد اور خواہ  
 تیغ کو کھینچے ہوئے اُسپر کہ جو کرتا ہے وار  
 ہوش ہو جائیں خطا اور شمول جانے سب تقار  
 پھر شرم و نفیس ظالم کو کہاں جانے نزار  
 خدیجی کادم بھرتی ہے یہ یاد بہار  
 ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا آثار  
 بعض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگہ زندہ وار  
 پھر ہوئے میں عظیمہ تو حید پر از جاں نثار  
 آئی ہے یاد صبا گلزار سے مستانہ دار  
 گو کہ دیوانہ تیں کرتا ہوں اُس کا انتظار

کیا خدا بھولا رہا تم کو حقیقت بل گئی  
 بدگمانی نے تمہیں مجنون و اندھا کر دیا  
 جہل کی تاریکیوں اور سو وطن کی تند ہلو  
 زہر کے پینے سے کیا انجام جز موت و فنا  
 کتنے اپنی راہ میں بوٹے ہیں ایسے بدگمان  
 یہ غلط کاری بشر کی بد نصیبی کی ہے جڑ  
 سخت جان میں ہم کسی کے بغض کی پروا نہیں  
 جو خدا کا ہے اُسے ٹکارنا اچھا نہیں  
 ہے میرا پر سے وہ خود کھڑا مولیٰ کریم  
 سنت اللہ ہے کہ وہ خود فرق کو دکھاتا ہے  
 مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے اک میرا معین  
 دشمن غافل اگر دیکھے وہ بازو وہ سلاح  
 ہیں جہاں کا کیا کوئی دلور نہیں اور داد گر  
 کیوں عیب کرتے ہو گھر میں آگیا ہو کر سیخ  
 آسمان پر دعوت حق کے لئے اک جوش ہے  
 آرہا ہے اس طرف احوار یورپ کا مزاج  
 کہتے ہیں تیلیٹ کو اب اہل دانش الوداع  
 بارخ میں ملت کسے ہے کوئی گل رعنا کھلا  
 تہی ہے لب تو خوشبو میرے دوست کی مجھے

یہ حوالہ صفحہ 238 پر درج ہے

برائے احمد یہ حصہ پنجم صفحہ 101 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 131، از مرزا قادیانی

۱۰۹

لَوْ جَدْتُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا - قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِنْ اللَّهِ  
 تو اس میں بہت اختلاف تم دیکھتے۔ اُن کو کہہ کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے  
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ - يَأْتِي قَمَرًا لِنَبِيَاءٍ - وَأَمْرًا يُتَالَى  
 پس کیا تم ایمان لاؤ گے یا نہیں۔ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا  
 وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ - يَهُونُ جِبَالٌ آيَا أَوْرَشَلِيمَ  
 اور آج اے مجرمو! تم الگ ہو جاؤ۔ بڑی شدت سے زلزلہ آئے گا اور  
 زَمِينَ تَرَوْهَا بِالْأَرْضِ - هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ -  
 اُپر کی زمین نیچے کر دے گا۔ یہ وہی وعدہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔  
 إِنِّي أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ - سَفِينَةٍ وَسَكِينَةٍ - إِنِّي مَعَكُمْ  
 میں ہر ایک کو جو اس گھر میں ہو اس زلزلہ سے بچاؤں گا۔ کشتی ہے اور آرام ہے میں تیرے ساتھ  
 وَمَعَ أَهْلِكَ - أَرِيدُ مَا تَرِيدُونَ - يَهْلِكُ بَنُكَالُهُ كِى نَسَبِ تِجْوَجِ  
 اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں۔ میں وہی راہ دکھاتا ہوں جو تمہارا ارادہ ہے۔ بنگالہ کی نسبت پیشگوئی ہے جو تیسرے بنگالہ سے اہل بنگالہ  
 حُكْمٌ جَارِيٌّ كَيْفَ كَانَتْهَا - أَبْأَنْ كِي دَجْوَانِي هُوَ كِي -  
 کا نفاذ جاری کیسے فرماتا ہو کہ پھر وہ دیکھو کہ پھر کسی بیابان میں اہل بنگالہ کی دجوانی کی جائے گی۔

۱۰۹۔ اس بارہ میں خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے جیسے کہ یسعیاہ نبی کے زمانہ میں ہے کہ اس نبی کی پیشگوئی کے  
 مطابق پہلے ایک عورت مسات علیہ کو لڑکا پیدا ہوا۔ پھر بعد اس کے حزقیاہ بادشاہ نے نقد پر فتح پائی۔ اسی طرح اس  
 زلزلہ سے پہلے پیر منظور محمد لد ہادی کی بیوی کو جس کا نام محمدی بیگم ہے لڑکا پیدا ہو گا اور وہ لڑکا اس بڑے زلزلہ  
 کے لئے نشانی ہو گا جو قیامت کا نمونہ ہو گا۔ مگر ضروری ہے کہ اس سے پہلے اندر زلزلے بھی آویں۔ اس لڑکے کے  
 مفصلہ ذیل نام ہونگے۔ بشیر الدولہ کیونکہ وہ ہماری فتح کیلئے نشان ہو گا۔ کلمہ اللہ تعالیٰ یعنی خدا کا کلمہ۔ عالم کیاب۔  
 ورد۔ شاد بنگال۔ کلمہ العزیز وغیرہ کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہو گا جس سے حق کا غلبہ ہو گا۔ تمام دنیا خدا کے ہی کلمے میں  
 اس لئے اس کا نام کلمہ اللہ رکھنا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ وہ لڑکا اب کی دفعہ پیدا نہیں ہوا کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔  
 أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَى وَقْتٍ مَعِي يَوْمَ تَزُلْزَلُ السَّمَاوَاتُ وَتَكُونُ سَمَانًا وَتَكُونُ الْأَرْضُ مَدِينًا وَتَكُونُ  
 اُخر وہ اللہ ہی وقت میں میرے ساتھ ہے وہ زلزلہ آئے گا جس کیلئے وہ لڑکا نشان ہو گا تم نے اس کا ایک اور وقت پڑا دیا۔

۱۰۹ یسعیاہ باب ۷ (ناشر)

۱۰۹

یہ حوالہ صفحہ 239 پر درج ہے

حقیقت الوحی صفحہ 109 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 109 از مرزا قادیانی

وَقَدْ أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْفَاتِحَةِ مَرَّةً أُخْرَى - وَتَقْرَأُونَ

وہ سورۃ فاتحہ بار دوم سونے میں دودھ اشارت کردہ شدہ۔ وہیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ میں دوسری بار اس دودھ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ آیت سورۃ فاتحہ

فِي الصَّلَاةِ صَوَّاهُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَسْتَقْرِبُونَ

یعنی صواہ الذین انعمت علیہم در نماز ہائے خود سے خوانید باز جیلہ جوئی را  
یعنی صواہ الذین انعمت علیہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہو۔ پھر جیلہ و بیاز

سُبُلَ الْإِنْكَارِ وَتَسِيرُونَ النُّجُومِ - مَا لَكُمْ تَدْوَسُونَ

انتقاری کنید در سبیلے دفع و دفع حجت الہی مشورہ سے کنید چہ شد شمارا کہ  
انتقاری کرتے ہو اور حجت الہی کے دفع و دفع کیلئے مشورہ کرتے ہو نہیں کیا ہو گیا کہ

قَوْلِ اللَّهِ تَحْتِ الْأَقْدَامِ الْآتَمُونَ أَوْ تَتْرَكُونَ

قول خدا تعالیٰ را زیر قدمہائے خود پا مال سے کنید آیا خواہید مرد یا ایسا کس شمارا خواہید  
خدا تعالیٰ کے فرمودہ کو اپنے پیروں میں روندتے ہو کیا ایک دن تم نہیں موندتے یا کوئی تم کو نہیں پوچھتا

سَدَى - وَتَذَكَّرُونَ نَبِيَّ كَمَا يَذْكُرُ الْكَفَّارُ وَتَقُولُونَ

و ذکر من  
اور میرا ذکر  
بجو ذکر کافران سے کنید  
کافروں کے ذکر کی طرح کرتے ہو  
دے گوئید کہ  
اور کہتے ہو کہ

أَقْتُلُوهُ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ وَتَكْتَبُونَ الْفِتْنَى - وَمَا

اگر تو انداد را قتل کنید  
اگر ہو سکتے تو قتل کر دیا جائے  
و ہمیں فتنوں سے نویسید  
اور اسی طرح فتنے لکھتے ہو

كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِنَّ مَعِيَ

ہم نفس نے میری مر بلاذن الہی  
کوئی نفس  
بجز بلاذن الہی نہیں مرتا  
اور میرے ساتھ تو  
و با من

خطبہ الہامیہ

۱۱۱

حَفَظَةٌ يَحْفَظُونَنِي مِنَ الْعَدَاءِ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ

پاسبانان کو ہستند کئے دشمنان حفاظت میں سے کہند ہیں ہر کر کہ وارید جمع کنسید  
خدا تعالیٰ کے پاسبان ہیں کہ وہ میری میرے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تم ہر ایک تدبیر جمع کر لا لو

ثُمَّ انظُرُوا هَلْ يَسْقُطُ الْكَيْدُ إِلَّا عَلَى مَنْ جَعَلَهُ

باز بینسید کہ آں کر بر کہ افتد آیا ہر جفاکار یا ہر دیگرے  
پہر دیکھو کہ ہر کسی کی تدبیر اسی پر لوٹ کر پڑے گی کہ جو نہاں ہے۔

وَعَسَى أَنْ تَحْسَبُوا رَجُلًا كَاذِبًا وَهُوَ صَادِقٌ

د ممکن امت کہ ثنا کے را وہ د غلو غیل کنسید و او وہ دعوی خود صادق باشد  
اور ممکن ہے کہ تم کسی کو وہ د غلو غیل کرو اور وہ اپنے دعویٰ میں صادق نکلے

فِيمَا ادَّعَى - فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ وَمَنْ تَرَكَ

پس از حق بکلی دور نشوید و ہر کہ تقویٰ را  
پس حق سے ہر میل دور نہ ہو جاؤ جس نے تقویٰ کو

التَّقْوَى فَقَدْ هَوَى - أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ عِنْدِ

ترک کرد ہیں بھلاؤ آیا نے بینسید کہ اگر من از طرف  
ترک کیا وہ بگیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر میں خدا کی طرف سے

اللَّهِ وَقَدْ كَذَبْتُمْ فَمَا بَالُ مَنْ اعْتَدَى - وَ

خدا تعالیٰ ہستم و ثنا تکذیب میں کردہ آید ہیں حال آنکہ یہ خواہر شد کہ از حد تجاوز کرد  
ہوں اور تم مجھے جھٹلاتے ہو پس اس شخص کا کیا حال ہو گا جو حد سے بڑھ گیا

أَنْتُمْ تَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ عَبْدُ اللَّهِ عِيسَى -

و ثنا را طوش نے آید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہوند  
تم کو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں۔

ہے اور ان دنوں میں کسی ضلع کے بند و بست میں مشغول ہوا اور بعد اسکے میرے پر کھولا گیا کہ یہ الہام میرے بھائی کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ میرا بھائی دو تین دن کے بعد ایک ناگہانی طور پر فوت ہو گیا اور میرے اُس لڑکے کو اُسکی موت کا صدر بہ پہنچا اور اس بیچ میں اگر شرمیت مذکور ہو سخت متعصب آریہ ہو گیا اور بن گیا۔ اگر کہو کہ خدا کے الہام کے اسی وقت کیوں معنی نہ کھولے گئے تو میں اسکے جواب میں کہتا ہوں کہ مقطعات قرآنی کے اب تک معنی نہیں کھولے گئے۔ کون جانتا ہے کہ خطہ کیا چیز ہے اور کیا چیز ہے اور کھینچو کیا چیز ہے۔ اور آیت سیہزم الجمع کی نسبت حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک مجھے اسکے معنی معلوم نہیں اور نیز آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک خوشہ ہشتی انگور کا دیا گیا کہ یہ ابوہریرہ کیلئے ہے اور میں اسکی تاویل سمجھ نہ سکا جب تک کہ عکرماس کا بیٹا مسلمان ہوا۔ اور مجھے ہجرت کی زمین بتلائی گئی اور میں نہ سمجھ نہ سکا کہ وہ دینہ ہے۔ غرض ایسے اعتراض بوجہ بے خبری سنت اللہ کے دلائل میں پیدا ہوتے ہیں۔

۶۲۔ باسٹھواں نشان قنصل رومی کی تباہی کی نسبت پیشگوئی جو اسکا مفصل حال میری کتابوں میں مذکور ہے۔

۶۳۔ تریسٹھواں نشان۔ براہین احمدیہ میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی یہ پیشگوئی ہے کہ قتل وغیرہ منصوبوں سے میں بچا یا جاؤں گا۔ چنانچہ آج تک باوجود متعدد حملوں کے خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے شر سے مجھے بچایا۔

۶۴۔ چھٹواں نشان۔ براہین احمدیہ میں یہ پیشگوئی ہے کہ جس قدم میرے پر مقدمات کئے جائیں گے مجھے فتح ہوگی۔ چنانچہ ہر ایک مقدمہ میں مجھے فتح ہوتی رہی۔

۶۵۔ پینسٹھواں نشان۔ براہین احمدیہ میں یہ پیشگوئی ہے کہ اس قدر لوگ میرے پاس آئیں گے کہ قریب ہو گا کہ میں انکی کثرت ملاقات سے تھک جاؤں۔ چنانچہ کئی لاکھ آدمی میرے پاس آیا۔

۶۶۔ چھاسٹھواں نشان۔ براہین احمدیہ میں اصحاب الصفا کی نسبت پیشگوئی ہے چنانچہ کئی مخلص لوگ اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے میرے مکان کے بعض حصوں میں مع عیال مقیم ہیں جن میں سے سب سے

بڑھ کر یہ کہ آپ کو سہانج بہت پر ایک مقناطیسی جذب دیا گیا تھا۔ جس سے سعید رہیں خود بخود آپ کی طرف کبھی چلی آتی تھیں اور خدا کی طرف سے آپ کو ایک رعب عطا ہوا تھا جس کے سامنے دلیر سے دلیر دشمن بھی کانپنے لگ جاتا تھا اور آپ ایک معجزنا حسن جاسط سے آراستہ کئے گئے تھے۔ اور ہر قدم پر فدائی نصرت و تائید آپ کے ساتھ تھی ورنہ آپ سے زیادہ عالم و منطقی دنیا میں پیدا ہوتے اور صاحب کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے چوہدری حاکم علی صاحب نے کہ جب مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین مسجد مبارک کلارہ راستہ دیوار کھینچ کر بند کرنے لگے۔ تو حضرت صاحب نے چند آدمیوں کو جن میں میں بھی تھا فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور بڑی نرمی سے سمجھاؤ کہ یہ راستہ بند نہ کریں اس کو سیری بہانوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ اور اگر چاہیں تو سیری کوئی اور جگہ دیکھ کر بے شک قبضہ کر لیں۔ اور حضرت صاحب نے تاکید کی کہ کوئی سخت لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ چوہدری صاحب کہتے ہیں ہم گئے تو آگے دو نو مرزوں مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ اور حقے کا فود چلی رہا تھا۔ ہم نے جا کر حضرت صاحب کا پیغام دیا اور بڑی نرمی سے بات شروع کی لیکن مرزا امام دین نے سُننے ہی غصہ سے کہا وہ (یعنی حضرت صاحب) خود کیوں نہیں آیا اور میں تم لوگوں کو کیا جانتا ہوں۔ پھر طعن سے کہا کہ جب سے آسمانوں سے وحی آئی شروع ہوئی ہے اس وقت سے اسے خبر نہیں کیا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چوہدری صاحب کہتے ہیں ہم لوگ اپنا ساتھ لیکر واپس آگئے پھر حضرت صاحب نے ہمارے ساتھ اور بعض بہانوں کو ملا دیا اور کہا کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر ساری حالت بیان کرو اور کہو کہ ہم لوگ دور دراز سے دین کی خاطر یہاں آتے ہیں اور یہ ایک ایسا فعل کیا جا رہا ہے۔ جس سے ہم کو بہت تکلیف ہوگی کیونکہ مسجد کا راستہ بند ہو جائیگا۔ ان دونوں میں قادیان کے قریب ایک گاؤں میں کوئی سخت واردات ہو گئی تھی اور ڈپٹی کمشنر اور کپتان پولیس سب وہاں آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں گئے اور فوراً ڈپٹی کمشنر کے ٹھہر کر آگے بڑھے ڈپٹی کمشنر اس وقت باہر میدان میں کپتان کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ ہم میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ ہم قادیان سے آئے ہیں اور اپنا

(۱۳۵)

ایک معمولی بات ہے کمال میں داخل نہیں۔ کمال انسانیت یہ ہے کہ ہم حتی الوسع گالیوں کے مقابل پر اعراض اور درگزر کی خواہش اختیار کریں۔

یہ بھی تو سوچو کہ پادری صاحبوں کا مذہب ایک شاہی مذہب ہے۔ لہذا ہمارے ادب کو یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مذہبی آزادی کو ایک طفیلی آزادی تصور کریں۔ اور اس طرح پر ایک حد تک پادری صاحبوں کے احسان کے بھی قائل رہیں۔ گورنمنٹ اگر انکو باز پرس کے توہم کس قدر باز پرس کے لائق ٹھہریں گے۔ اگر سبز درخت کاٹے جائیں تو پھر خشک کی کیا بنیاد ہے۔ کیا ایسی صورت میں ہمارے ہاتھ میں قلم رہ سکے گی؟ سو ہوشیار ہو کر طفیلی آزادی کو غنیمت سمجھو۔ اور اس محسن گورنمنٹ کو دعائیں دو جس نے تمام رعایا کو ایک ہی نظر سے دیکھا۔ یہ بالکل نامناسب اور سخت نامناسب ہے کہ پادریوں کی نسبت گورنمنٹ میں شکایت کریں۔ ہاں جو شبہات اور اعتراض اٹھائے گئے اور جو بہتان شائع کئے گئے انکو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے۔ اور وہ بھی نرمی سے اور حق اور حکمت کے مساوی ہو کر دنیا کو فائدہ پہنچانا چاہیے اور ہزاروں دلوں کو شبہات کے زندان سے نجات بخشنا چاہیے۔ یہی کام ہے جس کی اب ہمیں اشد ضرورت ہے۔ یہ سچ ہے کہ مسلمانوں نے تائید اسلام کے دعوے پر جا بجا انجمنیں قائم کر رکھی ہیں۔ لاہور میں بھی تین انجمنیں ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ باوجود عیسائیوں کی طرف سے دس کروڑ کے قریب مخالفانہ کتابیں اور رسائل نکل چکے ہیں اور تین ہزار کے قریب ایسے اعتراضات شائع ہو چکے جن کا جواب دینا مولویوں اور انجمنوں کا فرض تھا جنہوں نے ہر ایک رسالہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم مخالفوں کے سوالات کے جواب دینگے ان حلوں کا ان انجمنوں نے کیا بندوبست کیا اور کون کونسی مفید کتاب دنیا میں پھیلانی۔ ہم بقول ان کے کافر ہی و جہاں ہی سخت گوہی مگر ان لوگوں نے باوجود ہزار ہا روپیہ اسلام کا جمع کرنے کے اسلام کی حقیقی مدد کیا کی۔ علوم مروجہ کی تعلیم کا شاید بڑے سے بڑا نتیجہ یہ ہو گا کہ تاڑھے تعلیم پلکروٹی معقول نوکری پائیں۔ اور عیسائیوں کی پرورش کا نتیجہ بھی اس سے بڑھ کر

یہ حوالہ صفحہ 241 پر درج ہے

ابلاغ صفحہ 24 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 392 از مرزا قادیانی

أَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

میں اپنی عظیم فتح تجھ کو عطا کروں گا جو کھلی کھلی فتح ہوگی تاکہ تیرا خدا تیرے تمام گناہ بخش دے جو پہلے ہی

وَمَا تَأَخَّرَ ۖ إِنِّي أَنَا التَّوَّابُ ۖ مَنْ جَاءَكَ جَاءَنِي ۖ سَلَامٌ

اور پچھلے ہیں۔ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ جو شخص تیرے پاس آئے گا وہ گویا میرے پاس آئے گا۔ تم پر

عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَحَمْدُكَ وَنُصَلِّيُ صَلَاةَ الْعَرْشِ إِلَى الْمَرْشِيِّ ط

سلام تم پاک ہو۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ عرشِ سوزن کی تک تیرے پر درود ہے

نَزَلْتُ لَكَ وَذَلِكَ نَزِيَّ آيَاتِ ۖ الْأَمْرَاضِ تَشَاعُ ۖ وَالنَّفُوسُ

میں تیرے لئے اترا ہوں اور تیرے لئے اپنے نشان دکھاؤں گا۔ ملک میں بیماریاں پھیلیں گی۔ اور بہت جانیں

تَضَاعُ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

ضائع ہوگی۔ اور خدا ایسا نہیں ہے جو اپنی تقدیر کو بدل دے جو ایک قوم پر نازل کی جاتا ہے وہ قوم اپنے لوگوں کی عیادت

بِأَنْفُسِهِمْ ۖ إِنَّهُ أُوَّي الْقَرْيَةِ ۖ لَوْلَا الْأَكْرَامُ ۖ لَهْلَكَ الْمَقَامُ ط

کو بدل دیا جائے۔ وہ اس قاریان کو کسی قدر بلا کے بعد اپنی پیاروں میں لے گا۔ اگر تجھے تیری عزت کا پاس ہو تا تو اس تمام گاؤں کو غیر ہلاک کر دیتا

إِنِّي أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ ۖ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

میں ہر ایک کو جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہو پھاؤں گا۔ کوئی ان میں سے طاعون یا بھونچال کو نہیں مرے گا۔ خدا ایسا نہیں ہے

بچہ ظالم انسان کا قاعدہ ہے کہ وہ خدا کے رسولوں اور نبیوں پر ہزار ہا نکتہ چینیاں کرتا ہے اور طرح طرح کے عیب ان میں

دیکھتا ہے جو گویا دنیا کے تمام عیبوں اور خرابیوں اور جرائم اور معاصی اور نہایتوں کا وہی مجموعہ ہیں۔ اب ان دوسروں کا

کہاں تک جو اب دیا جائے جو نفس کی شہادت کے ساتھ مخلوق ہیں۔ اس لئے یہ سنت اللہ ہے کہ آخر ان تمام جھگڑوں کو

اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کوئی ایسا عظیم الشان نشان ظاہر کرتا ہے جس سے اس نیک بریت ظاہر ہوتی ہے۔

پس لیغفر لک اللہ کے یہی معنی ہیں۔ منہ

ۖ حاشیہ۔ اوی کا لفظ عرب کی زبان میں اس موقع پر استعمال پاتا ہے جبکہ کسی قدر تکلیف کے بعد کسی شخص کو

اپنی پناہ میں لیا جائے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے العرش مجدک یتیم افاوی۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے

أَوْ يَنْهَىٰ إِلَىٰ رِبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۖ منہ

لہ الفتح: ۳۰ ۖ النہی: ۷۰ ۖ المینون: ۵۱



زلزلہ آیا تھا۔ اور آپ باغ میں رہائش کے لیے چلے گئے تھے۔ مفتی محمد صادق صاحب کے لڑکے محمد منظور نے جو ان دنوں میں بالکل بچہ تھا۔ خواب میں دیکھا کہ بیت سے بکرے ذبح کئے جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے کئی بکرے منگوا کر صدقہ کر دے دیئے۔ اور حضرت صاحب کی اتباع میں آند اکثر لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میرا خیال ہے۔ اس وقت باغ میں ایک سو سے زیادہ بکرا ذبح ہوا ہو گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب ۱۰۵۰ھ کا زلزلہ آیا تو میں بچہ تھا۔ اور نواب محمد علی خان صاحب کے شہر والے مکان کے ساتھ طعن حضرت صاحب کے مکان کا جو حصہ ہے اس میں ہم دوسرے بچوں کے ساتھ چار پائیوں پر لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو ہم سب ڈر کر بے تماشاً اٹھے۔ اور ہم کو کچھ خبر نہیں تھی۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صحن میں آئے تو ادھر سے کنکر دڑے برس رہے تھے۔ ہم بھاگتے ہوئے بڑے مکان کی طرف آئے۔ وہاں حضرت سیح موعود اور والدہ صاحبہ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ہم نے جانتے ہی حضرت سیح موعود کو پکڑ لیا اور آپ سے لپٹ گئے۔ آپ اس وقت گھبراہٹ سے تھے اور بڑے صحن کی طرف جانا چاہتے تھے۔ مگر چاروں طرف نیکے چٹے ہوئے تھے اور والدہ صاحبہ بھی کوئی ادھر کھینچتا تھا۔ تو کوئی ادھر اور آپ سب کے درمیان جلتے۔ آخر بڑی مشکل سے آپ اور آپ کے ساتھ چٹے ہوئے ہم سب بڑے صحن میں پہنچے۔ اس وقت تک زلزلے کے دھکے بھی کمزور ہو چکے تھے تو وہی دیر کے بعد آپ ہم کو لیکر اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ دوسرے اجاب بھی اپنا ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں حسب ضرورت کچھ کچھ مکان بھی تیار کروائے گئے اور کچھ فیے منگوائے گئے اور پھر ہم سب ایک لمبا عرصہ باغ میں مقیم رہے۔ ان دنوں میں مدرسہ بھی تو ہیں لگتا تھا۔ گویا باغ میں ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ کیا زمانہ تھا۔

**أَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ**  
 میں ایک عظیم فتح تجھ کو عطا کروں گا جو کھل کھل کر فتح ہوگی تاکہ تیرا خدا تیرے تمام گناہ بخش دے جو پہلے ہیں  
**وَمَا تَأَخَّرَ ۖ إِنِّي أَنَا التَّوَّابُ ۖ مَنْ جَاءَكَ جَاءَنِي ۖ سَلَامٌ**  
 اور پچھلے ہیں۔ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ جو شخص تیرے پاس آئے گا وہ گویا میرے پاس آئے گا۔ تم پر  
**عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَحَمْدُكَ وَنُصَلِّيُ صَلَاةَ الْعَرْشِ إِلَى الْمَفْرَشِ ۖ**  
 سلام تم پاک ہو۔ تم تیری تعریف کرتے ہو اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ عرش کو فرش تک تیرے پر درود ہے  
**نَزَلَتْ لَكَ وَلكَ نَزِيَّاتٍ ۖ الْأَمْرَاضُ تُشَاعُ ۖ وَالنَّفُوسُ**  
 میں تیرے لئے آتا ہوں اور تیرے لئے اپنے نشان دکھاؤں گا۔ ملک میں بیماریاں پھیلیں گی۔ اور بہت جانیں  
**تُضَاعُ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ أَمْرًا**  
 ضائع ہوگی۔ اور خدا ایسا نہیں ہے جو اپنی تقدیر کو بدل دے جو ایک قوم پر نازل کی جاتا ہے وہ قوم اپنے دل کی خیرات  
**بِأَنْفُسِهِمْ ۖ إِنَّهُ أُوَّي الْقَرْيَةِ ۖ لَوْلَا الْأَكْرَامُ ۖ لَهْلَكَ الْمَقَامُ**  
 کو بدل دیا لیں۔ وہ اس قریہ کو کسی قدر ہلاک کر دیتا مگر میری عزت کا پاس ہوتا تو اس تمام گناہوں کو میرا ہلاک کرتا  
**إِنِّي أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الْمَدَارِ ۖ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ**  
 میں ہر ایک کو جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہو بچاؤں گا۔ کوئی ان میں سے طاعون یا بھونچال کو نہیں مرے گا۔ خدا ایسا نہیں ہے

عظیم عالم انسان کا قاعدہ ہے کہ وہ خدا کے رسولوں اور نبیوں پر ہزار ہا نکتہ چینیوں کرتا ہے اور طرح طرح کے عیب ان میں  
 نکالتا ہے گویا دنیا کے تمام عیبوں اور خرابیوں اور جرائم اور معاصی اور نہایتوں کا وہی مجموعہ ہے۔ اب ان دس اور اس کا  
 کہاں تک جو اب دیا جائے جو نفس کی شہوت کے ساتھ مخلوط ہیں۔ اس لئے یہ سنت اللہ ہے کہ آخر ان تمام جھگڑوں کو  
 اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کوئی ایسا عظیم الشان نشان ظاہر کرتا ہے جس سے اس نبی کی بریت ظاہر ہوتی ہے۔  
 پس لیغفر لک اللہ کسبہ منہ ہے۔ منہ  
 حاشیہ۔ اونی کا لفظ عرب کی زبان میں اس موقع پر استعمال پاتا ہے جبکہ کسی قدر تکلیف کے بعد کسی شخص کو  
 اپنی پناہ میں لیا جائے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے العر بعدك یتیمًا فاوی۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے  
 اونیہما الی ربوۃ ذات قرار و معین۔ منہ

لہ الفتح: ۳۰، الضحیٰ: ۷، النمل: ۵۱

یہ حوالہ صفحہ 241 پر درج ہے

حقیقت الہوی صفحہ 97 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 97 از مرزا قادیانی

زلزلہ آیا تھا۔ اور آپ باغ میں رہائش کے لیے چلے گئے تھے۔ مفتی محمد صادق صاحب کے لڑکے محمد منظور نے جو ان دنوں میں بالکل بچہ تھا۔ خواب میں دیکھا کہ بہت سے بکرے ذبح کئے جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے کئی بکرے منگوا کر صدقہ کر دادیئے۔ اور حضرت صاحب کی اتباع میں اقد اکثر لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میرا خیال ہے۔ اس وقت باغ میں ایک سو سے زیادہ بکرا ذبح ہوا ہوگا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب ۱۰۵۰ھ کا زلزلہ آیا تو میں بچہ تھا۔ اور نواب محمد علی خان صاحب کے شہر والے مکان کے ساتھ ملحق حضرت صاحب کے مکان کا جو حصہ ہے اس میں ہم دوسرے بچوں کے ساتھ چار پائیوں پر لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو ہم سب ڈر کر بے تماشاً اٹھے۔ اور ہم کو کچھ خبر نہیں تھی۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صحن میں آئے تو اوپر کنکر بڑے برس رہے تھے۔ ہم بھاگتے ہوئے بڑے مکان کی طرف آئے۔ وہاں حضرت مسیح موعود اور والدہ صاحبہ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ہم نے جانتے ہی حضرت مسیح موعود کو پکڑ لیا اور آپ سے لپٹ گئے۔ آپ اس وقت گھبراہٹ سے تھے اور بڑے صحن کی طرف جانا چاہتے تھے۔ مگر چاروں طرف بچے چمٹے ہوئے تھے اور والدہ صاحبہ بھی کوئی ادھر کھینچتا تھا۔ تو کوئی اور دھرا اور آپ سب کے درمیان بیٹھتے۔ آخر بڑی مشکل سے آپ اور آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہم سب بڑے صحن میں پہنچے۔ اس وقت تک زلزلے کے دھکے بھی گزر رہے تھے تو وہی دیکھ کے بعد آپ ہم کو لیکر اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ دوسرے اجاباب ہی اپنا ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں حسب ضرورت کچھ کچھ مکان بھی تیار کروائے گئے اور کچھ خیمے منگوائے گئے اور پھر ہم سب ایک لمبا عرصہ باغ میں مقیم رہے۔ ان دنوں میں مدرسہ بھی بچا گیا تھا۔ گویا باغ میں ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ کیا زمانہ تھا۔

بھی یہی مضمون شائع کرایا اور پالیویر وغیرہ انگریزی اخباروں میں بھی شائع کرا دیا بلکہ اس اطلاع کے لیے ایک چٹھی بخدمت جناب لفٹننٹ گورنر بہادر اور ایک چٹھی جناب نواب لارڈ کرزن وائسرائے بالقابہ کی خدمت میں بھی گئی اور ابھی میں اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ یا تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس گھڑی کو بحال دے اور مجھے اطلاع دے اور یا پوزے طور پر بعید تاریخ اور روز اور وقت اس آنے والے حادثے سے مطلع فرما دے کیونکہ وہ ہر ایک بات پر قادر ہے۔

اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بدعتی یا دلہ زاری یا ستانے کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا اور جس آنے والے زلزلے میں نے دوسروں کو ڈرایا ان سے پہلے میں آپ ڈرا۔ اور اب تک قریباً ایک ماہ سے میرے خیمے باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ میں واپس قادیان میں نہیں گیا۔ کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ وقت کب آنے والا ہے میں نے اپنے مریدوں کو بھی اپنے اشتہارات میں بار بار یہی نصیحت کی کہ جس کی مقدرت ہو اسے ضروری ہے کہ کچھ مدت خیموں میں باہر جنگل میں رہے اور جو لوگ بے مقدرت ہیں وہ دعا کرتے رہیں کہ خدا اس بلا سے ہمیں بچا دے۔ پس میری نیک نیتی پر اس سے زیادہ کون گواہ ہو سکتا ہے کہ اسی خیال سے میں مع اہل و عیال اور اپنی تمام جماعت کے جنگل میں پڑا ہوں اور جنگل کی گرمی کو برداشت کر رہا ہوں حالانکہ قادیان طاعون سے بالکل پاک صاف ہے مگر جس بات سے خدا نے ڈرایا اس سے ڈرنا لازم ہے اور جس ضرر کا یقین ہے اس سے بنی نوع کو ڈرانا بھی شرائط ہمدردی میں داخل ہے۔ اگر میں دیکھوں کہ کسی گھر کے کسی حصے کو آگ لگنے کو ہے اور گھر کے لوگ خواب میں ہیں۔ ان کو کچھ خبر نہیں اور میں ان کو اطلاع نہ دوں کہ وہ تشویش میں پڑیں گے تو میں ایک سخت گناہ کا مرتکب ہوں گا۔

یہ بھی یاد رہے کہ کسی کمزور بناہ پر یہ پیشگوئی نہیں کی گئی ہے بلکہ اگر حکام کی طرف سے بھی میرے اس دعوے کی پڑتال ہو تو کم سے کم ہزار پیشگوئی ایسی ثابت ہوگی جو وہ سچی نکلی۔ پس جبکہ میں صد ہا پیشگوئیوں کی سچائی کے تجربے سے اس بات کے باور کرنے کے لیے ایک بھاری ثبوت اپنے پاس رکھتا ہوں کہ جو کچھ خدا نے مجھے فرمایا ہے سچ ہے تو پھر اس سے لوگوں کو متنبہ نہ کرنا ایک ظلم تھا۔ کیونکہ یہ زلزلہ کی پیشگوئی قلعی نہیں بلکہ شرعی ہے۔ ہر ایک شخص جو نیک چلنی اختیار کر لیا وہ بچا یا جائے گا۔ پس ایسے شخص کو کیا غم ہے جو اپنے چال چلن کی درستی رکھتا ہے۔ ہاں وہ بد معاش لوگ جو اپنا پیشہ بدکاری عوام خوری خوزری وغیرہ رکھتے ہیں البتہ ایسے اشتہاروں

(بقیہ ماشیہ منو سابقہ)

کی نسبت یہ بھی انعام ہوا تھا۔ پھر بار آتی خدا کی بات پھر بدی ہوئی۔ مجھے اس پر خود کرنے سے اجتنابی طور پر خیال گذرتا ہے کہ ظاہر انفاذ وحی انہی کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی ہمارے ایام میں پوری ہوگی۔ شاید ان تحریکات کے لیے ہمارے ایام کو کچھ خصوصیت ہو اور ممکن ہے کہ اس وحی کے اور معنی ہوں اور ہمارے مراد کچھ اور ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مُحَمَّدٌ وَ نَصْرُهُ

## اپنے مریدوں کی اطلاع کیلئے

جو پنجاب اور ہندوستان اور دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور نیردوسروں کے لیے  
اعلانِ بچو کہ ایک مقدمہ نیردفعہ ۱۰۰ اثنا بطلہ فوجداری بکھ پر اور مولوی ابو سعید محمد حسین، شالوی ایڈیٹر اشاعت  
انسٹریٹ پر عدالت ہے۔ ایم ڈوٹی صاحب ڈپٹی کمشنر خلع گورنمنٹ اسپورڈ میں دائر تھا تاریخ ۲۴ فروری ۱۹۹۱ء بروز  
جمعہ اس طرح پراس کا فیصلہ ہوا کہ فریقین سے اس مضمون کے نوٹوں پر دستخط کرنے گئے کہ آئندہ کوئی فریق  
اپنے کسی مخالفت کی نسبت موت وغیرہ دل آزار مضمون کی پیشگویی نہ کرے۔ کوئی کسی کو کا فر اور دجال اور  
مغزری اور کذاب نہ کہے۔ کوئی کسی کو مباح کے لیے نہ بلاوے اور قادیان کو چھوٹے کاف سے نہ لکھی جاتے اور  
نہ بلاؤ کو طا کے ساتھ اور ایک دوسرے (کے) مقابل پر نرم الفاظ استعمال کریں۔ بدگوئی اور گائیوں سے  
مجتنب رہیں۔ اور ہر ایک فریق حتی الامکان اپنے دوستوں اور مریدوں کو بھی اس ہدایت کا پابند کرے اور یہ  
طریق نہ صرف باہم مسلمانوں میں بکے بیسیائیوں سے بھی یہی چاہیے: لہذا میں نہایت تاکید سے اپنے ہر ایک  
مرید کو مطلع کرتا ہوں کہ وہ ہدایت مذکورہ بالا کے پابند رہیں اور نہ مولوی محمد حسین اور نہ ان کے گروہ اہل حدیث  
اور نہ کسی اور سے اس ہدایت کے مخالفت معاذ کریں۔ بہتر تو یہی ہے کہ ان لوگوں سے کلی قطع کلام اور  
ترکِ ملاقات رکھیں۔ ہاں جس میں رشد اور سعادت دیکھیں اس کو معقول اور نرم الفاظ سے راہِ راست سمجھائیں  
اور جس میں تیزی اور ٹھننے کا مادہ دیکھیں اس سے کنارہ کریں کسی کے دل کو ان الفاظ سے دکھ نہ دیں کہ یہ کافر ہے  
یا دجال ہے یا کذاب ہے یا مغزری ہے گو وہ مولوی محمد حسین ہو یا اس گروہ میں سے یا اس کے دوستوں میں  
سے کوئی اور ہو۔ ایسا ہی کسی عیسائی اور کسی دوسرے فرقہ کے ساتھ بھی ایسے الفاظ جو فتنہ کو برپا کر سکتے ہیں استعمال  
میں نہ لائیں اور نرم فریق سے ہر ایک سے بڑاؤ نہ کریں۔ اور نہ مولوی محمد حسین صاحب کی نسبت میں بھی عرض کرتے

یہ حوالہ صفحہ 242 پر درج ہے

مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 299 طبع جدید از مرزا قادیانی

ہیں کہ چونکہ اس نوٹس پر ان کے بھی دستخط کرائے گئے ہیں بلکہ اسی تحریر ہی شرط سے عدالت نے ان پر مقدمہ چلانے سے ان کو معافی دی ہے لہذا وہ بھی اسی طور سے اپنے گروہ! اجماعیت امر تسری لاہوری لدہ حانوی دہلوی اور اولپنڈی کے رہنے والے اور دوسرے اپنے دلی دوستوں کو بذریعہ مجھے ہوتے اعلان کے بلا تو قف اس نوٹس سے اطلاع دی کہ وہ حسب ہدایت صاحب مجسٹریٹ بہادر ضلع گورداسپور اپنے فریق مخالف یعنی میری نسبت کافر اور دجال اور منفری اور کذاب کہنے سے اور گندی گالیاں دینے سے روکے گئے ہیں اور اس معاہدہ کی پابندی کے لیے نوٹس پر دستخط کر دیتے گئے ہیں کہ وہ آئندہ نہ مجھے کافر کہیں گے نہ دجال نہ کذاب نہ منفری اور نہ گالیاں دیں گے اور نہ قادیان کو چھوٹے کاف سے کہیں گے اور ایک حد تک اس بات کے ذمہ دار رہیں گے کہ ان کے دوستوں اور ملاقاتیوں اور گروہ کے لوگوں میں سے کوئی شخص ایسے الفاظ استعمال نہ کرے۔ سو سمجھا دیں کہ اگر وہ لوگ بھی اس نوٹس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس عہد شکنی کے جواب وہ ہوں گے۔

غرض جیسا کہ میں نے اس اعلان کے ذریعہ سے اپنی جماعت کے لوگوں کو متنبہ کر دیا ہے۔ مولوی محمد حسین کی دنی صفائی کا یہ تعاضا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اہل حدیث اور دوسرے منذور لوگوں کو جو ان کے دوست ہیں بذریعہ اعلان متنبہ کریں کہ اب وہ کافر، دجال، کذاب کہنے سے باز آجائیں اور دلدگار گالیاں نہ دیں اور مسطنت انگیزی جو امن پسند ہے باز نہ آنے کی حالت میں پورا پورا قانون سے کام لے گی۔ اور ہم تو ایک غمخوار گذر گیا کہ اپنے طور پر یہ عہد شائع بھی کر چکے کہ آئندہ کسی مخالف کے حق میں موت وغیرہ کی پیشگوئی نہیں کریں گے اور اس مقدمہ میں جو ۲۴ فروری ۱۸۹۹ء کو فیصلہ ہوا، ہم نے اپنے ذہن میں جو عدالت میں دیا گیا ثابت کر دیا ہے کہ یہ پیشگوئی کسی شخص کی موت وغیرہ کی نسبت نہیں تھی محض ایسے لوگوں کی غلط فہمی تھی جن کو مرل سے ما واقفیت تھی۔ سو ہمارا خدا تعالیٰ سے وہی عہد ہے جو ہم اس مقدمہ سے مدت پہلے کر چکے۔ ہم نے ضمیر انجام آتھم کے صفحہ ۶۷ میں شیخ محمد حسین اور اس کے گروہ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ وہ سات سال تک اس طور سے ہم سے صلح کریں کہ کفیر اور کذب اور بدزبانی سے منہ بند رکھیں اور اختلاف کریں کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کسی نے ہماری یہ درخواست قبول نہ کی اور نہ چاہا کہ کافر اور دجال کہنے سے باز آجائیں یہاں تک کہ عدالت کو اب امن قائم رکھنے کے لیے وہی طریق استعمال کرنا پڑا جس کو ہم صلح کاری کے طور سے چاہتے تھے۔

یاد رہے کہ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے مقدمہ کے فیصلہ کے وقت مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ گندے الفاظ جو محمد حسین اور اس کے دوستوں نے آپ کی نسبت شائع کئے آپ کو حق تھا کہ عدالت کے ذریعہ سے اپنا انصاف چاہتے اور چارہ جوئی کراتے اور وہ حق اب تک قائم ہے۔ اس لیے میں شیخ محمد حسین اور

یہی خوف نہیں کرتے تو وہاں یہ لوگ کیا نہ کریں گے لیکن ان لوگوں کو اس امر سے کیا غرض ہے کہ ہم حج نہیں کرتے۔ کیا اگر ہم حج کریں گے تو وہ ہم کو مسلمان سمجھ لیں گے؟ اور ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے؟ اچھا یہ تمام مسلمان صلوٰۃ اول ایک اقسرد نامہ لکھ دیں کہ اگر ہم حج کر آویں تو وہ سب کے سب ہمارے اقد پر توبہ کر کے ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے مرید ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا لکھ دیں اور اقرار مطلق کریں تو ہم حج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے اسباب آسانی کے پیدا کر دے گا تاکہ آئندہ مولویوں کا فتنہ رفع ہو۔ ناحق مشرکات کے ساتھ اعتراض کرنا اچھا نہیں ہے یہ اقرار ہے ان کا ہم پر نہیں پڑتا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف آخری سال میں حج کیا تھا۔

## توکل

فترمایا۔

توکل کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف ٹھکنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ جو آدمی صرف اپنی کوششوں میں رہتا ہے اس کو سوائے ذلت کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہمیشہ سے سقت اللہ یہی چلی آتی ہے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑتے ہیں وہ اس کو پاتے ہیں اور جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ اگر چند روز مکر و فریب سے کچھ حاصل بھی کر لیں تو وہ حاصل ہے کیونکہ آخر ان کو سخت ناکامی دیکھنی پڑتی ہے۔ اسلام میں محمد لوگ وہی گندے ہیں جنہوں نے دین کے مقابلہ میں دنیا کی کچھ پروا نہ کی ہندوستان میں قطب الدین اور معین الدین خدا کے اولیاء گندے ہیں۔ ان لوگوں نے پوشیدہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی مگر خدا تعالیٰ نے ان کی عزت کو ظاہر کر دیا۔

وقت رہا۔ چنانچہ نمبر وار ڈاکٹروں کی ڈیوٹی شروع ہوئی اور میری بہاری آنے والے تھی مجھے بہت ترس اور فکر ہوا کیونکہ ہر سال معاہل و عیال و سامان و فیروہ کے منہج میں جانا ایک سخت مصیبت تھی۔ اتفاقاً میں چن روز کی رخصت لے کر قادیان آیا اور حضرت اقدس کی خدمت میں یہ سب ماجرا عرض کیا حضور نے فرمایا: آپ فکر نہ کریں شائد آپ کی باری و ملل جانے کی نذر آئے گی۔ گو آپ نے شائد کا لفظ بولا تھا لیکن میرے دل کو اطمینان ہو گیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ منہج کے جہز کی طرف سے میرے نام ایک حکم آ گیا کہ تم اس ڈیوٹی سے مستثنیٰ ہو۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ خاص حالات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہئے کہ جو بات بھی انبیاء فرمادیں وہ وہی طرح و نوع میں آجاتی ہے۔ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔

(۳۸۵) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت صاحب شروع دعویٰ مسیحت میں دہلی تشریف لے گئے تھے اور مولوی نذیر حسین کے ساتھ مباحثہ کی تجویز ہوئی تھی۔ اس وقت شہر میں مخالفت کا سخت شور تھا۔ چنانچہ حضرت صاحب نے افسران پولیس کے ساتھ انتظام کر کے ایک پولیس مین کو اپنی طرف سے تنخواہ دینی کر کے مکان کی ڈیوٹی پر مقرر کر کے لئے مقرر کر لیا تھا۔ یہ پولیس مین پنجابی تھا۔ اسکے علاوہ ویسے بھی مرزا میں کافی احمدی حضرت صاحب کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔

(۳۸۶) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں سنہ ۱۹۰۷ء میں پہلی دفعہ قادیان میں آیا تو حضور ان دنوں میں صبح اپنے باغ کی طرف میرے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت صاحب باغ کی طرف تشریف لے گئے تو میں بھی ساتھ گیا اور حضور نے شہوت منگو اور درختوں کے سائے کے نیچے خدام کے ساتھ ملکر کھائے اور پھر مجھے مخاطب فرما کر اپنے دعویٰ کی صداقت میں تقریر فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی صداقت کے متعلق کوئی شبہ نہیں رہا لیکن اگر بیعت منگ جائے اور آپ پر ایمان رکھا جاوے کہ آپ صادق ہیں، تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے ایمان سے آپ مجھ سے روحانی فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ بیعت سنت انبیاء ہے اور اس سنت میں بیعت ہلکے فوائد رکھتی ہیں چنانچہ سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ انسان کے نفسان و رخت کا جو کردار بھل اور ذائقہ اثر ہے اسے



مقدم سے پہلے شائع کیا ہوا تھا کہ ایک تو مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا  
والذین ہمد محسنون۔ یعنی خدا تعالیٰ اس فریق کے ساتھ ہے جو متقی ہے اور دوسرا الہام  
یہ تھا کہ عدالت عالیہ سے بری کیا جائیگا۔ اب دونوں کو ملا کر دیکھ کر یہ کیسی عظیم الشان صداقت  
ہے جو پوری ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولانا  
عبد الکریم صاحب ایک دفعہ کسی شخص کا ذکر سنانے لگے کہ وہ کسی عورت پر سخت عاشق ہو گیا۔ اور  
باوجود ہزار کوشش کے وہ اس عشق کو دل سے نکال سکا۔ آخر حضرت صاحب کے پاس آیا۔ اور  
طالب دعا ہوا۔ حضرت صاحب نے مولوی صاحب سے فرمایا کہ مجھے خدا کی طرف سے معلوم ہوا ہے کہ  
یہ شخص اس عورت سے ضرور بدکاری کرے گا۔ مگر میں بھی پورے زور سے اس کے لئے دعا کر رہا  
ہوں۔ وہ شخص قادیان ٹھہرا رہا۔ اور حضور دعا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اس نے ایک روز مولوی  
صاحب سے کہا کہ آج رات خواب میں میں نے اس عورت کو دیکھا اور خواب میں ہی اس کو بہانہ  
کی اور میں نے اس دوران میں اس کی شرمگاہ کو جنم کے گڑھے کی طرح دیکھا۔ جس سے مجھے اس  
سے اس قدر خوف اور نفرت پیدا ہوئی کہ بجز وہ آتش عشق ٹھنڈی ہو گئی۔ اور وہ محبت کی  
بے قراری سب دل سے محو گئی۔ بلکہ دل میں دوری پیدا ہو گئی۔ اور خدا کے فضل اور حضور کی  
دعا کی برکت سے میں بدکاری سے بھی محفوظ رہا اور وہ جنون بھی جاتا رہا۔ اور حضور نے جو بات  
میری بابت کہی تھی وہ ظاہری رنگ سے بدل کر خدا نے خواب میں پوری کرادی۔ یعنی میں نے  
اس سے تعلق بھی کر لیا اور ساتھ ہی مجھے گناہ سے بھی بچا لیا۔ غالباً یہ شخص سیالکوٹ کا رہنے  
والا تھا اور مقول آدمی تھا۔ اور اُس نے حضرت صاحب کی بیعت بھی کی تھی۔ مگر تعلق کو آخر تک  
نہیں نبھایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت میر محمد  
علیہ السلام نے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے ایک دن ایک گدی لٹا سی رکھا تھا۔ وہ دروازے  
پر بندھا رہتا تھا اور اس کا نام شیر و تھا۔ اس کی لٹوانی پے کرتے تھے یا سماں قدرت! شرفنا  
مروم کرتے تھے جو گھر کے دربان تھے۔

۴۶۱

اور بائیں ہمدان کے مرید لاہور کے کوچہ بازار میں مشہور کر رہے ہیں کہ پیر صاحب نے سب شرطیں منظور کر لی  
 تھیں اور مرزا ان سے خوف کھا کر بھاگ گیا۔ یہ عجیب زمانہ ہے کہ اس قدر مندر پر جھوٹ بولا جاتا ہے  
 پیر صاحب کا وہ کونسا اشتہار ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں کوئی زیادہ شرط نہیں کرتا۔ مجھے  
 بالمقابل عربی فصیح میں تفسیر لکھنا منظور ہے اور اسی پر فریقین کے صدق و کذب کا فیصلہ ہوگا اور اس  
 کے ساتھ کوئی شرط زائد نہیں لگائی جائے گی۔ ہاں منہ سے تو کہتے ہیں کہ شرطیں منظور ہیں مگر پھر ساتھ  
 ہی یہ جھت پیش کر دیتے ہیں کہ پے قرآن اور حدیث کے رُوسے مباحثہ ہوگا۔ اور مغلوب ہو گئے تو اسی وقت  
 بیعت کرنی ہوگی۔ افسوس کہ کوئی صاحب پیر صاحب کی اس چال کو نہیں سوچتے کہ جبکہ مغلوب ہونے  
 کی حالت میں کہ جو صرف مولوی محمد حسین کی قسم سے سمجھی جائیگی میرے لیے بیعت کرنے کا قطعی حکم ہے جس  
 کے بعد میرا عذر نہیں سنا جائے گا تو پھر تفسیر لکھنے کے لیے کونسا موقع میرے لیے باقی رہا۔ گویا مجھے  
 تو صرف مولوی محمد حسین صاحب کے ان چند کلمات پر بیعت کرنی پڑے گی کہ جو پیر صاحب کے  
 عقائد ہیں وہی صحیح ہیں۔ گویا پیر صاحب آپ ہی فریق مقدمہ اور آپ ہی منصف بن گئے کیونکہ جبکہ  
 مولوی محمد حسین صاحب کے عقائد حضرت مسیح اور ہدی کے بارے میں بالکل پیر صاحب کے مطابق  
 ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب اور پیر صاحب گویا ایک ہی شخص ہیں۔ دو  
 نہیں ہیں تو پھر فیصلہ کیا: وہ انہی مشکلات اور انہی وجوہ پر تو میں نے بحث سے کنارہ کر کے یہی طریق فیصلہ نکالا  
 تھا جو اس طرح پر ٹالی دیا گیا۔ بہر حال اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ لاہور کے گلی کوچے میں پیر صاحب کے ٹریڈ  
 اور ہم شریعت دے رہے ہیں کہ پیر صاحب تو بالمقابل تفسیر لکھنے کے لیے لاہور میں پہنچ گئے تھے  
 مگر مرزا بھاگ گیا اور نہیں آیا۔ اس لیے پھر عام لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ تمام باتیں خلاف واقعہ  
 ہیں بلکہ خود پیر صاحب بھاگ گئے ہیں اور بالمقابل تفسیر لکھنا منظور نہیں کیا اور نہ ان میں یہ مادہ اور نہ خدا کی  
 طرف سے تائید ہے۔ اور میں بہر حال لاہور پہنچ جاتا۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اکثر پشاور کے جاہل سرمدی  
 پیر صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور ایسا ہی لاہور کے اکثر سفہ اور کینہ طبع لوگ گلی کوچوں میں مستوں کی طرح  
 گالیاں دیتے پھرتے ہیں اور نیز مخالف مولوی بڑے ہوشوں سے وعظ کر رہے ہیں کہ یہ شخص واجب القتل  
 ہے۔ تو اس صورت میں لاہور میں جانا بغیر کسی احسن انتظام کے کس طرح مناسب ہے۔ ان لوگوں کا جوش  
 اس قدر بڑھ گیا ہے بعض کارڈ گندی گالیوں کے ان لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچے ہیں جو جو ہڑوایے  
 چھاروں کی گالیوں سے بھی بخش گوئی میں زیادہ ہیں جو میرے پاس محفوظ ہیں۔ بعض تحریروں میں قتل  
 کی دھمکی دی ہے۔ یہ سب کاغذات حفاظت سے رکھے گئے ہیں۔ مگر باوجود اس کے اس درد جاک گندہ زبان  
 کو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے کہ مجھے امید نہیں کہ اس قدر گندہ زبانی ابو حیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ

۲۲۲

اُن کی شکل بڑی باریک تھی۔ انہوں نے ریاست کا زمانہ دیکھا ہوا تھا اس لئے بڑے بلند ہمت اور عالی حوصلہ تھے۔ غرض میں نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھے ہیں اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ خدا تعالیٰ ہے۔ اس میں بستر یہ ہوتا ہے کہ باپ چونکہ شفقت اور رحمت میں بہت بڑا ہوتا ہے اور قرب اور تعلق شدید رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا باپ کی شکل میں نظر آتا اس کی عنایت، تعلق اور شدتِ محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے قرآن شریف میں بھی آیا ہے گِذْرِ كَوْكَبٍ اَبْنَاءِ كُفْرٍ۔ اور میرے الہامات میں یہ بھی ہے اَنْتَ مِثْقَالُ بَسْمَلِةٍ اَوْلَادِي بِرَقْرَانِ تَرْفٍ کِ اِسْیَ اَیْتِ كِ مَضْمُونِ اَوْ صِدَاقِ پَرِہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

۱۰ اپریل ۱۹۰۲ء

”افسوس خدا افسوس“

(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

۱۱ اپریل ۱۹۰۲ء

”ریگڑے عالم جاودانی شد“

(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

۱۹۰۲ء

”حضرت اقدس ایک روز فرماتے تھے ہم نے کشف میں دیکھا کہ قادیان ایک بڑا عظیم الشان شہر بن گیا اور انتہائی نظریے بھی پرے تک بازار نکل گئے۔ اونچی اونچی دو منزلی یا چو منزلی یا اس سے بھی زیادہ اونچے اونچے چوتروں والی دوکانیں عمدہ عمارت کی بنی ہوئی ہیں اور موٹے موٹے سیٹھ، بڑے بڑے پیٹ والے جن سے بازار کو رونق ہوتی ہے ایٹھے ہیں اور اُن کے آگے جواہرات اور لعل اور موتیوں اور بیروں، روپوں اور اشرفیوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور قیما قسم کی دوکانیں خوبصورت اسباب سے جگمگ رہی ہیں۔ کتے، بچیاں، ٹٹم، فٹن، پانکیاں، گھوڑے، شکر میں، پیدل اس قدر بازار میں آتے جاتے ہیں کہ موٹھ سے سے موٹھا بھڑک چلتا ہے اور راستہ بشکل ملتا ہے“

(از مضمون پیر سراج الحق صاحب مندرجہ الحکم جلد ۶ نمبر ۱۶ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۲، ۱۳)

۱۹۰۲ء

”دو دفعہ ہم نے رڈیا میں دیکھا کہ بہت سے ہندو ہمارے آگے سجدہ کرنے کی طرح ٹھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اوتار ہیں اور گرش ہیں اور ہمارے آگے قدیں دیتے ہیں“

(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۵ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۸)

۱۷ (ترجمہ از مرتب) اس نے عالم بجا کی ماہ اختیار کر لی۔

کے نئے آنے سے روکا جاتا۔ راستہ میں کیلے گاڑ دیئے جاتے تاکہ گزرنے والے گریں۔ اُس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتایا مجھے دکھایا گیا ہے (کہ یہ علاقہ اس قدر آباد ہوگا کہ دریا نئے بیاس تک آبادی پہنچ جائے گی۔) (الفضل جلد ۱۹ نمبر ۳ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۳۸ء صفحہ ۱۶)

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایّدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:-

(ب) "مجھے یاد ہے اسی میدان سے جاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا ایک روٹیا سنایا تھا کہ قادیان بیاس تک پھیلا ہوا ہے اور مشرق کی طرف بھی بہت دور تک اس کی آبادی چلی گئی ہے۔ اُس وقت یہاں صرف آٹھ دس گھرا گھریوں کے تھے اور وہ بھی بہت تنگ دست، باقی سب بطور صمان آتے تھے" (فرمودہ ۲۳ جنوری ۱۹۳۲ء بموقع دعوت باعزاز مولانا جلال الدین شمس۔ الفضل جلد ۱۹ نمبر ۹ مورخہ ۹ فروری ۱۹۳۲ء صفحہ ۶)

اگست ۱۹۰۱ء حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایّدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ (مقدرہ دیوار میں) "مدات نے فیصلہ کیا کہ خرچ کا کچھ حصہ ہمارے چھاؤں پر ڈالا جائے..... جب اس ڈگری کے اجراء کا وقت آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام گورداسپور میں تھے۔ آپ کو عشاء کے قریب روٹیا یا اللہام کے ذریعہ بتایا گیا کہ یہ بار اُن پر بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ (مخالف رشتہ دار) تکلیف میں ہیں چنانچہ آپ نے نسرمایا کہ مجھے رات نیند نہیں آئے گی اسی وقت آدمی بھیجا جائے جو جا کر کہہ دے کہ ہم نے یہ خرچ تمہیں معاف کر دیا ہے۔" (خطبہ فرمودہ ۲۳ جولائی ۱۹۳۶ء۔ الفضل جلد ۲۲ نمبر ۲۹ مورخہ ۲ اگست ۱۹۳۶ء صفحہ ۸)

۱۷ دسمبر ۱۹۰۱ء منشی محمد الدین صاحب واصل باقی نویں نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو اللہام ہوا:-

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا يَأْتُونَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ يَتَّبِعُونَ

(رہبر روایات صحابہ جلد ۱۱ صفحہ ۱۱۹ اور رہبر روایات صحابہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۱)

۲۲ دسمبر ۱۹۰۱ء نور محمد صاحب پشتر تحصیلدار موضع موچی پورہ ضلع طتان نے بیان کیا کہ (میں جبکہ) ۲۲ دسمبر ۱۹۰۱ء کو دارالامان میں آیا حضرت مسیح موعود کو اُس روز اللہام ہوا تھا کہ:-

سے (ترجمہ از مرتب) وہ اس کی مانند نہیں لائیں گے خواہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

۹- (۱) حضرت خلیفۃ المسیح الثانی آیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہٗ العزیزہ فرمایا:-  
"حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک امام ہے جو پہلے کبھی شائع نہیں ہوا کہ:-

"حق اولاد در اولاد"

یعنی اولاد کا حق اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس جگہ اولاد سے مراد صرف جسمانی اولاد مراد ہو بلکہ ہر احمدی جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قبول کیا وہ آپ کی روحانی اولاد میں شامل ہے۔"  
(انفصل لاہور، سلسلہ جدید، جلد نمبر ۵۹، مورخہ ۲۶ نومبر ۱۹۳۷ء صفحہ ۳)

(ب) حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے بعد والدہ محبہ نیت اللہ تعالیٰ نے لکھنؤ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اماموں والی کالی میسٹر سائمنے رکھ دی اور کہا میں سمجھتی ہوں یہی تمہارا سب سے بڑا ورثہ ہے۔ میں نے ان امامات کو دیکھا تو ان میں ایک امام آپ کی اولاد کے متعلق یہ درج تھا "حق اولاد در اولاد"..... حق اولاد در اولاد کے معنی درحقیقت یہی تھے کہ وہ حق جو باہر سے تعلق رکھتا ہے یعنی زمینوں اور جائیدادوں وغیرہ میں حصہ یہ کوئی زیادہ قیمت نہیں۔ زیادہ قیمت یہ چیز ہے کہ میں نے تمہاری اولاد کے دماغوں میں وہ قابلیت لکھ دی ہے کہ جب بھی یہ اس قابلیت سے کام لیں گے دنیا کے لیڈر ہی بنیں گے..... اور یہ وہ ورثہ ہے جو ہم نے تمہاری اولاد کے دماغوں میں مستقل طور پر رکھ دیا ہے۔"

(انفصل جلد ۲۳، نمبر ۲۳، مورخہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۹ء صفحہ ۵۔ خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۳ ستمبر ۱۹۳۷ء)

۱۰- حضرت خلیفۃ المسیح الثانی آیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہٗ العزیزہ نے سورۃ العنکبوت آیت ۲ تا ۴ کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ:-

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دفعہ طاعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:- "ابھی کیا ہے۔ ابھی وہ دن آئیں گے جب کہ لوگ کہیں گے کہ

لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا؟

(ضمیمہ اخبار انفصل جلد ۲، نمبر ۵، مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۱۳ء صفحہ ۸)

۱۱- لاہور کی تباہی کی پیش گوئی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں شائع ہو چکی تھی وہ یہ ہے:-

"لاہور کی نسبت کہا جاتا تھا کہ اس کی سرزمین میں ایسے اجزاء ہیں کہ اس میں طاعون کیڑے زندہ نہیں رہ سکتے لیکن وہاں بھی طاعون نے آن ڈیرا ڈالا ہے۔ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن سالہا سال کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہو گا۔ کئی لوگ اور صدمات باطل تباہ ہو جائیں گے۔ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور ان کے آثار تک باقی نہ رہیں گے۔ لیکن یہ حالت کبھی قادیان پر وارد نہ ہوگی۔" (الحکم جلد ۲، نمبر ۲۳، مورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

لیکن لاہور کے متعلق خاص خطوط میں امام یزدت پورے شائع ہوئے ہیں اور نہ ہی ان خطباتوں سے پتہ چلتا ہے جو اس پیش گوئی

۳۶۰

عدالت میں لے گئے تو حکم لے اُسے جاتے ہی ۳ یا ۶ یا ۹ ماہ کی قید کا حکم دے دیا۔  
(البدیع جلد نمبر ۶۱ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۷)

۱۹۰۲ء فرمایا کہ مجھے روڈ یا ہڑا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی میرے ننگا ٹیلے پچھلے پڑے پنے ہوئے میرے پاس آیا ہے۔ اُس سے مجھے سخت بدبو آتی ہے۔ میرے پاس آکر کہتا ہے کہ میرے کان کے نیچے طاغون کی گھسی نکلی ہوئی ہے۔ میں اُسے کہتا ہوں پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تفہیم الہی کوئی نہیں۔  
(البدیع جلد نمبر ۶۱ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۷)

۱۷ نومبر ۱۹۰۲ء ”فرمایا۔ رات میں نے خواب میں کچھ بارکس جوتی دیکھی ہے۔ یونہی ترشح سا ہے اور قطرات پڑ رہے ہیں مگر بڑے آرام اور سکون سے۔“  
(البدیع جلد نمبر ۶۱ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۷۔ الحکم جلد ۶ نمبر ۲۷ مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۷)

۱۸ نومبر ۱۹۰۲ء ”فرمایا کہ نماز فجر سے کوئی بیس یا پچیس منٹ پیشتر میں نے خواب دیکھا کہ گویا ایک زمین خریدی ہے کہ اپنی جماعت کی میتیں وہاں دفن کیا کریں تو کہا گیا کہ اس کا نام مقبرہ ہشتی ہے۔ یعنی جو اس میں دفن ہوگا وہ ہشتی ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھا ہوں کہ شیو میں کسری صلیب کے لئے یہ سامان ہڑا ہے کہ کچھ پرانی انجیلیں وہاں سے نکلی ہیں۔ میں نے تجویز کی کہ کچھ آدمی وہاں جاویں تو وہ انجیلیں لادیں تو ایک کتاب ان پر رکھی جاوے۔ شیو کو مروی مبارک علی صاحب تیار ہوئے کہ میں جانا ہوں مگر اس مقبرہ ہشتی میں میرے لئے جگہ رکھی جاوے۔ میں نے کہا کہ خلیفہ نور الدین کو بھی ساتھ بھیج دو۔۔۔۔۔“

فرمایا کہ اس سے پیشتر میں نے تجویز کی تھی کہ ہماری جماعت کی میتوں کے لئے ایک الگ قبرستان یہاں ہو سو خدا نے آج اُس کی تائید کر دی۔ اور انجیل کے معنی بشارت کے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ وہاں سے کوئی بڑی بشارت ظاہر کرے اور جو شخص وہ کام کرے لائے گا وہ قطعی ہشتی ہے۔“  
(البدیع جلد نمبر ۶۱ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۷۔ الحکم جلد ۶ نمبر ۲۷ مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۷)

۲۰ نومبر ۱۹۰۲ء روز پنجشنبہ ”پہلے سے متعلق تھا اور توجہ کرنے سے حضرت اقدس نے روایا میں دیکھا کہ کچھ

لے چکٹ لندن کا ایک پارسی تھا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود ہے۔ چند آدمی اُس کے ساتھ ہو گئے۔ اُس کا ایک ٹاپ شہہ اشتہار مفتی محمد صادق صاحب کے نام آیا تھا۔ مفتی صاحب نے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تب حضور نے

بات الدین یُعلیٰ ویشاع۔ ومثلک دُسرٌ لا یضاع وكان هذا اَوَّل ما اوحی  
الی هذا الحقیق۔ من القدير النصیر۔ وبشر فی ربی بانه یظهر لی آیات  
بأهراة۔ وینصرنی بتائیدات متواترات۔ لیحق الحق ویبطل الباطل  
بالمجیح القاهرة۔ والمعجزات الباهرة۔ ثم بعد ذلك دعوت القسیسین النصرانی  
والمتنصرین وغیرهم من البراہمة والمشرکین۔ وقلت جربوا الحق بأیات الله  
ونصرته لیظهر من ینصر من الله ومن ینکر من محمل لعنته۔ فما بارزوا الهدأ  
التضال کالکماة۔ واختفوا فی الوکنات۔ ووالله لو بارزوا المارحی ربی  
الأصایباً۔ وما رجع احد منهم الا خاسراً وخائباً۔ ووالله ان فتنشت  
لرئیت الاسلام کنز الآیات ومدینتها وتجد فیہ نوراً یمس لکل  
نفس سکینتها فیا حسرة علی قوم یکفرون بدانئنه ولا یتوجهون الی  
خزائنه۔ ویحسبون الاسلام کالعظام الرمیمة۔ لا مملوا من النعم  
العظيمة۔ اولئک قومٌ لا یؤمنون بان یکلم الله احداً بعد

۵۳

ومی یوم الدین۔ وما کان هذا الا جواب المکفرین بحسبونی من اهل جهنم وان کنت  
فی شک فاسئل المفتین ومن عجائب عالم البرزخ ان بعض الناس بعد موتهم یقرّبون  
الی روضة النبی التي تحتها الجنة وبعضهم یبعدون منها فاخبرنی رسولی انی من  
المقرّبین وهذا ریح علی من قال انه من جهنمیین۔ وهذا الدن الذي یملاه  
الله علی طریقة الردحانیة امرٌ یوجد فی کتاب الله وقول رسوله اثره واتفق  
علیه طائفة قوم روحانیین۔ وكذلك قالوا ان جماعة هذا الرجل قوم کافرون  
لا من المؤمنین۔ فلا تدفنوا موتاهم فی مقابر المسلمین۔ نا تم شتر الکافریین  
فادعی الی ربی و اشار الی ارض وقال انها ارض تحتها الجنة فمن دفن فیها  
دخل الجنة وانه من الأمنین۔ فلو لا اقوال الاعداء ما کان وجود هذه الالام  
فهیج غضبهم رحمة الله فالحمد لله رب العالمین۔ ۵۳

(۳) لَقَدْ اشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا

(بدر جلد ۹ نمبر ۱۲ مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۰۶ء صفحہ ۳۰۳، حکم جلد ۱۱ نمبر ۱۱ مورخہ ۲۱ مارچ ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۱)

۲۸ مارچ ۱۹۰۶ء (۱) میرا دشمن ہلاک ہو گیا، میں اُسدا لیکھا خدا نال جا پیا سے۔

یعنی مقرب میرا دشمن ہلاک ہو جائے گا اور پھر اس کا خدا سے معاملہ پڑے گا۔

(۲) میرے دشمن ہلاک ہو گئے۔

یعنی اُسندہ مقرب ہلاک ہوں گے۔

(۳) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(۴) کوئی درباری میرے حلقہ اطاعت سے گزرنے نہ پاوے۔ کوئی درباری اس جرم پر سزا

سے محفوظ نہیں رہے گا۔

یعنی جو شخص خدا سے تعلق رکھنے والا ہے اس کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا جب تک وہ مجھے قبول نہ کرے اور جو شخص اس حکم سے لاپرواہ ہے وہ سزا سے محفوظ نہیں رہے گا۔

(۵) سلطان عبد القادر

اس الہام میں میرا نام سلطان عبد القادر رکھا گیا کیونکہ جس طرح سلطان دوسروں پر حکمران اور افسر ہوتا ہے، اسی طرح مجھ کو تمام روحانی درباریوں پر افسری عطا کی گئی ہے یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا تعلق نہیں رہے گا جب تک وہ میری اطاعت نہ کریں اور میری اطاعت کا جو آپنی گردن پر نہ اٹھائیں۔ یہ اسی قسم کا فقرہ ہے جیسا کہ فقرہ کہ قَدِّمِي هَذِهِ عَلَيَّ رَقَبَةً مَكَّنْ وَبِيْ اَدَّبِهْ۔ یہ فقرہ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کا ہے جس کے معنی ہیں کہ ہر ایک ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔

(۶) اِحْسَنَ لَكَ الطَّيِّبَاتِ. قُلْ مَا لَعَلْتُ اِلَّا مَا اَمَرَنِيَّ اللهُ.

(تشریح) اس سلطان عبد القادر کے لئے وہ تمام چیزیں حلال کی گئیں جو پاک ہیں۔ کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو خدا کے حکم کے برخلاف ہو بلکہ وہی کیا جو خدا نے مجھے فرمایا۔

(۷) پھر بعد اس کے کشنی رنگ میں وہ مقبرہ مجھے دکھلایا گیا جس کا نام خدا نے بہشتی مقبرہ رکھا ہے اور

لے ازجہ از مرتب (۲) بے شک تجھے اللہ نے ہم پر ترجیح دی۔

لے (ترجمہ) خدایوں کے ساتھ ہے۔



پھر امام ہو گا۔

كُلُّ مَقَابِرِ الْاَرْضِ لَا تُقَابِلُ هَذِهِ الْاَرْضَ

یعنی زمین ہند کے تمام قبرستان اس زمین سے مقابلہ نہیں کر سکتے یعنی اس زمین کو جو برکتیں دی گئیں وہ برکتیں تمام پنجاب اور ہندوستان میں کسی اور قبرستان کو نہیں دی گئیں۔

(۸) پھر میں نے دیکھا کہ ایک راہ پر چل رہا ہوں اور میرے ساتھ میرا لڑکا مبارک احمد اور اس کی والدہ ہے اور مجھے خیال گزرتا ہے کہ میرا غلام قادر مرحوم بھی (جو میرے بھائی ہیں) میرے ساتھ ہیں اور راہ میں اس قدر زنجور ہیں کہ ٹھیکائی کی طرح زمین پھیل رہے ہیں اور ایک میری تافت کے اندر بیٹھ گیا ہے اور پھر آدھا گیا مگر کسی نے ضرر نہیں پہنچایا اور پھر ہم سب ایک مسجد میں داخل ہو گئے ہیں اور مسجد میں بھی کروڑ ہا زنجور ہیں مگر ہم ان کی شتر سے محفوظ رہے ہیں۔  
(بدرد جلد ۶ نمبر ۱۳ مورخہ ۳۱ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۲- الحکم جلد ۱۱ نمبر ۱۱ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۲)

۲۹ مارچ ۱۹۰۶ء " (۱۱) اے ازلی ابدی خدا! مجھے زندگی کا شربت پلا۔

(۲) اَحَقَّ اللهُ اَمِيْرِي وَلَا تُنْفَكَا مِنْ هَذِهِ الْمَوْحِلَةِ بِ

(۳) دولتِ اعلامِ بذریعہ الہامِ ہر شتی کمرہ میں نزول ہو گا۔

(۴) هٰذَا تَدْمِي جَدًّا اَوْ اِيْحْسَانًا اِلَّا اِيْحْسَانًا "۔

(بدرد جلد ۶ نمبر ۱۳ مورخہ ۳۱ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۲- الحکم جلد ۱۱ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۲۹ مارچ ۱۹۰۶ء " تَوَلَّ اِلَّا كَرَامًا لَهْلَكَ الْمَقَامُ "

۱۔ (ترجمہ) خدا نے میری بات کو سنا کر دیا اور تم دونوں اس مرحلے سے نہیں چھوڑو گے۔

(نوٹ: از مرقبے) الحمد للہ یہ پیشگوئی اخبارِ شمیم پٹننگ کے سینئر ایڈیٹر سوم راج کے طاعون سے ہلاک ہونے سے پوری ہو گئی۔ یہ دونوں اشخاص اپنی گندہ دہانی اور بد زبانی میں قادیان کے آریوں کے لیڈر تھے اور قادیان میں رہ کر سنایت ناپاکی کے ساتھ سلسلہ حق کے برفلان بولتے اور لکھتے رہتے تھے۔ واہد اعظم بالصواب۔ (دیکھئے بدرد ۱۱ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۵)

۲۔ (ترجمہ) نہیں دیکھتے ہم احسان کی جزا بجز احسان کے

۳۔ (ترجمہ) اگر تیرا عزت ہمیں منظور نہ ہوتی تو یہ مقام تباہ ہو جاتا۔

(نوٹ: از مرقبے) بدرد جلد ۶ نمبر ۱۳ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۶ء پر جو یہ الہام دوبارہ چھا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں:-

" تَوَلَّ اِلَّا كَرَامًا لَهْلَكَ الْمَقَامُ يَا كَمَا تَوَلَّ اَخِيْرًا اِلَّا تَابًا لَهْلَكَ الْمَقَامُ "

(ترجمہ) اگر تمام مخلوق سے بتر شخص نہ ہوتا تو یہ مقام تباہ ہو جاتا۔

یا دنیا پرستی یا تصور لطافت کا اس کے اندر نہ ہو تو وہ میری اجازت سے یا میرے بعد انجمن کی تعلق رائے سے اس مقبرہ میں دفن ہو سکتا ہے۔

۱۹۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کی خاص وحی سے رد کیا جائے تو گو وہ وصیتی مال بھی پیش کرے تاہم اس قبرستان میں داخل نہیں ہوگا۔

۲۰۔ میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثنائاً رکھا ہے۔ باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔

یہ شرائط ضروریہ ہیں جو اوپر لکھی گئیں۔ آئندہ اس مقبرہ ہمیشگی میں وہ دفن کیا جائیگا جو ان شرائط کو پورا کرے گا۔ ممکن ہے کہ بعض آدمی جن پر بدگمانی کا مادہ غالب ہو۔

وہ اس کا ردائی میں ہیں اعتراضوں کا نشانہ بناویں اور اس انتظام کو اعتراض نفسانہ پر مبنی سمجھیں یا اس کو بدعت قرار دیں۔ لیکن یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے کام میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بلاشبہ اُس نے ارادہ کیا ہے کہ اس انتظام سے منافق اور مومن میں

تمیز کرے اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اظہار پا کر ہر وقت اس فکر میں پڑتے ہیں کہ دسواں حصہ گل جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں بلکہ اس سے زیادہ

اپنا جوش دکھاتے ہیں وہ اپنی ایمانداری پر ہر گز شکایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنشَأَ لَكُم مِّنْ دُونِ آلِهَتِكُمْ أَزْوَاجًا مِّمَّا كَفَرْتُمْ لِيَعْلَمَ أَنَّكُمْ عِبَادُهُ إِنَّ هِيَ لَأَعْيُنُكُمْ إِنَّا أَنشَأْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا لِّيَعْلَمَ أَنَّكُمْ عِبَادُهُ إِنَّ هِيَ لَأَعْيُنُكُمْ إِنَّا أَنشَأْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا لِّيَعْلَمَ أَنَّكُمْ عِبَادُهُ

کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اسی قدر پر راضی ہو جاؤں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان ہوئے۔ اور ابھی ان کا امتحان نہ کیا جائے، اور یہ امتحان تو کچھ بھی چیز نہیں۔ صحابہ کا امتحان جانوں کے مطالبہ پر کیا گیا۔ اور انہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں دیئے۔ پھر

ایسا گمان کہ کیوں لوہی عام اجازت ہر ایک کو نہ دی جائے کہ وہ اس قبرستان میں دفن کیا جائے کس قدر تعداد حقیقت ہے۔ اگر یہی دوا ہو تو خدا تعالیٰ نے ہر ایک

زمانہ میں امتحان کی کیوں زیادتی؟ وہ ہر ایک زمانہ میں چاہتا رہا کہ حدیث اور طیب

کے کپڑے پھاڑ ڈالوں۔ بے شک ہماری جماعت پر بہت بوجھ ہے اور وہ بہت کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتی ہے۔ مگر جماعت نے ہی سارا بوجھ اٹھانا ہے غیروں سے تو ہم نے کچھ لینا نہیں۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ ہماری جماعت نے بہت بوجھ اٹھایا ہوا ہے لیکن جماعت کی مجموعی حالت کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جماعت نے ابھی اتنی ملی قربانی نہیں کی جتنی پہلی جماعتیں قربانی کرتی رہی ہیں۔ میں نے روم میں وہ مقام دیکھا ہے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے اپنے دشمنوں کی سختیوں اور ظلموں سے بچنے کے لئے رہے۔ میں میل کے قریب وہ مقام بسا ہے۔ وہاں عیسائی اپنے گھریا مال و اموال چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہ فاتحے پر فاتحے اٹھاتے تھے۔ سو وہ کھف میں ان کا نام اصحاب کھف والرقیم رکھا گیا ہے۔ ہم چند گھنٹے کے لئے وہاں گئے۔ مگر کئی دوست وہاں ٹھہرنا برداشت نہ کر سکے حالانکہ وہ لوگ وہاں کئی سال تک دقیانوس کے وقت رہے۔ وہ نہایت تنگ و تاریک گلی مٹی کے عمارتیں سرکاری فوجوں نے ان میں سے جن کو وہاں مارا ان کی قبریں بھی وہیں بنی ہوئی ہیں اور ان پر کتبے لگے ہیں کہ یہ فلاں وقت مارا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کی تھیں جن کا خیال کر کے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑے تھے۔ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہماری قربانیاں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ماننے والوں سے بڑی ہوں۔ مگر کیا اس وقت تک کی ہماری قربانیاں ایسی ہیں؟ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ جو وصیت نہیں کرنا وہ منفق ہے <sup>۱</sup> اور وصیت کا کم از کم چندہ  $1/10$  حصہ مال کا رکھا ہے <sup>۲</sup> جس میں عام چندہ جو وقتاً فوقتاً کرنا پڑے شامل نہیں۔ مگر ہماری جماعت اس وقت اپنی آمد کا  $1/16$  حصہ چندہ میں دیتی ہے اور بعض یہ بھی نہیں دیتے بلکہ اس سے کم شرح سے دیتے ہیں اور بعض بالکل ہی نہیں دیتے مگر باوجود اس کے کہا جاتا ہے ہم پر بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو کام کرنے کا ہم نے تہیہ کیا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر بڑا بوجھ پڑ گیا ان کی حالت اُس شخص کی سی ہے جو ہاتھی اٹھانے کے لئے جائے اور جب اٹھانے لگے تو کہے یہ تو بڑا بوجھ ہے یا اُس شخص کی سی ہے جو اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارا پکڑنا چاہے اور پھر کہے اس سے تو ہاتھ جلتا ہے۔ پس جو قوم یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا کو اس طرح اُزا دینے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح ڈائنامیٹ پہاڑ کو اُزا دیتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ڈائنامیٹ کی طرح پھٹ کر اپنے آپ کو تباہ کر

مجھے میری وفات سے مطلع دی ہے اور مجھے مخاطب کر کے میری زندگی کی نسبت فرمایا کہ " بہت تھوڑے دن وہ گئے ہیں۔ " اور فرمایا کہ " تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھانے کے بعد تمہارا حادثہ آئیگا۔ " یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مزید ہے کہ میری وفات سے پہلے دنیا پر کچھ حوادث پڑیں اور کچھ عجائبات قدرت ظاہر ہوں تا دنیا ایک انقلاب کے لئے تیار ہو جائے اور اس انقلاب کے بعد میری وفات ہو۔

اور مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی۔ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے۔ تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ اور ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا۔ اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان بزرگوار جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ تب نے ہمیشہ مجھے یہ فرمایا کہ جماعت کے لئے ایک قطعہ زمین قبرستان کی غرض سے خریدا جائے لیکن چونکہ موقعہ کی عمدہ زمینیں بہت قیمت سے ملتی تھیں اس لئے یہ غرض مدت دراز تک معرض التوا میں رہی۔ اب انور مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی وفات کے بعد جبکہ میری وفات کی نسبت بھی متواتر وحی الہی ہوئی میں نے مناسب سمجھا کہ قبرستان کا جلدی انتظام کیا جائے۔ اس لئے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے بارخ کے قریب ہے جس کی قیمت ہزار روپیہ سے کم نہیں اس کام کے لئے تجویز کی۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے درحقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی۔ اور خدا کے لئے ہوئے اور پاک تبدیلی اپنے اللہ پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا۔ آمین یا مہربان العالمین۔

پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا اس زمین کو میری جماعت میں سے پاک لوگوں

۲۱



وئی جائے کہ ضروری ہوگا کہ وہ سارٹھیکٹ انجن کو دکھایا جائے اور انجن کی ہدایت اور موقعہ نمائی سے وہ میت اس موقعہ میں دفن کی جائے جو انجن نے اس کے لئے تجویز کیا ہے۔  
۴۔ اس قبرستان میں بجز کسی خاص صورت کے جو انجن تجویز کرے تا بلخ بچے دفن نہیں ہونگے کیونکہ وہ ہمیشتی ہیں۔ اور نہ اس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسرا عزیز دفن ہوگا جب تک وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالہ الوصیت کو پورا نہ کرے۔

۵۔ ہر ایک میت جو قادیان کی زمین میں فوت نہیں ہوئی ان کو بجز صندوق قلیان میں لانا جائز ہوگا۔ اور نیز ضروری ہوگا کہ کم سے کم ایک ماہ پہلے اطلاع دیں تاکہ اگر انجن کو اتفاقی موانع قبرستان کے متعلق پیش آئے ہوں تو ان کو دود کر کے عبادت دے۔

۶۔ اگر کوئی صاحبِ خدا نخواستہ طاعون کی مرض سے فوت ہوں جنہوں نے رسالہ الوصیت کے تمام شرائط پورے کر دیئے ہوں ان کی نسبت یہ ضروری حکم ہے کہ وہ دو برس تک صندوق میں رکھ کر کسی علیحدہ مکان میں امانت کے طور پر دفن کئے جائیں۔ اور دو برس کے بعد ایسے موسم میں لائے جائیں کہ ان کے فوت ہونے کے مقام اور قلیان میں طاعون نہ ہو۔

۷۔ یاد رہے کہ صورت یہ کافی نہ ہوگا کہ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کا دسواں حصہ دیا جاوے بلکہ ضروری ہوگا کہ ایسا وصیت کرنے والا پہلا تک اس کے لئے ممکن ہے پابند احکام اسلام ہو اور تقویٰ اور طہارت کے امور میں کوشش کرنے والا ہو اور مسلمان خدا کو ایک جاننے والا اور اس کے رسول پر سچا ایمان لانے والا ہو۔ اور نیز حقوق عباد غصب کرنے والا نہ ہو۔

۸۔ اگر کوئی صاحبِ دسواں حصہ جائیداد کی وصیت کریں اور اتفاقاً ان کی موت ایسی ہو کہ مثلاً کسی صریح میں غرق ہو کر ان کا انتقال ہو یا کسی اور ملک میں وفات پادیں جہاں میت کو لانا مستعد ہو تو ان کی وصیت قائم رہے گی اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا

کہ گویا وہ اسی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں۔ لہذا جائز ہوگا کہ ٹن کی یادگار میں اسی قبرستان میں ایک کتبہ اینٹ یا پتھر پر لکھ کر نصب کیا جائے اور اس پر ذائقہات لکھے جائیں۔

۹۔ انجمن جس کے ہاتھ میں ایسا لہریہ ہوگا۔ اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ بجز اغراضِ رسلہ احمدیہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ خرچ کرے اور ان اغراض میں سے سب سے مقدم اشاعتِ اسلام ہوگی۔ اور جائز ہوگا کہ انجمن بالاتفاق اسے اس لہریہ کو تجارت کے ذریعہ سے ترقی دے۔

۱۰۔ انجمن کے تمام ممبر ایسے ہونگے جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں اور بارہا طبع اور دیانت دار ہوں۔ اور اگر انہما کسی کی نسبت یہ محسوس ہوگا کہ وہ بارہا طبع نہیں ہے یا یہ کہ وہ دیانت دار نہیں یا یہ کہ وہ ایک چال باز ہے اور دنیا کی ٹوٹی اپنے اندر رکھتا ہے تو انجمن کا فرض ہوگا کہ بلا توقع ایسے شخص کو اپنی انجمن سے خارج کرے اور اس کی جگہ لہذا مقرر کرے۔

۱۱۔ اگر وصیتی مال کے متعلق کوئی جھگڑا پیش آوے تو اس جھگڑے کی پیروی میں جو اخراجات ہوں وہ تمام وصیتی مالوں میں سے دیئے جائیں گے۔

۱۲۔ اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر کسی اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے منکر ہو جائے یا اس سلسلہ سے روگردان ہو جائے تو گوانجمن نے قانونی طور پر اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا۔ کیونکہ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں اور خدا کے نزدیک ایسا مال مکروہ اور مذکورہ کرنے کے لائق ہے۔

۱۳۔ چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے اس لئے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہئیں۔

۱۴ - جائز ہوگا کہ اس انجمن کی تائید اور نصرت کے لئے دود دراز ملکوں میں اور انجمنیں ہوں جو اس کی ہدایت کے تابع ہوں۔ اور جائز ہوگا کہ اگر وہ ایسے ملک میں ہوں کہ وہاں سے میت کو لانا مستعد ہے تو اسی جگہ میت کو دفن کر دیں۔ بعد ثواب سے حصہ ہانے کی غرض سے ایسا شخص قبل از وفات اپنے مال کے دسویں حصہ کی وصیت کرے اور اس وصیتی مال پر قبضہ کرنا اس انجمن کا کام ہوگا جو اس ملک میں ہے۔ اور بہتر ہوگا کہ وہ روپیہ اسی ملک کی اغراض رضیہ کے لئے خرچ ہو اور جائز ہوگا کہ کوئی ضرورت محسوس کر کے وہ روپیہ اس انجمن کو دیا جائے جس کا ہیڈ کوارٹر یعنی مرکز مقامی قادیان ہوگا۔

۱۵ - یہ ضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا ہمیشہ قادیان رہے۔ کیونکہ خدا نے اس مقام کو برکت دی ہے۔ اور جائز ہوگا کہ وہ آئندہ ضرورتیں محسوس کر کے اس کام کے لئے کوئی کافی مکان تیار کریں۔

۱۶ - انجمن میں کم سے کم ہمیشہ ایسے دو ممبر رہنے چاہئیں جو مسلم قرآن اور حدیث سے بخوبی واقف ہوں اور تحصیل علم عربی رکھتے ہوں۔ اور سلسلہ احمدیہ کی کتابوں کو یاد رکھتے ہوں۔

۱۷ - اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص جو رسالہ الوصیت کی رو سے وصیت کرتا ہے مجذوم ہو جس کی جسمانی حالت اس لائق نہ ہو جو وہ اس قبرستان میں لایا جائے تو ایسا شخص حسب مصالح ظاہر مناسب نہیں ہے کہ اس قبرستان میں لایا جائے۔ لیکن اگر اپنی وصیت پر قائم ہوگا تو اس کو وہی درجہ ملے گا جیسا کہ دفن ہونے والے کو۔

۱۸ - اگر کوئی کچھ بھی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ نہ رکھتا ہو اور بائیں ہمہ ثابت ہو کہ وہ ایک صالح و دلشس ہے اور متقی اور خالص مومن ہے۔ اور کوئی حصہ نفع



یا دنیا پرستی یا تصور طاعت کا اس کے اندر نہ ہو تو وہ میری اجازت سے یا میرے بعد انجمن کی تعلق رائے سے اس مقبرہ میں دفن ہو سکتا ہے۔

۱۹۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کی خاص وحی سے رو کیا جائے تو گو وہ وصیتی مال بھی پیش کرے تاہم اس قبرستان میں داخل نہیں ہوگا۔

۲۰۔ میری نسبت امیرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے۔ باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔

یہ شرائط ضروریہ ہیں جو اوپر لکھی گئیں۔ آئندہ اس مقبرہ بہشتی میں وہ دفن کیا جائیگا جو ان شرائط کو پورا کرے گا۔ ممکن ہے کہ بعض آدمی جن پر بدگمانی کا مادہ غالب

ہو۔ وہ اس کارروائی میں ہمیں اعتراضوں کا نشانہ بناویں اور اس انتظام کو اعتراض نفسانیہ پر معنی سمجھیں یا اس کو بدعت قرار دیں۔ لیکن یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے کام میں وہ جو چاہتا

ہے کرتا ہے۔ بلاشبہ اُس نے ارادہ کیا ہے کہ اس انتظام سے منافق اور مومن میں تمیز کرے اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اطلاع پا کر بلا توقف

اس فکر میں پڑتے ہیں کہ: ہواں حصہ کس جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں بلکہ اس سے زیادہ اپنا جو کس دکھاتے ہیں وہ اپنی ایمانداری پر جہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

الْحَمْدُ۔ أَحْسِبَ لِلنَّاسِ أَنْ يُشْرِكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ

کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اسی قسم پر راضی ہو جاؤں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے۔ اور ابھی ان کا امتحان نہ کیا جائے، اور یہ امتحان تو کچھ بھی چیز نہیں۔ صحابہؓ کا

امتحان جانوں کے مطالبہ پر کیا گیا۔ اور انہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں دیئے۔ پھر ایسا گمان کہ کیوں ہو نہیں عام اجازت ہر ایک کو نہ دی جائے کہ وہ اس قبرستان میں

دفن کیا جائے کس قدر تعداد حقیقت ہے۔ اگر یہی دوا ہو تو خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانہ میں امتحان کی کئی زیاد دلی؛ وہ ہر ایک زمانہ میں چاہتا رہا کہ خبیث اور طیب

۱۳

بقیہ ترجمہ یہ ہے :- اور تم ایک گڑھے کے کنارہ پر تھے خدا نے تمہیں اس سے نجات دی اور یہ ابتداء سے مقدر تھا۔ خدا کی باتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور وہ ہنسی کر فریادوں کے لئے کافی ہو گا۔ یہ تمام کاروبار خدا کی رحمت سے ہے۔ وہ اپنی نعمت تیرے پر پوری کرے گا تاکہ لوگوں کے لئے نشان ہو۔ انکو کہدے کہ اگر خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت رکھے۔ اور ان کو کہدے کہ میرے پاس میری سچائی پر خدا کی گواہی ہے پس کیا تم خدا کی گواہی قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اور ان کو کہدے کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو اللہ میں اپنی جگہ پر کرتا ہوں پھر تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ خدا نے تجلی فرمائی ہے کہ تا تم پر رحم کرے۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو وہ بھی منہ پھیرے گا اور سچائی کے مخالفت ہمیشہ کے زندان میں رہیں گے۔ تمہیں یہ لوگ دڑاتے ہیں۔ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا۔ خدا عرش پر سے تیری تعریف کر رہا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے مونہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ مگر خدا اس نور کو نہیں چھوڑے گا جب تک پورا نہ کرے اگرچہ

شاگرد یا مرید نہ ہو۔ اور خدا کی ایک خاص تجلی تعلیمِ لدنی کے نیچے دائمی طور پر نشوونما پاتا ہو جو روح القدس کے ہر ایک تشل سے بڑھ کر ہے۔ اور ایسی تعلیم پانا صفتِ محمدی ہے۔ اور اسی کی طرف آیت عظماء شہداء القوی میں اشارہ ہے اور اس فیض کے دائمی اور غیر منقطع ہونے کی طرف آیت ما یسطق من العوی ان هو الا وحی یوحی میں اشارہ ہے اور سورج کے مفہوم میں یہ معنی ماخوذ میں جو دائمی طور پر وہ روح القدس ایکے شامل حال ہو جو شدید القوی کے درجے کے ہے کیونکہ روح القدس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اپنی منزلِ علیہ میں ہو کر انسانوں کو راستے کا طرز بنا رہے مگر شدید القوی راستے کا اعلیٰ رنگ منزلِ علیہ میں ہو کر انسانوں کے دلوں میں پڑھانا ہے۔ منہ

لہ النجم: ۲ لہ النجم: ۱۹



۹۷  
 اے مرے پیارے مرے عسین مرے پروردگار  
 وہ زباں لاؤں کہاں جس سے ہو یہ کاویا  
 کر دیا دشمن کو اک عمل سے مغلوب اور خوار  
 مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار  
 کس عمل پر مجھ کو دی ہے نصرت قرب و جوار  
 ہوں بشر کی جائے نصرت اور انسانوں کی عار  
 دہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے نہ مستکار  
 پر نہ چھوڑا ساتھ تو نے اے میرے عا برار  
 بس ہے تو میرے لئے بھوکو نہیں تھو بن بکار  
 پھر خدا جانے کہاں یہ پھینکے گی جانی خیار  
 میں نہیں پانا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار  
 گو میں تیری راہ میں مشل طفل شیر خوار  
 تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار غمگسار  
 میں تو نالائق بھی ہو کر گیا مدگہ میں بار  
 جن کا شکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار  
 چاند لود سوچ مجھے میرے لئے تار یک و تار  
 تادہ پورے ہوں نشان جہیں چائی کا مدار  
 ساری تدبیروں کا خاکہ اڑ گیا مثل خیار  
 جیسے جیسے برق کا اک دم میں ہر جا انتشار

اے خدا اے کارساز و حیب پوش و کردگار  
 کس طرح تیرا گردن اے خدا ملن شکر و سپاس  
 بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ  
 کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا  
 تیرے کانوں مجھے میرے گناہوں سے میرے کریم  
 کرم عاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں  
 یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند  
 دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب میں پہلے  
 اے مرے یار مگانہ اے مری جاں کی پند  
 میں تو مر کر خاک ہوتا اگر نہ ہوتا تیرا لطف  
 اے خدا ہو تیری راہ میں میرا جسم جان و دل  
 ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں سیر و ان کھلے  
 نسل انسان میں نہیں دیکھی دنیا جو تجھ میں ہے  
 لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول  
 اس قدر مجھ پر ہو میں تیری عنایات و کرم  
 آسمان میرے لئے تو نے بنایا اک گواہ  
 تو نے عالموں کو بھی بھیجا میری نصرت کیلئے  
 ہو گئے بیکلاسب جیلے جب آئی وہ بلا  
 سرزمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی

خلق جو پیناہ و سایہ کس  
ہست یا دت کلید ہر کار سے  
ہر کہ نالہ بدر گہت بہ نسیاز  
لطف تو ترک طالبان نکند  
ہر کہ باذات تو سر سے دارد  
زینکہ چوں کار بر تو بگذارد  
ذات پاکت بس ست یار یکے  
ہر کہ پوشیدہ با تو در سازد  
ہر کہ گیرد درت بصدق و حضور  
ہر کہ راحت گرفت کارش شد  
ہر کہ راہ تو جست یافته است  
زانکہ از ظلی قربت تو رمید  
اسے خداوند من گناہم بخش  
روشنی بخش در دل و جانم  
دستانی و دلربائی گمن  
در دو عالم مرا عزیز تویی

وال پناہ ہمہ تو مستی و بس  
خاطرے بے تو خاطر آزار سے  
بخت گم کردہ را بسید باز  
کس بکار رحمت زبیاں نکند  
پشت بر روئے دیگر سے دارد  
رو بہ اغیار از چہ رو آرد  
دل یکے جان یکے نگار یکے  
رحمت آشکار بنواز د  
از در و بام او بسیار نور  
صد امید سے بروز نگارش شد  
تافت آل رو کہ سر نہافتہ است  
بر در ہر کہ رفت ذلت دید  
سوئے در گاہ خویش را ہم بخش  
پاک کن از گناہ پینہانم  
بہ نگاہ گرہ کشائی گن  
و آنچه میخواستیم از تو نیز تویی

لاکھ لاکھ حمد اور تعریف اس قادر مطلق کی ذات کے لائق ہے کہ جس نے ساری  
ارواح اور اجسام بغیر کسی مادہ اور ہیولی کے اپنے ہی حکم اور امر سے پیدا کر کے اپنی  
قدرتِ عظیمہ کا نمونہ دکھلایا اور تمام نفوسِ قدسیہ انبیا کو بغیر کسی استاد اور  
اتالیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فرما کر اپنے فیوضِ قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا  
سبحان اللہ کیا رحمن اور متان وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر کسی استحقاق ہمارے کے

کیونکہ بٹالہ اور گورداسپور میں مشنری صاحب موجود ہیں اور نہ اس نے کوئی خاص وجہ بتلائی کہ وہ کیوں خاص کر میرے پاس آیا ہے۔ جب کہ اور بھی مشنری صاحب موجود ہیں۔ اس نے صرف یہ کہا کہ اتفاقاً ایک شخص کے آپ کی کوٹھی بتلانے پر آیا ہوں۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کراچی ریل کا کہاں سے لیا تو وہ بتلانہ سکالین باتوں پر ہماری خاص توجہ غور کے واسطے ہوئی اور غور طلب معاملہ ہم نے سمجھا اور یہ میرے دل میں گزرا کہ اس کے بیانات لیکچرارم کے قاتل کے بیانات سے عجیب تشبیہ رکھتے ہیں۔ پس ہم نے اس کی طرف خاص دھیان رکھا۔ پس اس سے گفتگو کر کے ہم نے قصہ مذکور کیا۔ اس شخص نے واقفیت دین عسوی سے ظاہر کی ہم نے پوچھا کہاں سے یہ واقفیت حاصل کی۔ اس نے کہا کہ قادیان میں ایک عیسائی بٹالہ کا رہتا ہے جو مسلمان ہو کر مرزا صاحب کے یہاں رہتا ہے نام اس کا ساتیاں ہے۔ اس کے پاس انجیل مقدس تھی اور مطالعہ کیا کرتا تھا۔ جہاں سے مجھے شوق و رغبت ہوئی۔ میں نے اس نوجوان کو کہاں سنگم گھسٹ والے شفا خانہ میں بھیج دیا۔ کہ وہاں طالب علموں کے پاس رہے اور تعلیم پانے۔ اور ہم نے اس کو بوتلوں کے صاف کرنے وغیرہ کا کام دیا۔ قریباً پانچ چھ یوم تک وہ اس جگہ رہا۔ اول اس میں قابل توجہ یہ بات تھی کہ وہ مرزا صاحب

اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فدی خواں معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل بٹھی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے متروک کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی اس لئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوت جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نثر ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا

۱۹۲

کے حق میں بہت ہی برا بکتا تھا۔ دوہم وہ بپتسمہ لینے کی از حد خواہش رکھتا تھا اور سوم وہ بلاوجہ اور بلاطلبی ہمارے کوشش پر اگر گشت اور سیر اور ملاقات چاہتا تھا اور بارہو ویکے سال کی عمر میں وہ محمدی ہوا تھا۔ اپنی گوشت (برہمن) سے ناواقف تھا اور ناکلوں سے ناواقف تھا اور مختلف اشخاص سے مختلف قسم کی اپنی نسبت کہانی بیان کی۔ مثلاً ایک شخص سے اُس نے اپنے دوست ایسز اس نام کو بجائے کر پارام کے بتلایا۔ بعد انقضائے پانچ روز ہم نے اپنے اسپتال واقع بیاس پر اُسے بھیج دیا۔ وہاں بھی میرے طالب علم پڑھتے ہیں جاتے ہیں اس نے ایک خط مولوی نور الدین کے نام جو میرزا صاحب کا داہنے ہاتھ کا فرشتہ ہے لکھا یہ اسی شخص کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ خط اُس نے لکھا ہے۔ مطلب اس خط کا یہ تھا کہ میں عیسائی ہونے لگا ہوں آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ یہ مطلب بھی اُس کی زبانی ہی معلوم ہوا تھا اور دیگر شہادت بھی ہے۔ باعث خط لکھنے کا یہ تھا کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم مرزا صاحب کو لکھیں کہ یہ شخص عیسائی ہونا چاہتا ہے۔ کل کو یہ نہ کہیں کہ تم اُن کے چور ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں خود ہی خط لکھتا ہوں۔ اور اس نے خط لکھ کر بیرون ڈاک میں ڈالا۔ اور مجھے خط کے ذریعہ سے خط لکھنے سے منع کیا تھا جب تک میرے بپتسمہ کا وقت ہو۔ وہ خط

تعلق ہوا۔ ان کا ہم گل علی شاہ تھا۔ بن کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں ٹھکانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مردوبہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے جاہ حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے عاقل طبیب تھے اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ نہایت ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آوے اور نیز اُن کا یہ بھی مطلب تھا کہ میں اس شغل سے الگ

تعلق ہوا۔





وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ ۝۱۰۱۱ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھ  
 بیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حضرت علیؑ اور حضرت موسیٰ  
 مکتوبوں میں بیٹھے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی۔  
 غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا خدا آپ  
 ہی استاد ہوا۔ اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو اِقْرَأْ کہہا۔ یعنی پڑھ۔ اور کسی نے نہیں کہا۔  
 اس لئے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے بیوں کے دینی  
 معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی ہوئے۔ سو آنے والے کا نام جو ہدی رکھا گیا۔ سو  
 اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کریگا۔ اور قرآن اور حدیث  
 میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے۔  
 کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا  
 ہے۔ یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ پس یہی ہدایت ہے جو نبوت محمدیہ  
 کے منہلج پر مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اور امرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔ اور  
 جس طرح مذکورہ بالا وجہ سے آنے والا ہدی کہلائے گا اسی طرح وہ سچ بھی کہلائیگا کیونکہ  
 اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی۔ لہذا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی  
 کہلائیگا اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اپنے خاصہ ہدایت کو اس کے اندر چھوٹا لگا۔

۱۰۱۱۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد بھی ہے اور اس لئے خدا نے عبد نام رکھا کہ اصل عبودیت کا اختراع اور ذل ہے اور  
 عبودیت کی حالت کاملہ وہ ہے جس میں کسی قسم کا غلو اور بندگی اور تعجب نہ رہے اور صاحب اس حالت کا اپنی عملی  
 تکمیل محض خدا کی طرف دیکھے۔ اور کوئی ہاتھ در بیان نہ دیکھے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سور

۱۰۱۱۔ یہ مرتبہ عبودیت کاملہ جو انسان اپنی عملی تکمیل محض خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھے بجز اس ہدی کالی کی جس کی عملی تکمیل تمام  
 وکل محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوئی ہو دوسرے کو پیش نہیں آسکتا کیونکہ اپنی جو وجہ اور دلچسپی کا اثر جوہر ایک  
 ایسا فیصل پیدا کرتا ہے کہ جو عبودیت نامہ کے منافی ہے۔ اس لئے مرتبہ عبودیت کاملہ بھی بوجہ اس کے جو مرتبہ ہدایت کاملہ  
 کے تابع ہے بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کو بوجہ کمال حاصل نہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه  
 من یشاء فاشہدوا اننا نقول ان محمدًا عبد اللہ ورسولہ۔ متفقہ

من جعلتها هذا الهام، أعنى يا عيسى انى متوفيك ورافحك الى ومطهرك من  
الذين كفروا وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة،  
وان الله قد سماني في هذا عيسى؛ ومن جعلتها الهام آخرها طيبى ربي فيه  
وقال انى خلقتك من جوهري عيسى وانك وعيسى من جوهر واحد وكشيتى  
واحد؛ ومن جعلتها الهام سمي فيه كل من خالفنى من العلماء اليهود و  
النصارى. ثم ما ألهمت الى عشر سنين بمثل هذه الالهامات وما كنت  
أدرى انى أومر بعد هذه المدة الطويلة وأستن مسيحاً موعوداً من الله تعالى  
بل كنت خلت ان المسيح نازل من السماء كما هو مركزى في مدارك النجوم؛ ولكنى  
كنت اقول فى نفسى تعجباً ان الله ليم سمانى عيسى ابن مريم فى الهامه المتواتر  
المتتابع ولیم قال انك وانه من جوهر واحد، ولیم سمي المخالفين اليهود  
والنصارى؛ فظهرت على معانى تلك الالهامات والاشارات بعد

وعن ابن مسعود لا يأتى مائة سنة وعلى الارض نفس منقوسة اليوم رواه مسلم،  
وهكذا ذكر البخارى فى صحيحه والمضمون واحد لا حاجة الى الاعادة. فوجب  
من هذا على كل مؤمن ان يؤمن بموت الرجال بعد المائة من زمان رسول الله  
صلى الله عليه وسلم والا فكيف يمكن التخلف فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
بوحى من الله تعالى مؤكداً بقسمه، والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تأويل  
فيه ولا استثناء، والا فأي فائدة كانت فى ذكر القسم؛ فتدبر كالمفتشين المحققين.  
واما تطبيق هذين الحديثين فلا يمكن الا بعد تأويل حديث الدجال وجعله من  
قبيل الاستحسان، فنقول ان حديث خروج الدجال يدل على خروج طائفة  
الكذابين فى آخر الزمان من قوم النصارى، وفى الحديث اشارة الى انهم يشابهون  
آباءهم المتقدمين فى مكرهم وخذيعتهم وانواع فتنتهم وحوصهم على اضلال الناس  
كانهم هم، الا ان آباءهم كانوا مقيدين بالسلاسل والاعلال ولكن هؤلاء يخرجون  
من ذلك السجن ويضع الله عنهم اغلالهم فيعيشون يمينا وشمالا ويفسدون فى الارض

کے ہیں میٹر آئے ہیں اور اس زمانہ میں جس ہوتے ہیں وہ پہلے نہیں ہوتے اور نہ مذاہب کا اس قدر زور ہوا ہے۔  
یہ نشانات اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ لہٰذا ہمیں اپنی پیشگوئیاں کیا حیثیت رکھ سکتی ہیں۔

فرمایا: جو توئی خدا تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں۔  
پتے موحی خدا و آدمی سے کا لے سکتے ہیں۔ ان سب سے بجز پتے موحی کے کوئی دوسرا کام نہیں

لے سکتا۔ شیعوں ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اپنی ساری کوششوں کا منہ ہار امام حسینؑ کو سمجھ بیٹھے۔ ان کو رو لینا اور باہر کر لینا کافی قرار دے لیا۔ ہمارے اُستاد ایک شیعوں تھے۔ گل علی شاہ، ان کا نام تھا۔ کبھی نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ مُنہ تک نہ دھوتے تھے۔

(اس پر نواب صاحب نے آپ کی تائید میں بیان کیا کہ وہ میرے والد صاحب کے بھی اُستاد تھے اور وہیں بنا کر سکتے تھے، اور یہ واقعی پتے کہ ان کے مسجد میں غیر آباد ہوتی تھی۔) ہمارے مسجد کا ایسا ہی حال تھا اور اب خدا کے فضل سے وہ آباد ہو گئی ہے اور لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے نوب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا:

”وہ بھی کبھی آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں سے تین تین مہینے کی رخصت لے کر باہر کو لے جایا کرتے تھے۔“

میں نے غائبانہ بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اور میری فراست مجھے یہی بتاتی ہے۔ یہ نوب صاحب کی مسجد کے آباد ہونے اور نمازیوں کے آنے کے ذکر پر فرمایا، کہ راستگی کو قبول کرنا اور پھر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈر جانا اور اس کی طرف رجوع کرنا آپ کے اور آپ کی اولاد کے قبیل کی نشانی ہے۔ بجز اس کے کہ انسان سچائی سے خدا کی طرف آئے۔ خدا کسی کی پرواہ نہیں کرنا۔ خواہ وہ کون ہو۔ مبارک دن ہمیشہ نیک بخت کو ملے ہیں۔ یہ آثار سلاحت، تقویٰ اور خدا ترسی کے جو آپ میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔

فرمایا: جمل طور پر لکھا ہے کہ خاٹون ترقی پر ہے۔ میرا ارادہ ہے  
مخالفت ہمیشہ سچوں کی ہوتی ہے اور مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک بار پھر خاٹون کے

متعلق ایک مشہور دوسے دیا جاوے کہ لوگ رجوع کریں اور سچی پائیزگی اور تبدیلی پیدا کریں، دیکھ لیا ہے اور سنت اللہ اسی طرح پڑجاری ہے کہ جس قدر زور ہوا ہے، سچوں پر ہی ہوا ہے، ان کی مخالفت میں ساری حالتیں غریب کی گئی ہیں۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کتنا زور لگایا گیا۔ برخلاف اس کے سیدہ کذاب

سیرۃ المہدی جلد سوم

۲۶۵

لوگوں نے اسی وقت فلا سفر سے معافی مانگی اور اس کو دودھ پلایا۔  
 خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس واقعہ کا ذکر روایت لبر ۴۲ میں بھی جو چکا ہے اور مارنے کی وجہی  
 کہ فلا سفر صاحب مزہمت تھے۔ اور جو دل میں آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے اور نہ ہی بزرگوں کے احترام کا  
 خیال نہیں رکھتے تھے چنانچہ کسی ایسی ہی حرکت پر بعض لوگ انہیں مار بیٹھے تھے۔ مگر حضرت مسیح  
 موعود نے اُسے پسند نہیں فرمایا۔ آجکل فلا سفر صاحب اسی قسم کی حرکات کی وجہ سے جماعت سے خارج  
 ہو چکے ہیں۔

۸۹۱ بسم اللہ الرحمن الرحیم :- قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان  
 کیا کہ میں نے پہلی مرتبہ دسمبر ۱۹۱۲ء میں بمقام علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت  
 ستید عبداللطیف صاحب شہیدہ کابل ہی ان ایام میں قادیان میں مقیم تھے۔ حضرت اقدس ان  
 سے قادیان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔

۸۹۲ بسم اللہ الرحمن الرحیم :- قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا  
 کہ جب میں پہلی مرتبہ قادیان آیا۔ تو حضرت اقدس ان ایام میں انارک علیہ السلام صاحب کی اقتدا  
 میں نماز پڑھا کرتے تھے اور مسجد مبارک میں جو گھر کی طرف کو ایک گھر کی کی طرز کا دروازہ ہے اُسکے  
 قریب دیوار کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بحالت نماز ماتھے سینہ پر باندھتے تھے اور اکثر اوقات  
 نماز مغرب سے عشاء تک سجد کے اندر اجاب میں جلوہ افروز ہو کر مختلف مسائل پر گفتگو فرماتے تھے۔

۸۹۳ بسم اللہ الرحمن الرحیم :- قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ  
 ایک زمانہ میں حضرت اقدس حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے ساتھ اس کو ٹھہری میں نماز کے لئے گھر  
 ہوا کرتے تھے جو مسجد مبارک میں بجانب مغرب تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جب مسجد مبارک وسیع کی گئی تو  
 وہ کو ٹھہری منہدم کر دی گئی۔ اس کو ٹھہری کے اندر حضرت صاحب کے کھڑے ہونے کی وجہ  
 اعلیٰ یہ تھی کہ قاضی یار محمد صاحب حضرت اقدس کو نماز میں تکلیف دیتے تھے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ قاضی یار محمد صاحب بہت مخلص آدمی تھے۔ مگر ان کے دماغ میں  
 کچھ غلط تھا جس کی وجہ سے ایک زمانہ میں ان کا یہ طریق ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب کے جسم کو ٹھونکنے  
 لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے۔

۱۲۲

کہ میں آپ کے افتراء کی وجہ سے کسی انسانی عدالت میں آپ پر نالیش نہیں کرونگا۔ سو میں کہتا ہوں کہ میں نہ صرف انسانی عدالت میں نالیش کرونگا بلکہ میں خدا کی عدالت میں بھی نالیش نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ آپ نے محض جھوٹے اور قابلِ شرم الزام میرے پر لگائے ہیں اور مجھے ناکردہ گناہ دکھ دیئے ہیں۔ اس لئے میں ہرگز یقین نہیں رکھتا کہ میں اس وقت سے پہلے مہروں جب تک کہ میرا خدا ان جھوٹے الزاموں سے مجھے بری کر کے آپ کا کاذب ہونا ثابت نہ کرے۔ اَلَا يَانَ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ۔ اسی کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر مجھ کو ۱۱ دسمبر ۱۹۷۹ء روز پنجشنبہ کو یہ الہام ہوا۔

برمقام فلک شدہ یارب گرامید سے دہم مدارعجب۔ بعد ۱۱۔  
انشاء اللہ تعالیٰ۔ مگر بہر حال ایک نشان میری بریت کے لئے اس مدت میں ظاہر ہوگا جو آپ کو سخت شرمندہ کریگا۔ خدا کی کلام پر ہنسی نہ کرو۔ پہاڑ ٹل جاتے ہیں۔ دریا خشک ہو سکتے ہیں۔ موسم بدل جاتے ہیں مگر خدا کا کلام نہیں بدلتا جب تک پورا نہ ہو لے۔

اسی طرح میری کتاب اربعین نمبر ۳ صفحہ ۱۹ میں بالوالہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے  
یریدون ان یرواطمثک و اللہ یرید ان یریک انعامہ۔ الا نعامات المتواترة۔  
انت منی بمنزلۃ اولادی۔ واللہ ولیک وربک فقلنا یا نارکوفی بردا۔  
یعنی بالوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاک پر اطلاع پائے مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہونگے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے جیسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔ یعنی حیض ایک ناپاک چیز ہے مگر بچہ کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی ناپاکی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہے اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے۔ یہی طمٹ انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر صوفیہ کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو انسان کوئی ترقی نہ کر سکتا۔ آدم کی ترقیات کا بھی یہی موجب ہوا۔ اسی وجہ سے ہر ایک نبی محضی کمزوریوں پر نظر کر کے استغفار

یہ حوالہ صفحہ 276 پر درج ہے

تتر حقیقت الوحی صفحہ 581، مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 581 از مرزا قادیانی

ظاہر ہے کہ بیچ الجبل فی سم النجیاط اشارے کے طور پر ہے۔ اور مدراج میں سے ایک درجے کی علامت کتا یہ مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جیسا کہ حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی۔ کہ گویا آپ عودت میں۔ اور اللہ تعالیٰ اسے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا بچنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے پس جن لوگوں کو یہ راہ رقعہ جو میں نے حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا تھا اور اس میں اپنی کشفی حالت ظاہر کی تھی میرے جنون کی دلیل نظر آتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور قرآن کے الفاظ ولین حنات مقام دید جن جن من دد نھما جنن پیا کی کسوٹی پر اپنے ایمان کو پرکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ڈرنے والے کو دو جنت عطا فرمائے گا وعدہ فرماتا ہے جس کی تعریف درمیانی فقرات ہیں۔ یعنی اون میں چٹے ہونگے۔ لوگو اور مرجان ہونگے سرہانے ہونگے وغیرہ وغیرہ اظہار میں فرماتا ہے کہ اون دو جنتوں سے دوسے دو جنت اور بھی ہیں یعنی جیسے مرنے کے بعد اون کو دو جنت ملیں گے ایسے ہی اسی دلی زندگی میں ہی دو جنت ملیں گے اور الفاظ من کان فی حدہ اعلم انھو فی الاحقۃ اعلمی۔ اس کی تشریح ہے۔

اب یہاں صاحب اور مولیٰ محمد علی صاحب ہربانی فرما کر کھول کر لکھیں کہ ان کو دو جنت کون سے حاصل ہیں۔ یونہی اظہار کر دینا تو بڑا آسان ہے خود کسی صنعت کے موصوف بیکر بنا دیں۔ اب میں مختصر طور پر اون خوابوں اور کشفوں کو ظاہر کرتا ہوں جو بطور پیشنگوئی ظاہر ہوئے اور ہونے والے ہیں ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پشاور کے گرد کسی سلطان بادشاہ کی چھٹ چھاڑ ہو رہی ہے انجام کچھ معلوم نہ ہوا تھا۔ مگر تاہم میں نے

درست ہے۔ لیکن ہم لوگ جو خدا کے رسول کو ماتمہ لگاتے اور بوسہ دیتے اور مسخیاں بھرتے ہیں۔  
 جتنے کہ میں تو اس قدر بے ادب ہوں کہ جب نماز میں حضرت صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو اس  
 کی پیرا نہیں کرتا کہ نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں۔ سو نہ صاحب کہنی جو بھی آپ کے ساتھ لگ سکے لگاتا  
 ہوں۔ کیا دوزخ کی آگ ہم تو بھی چھوئے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ بھائی صاحب بات  
 تو ٹھیک ہے لیکن تابعداری شرط ہے۔ اللہ اللہ یہ اس وقت کی حالت ہے۔ اور اب ڈاکٹر صاحب  
 کی یہ حالت ہے کہ حضرت صاحب کے جگر گوشہ اور خلیفہ وقت سے مخرف ہو رہے ہیں۔

۹۰۲  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان  
 کیا کہ جوہ فی سنیہ کا واقعہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام گورداسپور کی کچھری سے  
 باہر تشریف لائے۔ اور خاکسار سے کہا کہ انتظام کرو کہ نماز پڑھ لیں۔ خاکسار نے ایک دُری  
 نہایت شوق سے اپنی چادر پر بغرض جانما ڈال دی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی  
 اقتداء میں نماز ظہر و عصر ادا کی۔ اس وقت غالباً ہم بیس احمدی مقتدی تھے۔ نماز سے فارغ  
 ہونے پر معلوم ہوا کہ وہ دُری حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی تھی۔ اور انہوں نے چلے لی۔


۹۰۳  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ قدیم مسجد  
 مبارک میں حضور علیہ السلام نماز جماعت میں مہینہ پہلی صنف کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ  
 کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آجکل موجود مسجد مبارک کی دوسری صنف  
 شروع ہوتی ہے۔ یعنی بیت الفلک کی کھڑکی کے ساتھ ہی مغربی طرف۔ امام اگلے حجرہ میں کھڑا ہوتا  
 تھا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص پر جنون کا غلبہ ہوا۔ اور وہ حضرت صاحب کے پاس کھڑا ہونے  
 لگا۔ اور نماز میں آپ کو تکلیف دینے لگا۔ اور اگر کسی اس کو پھیل صنف میں جگہ ملتی تو سر سجدہ میں وہ  
 صنفیں پھلانگ کر حضور کے پاس آتا اور تکلیف دیتا اور قبل اس کے کہ امام سجدہ سے سر اٹھائے  
 وہ اپنی جگہ پر واپس بلا جاتا۔ اس تکلیف سے تنگ آکر حضور نے امام کے پاس حجرہ میں کھڑا ہونا شروع  
 کر دیا۔ مگر وہ بیلا بانس حتی المقدور وہاں بھی پہنچ جایا کرتا اور ستایا کرتا تھا۔ مگر پھر بھی وہ  
 نسبتاً امن تھا۔ اس کے بعد آپ وہیں نماز پڑھنے رہے یہاں تک کہ مسجد کی توسیع ہو گئی۔ یہاں بھی  
 آپہم دوسرے مقتدیوں سے تنگے امام کے پاس ہی کھڑے ہوتے رہے۔ مسجد اقصیٰ میں حجروں اور عیدین

سیرۃ المہدی عجل

۱۶۹

کے موقع پر آپ صفت اول میں عین امام کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، وہ معذور شخص جو دیکھنے  
تھا اپنے خیال میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا تھا۔  
خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس کا ذکر روایت ۲۸۳ میں بھی ہو چکا ہے۔

۱۶۳



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر  
میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ کو  
بیان کیا کہ قدیم مسجد مبارک  
کا نقشہ ہے۔ اس کے تین  
حصے تھے۔ ایک چھوٹا مغربی جزو  
امام کے لئے تھا جس میں دو  
کھڑکیاں تھیں۔ درمیانی حصہ  
جس میں دو صفیں اولیٰ صف  
۶ آدمی ہوتے تھے۔ اسی میں

بیت الفکر کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے مقابلے پر جنوبی دیوار میں ایک کھڑکی روشنی کے لئے کھلتی تھی۔  
میرا باہر کا مشرقی حصہ اس میں ٹھونڈا ڈورا اور بعض اوقات تین صفیں اور فی صف ۵ آدمی ہوا کرتے تھے  
اسی میں نیچے سیڑھیاں آتی ہیں اور ایک دروازہ اس کا فلسخانہ میں تھا جو آب چھوٹے کمرہ کے طور پر  
استعمال ہوتا ہے اسی تیسرے حصہ میں ایک دروازہ شمالی دیوار میں حضرت صاحب کے گھر میں گھلتا  
تھا۔ غرضیکہ اس زمانہ میں مسجد مبارک میں امام سمیت ۲۳ آدمیوں کی با فراغت گنجائش تھی۔  
خاکسار عرض کرتا ہے کہ جو کمرہ بطور فلسخانہ دکھایا گیا ہے اس میں حضرت صاحب کے کمرے پر پُرفانی  
کے پینٹ پڑنے کا نشان ظاہر ہوا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ خاک  
مسجد محمد علیہ السلام کی وہ نقلی تصویر دیکھی ہے جس میں حضور نے اس زمانہ کی جماعت کو  
بابت دکھا تھا کہ وہ انشاء اللہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اس زمانہ کی جماعت کی  
مخبریں صاحب مرحوم۔ سے خاں صاحب مرحوم اور مفتی نضر احمد صاحب نمایاں۔



ابتداء میں شرط میں کوئی اور احمدی نہ تھا۔ لہذا میری مخالفت شروع ہوئی۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں مخالفت کی نسبت ایک خط ارسال کیا اور دعا کے لئے درخواست کی۔ جس کا جواب حضرت علیہ السلام نے یہ رقم فرمایا کہ صبر کرو۔ وہاں بھی بہت لوگ ایمان لائیں گے۔ خواجہ عبدالرحمن صاحب بیان کرتے ہیں کہ بعد میں اگرچہ شرط والے لوگ تو ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ لیکن اس کے بالکل متصل گاؤں موسومہ کفنیہ پورہ سارے کا سارا احمدی ہو گیا۔ اور علاقہ میں کئی اور جگہ احمدیت پھیل گئی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ خواجہ صاحب جلدی کرتے ہیں۔ اگر حضرت صاحب نے ایسا فرمایا ہے تو تسلی رکھیں شرط بھی بچ نہیں سکتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پسر موعود کی پیشگوئی شائع فرمائی۔ تو آپ کی زندگی میں ہی ایک شخص نور محمد نامی جو پیشال کی ریاست میں کہیڑو گاؤں کا رہنے والا تھا پسر موعود ہونے کا دعویٰ بن بیٹھا۔ اور بعض جاہل طبقہ کے لوگ اس نے اپنے مرید کر لئے۔ سنا ہے یہ لوگ قادیان کی طرف مندر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ان کا ایک وفد قادیان بھی آیا تھا۔ انہوں نے حضرت صاحب کو سجدہ کیا مگر حضرت صاحب نے سختی سے منع فرمایا۔ وہ لوگ چند روزہ کر واپس چلے گئے۔ اور پھر نہیں دیکھے گئے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ایسے مجاہد اور غالی لوگوں کا وجود ہر قوم میں ملتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک دفعہ ابھام ہوا تھا کہ پھر بہار آئی تو آٹے شلج کے آنے کے دن؟ اس سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بہار کے موسم میں ایک ایک عداوت سردی کا ضرور پہچانا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ جو حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھجاتے ہوئے خدا نے حکم دیا تھا کہ قَوْلَہٗ قَوْلًا لِّیْنَا لَعْنَةُ یَیْتِهٖ کَسَا اِدْبِیْحٰثٰی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا بہت سزا کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی ہے کہ یہ بادشاہ ہے اس لئے اس کے ساتھ اس کے رتبہ کے موافق نرمی اور ادب سے گفتگو کی جائے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفۃ الاولیاء بھی یہ حکمت بیان کیا کرتے تھے اور غالباً انہوں نے حضرت

۲۶۲

مچھلی کا کھلنا تھا کہ تمام مکان بدبو سے بھر گیا اور اہل محل سڑی ہوئی نہ تھی۔ بلکہ اس میں ایسی ہی بساندہ ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ اُسے جیون کرکھاتے ہیں اور واقعی نہایت لذیذ ہوتی ہے۔ مگر بساندہ اور بدبو برا ہر رہتی ہے (حضرت صاحب نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور گاؤں سے دوسلے جا کر ڈھاب کے کنارے دفن کر دو۔ اس میں سخت بدبو ہے۔

فاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کو بدبو سے بہت نفرت تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں جب لوگ حضور سے ملنے قادیان آتے یا بلخ اور حیدرآباد وغیرہ کے موقعوں پر آتے تو بہت دیر تک ٹھہرا کرتے تھے تا جمل لوگ ان موقعوں پر بہت کم آتے ہیں اور آتے ہیں تو بہت کم شہرتے ہیں ان ایام میں بعض لوگ پیدل بھی اپنے وطن سے آتے تھے۔ ایک شخص درہم نامی تھا جو جہلم سے پیدل آتا تھا۔ اور ایک مولوی جلال الدین صاحب سیدہ الرضیٰ شہین پورہ کے تھے جو بعد ایک قافلہ کے پیدل کوچ کرتے ہوئے قادیان آیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا بھی قاعدہ تھا کہ کثرت سے ملنے رہتے اور قادیان میں بار بار آنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میاں الدین فلاسفر اور پھر اس کے بعد مولوی یار محمد صاحب کو ایک زمانہ میں قبروں کے کپڑے اتار لینے کی دعت ہو گئی تھی یہاں تک کہ فلاسفر نے ان کو بچکے کچھ روپیہ بھی جمع کر لیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس طرح ہم بدعت اور شرک کو مٹاتے ہیں۔ حضرت صاحب نے جب یہ سنا تو اس کام کو ناجائز فرمایا۔ تب یہ لوگ باز آئے اور وہ روپیہ شاعت اسلام میں دیدیا۔

فاکسار عرض کرتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف ناجائز کاموں سے روکا ہے بلکہ جائز کاموں کے لئے ناجائز وسائل کے اختیار کرنے سے بھی روکا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میاں الدین عرف فلاسفر کو بعض لوگوں نے کسی بات پر ملاد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو علم ہوا۔ تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر وہ عدالت میں جائے اور تم وہاں اپنے قصور کا اقرار کر لو۔ تو عدالت تم کو مٹا دیگی۔ اور اگر جھوٹ بولو اور انکار کرو۔ تو پھر تمہارا میر سے پاس ٹھکانا نہیں۔ غرض آپ کی ناراضگی سے ذکر کرنا

یہی مسئلہ پیش کیا۔ کہ آپ کی بعض تحریروں سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ حضرت صاحب نے اسکی تشریح فرمائی کہ میری مراد اس سے کیا ہے۔ جسپر ان مولوی صاحب نے کہا۔ کہ اچھا آپ تحریر کر دیں۔ کہ آپ کی تحریرات میں جہاں کہیں نبوت کا لفظ ہے، وہ ایسا نہیں۔ کہ جو ختم نبوت کے منافی ہو۔ اور اس سے مراد محذویت ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ کہ بیشک میں یکھدیتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت حضور نے ایک تحریر لکھ کر مولوی صاحب کو دیدی۔ جو کہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ تاکہ ان لوگوں کو دکھائیں۔ جو اس وجہ سے حضرت صاحب پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک دن بعض شریر لوگ مختلف مولویوں کے بہکانے سے اس مکان پر حملہ کر کے آگئے۔ جہاں پر ہم ٹھیرے ہوئے تھے۔ اور مکان کے اوپر زمانہ میں گھسنا چاہتے تھے۔ مگر چند احمدیوں نے جو ساتھ تھے۔ بڑی ہمت سے سیرھیوں میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو روکا۔ اور بعد میں پولیس کے پہنچ جانے سے وہ لوگ منتشر ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امرتسر جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آگئے۔ چنانچہ کپور تھلہ سے محمد خاں صاحب مرحوم اور منشی ظفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھیرے رہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ اور منشی صاحب اور میں ہر دو نجیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چارپائی پر دونوں لیٹ جاتے تھے۔ ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیلٹر میں چلا گیا۔ جو مکان کے قریب ہی تھا۔ اور تماشہ ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی۔ کہ مفتی صاحب رات تھیلٹر چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ تاکہ معلوم ہو۔ کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا منشی ظفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ میں تو حضرت صاحب کے پاس آپکی شکایت لیکر گیا تھا۔ اور میرا خیال تھا۔ کہ حضرت صاحب آپکو بلا کر تنبیہ کریں گے۔ مگر حضور نے تو صرف یہی فرمایا۔ کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ اور اس کے معلومات حاصل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ

۲۹۸

مقدمہ سے پہلے شائع کیا ہوا تھا کہ ایک تو مجھ پر الہام ہوا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا  
والذین هم محسنون۔ یعنی خدا تعالیٰ اس فرق کے ساتھ ہے جو متقی ہے اور دوسرا الہام  
یہ تھا کہ عدالت عالیہ سے بری کیا جائیگا۔ اب دونوں کو ملا کر دیکھ کر یہ کیسی عظیم الشان صداقت  
ہے جو پوری ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولانا  
صاحب اکبریم صاحب ایک دفعہ کسی شخص کا ذکر شانے لگے کہ وہ کسی عورت پر سخت عاشق ہو گیا۔ اور  
باوجود ہزار کوشش کے وہ اس عشق کو دل سے نہ نکال سکا۔ آخر حضرت صاحب کے پاس آیا۔ اور  
طالب دعا ہوا۔ حضرت صاحب نے مولانا صاحب سے فرمایا کہ مجھے خدا کی طرف سے معلوم ہوا ہے کہ  
یہ شخص اس عورت سے ضرور بدکاری کرے گا۔ مگر میں بھی پورے زور سے اس کے لئے دعا کروں گا  
چنانچہ وہ شخص قادیان ٹھہرا۔ اور حضور دعا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اس نے ایک روز مولانا  
صاحب سے کہا کہ آج رات خواب میں میں نے اس عورت کو دیکھا اور خواب میں ہی اس کو مباشرت  
کی اور میں نے اس دوران میں اس کی شہ مجاہد کو جہنم کے گڑھے کی طرح دیکھا۔ جس سے مجھے اس  
سے اس قدر خوف اور نفرت پیدا ہوئی کہ یکدم وہ آتش عشق ٹھنڈی ہو گئی۔ اور وہ محبت کی  
بے قراری سب دل سے محل گئی۔ بلکہ دل میں دوری پیدا ہو گئی۔ اور خدا کے فضل اور حضور کی  
دعا کی برکت سے میں بدکاری سے بھی محفوظ رہا اور وہ جنون بھی جاتا رہا۔ اور حضور نے جو بات  
میری بابت کہی تھی وہ ظاہری رنگ سے بدل کر خدا نے خواب میں پوری کرادی۔ یعنی میں نے  
اس سے تعلق بھی کر لیا اور ساتھ ہی مجھے گناہ سے بھی بچا لیا۔ غالباً یہ شخص سیالکوٹ کا رہنے  
والا تھا اور متمول آدمی تھا۔ اور اُس نے حضرت صاحب کی بیعت بھی کی تھی۔ مگر تعلق کو آخر تک  
نہیں نبھایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود  
علیہ السلام نے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے ایک دفعہ ایک گدی گناہی رکھا تھا۔ وہ دروازے  
پر بندھا رہتا تھا اور اس کا نام شیر و تھا۔ اس کی ٹھکانی پیسے کرتے تھے یا سماں قدرت اللہ تعالیٰ  
مروم کرتے تھے جو گھر کے دربان تھے۔

مسجد اقصیٰ والا کتواں تھا۔ مگر وہ کسی قدر دور تھا اور چند سیڑھیاں چڑھ کر اس تک پہنچنا پڑتا تھا۔

۸۱۲ بسم اللہ الرحمن الرحیم :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مکہ میں جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقدمہ کرم دین کی وجہ سے گورداسپور بمبائل و عیال ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ کی پشت پر ایک پھنسی نو در ہوئی جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ خاکسار کو بلایا اور دکھایا اور بار بار پوچھا کہ یہ کاربکل تو نہیں۔ کیونکہ مجھے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ میں نے دیکھ کر عرض کی کہ یہ ہال توڑ یا معمولی پھنسی ہے۔ کاربکل نہیں ہے۔

در اصل حضرت صاحب کو ذیابیطس اس قسم کا تھا جس میں پیشاب بہت آتا ہے مگر پیشاب میں شکر خارج نہیں ہوتی۔ اور یہ دور سے ہمیشہ محنت اور زیادہ تکلیف کے دنوں میں ہوتے تھے۔ اور بکثرت اور بار بار پیشاب آتا تھا۔ اور یہ ایک غصبی تکلیف تھی۔ اور بہت پیشاب آکر سخت غصن ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی ڈاکٹر نے عرض کیا کہ پیشاب کا ملاحظہ شکر کے لئے کر لینا چاہیے فرمانے لگے نہیں۔ اس سے تشویش زیادہ ہوئی۔ اس خاکسار نے بھی کبھی ایسی ملاحظہ نہیں کیا تھا مگر ہمیشہ کے حالات دیکھ کر تشخیص کی تھی کہ یہ مرض زردی پالہور یا ہے۔ مگر حضرت صاحب کی ایک تحریر سے مجھے علم ہوا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پیشاب میں شکر بھی پائی گئی تھی۔

۸۱۳ بسم اللہ الرحمن الرحیم :- ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میاں معراج الدین صاحب طر کے ساتھ ایک نو مسلم جو بڑی لاہور سے آئی اس کے نکاح کا ذکر ہوا۔ تو حافظ خلیفہ نجف صاحب روم پٹیا لوی نے عرض کی کہ مجھ سے کرو یا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجازت دیدی اور نکاح ہو گیا۔ دوسرے روز اس سماہ نے حافظ صاحب کے ہاں جانے سے انکار کر دیا اور خلع کی خواہش مند ہوئی۔ خلیفہ حبیب بن صاحب لاہوری نے حضرت صاحب کی خدمت میں مسجد مبارک میں یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تہنی جلدی نہیں۔ ابھی صبر کرے۔ پھر اگر کسی طرح گزارہ نہ ہو۔ تو خلع ہو سکتا ہے۔ اس پر خلیفہ صاحب نے جو بہت بے تکلف آدمی تھے حضرت صاحب کے سامنے آتھ کی ایک حرکت سے اشارہ کر کے کہا کہ حضور وہ کہتی ہے کہ حافظ صاحب کی یہ حالت ہے۔ یعنی قدرتِ رجولیت بالکل معدوم ہے، اس پر حضرت صاحب نے خلع کی اجازت دیدی۔ مگر احتیاطاً

اشتبہا دل میں پیسہ اخبار کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ بعض نے یہاں تک جھوٹ بولا ہے کہ گویا ہماری جماعت میں ہی طاعون پھوٹ پڑی ہے اور گویا قادیان میں وہ طاعون پیدا ہو گئی ہے جو طاعونِ جبارت کہلاتی ہے۔ انکے جواب میں بجز اسکے ہم کیا کہیں کہ لعنة الله على الكاذبين۔ وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی یہی قدیم سنت ہے کہ جس گاؤں یا شہر میں خدا کی طرف سے کوئی مرسل آتا ہے وہ جگہ نسبتی طور پر دارالامسح ہو جاتی ہے اور اس میں وہ بجز اس اور دیوانہ کریموالی تباہی نہیں پڑتی جس میں لوگ پر والوں کی طرح مرتے ہیں ہاں موت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجودیکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے دارالامسح ہونے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں اور قرآن کریم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے مگر پھر بھی بعض اوقات انسانی برداشت تک مکہ معظمہ میں ہیضہ پھوٹ پڑتا ہے اور ایسا ہی مدینہ منورہ میں بھی کئی وارداتیں ہو جاتی ہیں مگر ان وارداتوں سے ان دونوں شہروں میں شریفین کے دارالامسح ہونے میں فرق نہیں آتا۔ اسی طرح ہمیں اس سے انکار نہیں کہ قادیان میں بھی کبھی وبا پڑے یا کسی معمولی حد تک طاعون سے جانوں کا نقصان ہو لیکن یہ ہرگز نہیں ہو گا کہ جیسا کہ قادیان کے اردگرد تباہی ہوئی یہاں تک کہ بعض گاؤں موت کی وجہ سے خالی ہو گئے یہی حالت قادیان پر بھی آئے۔ کیونکہ وہ خدا جو قادر خدا ہے اپنے پاک کلام میں وعدہ کر چکا ہے جو قادیان میں تباہ کر نیوالی طاعون نہیں پڑے گی۔ جیسا کہ اُس نے فرمایا لا الہ الا انت کرام۔ لہذا المقام۔ یعنی اگر مجھے تمہاری عزت ظاہر کرنا ملحوظ نہ ہوتا تو میں اس مقام کو حتیٰ قادیان کو طاعون سے فنا کر دیتا یعنی اس گاؤں میں بھی بڑے بڑے خبیث اور شریر اور ناپاک طبع اور کذاب اور مغتری رہتے ہیں اور وہ اس لائق تھے کہ قہر الہی سب کو ہلاک کر دیوے مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا کیونکہ درمیان میں تمہارا وجود بطور شفیع کے ہے اور تمہارا اکرام مجھے منظور ہو اسلئے میں اس تباہی سے تمہارے درگزر کرتا ہوں کہ ایک خوفناک تباہی اور موت ان لوگوں پر ڈال دوں تاہم کئی بے سزا نہیں چھوڑوں اور کسی حد تک وہ بھی عذاب طاعون میں سے حصہ لینگے تا شہروں کی آنکھیں کھلیں۔ ماسوا اسکے اگر قادیان میں ایسی طاعون آوے جیسا کہ گردونواح میں بعض جگہ یہ صورتیں پیدا ہوئیں کہ دیہات میں صد ہا لوگ مرے اور کئی دیہات تباہ ہو گئے اور بہت گھر ایسے ہو گئے کہ بجز شہر خوار پھول کے ان میں کوئی بھی نہ رہا۔

ہو گا کہ اس قدر مسلمانوں کا مال ضائع ہو گیا۔ میرے ایک دوست میرزا احمد بخش صاحب مسٹر سید محمود صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس نقصان کے وقت علیگڑھ میں موجود نہ ہوتا تو میرے والد صاحب ضرور اس غم سے فرج ملتے۔ یہ بھی مرزا صاحب نے سنا کہ آپ نے اس غم سے تین دن روٹی نہیں کھائی۔ اور اس قدر قومی مال کے غم سے دل بھر گیا کہ ایک مرتبہ غشی بھی ہوئی۔ سوئے سید صاحب یہی حادثہ تھا جس کا اس اشتہار میں صریح ذکر ہے۔

چاہو تو قبول کرو۔ والسلام۔ ۱۲ مارچ ۱۸۹۶ء

منجملہ ان نشانوں کے جو پیشگوئی کے طور پر ظہور میں آئے۔ وہ پیشگوئی ہے جو میں نے انوریم قاضی ضیا الدین صاحب قاضی کوئی ضلیح گوجرانوالہ کے متعلق کی تھی۔ اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس جگہ خود اُن کے خط کی عبارت نقل کر دوں جو اس پیشگوئی کے بارے میں انہوں نے میری طرف بھیجا ہے اور وہ یہ ہے۔

”مجھے یقینی یاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے بہ ماہ مارچ ۱۸۸۵ء جبکہ اس عاجز نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی تو ایک لمبی دعا کے بعد اسی وقت آپ نے فرمایا تھا کہ قاضی صاحب آپ کو ایک سخت ابتلا پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے بعد اس عاجز نے کئی اپنے عزیز دوستوں کو اس سے اطلاع بھی دیدی کہ حضور نے میری نسبت اور میرے حق میں ایک ابتلائی حالت کی خبر دی تھی۔ اب اس کے بعد جس طرح پر وہ پیشگوئی پوری ہوئی وہ وقوعہ بعینہ عرض کرتا ہوں کہ میں حضرت اقدس سے روانہ ہو کر ابھی راستہ میں ہی تھا کہ مجھے خبر ملی کہ میری اہلیہ بعارضہ درد گردہ و

۲۶۳

قولنج و قے مفرط سخت بیمار ہے۔ جب میں گھر پہنچا اور دیکھا تو واقع میں ایک نازک حالت طاری تھی۔ اور عجیب تریہ کہ شروع بیماری وہی رات تھی۔ جس کی شام کو حضور نے اس ابتلاء سے اطلاع دی تھی۔ شدت درد کا یہ حال تھا کہ جان ہر دم ڈوبتی جاتی تھی۔ اور بے تابی ایسی تھی کہ باوجود کثیر الحیا ہونے کے بارے درد کے بے اختیار انکی چیخیں نکلتی تھیں اور گلی کوچے تک آواز پہنچتی تھی۔ اور ایسی نازک اور دردناک حالت تھی کہ اجنبی لوگوں کو بھی وہ حالت دیکھ کر رحم آتا تھا۔ شدت مرض تخمیناً تین ماہ تک رہی۔ اس قدر مدت میں کھانے کا نام تک نہ تھا۔ صرف پانی پیتیں اور قے کر دیتیں۔ دن رات میں بچاؤں ساٹھ دفعہ متواتر تے ہوتے۔ پھر درد قدرے کم ہوا۔ مگر نادان طبیبوں کے بار بار فصد لینے سے ہزال مفرط کی مرض مستقل طور پر دامنگیر ہو گئی۔ ہر وقت جان بلب رہتیں۔ دس گیارہ دفعہ تو مرنے تک پہنچ کر بچوں اور عزیز اقربا کو پورے طور پر الوداعی غم و الم سے دلایا۔ غرض گیارہ مہینے تک طرح طرح کے دیکھوں کی تختہ مشق رہ کر آخر کشادہ پیشانی بیہوش تمام کلمہ شریعت پڑھ کر ۲۸ برس کی عمر میں سفر جاودانی اختیار کیا۔ اتنا بد و اتنا الیہ راجعون۔ اور اس حادثہ جا نگاہ کے درمیان ایک شیر خوار بچہ رحمت اللہ نام بھی دودھ نہ ملنے کے سبب سے بھوکا پیاسا راہی ملک بھا ہوا۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ عاجز کے دو بڑے بیٹے عبدالرحیم و فیض رحیم تپ محرقہ سے صاحب فراش ہوئے۔ فیض رحیم کو تو ابھی گیارہ دن پورے نہ ہونے پائے کہ اُس کا پیالہ عمر کا پورا گیا۔ اور سات سالہ عمر میں داعی اجل کو لبیک کہہ کر جلدی سے اپنی پیاری ماں کو جا ملا۔ اور عبدالرحیم تپ محرقہ اور سرسام سے برابر دو ڈھائی مہینے بیہوش میت کی طرح پڑا رہا۔ سب طبیب لا علاج

۲۲۵



۴۴۳

سمجھ چکے۔ کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ بچہ لگا۔ لیکن چونکہ زندگی کے دن باقی تھے۔  
 بوڑھے باپ کی منظر بانہ دُعا میں خدانے سس لیں۔ اور محض اسکے فضل سے  
 صحیح سلامت بچ نکلا۔ اگرچہ پٹھوں میں کمزوری اور زبان میں لکنت ابھی باقی  
 ہے۔ یہ سوادِ ثبالتکاء تو ایک طرف اور مخالفوں نے اور بھی شور مچا دیا  
 تھا۔ آبروریزی اور طرح طرح کے مالی نقصانوں کی کوششوں میں کوئی دقیقہ  
 اٹھانہ رکھا۔ غریب خانہ میں نقب زنی کا معاملہ بھی ہوا۔ اب تمام مصیبتوں  
 میں یکجائی طور پر غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ عاجز راقم کھسقدر  
 بلیہ دل و وز سینہ سوز میں مبتلا رہا۔ اور یہ سب اپنی آفات و مصائب کا  
 ظہور ہوا۔ جس کی حضور نے پہلے سے ہی مجمل طور پر خبر کر دی تھی۔ اسی اثناء  
 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازراہ نوازش تعزیت کے طور پر ایک  
 تسلی دہندہ چٹھی بھیجی۔ وہ بھی ایک پیشگوئی پر مشتمل تھی جو پوری ہوئی۔ اور  
 ہو رہی ہے۔ لکھا تھا کہ ”واقع میں آپ کو سخت ابتلا پیش آیا۔ یہ سنت اللہ  
 ہے تاکہ وہ اپنے مستقیم الحال بندوں کی استقامت لوگوں پر ظاہر کرے۔  
 اور تاکہ صبر کرنے سے بڑے بڑے اجر بخشے۔ خدا تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے  
 مخلصی عنایت کر دیگا۔ دشمن ذلیل و خوار ہونگے جیسا کہ صحابہ کے زمانہ میں ہوا  
 کہ خدا تعالیٰ نے انکی ڈوبتی کشتی کو تمام لیا۔ ایسا ہی اس جگہ ہوگا۔ ان کی  
 بددعا میں آخر اپنی پر پڑیں گی“ سو باری اللہ کہ حضور کی دُعا سے  
 ایسا ہی ہوا۔ عاجز ہر حال استقامت و صبر میں بڑھتا گیا۔ باوجود بشریت  
 اگر کبھی براہمنہ کے طور پر مخالفوں کی طرف سے صلح صفائی کا پیغام آیا۔ تو  
 بدیں خیال کہ پھر یہ انبیاء کی مصیبتوں سے حصہ کہاں۔ دل میں ایسی صلح  
 کرنے سے ایک قبض سی وارد ہو جاتی۔ اور میں نے بچشم خود مخالفوں کی یہ

۴۴۶

یہ حوالہ صفحہ 281 پر درج ہے

تریاق القلوب صفحہ 153 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 472 تا 475 از مرزا قادیانی

۴۷۵

حالت دیکھی اور دیکھ رہا ہوں کہ انکی وہ خشک و باہیت بھی رخصت ہو چکی۔ کتاب و سنت سے تمسک کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور دنیا بھی شب و روز باتوں سے جا رہی ہے جس کے گھنڈے سے غرباء کو تکلیفیں دی تھیں۔ غرض دنیا دین دونوں کھوسے ہیں۔ خوار و شرمندہ ہیں۔ حضور کی وہ پیشگوئی جو انکے ایڈوکیٹ کے حق میں فرمائی تھی کہ انی مہین من اراد اہانتک مناسبت کے لحاظ سے حسب قسمت سب برابر اس سے حقہ لے رہے ہیں جیسا کہ تمام مہمصر گواہ ہیں۔

راقم مسکین ضیاء الدین عفی عنہ قاضی کوئی ضلع گوجرانوالہ

۷۵ منجہ نہایت زبردست نشانوں کے جو خدا تعالیٰ نے خیب گوئی اور معارف عالیہ کے رنگ میں میری تائید میں ظاہر فرمائے۔ براہین احمدیہ کی وہ پیشگوئی ہے جو اسکے صفحہ ۲۹۶ میں درج ہے یعنی یا آدم اسکن انت و زوجك الجنة۔ اردت ان استخلف فخلقت آدم۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یہ الہام جو میری نسبت ہوا۔ یعنی یا آدم اسکن انت و زوجك الجنة۔ اردت ان استخلف فخلقت آدم۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اے آدم تو اپنے جوڑنے کے ساتھ جنت میں رہ۔ نہیں نے چاہا کہ میں اپنا منظر دکھلاؤں۔ اس لئے میں نے اس آدم کو پیدا کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم صغی اللہ کے وجود کا سلسلہ دوریہ اس عاجز کے وجود پر اگر ختم ہو گیا۔ یہ بات اہل حقیقت اور معرفت کے نزدیک مسلم ہے کہ مراتب وجود دوریہ ہیں یعنی نوع انسان میں سے بعض بعض کی نحو اور طبیعت پر آتے رہتے ہیں جیسا کہ پہلی کتابوں سے

۲۳۷

جو اس کا مقابلہ کر سکے۔

(۱۳) میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلقاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں میں ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور انکا میرے پاس ثبوت ہے۔

(۱۴) میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئیں۔

آسمان بارگشاں الوقت سے گوید میں + اس دو شاہد از پئے تصدیق من استادہ اند  
 مدت ہوئی کسوف خسوف رمضان میں ہو گیا۔ حج بھی بند ہوا۔ اور بموجب حدیث کے طاعون بھی ملک  
 میں پھیلی اور بہت نشان مجھ کو ظاہر ہوئے جسکے صدر ہندو اور مسلمان گواہ ہیں جن کو میں نے ذکر نہیں  
 کیا۔ ان تمام وجوہ سے میں امام الزمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے۔ اور وہ میرے لئے ایک تیز  
 تلوار کی طرح کھڑا ہے۔ اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ  
 کیا جائیگا۔ دیکھو میں نے وہ حکم پہنچا دیا جو میرے ذمہ تھا۔ اور یہ باتیں میں اپنی کتابوں میں لکھی مرتبہ  
 لکھ چکا ہوں مگر جس واقعہ نے مجھے ان امور کے مکر لکھنے کی تحریک کی وہ میرے ایک دوست کی  
 اجتہاد کی غلطی ہے جس پر اطلاع پانے سے میں نے ایک نہایت دردناک دل کیساتھ اس سال کو لکھا ہے۔

تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی ماہ ستمبر ۱۸۹۸ء میں جو مطابق جمادی الاول ۱۳۱۶ھ  
 ہے۔ ایک میرے دوست جن کو میں ایک بے شر انسان اور نیک بخت اور متقی اور پرہیزگار جانتا ہوں  
 اور انکی نسبت ابتدا سے میرا بہت نیک گمان ہے۔ واللہ حسیدہ۔ مگر بعض خیالات میں غلطی میں  
 پڑا ہوا سمجھتا ہوں۔ اور اس غلطی کے ضرر سے انکی نسبت اندیشہ بھی رکھتا ہوں وہ نکالیف سفر  
 اٹھا کر اور ایک اور میرے عزیز دوست کو ہمراہ لیکر قادیان میں میرے پاس پہنچے اور بہت سے  
 الہامات اپنے مجھ کو سنائے۔ پس اس سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی۔ کہ خدا تعالیٰ نے انکو الہامات کا  
 شرف بخشا ہے۔ مگر انہوں نے سلسلہ الہامات میں ایک یہ خواب بھی اپنی مجھے سنائی کہ میں نے

۲۷

۳۷۸

یہ اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے اس طرح پر کہ بعض کو قبول کریں اور بعض کو رد کر دیں بلکہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں ہم نے سنا اور ایمان لائے اسے خدا ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرحت ہی ہماری بازگشت ہے۔ ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف ان تمام نبیوں کا مانتا جن کی قبولیت دنیا میں پھیل چکی ہے مسلمانوں کا فرض ٹھیک ہے اور قرآن شریف کی رو سے ان نبیوں کی سچائی کے لئے یہ دلیل کافی ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصے نے ان کو قبول کیا اور ہر ایک قدم میں خدا کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہو گئی خدا کی شان اس سے بلند تر ہے کہ وہ کر دے افسانوں کو اور شخص کا سچا تابع اور جان نثار کرے جس کو وہ جانتا ہے کہ خدا پر اثر کرتا ہے اور دنیا کو دھوکا دیتا ہے اور دروغ گو ہے اور نکر کا ذب کو ایسی ہی عزت دی جائے جیسا کہ صادق کو۔ تو ایمان اٹھ جاتا ہے اور امر نبوت صادقہ مشتبہ ہو جاتا ہے پس یہ اصول نقلیت صحیح اور سچا ہے کہ جن نبیوں کو قبولیت دی جاتی ہے انہر ایک قدم میں حمایت اور نصرت الہی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے وہ ہرگز جھوٹے ہوا نہیں کرتے۔ ان ممکن ہے کہ پیچھے آنے والے ان کے نوشتوں میں تحریف تبدیل کر دیں اور اپنی نفسانی تفسیروں سے ان کے مطالب کو اٹھادیں بلکہ پرانی کتابوں کے لئے یہ بھی ایک لازمی امر ہے کہ مختلف خیالات کے آدمی اپنے خیال کے طور پر ان کے معنی کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ وہی معنی بجز کتاب کی سمجھے جاتے ہیں اور پھر انہیں مختلف خیالات کی کشش کی وجہ سے کئی فرقے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف معنی کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ عقیدہ جس کو قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے نہایت سچا اور مستحکم عقیدہ ہے کیونکہ انسانی فطرت شہادت دیتی ہے کہ جن نبیوں کی عام طور پر کر دیا لوگوں میں قبولیت پھیل جاتی ہے اور دلیوں میں ان کی نہایت درجہ محبت اور عظمت بیٹھ جاتی ہے اور نصرت الہی بارش کی طرح ان پر برستی ہے وہ ہرگز جھوٹے نہیں ہوتے

لکارہ جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۱۶-۱۸- روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۱۱، ۱۱۲)

”یہ سب مضمون ابوطالب کے قصہ کا اگرچہ کتابوں میں درج ہے مگر یہ تمام عبارت انعامی ہے جو خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر نازل کی۔ صرف کوئی کوئی فقیر تشریح کے لئے اس عاجز کی طرف سے ہے۔“ (ازالہ اوہام صفحہ ۱۱۸، ۱۱۹ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۱۱، ۱۱۲ حاشیہ)

۱۸۹۱ع

”صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دشنق کے منارہ سفید شرقی کے پاس اتریں گے..... دشنق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پرمنجانب شکر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصہ کا نام دشنق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں..... مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دشنق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دشنق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے اور خدائے تعالیٰ نے مسیح کے اُتارنے کی جگہ جو دشنق کو بیان کیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصل مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی رُو سے مسیح سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے کیونکہ دشنق پادشہ تخت یزید ہو چکا ہے اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزار ہا طرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے وہ دشنق ہی ہے..... سو خدائے تعالیٰ نے اُس دشنق کو جس سے ایسے مظالم احکام نکلتے تھے او جس میں ایسے سنگ دل اور سیاہ دلوں لوگ پیدا ہو گئے تھے اس غرض سے نشانہ بنا کر دکھا کہ اب مثیل دشنق عدل اور ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہو گا کیونکہ اکثر نبی ظالموں کی بستی میں ہی آتے رہے ہیں اور خدائے تعالیٰ لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بنا کر رہا ہے۔“ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۲ تا ۶۰ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۳۳-۱۳۶ حاشیہ)

۱۸۹۱ع

”قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ

أَخْبِرْ جَمِيئَهُ الْيَزِيدِيَّوَات

یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کئے گئے ہیں۔“ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۲ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۳۸ حاشیہ)

۱۸۹۱ع

(۱) ”ایک صاف اور صریح کشف میں مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ ایک شخص عارث نام یعنی حرآش آئے والا جو

لے عارث کے معنی زمیندار کے ہیں اور حرآش سے مراد بڑا زمیندار ہے اور یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں پائی جاتی ہے۔ (مرتب)

درست اور جانکشی کو پیدا نہ کرے تب تک نہ جلسہ قرین معلوم نہیں ہوتا حالانکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ باہر سے  
 بعض شہرہ مکر کے آویں آمد میں صحبت میں رہیں اور کچھ تبدیلی پیدا کر کے جان میں کیونکر موت کا اعتبار نہیں۔ میرے  
 دیکھنے میں یہاں تک کہ فائدہ ہو کر مجھے حقیقی طور پر وہی دیکھتا ہوں جو صبر کے ساتھ دین کو تلاش کرتا ہوا اور فقط دین کو چاہتا  
 ہو۔ پاک نیت لوگوں کا آنا پھرتا بہتر ہے کسی جلسہ پر نیت نہیں بلکہ وہ شہرہ و فتور میں وہ فرصت اور فراغت سے  
 باتیں کر سکتے ہیں اور یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خواہ مخواہ اللہ عزوجل کو لازم ہو بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت  
 اور حسن نیت پر ہی ہوتا ہے اور نہ ہلیر ایسکے ہرچ اور جب تک معلوم نہ ہو اور تجربہ شہادت نشہ کو اس جلسہ کو دین فائدہ  
 ہے جو اللہ کو چاہے اور اہل حق پر اس کا اثر ہو تب تک ایسا جلسہ صحت فصول ہی نہیں بلکہ اس علم کے بعد کہ اس اجتماع  
 سے نفع کی ایک پیدا نہیں ہو ایک معیبت اور طرح فسادات اور بدعت شنیعہ ہو میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعض  
 چیزوں کی طرح ہرگز ظاہری شرکت دکھانے کیلئے اپنے مباحین کو اکٹھا کر دے بلکہ وہ غلط فہمی کے لوگوں میں جیل کا لگا  
 ہوں اصلاح خلق اللہ پر پورا کوئی امر یا نظام موجب اصلاح نہ ہو بلکہ موجب فساد ہو تو مخلوق میں سویرے جیسا  
 اٹکا کوئی دشمن نہیں اور اہل کرم حضرت مولیٰ نور اللہ علیہ السلام صاحب قرآنہ تعالیٰ بارہا مجھ کو یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ  
 ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے ایک کوئی خاص اہلیت اور تہذیب اور پکنی اور پرہیزگاری اور لہجہ صحبت باہم پیدا  
 نہیں کی سو میں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب موعودت کا یہ قول بالکل صحیح ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض حضرات جماعت  
 میں داخل ہو کر اس خاص جو سو بیعت کر کے اور دھند تو بظہور کر کے پھر جس ویسے کے دل میں کہ اپنی جماعت کے طریقوں  
 بے بیرون کیلئے دیکھتے ہیں وہ ماشاء اللہ تکبر کے سیدھے سوسے سوسے غلبہ نہیں کر سکتے یہ جائیکہ خوش خلق اور ہمدردی  
 پیش آویں اور انہیں بخلا اور خود غرض استدر دیکھتا ہوں کہ وہ اولیٰ ہوتی خود غرضی کی بنا پر لڑتے اور ایک دوسرے  
 سے دست بردار ہوتے ہیں اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے بلکہ ایسا اوقات گالیوں تک نوبت  
 پہنچتی ہے اور جولوگوں میں کہنے پیدا کر لیتے ہیں انہیں اپنے پیٹنی قسمیں پر نفسانی بخشش ہوتی ہیں اور اگرچہ نیک اور سید  
 بھی ہماری جماعت میں بہت - بلکہ یقیناً سو سے زیادہ ہی ہیں مگر خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو انہیں جنتوں کو شکر لے لے لے  
 حاجت کو مقدم رکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر نصیبوں کا عجیب اثر ہوتا ہے لیکن جن امور سے ان کے دل لوگوں کا ذکر کرتا ہوں اور  
 جن چیزوں ہوتا ہیں کہ نفا یا کیا حال ہوتے کوئی جماعت جو میرے ساتھ جو نفسانی لالچوں پر کیس ان کے دل گرتے ہوتے  
 میں آمد کیوں ایک بھائی وہ سر بھائی کو ستاتا اور اس سے بندی چاہتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز  
 درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا نام حتیٰ الامکان نہ پھیرا جائے۔ اگر میرا ایک بھائی میرے

سامنے باوجود اپنے ضعف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہوا رہیں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں  
 مادہ اسپرٹیٹ نہ جلائے تو میری حالت پر افسوس ہو اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چارپائی اٹھو  
 نہ دوں اور اپنے لوگوں فرشتہ زمین پسند نہ کروں اگر میرا بھائی بیمار ہو اور کسی درد سے لڑا چار ہو تو میری حالت پر حیف ہو اگر  
 میں اُسکے مقابل پر امن ہو سو رہوں اور اُسکے لوگوں جہان تک میرے بس میں ہو آدم رسائی کی تدبیر نہ کروں اور اگر کوئی  
 میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ کو کچھ سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہو اگر میں بھی یہ وہانتہ اس  
 سختی سے پیش آؤں بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اُسکی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اُسکے لئے رُہ رو کر دعا کروں کیونکہ وہ  
 میرا بھائی ہو اور رُو حانی طور پر بیمار ہو اگر میرا بھائی سادہ ہو یا کم علم یا سادگی سے کوئی خطا اُس سے سرزد ہو تو مجھے نہیں  
 چاہیے کہ میں اُس کو ٹھٹھا کر دوں یا چیں رنجیں ہو کر تیزی دکھاؤں یا بدبیتی سے اُسکی عیب گیری کروں کہ سب ہلاکت  
 کی راہیں ہیں کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اُسکا دل نرم نہ ہو جب تک وہ اپنے تئیں ہر ایک ذلیل تر نہ سمجھے اور  
 ساری شیعتیں دُور نہ ہو جائیں خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہو اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر  
 بات کرنا مقبول الہی ہو سکی علامت ہے اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سادگی کے آثار ہیں اور غصہ کو کھا لینا اور  
 تلخ بات کو پی جانا نہایت درجہ کی جو اُمر دی ہو سگ میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری جماعت کے بعض لوگوں میں نہیں  
 بلکہ بعض میں ایسی بے تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی اُسکے سے اسکی چارپائی پر بیٹھا ہے تو وہ سختی سے اُسکو اٹھانا چاہتا  
 ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو چارپائی کو اٹھا دیتا ہوا اور اُسکو نیچے گرا دیتا ہے پھر دوسرا بھی فرق نہیں کرتا اور وہ اُسکو گندی گالیوں دیتا ہے اور  
 تمام بخارات نکالتا ہے۔ حالات ہیں جو اس لمحے میں مشاہدہ کرتا ہوں تب دل کباب ہوتا اور جلتا ہے اور بے اختیار  
 دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں دندوں میں ہوں تو اب بنی آدم سے اچھا ہے پھر میں کس خوشی کی اُمید لوگوں کو  
 جلسے کیلئے آگئے کہوں یہ دنیا کے تماثلوں میں سے کوئی تماشہ نہیں ابھی تک میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں بجز ایک مختصر  
 گروہ رفیقوں کے جو وہ تو کسی قدر زیادہ ہیں چیز خدا کی خاص رحمت ہے، جن میں سوا دل درجہ پر میرے خالص دوست اور محب  
 مولیٰ حکیم نور الدین صاحب اور چند اور دوست ہیں بنگو میں جانتا ہوں کہ وہ صرف خدا تعالیٰ کیلئے میرے ساتھ تعلق  
 محبت رکھتے ہیں اور میری باتوں اور نصیحتوں کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انکی آخرت پر نظر ہے سو وہ انشاء اللہ  
 دو فل جہانوں میں میرے ساتھ ہیں اور میں اُنکے ساتھ ہوں۔ میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو کیا سمجھوں جنکے دل میرے ساتھ نہیں

۳۹۶ - باتیں ہماری طرف سے اپنی سوز جہان کے لئے بطور نصیحت ہیں اور کوئی عجز نہیں کہ کسی کا نام لیکر انکا ذکر کرے ورنہ وہ  
 سب سے بڑھ کر گناہ اور فتنہ کی راہ اختیار کرے گا۔

## التوائے جلسہ ۲۷ دسمبر ۱۸۹۳ء

ہم افسوس سو لکھتے ہیں کہ چند ایسے وجوہ ہم کو پیش آئے جنہوں نے ہماری رائے کو اس طرف مائل کیا کہ ابھی دفتر اس جلسہ کو ملتوی رکھا جائے اور چونکہ بعض لوگ تعجب کرینگے کہ اس التوائے کا موجب کیا ہے لہذا بطور اختصار کسی قدر ان وجوہ میں سو لکھا جاتا ہے۔

**اقل۔** یہ کہ اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور موافقات میں دوسروں کے لئے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور تواضع اور راستبازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کیلئے سرگرمی اختیار کریں لیکن اس پہلے جلسہ کے بعد ایسا اثر نہیں دیکھا گیا بلکہ خاص جلسہ کے دنوں میں ہی بعض کی شکایت سنی گئی کہ یہ اپنے بعض بھائیوں کی بدخونی سے شاکہ ہیں اور بعض اس مجمع کثیر میں اپنے آرام کیلئے دوسرے لوگوں سے کچ خلق ظاہر کرتے ہیں گو یہ مجمع ہی ان کیلئے موجب ابتلا ہو گیا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جلسہ کے بعد کوئی بہت عمدہ اور نیک اثر اب تک اس جماعت کے بعض لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا اور اس تجربہ کیلئے یہ تقریب پیش آئی کہ ان دنوں سے آج تک ایک جماعت کثیر مہمانوں کی اس عاجز کے پاس بطور تبادلہ رہتی ہو یعنی بعض آتے اور بعض جلتے ہیں اور بعض وقت یہ جماعت تو اتنا جہان تک پھیل چکی ہے اور بعض وقت اس کو کم لیکن اس اجتماع میں بعض دفعہ بیاعت تنگی مکانات اور قلت وسائل مہمانداری ایسے نالائق رجحان اور خود غرضی کی سخت گفتگو بعض مہمانوں میں باہم ہوتی دیکھی ہے کہ جیسے ریل میں بیٹھنے والے تنگی مکان کی وجہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور اگر کوئی بیچارہ عین ریل چلنے کے قریب اپنی گٹھری کے سمیت مارے اندیشہ کے دوڑتا دوڑتا ان کے پاس پہنچ جائے تو اسکو دھکے دیتے اور دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ ہم میں جگہ نہیں حالانکہ گنجائش نکل سکتی ہے مگر سخت دلی ظاہر کرتے ہیں اور وہ ٹکٹ لئے اور بچہ اٹھائے ادھر ادھر پھرتا ہو اور کوئی اسپر رحم نہیں کرتا مگر آخر میں نے ملازم چہرا داسکو جگہ دلاتے ہیں۔ سو ایسا ہی یہ اجتماع بھی بعض اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک فریبہ معلوم ہوتا ہے اور جب تک اس کے پورے وسائل میسر نہ ہوں اور جب تک خدا تعالیٰ ہماری جماعت میں اپنے خاص فضل کو کچھ مادہ بحق اور نرمی اور ہمدردی اور



خدمت اور جانفشانی کو پیدا نہ کرنے تک یہ جلسہ قرین مصالحت معلوم نہیں ہوتا حالانکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ مباحین  
 حضرت ائمہ کو ملے کہ آہیں امد میری صحبت میں رہیں اور کچھ تبدیلی پیدا کر کے مباحین کو حکومت کا اعتبار نہیں۔ میرے  
 دیکھنے میں مباحین کو فائدہ ہو کر مجھے حقیقی طور پر وہی دیکھتا ہوں جو عصر کے ساتھ دین کو تلاش کرتا ہو اور فقط دین کو چاہتا  
 ہے۔ پاک نیت لوگوں کا آنا ہمیشہ بہتر ہے کسی جلسہ پر ہر قوم نہیں بلکہ مذکورہ قوتوں میں وہ فرصت اور فرہنگ سے  
 باخبر کر سکتے ہیں اور یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہو کہ دنیا کے میلوں کی طرح خواہ مخواہ الحرام انوکھا لازم ہو بلکہ اس کا انعقاد صرف نیت  
 اور حسن نیت پر ہوتا ہے اور نہ ہر ایک کے لیے صبح اور شب تک یہ معلوم نہ ہو اور تجویز شہادت نشہ کے جس جلسہ کو دین فائدہ  
 یہ ہوا تو ملک کی چال چلن اور اہل حق بائیں کا اثر ہر تہ تک ایسا جلسہ صورت فعل ہی نہیں بلکہ اس فلم کے بعد کہ اس اجتماع  
 سے نکلے نیک پیدا نہیں ہو ایک جمعیت اور طریق منکالت اور بدعت شیعہ ہی میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعض  
 پیر اور ان کی طرح صرف ظاہری شوکت دکھانے کیلئے اپنے مباحین کو اکٹھا کرے بلکہ وہ ظن غالی جنکے لڑو میں جیل کا لڑا  
 ہوں اصلاح خلق اور ہر پیرا کوئی امر یا انتظام موجب اصلاح نہ ہو بلکہ موجب فساد ہو تو مخلوق میں سویرے جیسا  
 اٹکا کوئی دشمن نہیں اور اسی مکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب نے ائمہ تعالیٰ بارہا مجھ کو یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ  
 ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت اور تہذیب اور پیکر الی اور یہ ہیر گاری اور اللہ تعالیٰ محبت باہم پیدا  
 نہیں کی سو میں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب موصوف کا یہ عقول بالکل صحیح ہو مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض حضرات جماعت  
 میں داخل ہو کر اس طبع کو سمجھتے کہ اس اور عہد توبہ نکلے کر کے پھر بھی ویسے کی دل میں کہ اپنی جماعت کے مزیوں کا  
 بھیر بون کی طرح دیکھتے ہیں وہ مانتے تکر کے سید منہ سوسلام علیک نہیں کر سکتے جو جانشین خوش خلق اور ہمدرد ہی  
 پیش آویں اور انہیں بخلا اور خود غرضی استقدر دیکھتا ہوں کہ وہ ادنیٰ ادنیٰ خود غرضی کی بنا پر لڑتے اور ایک دوسرے  
 سے دست بدامن ہوتے ہیں اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات گالیوں تلک ثابت  
 پہنچتی ہو اور بولوں میں کہنے پیدا کر لیتے ہیں لہذا کھانے پینے کی تسہیل پر غرضانی بخشش ہوتی ہیں اور اگرچہ نجیب اور سعید  
 ہیں ہماری جماعت میں بہت۔ بلکہ یقیناً دو سو کو زیادہ ہی ہیں جنہر خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو نصیبوں کو شکر دیتے اور  
 عاقبت کو مقدم رکھتے ہیں اور انکے دلوں پر نصیبوں کا عجیب اثر ہوتا ہے لیکن میں سعادت کی بول لوگوں کا ذکر کرتا ہوں اور  
 میں حیران ہوتا ہوں کہ نمایا یا کیا مالی ہو کہ کسی جماعت جو میرے ساتھ ہے نفسانی لالچوں پر کیوں انکے دل گرسے جا  
 میں آدھیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ستاتا اور اس کے بندے چاہتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز  
 درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حتیٰ الوسع مقدم نہ ٹھہرائے۔ اگر میرا ایک بھائی میرے

دوست اور جانکنی کو خیال نہ کر کے تب تک یہ جلسہ قرین معلوم نہیں ہوتا حالانکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ مباحین  
 معنی شدہ مکر کے آویں اور میری صحبت میں رہیں اور کچھ تبدیلی پیدا کر کے جانیں کہ حکومت کا اعتبار نہیں۔ میرے  
 دیکھنے میں مباحین کو فائدہ ہو کر مجھے حقیقی طور پر وہی دیکھتا ہوں جو مجھ کے ساتھ دین کو تلاش کرتا ہو اور فقط دین کو چاہتا  
 ہو ایسے پاک نیت لوگوں کا آنا ہیستہ بہت ہے کسی جلسہ پر قوت نہیں بلکہ ہتھیار و قوتوں میں وہ فرصت اور فراغت سے  
 باتیں کر سکتے ہیں اور یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خواہ مخواہ طور پر آکر ان کا نام ہو بلکہ اس کا انتخاب نیت  
 اور حسن نیت پر ہوتا ہے اور نہ بغیر اسکے صبح اور جیتک یہ معلوم نہ ہو اور تجربہ شہادت منہ سے کہیں جلسہ سو دینی نامہ  
 یہ ہوا ہے کہ چالیس چالیس اور باطنی مباحین کے لئے ایسا جلسہ صرف نفع دہی نہیں بلکہ اس علم کے بعد کہ اس اجتماع  
 سے نیک نیت نہیں ہے ایک معیت اور طریق فضائل اور دعوت شنیہ ہو میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعض  
 چیز اور مل کی طرح صورت ظاہری شوکت دکھانے کیلئے اپنے مباحین کو اکٹھا کر دوں بلکہ وہ غلط خالی جیسے لوگوں میں جلا کا لگا  
 ہوں اصلاح خلق اللہ ہو چہرہ اگر کوئی امر یا انتظام موجب اصلاح نہ ہو بلکہ موجب فساد ہو تو مخلوق میں سویرے بیسایا  
 اُسکا کوئی دشمن نہیں اور اسی کرم حضرت مولوی نور الدین صاحب علیہ السلام نے اتفاقاً بارہا جو یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ  
 ہمارے جامع کے اکثر لوگوں اب تک کوئی خاص اہلیت نہ تہذیب اور چنگاری اور چہرہ گاری کا وہ قلبی محبت باہم پیدا  
 نہیں کی سو میں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب موصوف کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے جسے معلوم ہوا ہے کہ بعض حضرات جماعت  
 میں داخل ہو کر اسی صاحب کو بیعت کر کے اور ہر ذوقہ نظروں کو کے پھر جس ویسے کے دل میں کہ اپنی جماعت کے طریقوں کے  
 بغیر یوں کیسے دیکھتے ہیں وہ کلمہ تکبر کے سید سے سوسالہام علیک نہیں کر سکتے جو جائیکہ خوش خلق اور ہمدردی  
 پیش آویں اور انہیں مغل اور خود غرضی سے مستور دیکھتا ہوں کہ وہ ادنیٰ ادنیٰ خود غرضی کی بنا پر ملتے آتے آتے ایک دوسرے  
 سے دست بردا من ہوتے ہیں اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے بلکہ ایسا وقت کا لیلین ملک نوبت  
 پہنچتی ہے اور جوں میں کہنے پیدا کر لیتے ہیں اور کلمہ سے پیش کی قسمیں پلغسانی بکشیں ہوتی ہیں اور اگرچہ کلمہ اور سید  
 بھی پہلے ہی جماعت میں بہت۔ بلکہ یقیناً وہ سو سو زیادہ ہی ہیں جنہر خدا تعالیٰ کا فضل ہو تو نصیحتوں کو شکر و تقاضا  
 عاقبت کو مقدم رکھتے ہیں اور اُنکے دلوں پر نصیحتوں کا عجیب اثر ہوتا ہے لیکن نبی لعنتہ قہ کا بیل لوگوں کا ذکر کرتا ہوں اور  
 ہیں حیران ہوتا ہوں کہ غایا کیا مالی نہیں کوئی جماعت ہے جو میرے ساتھ ہو نفسانی مباحین پر کیوں انکے دل گرسے ہا  
 ہیں اور کیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ستاتا اور اُسکے بندی چاہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز  
 درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حتیٰ الامکان مقدم نہ ٹھہرائے۔ اگر میرا ایک بھائی میرے

بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ پر بنا دیا ہے۔ (۱) اظہارِ والد مرحوم کے اثر نے (۲) دوم اس گورنمنٹ مایہ کے احسانوں نے (۳) تیسرے خدا تعالیٰ کے الہام نے۔ اب میں اس گورنمنٹ محنت کے زیر سایہ ہر طرح سے خوش ہوں۔ صرف ایک رنج اور درد و غم ہر وقت مجھے لاحق حال ہے جس کا استغاثہ پیش کرنے کے لیے اپنی محنت گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حد سے زیادہ مجھے ستاتے اور دکھ دیتے ہیں۔ میرے قتل کے لیے ان لوگوں نے فتوے دیتے ہیں۔ مجھے کافر اور بے ایمان ٹھہرایا ہے اور بعض ان میں سے جیسا اور شرم کو ترک کر کے اس قسم کے اشتہار میرے مقابل پر شائع کرتے ہیں کہ یہ شخص اس وجہ سے بھی کافر ہے کہ اس نے انگریزی سلطنت کو سلطنتِ دوم پر ترجیح دی ہے اور ہمیشہ سلطنت انگریزی کی تعریف کرتا ہے اور ایک باعث یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مجھے اس وجہ سے بھی کافر ٹھہراتے ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کے سچے الہام سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس خونِ مہدی کے آنے سے انکار کیا ہے جس کے یہ لوگ منتظر ہیں۔ بیشک میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہے کہ میں نے ایسے خونِ مہدی کا آنا سراسر جھوٹ ثابت کر دیا ہے جس کی نسبت ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آکر بے شمار روپیہ ان کو دے گا مگر میں معذور ہوں۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات بپائیہ ثبوت نہیں پہنچتی کہ دنیا میں کوئی ایسا مہدی آئے گا جو زمین کو خون میں غرق کر دے گا۔ پس میں نے ان لوگوں کا بجز اس کے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس خیالی لوٹ مار کے روپیہ سے میں نے ان کو محروم کر دیا ہے میں خدا سے پاک الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور وحشیانہ عادتیں دور ہو جائیں اور نفسانی جذبات سے ان کے سینے دھوئے جائیں اور ان میں آسنگلی اور سنجیدگی اور علم اور میانہ روی اور انصاف پسندی پیدا ہو جائے اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور یہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی فساد کی رگ ان میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ کسی قدر یہ مقصود مجھے حاصل بھی ہو گیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ دس ہزار یا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان پاک تعلیموں کے دل سے پابند ہیں۔ اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں تمہا کر

سے میں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ میری جماعت تین سو آدمی ہیں لیکن اب وہ شمار بست بڑھ گیا ہے کیونکہ زور سے ترقی ہو رہی ہے۔ اب میں یقین رکھتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ دس ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے۔ اور میری فراست یہ پیشگوئی کرتی ہے کہ تین سال تک ایک لاکھ تک میری اس جماعت کا عدد پہنچے گا۔ مز

کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں۔ اور اگر وہ اس گورنمنٹ کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر خواہ ہو جائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت ہو جائیں۔ اگر وہ مجھے قبول کر لیں اور مخالفت نہ کریں تو یہ سب کچھ انہیں حاصل ہوگا اور ایک نیکی اور پاکیزگی کی روح ان میں پیدا ہو جائے گی۔ اور جس طرح ایک انسان خوب ہو کر گندے شہوات کے جذبات سے ہلک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میری تعلیم سے ان میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ مگر میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹ عالیہ جبراً ان کو میری جماعت میں داخل کرے اور نہ میں اس وقت یہ اسکا اثر کرتا ہوں کہ کیوں وہ ہر وقت میرے قتل کے درپے ہیں اور کیوں میرے قتل کے لیے جھوٹے فتوے شائع کر رہے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ بد ارادے ان کے باعث ہیں۔ کیونکہ کوئی چیز زمین پر نہیں ہو سکتی جب تک آسمان پر نہ ہونے۔ اور میں ان کی بدی کے عوض میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ انہیں کھولے اور وہ خدا اور مخلوق کے حقوق کے شناسا ہو جائیں مگر چونکہ ان لوگوں کی عداوت حد سے بڑھ گئی ہے اس لیے میں نے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے بلکہ تمام مخلوق کی خیر خواہی کے لیے ایک تجویز سوچی ہے جو ہماری گورنمنٹ کی امن پسند پالیسی کے مناسب حال ہے جس کی تعمیل اس گورنمنٹ عالیہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ محسن گورنمنٹ جس کے احسانات سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہیں، ایک یہ احسان کرے کہ اس ہر روزہ تکفیر اور نکذیب اور قتل کے فتوؤں اور منصوبوں کے رد کرنے کے لیے خود درمیان میں ہو کر یہ ہدایت فرمادے کہ اس تنازعہ کا فیصلہ اس طرح ہو کہ مدعی یعنی یہ عاجز جس کو مسیح ہونے کا دعویٰ ہے اور جس کو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح نبیوں سے خدا تعالیٰ ہمکلام ہوتا تھا اسی طرح مجھ سے ہمکلام ہوتا ہے اور غیب کے مجید مجھ پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور آسمانی نشان دکھلائے جاتے ہیں۔ یہ مدعی یعنی یہ عاجز گورنمنٹ کے حکم سے ایک سال کے اندر ایک ایسا آسمانی نشان دکھلاوے ایسا نشان جس کا مقابلہ کوئی قوم اور کوئی فرقہ جو زمین پر رہتے ہیں نہ کر سکے اور مسلمانوں کی قوموں یا دوسری قوموں میں سے کوئی ایسا مہم اور خواب بین اور معجزہ نما پیدا نہ ہو سکے جو اس نشان کے ایک سال کے اندر نظیر پیش کرے اور ایسا ہی ان تمام مسلمانوں بلکہ ہر ایک قوم کے پیشواؤں کو جو مہم اور خدا کے مقرب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہدایت اور فہمائش ہو کہ اگر وہ اپنے تئیں سچ پر اور خدا کے مقبول سمجھتے ہیں اور ان میں کوئی ایسا پاک دل ہے جس کو خدا نے ہمکلام ہونے کا شرف بخشا ہے اور الٰہی طاقت کے نمونے اس کو دیتے گئے ہیں تو وہ بھی ایک سال تک کوئی نشان دکھلاوے۔ پھر بعد اس کے اگر ایک سال تک اس عاجز نے ایسا کوئی نشان نہ دکھلایا جو انسانی طاقتوں سے بالاتر اور انسانی ہاتھ کی طوں سے بھی بلند تر ہو یا یہ کہ نشان نہ دکھلایا مگر اس قسم کے نشان اور مسلمانوں یا اور قوموں سے بھی ظہور میں آگئے تو یہ سمجھا جائے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور اس صورت میں مجھ کو کوئی سخت سزا دی جائے کہ موت

جو اسکو نہیں پہچانتے جسکو میں نے پہچانا ہو اور نہ اسکی عظمتیں اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں اور نہ ٹٹھکوں اور بیزاریوں کو  
خیال کرتے ہیں کہ وہ ہیں دیکھو، ماہی اور کبھی نہیں سوچتے کہ ہم ایک زہر کھاتے ہیں جسکا بالعز و قیوم موت کا اور حقیقت اُو  
ایسے ہیں جنکو شیطان راہیں چھوڑنا منظور ہی نہیں۔ یاد ہے کہ جو میری راہ پر چلنا نہیں چاہتا وہ مجھ میں سو نہیں اور  
اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو اور میرے مذہب کو قبول کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنا مذہب پسندیدہ سمجھتا ہو وہ مجھ سے ایسا دور  
جیسا کہ مغرب مشرق سے وہ خطا پر ہو کہ سمجھتا ہو کہ میں اسکے ساتھ ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ آنکھوں کو پاک کرو اور انکو  
روحانیت کے طور سے ایسا ہی روشن کرو جیسا کہ وہ ظاہری طور پر روشن ہیں ظاہری رویت تو حیوانات میں بھی موجود ہے مگر  
انسان اسوقت سو جاگھا کہلا سکتا ہے جبکہ باطنی رویت یعنی نیک بدکی شناخت کا اسکو حصہ ملے اور پھر نیک کی طرف  
جھک جائے سو تم اپنی آنکھوں کیلئے نہ صرف چار پاؤں کی بینائی بلکہ حقیقی بینائی ڈھونڈو اور اپنے دلوں سے نیلکے  
بُت باہر پھینکو کہ دنیا دین کی مخالفت، جلد مروگے اور دیکھو گے کہ نجات انہیں کو ہو کہ جو دنیا کے جذبات سے بیزار اور  
بری اور صاف دل تھو۔ میں کہتے کہتے ان باتوں کو تھک گیا کہ اگر تمہاری یہی حالتیں ہیں تو پھر تم میں اور غیروں میں  
فرق ہی کیا ہے لیکن یہ دل کچھ ایسے ہیں کہ توجہ نہیں کرتے اور ان آنکھوں سے مجھے بینائی کی توقع نہیں لیکن خدا اگر  
جائے اور میں تو ایسے لوگوں سے دنیا اور آخرت میں بیزار ہوں۔ اگر میں صرف اکیلا کسی جنگل میں ہوتا تو میرے لئے  
ایسے لوگوں کی رفاقت سے بہتر تھا جو خدا تعالیٰ کے احکام کو عظمت سے نہیں دیکھتے اور اسکے جلال اور عزت سے نہیں  
کاہنتے اگر انسان بغیر حقیقی راستبازی کے صرف مُنہ سے کہے کہ میں مسلمان ہوں یا اگر ایک بھوکا صرف زبان پر روٹی  
کا نام لائے تو کیا فائدہ ان طریقوں سے نہ وہ نجات پائیگا اور نہ وہ سیر ہوگا۔ کیا خدا تعالیٰ دلوں کو نہیں دیکھتا۔ کیا  
اس علم و حکیم کی گہری نگاہ انسان کی طبیعت کے پامال تک نہیں پہنچتی۔

پس اے نادانو خوب سمجھو اے غافل و خوب سوچ لو کہ بغیر سچی پاکیزگی ایمانی اور اخلاقی اور اعمال کے کسی طرح  
رومانی نہیں اور جو شخص ہر طرح سے گندہ رہ کر پھر اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہو وہ خدا تعالیٰ کو نہیں بلکہ وہ اپنے تئیں دھوکا دیتا  
سہا۔ مجھے ان لوگوں سے کیا کام جو سچے دل سے دینی احکام اپنے سر پر نہیں اٹھالیتے اور رسول کریم کے پاک جوئے کے  
نیچے صندیل سے اپنی گردنیں نہیں دیتے اور راستبازی کو اختیار نہیں کرتے اور فاسقانہ عادتوں سے بیزار ہونا نہیں  
چاہتے اور ٹٹھکے کی مجالس کو نہیں چھوڑتے اور ناپاکی کے خیالوں کو ترک نہیں کرتے اور انسانیت اور تہذیب اور  
عبار و نرمی کا جامہ نہیں پہنتے بلکہ غریبوں کو ستاتے اور عاجزوں کو دھکے دیتے اور اگر بازاروں میں چلتے اور  
مکتے سے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے تئیں بڑا سمجھتے ہیں اور کوئی بڑا نہیں مگر وہی جو اپنے تئیں چھوٹا خیال کرے۔

کے لئے ہے۔ لیکن بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں جو صرف زبان سے ہوتی ہے اور دل اس سے غافل بلکہ روگردان ہے۔ بیعت کے معنی بیچ دینے کے ہیں۔ پس جو شخص وہ حقیقت اپنی جان اور مال اور آبرو کو اس راہ میں بیچتا نہیں جس کی بیچ کہتا ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک بیعت میں داخل نہیں بلکہ تم دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک ظنی کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں اور ایک کمزور بچہ کی طرح ہر ایک ابتلا کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور بعض بد قسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی طرحیے دور تم میں جیسے گناہ مردہ کی طرف۔ پس میں کیونکر کہوں کہ وہ حقیقی طور پر بیعت میں داخل ہیں مجھے وقتاً فوقتاً ایسے کو میوں کا علم بھی دیا جاتا ہے مگر اذن نہیں دیا جاتا کہ ان کو مطلع کروں۔ کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کے جائیں گے اور کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کے جائیں گے۔ پس مقام خوف ہے۔

اسی طرح براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام ابراہیم بھی رکھا گیا ہے جیسا کہ فرمایا۔ سلام علیک یا ابراہیم دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۸) یعنی اسے ابراہیم بھی پر سلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بہت برکتیں دی تھیں اور وہ ہمیشہ دشمنوں کے حملوں سے سلامت رہا۔ پس میرا نام ابراہیم رکھ کر خدا تعالیٰ یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ہی اس ابراہیم کو برکتیں دی جائیں گی۔ اور مخالف اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ جیسا کہ اسی براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے بوردکت یا احمد وکلن ما بولك الله فلیستحقانیک یعنی اے احمد! تجھے مبارک کیا گیا اور یہ تیرا ہی حق تھا۔ اور انہیں حصص سابقہ براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ٹھونڈیں گے۔ اور جس طرح ابراہیم سے خدا نے خاندان شروع کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میری نسبت فرماتا ہے۔ سبحان الله زاد مجدك۔ ینقطع ابوارك ویبدا منک۔ یعنی خدا پاک ہے جس نے تیری بزرگی کو

اور فاسقانہ عادتوں سے بیزار ہونا نہیں چاہتے اور ٹھٹھے کی مجاس کو نہیں چھوڑتے اور ناپاکی کے خیالوں کو ترک نہیں کرتے اور انسانیت اور تہذیب اور صبر اور نرمی کا جامہ نہیں پہنتے بلکہ غریبوں کو ستاتے اور عاجزوں کو دھکے دیتے اور اگر کرنا زاروں میں چلتے اور تکبر سے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ اور اپنے تئیں بڑا سمجھتے ہیں۔ اور کوئی بڑا نہیں مگر وہی جو اپنے تئیں چھوٹا خیال کرے۔ مبارک وہ لوگ جو اپنے تئیں سب سے زیادہ ذلیل اور چھوٹا سمجھتے ہیں اور شرم سے بات کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی عزت کرتے اور عاجزوں کو تعظیم سے پیش آتے ہیں اور کبھی شرارت اور تکبر کی وجہ سے ٹھٹھا نہیں کرتے اور اپنے رب کریم کو یاد رکھتے ہیں اور زمین پر غریبی سے چلتے ہیں۔ سو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے نجات تیار کی گئی ہے۔ جو شخص شرارت اور تکبر اور خود پسندی اور غرور اور دنیا پرستی اور لالچ اور بدکاری کی دوزخ سے اسی جان میں باہر نہیں۔ وہ اس جہان میں کبھی باہر نہیں ہوگا۔ میں کیا کروں اور کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں جو اس گروہ کے دلوں پر کارگر ہوں۔ خدایا مجھے ایسے لفظ عطا فرما اور ایسی تقریریں الہام کر جو ان دلوں پر اپنا نور ڈالیں اور اپنی تریاتی خاصیت سے ان کی زہر کو دور کر دیں۔ میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ کبھی وہ بھی دن ہو کہ اپنی جماعت میں بکثرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے درحقیقت جھوٹ چھوڑ دیا اور ایک سچے خدا اپنے خدا سے کر لیا کہ وہ ہر ایک شے سے اپنے تئیں بچائیں گے، اور تکبر سے جو تمام شہ آرزوئوں کی جڑ ہے باطل دور جاڑیں گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے، مگر ابھی تک بجز خاص چند آدمیوں کے ایسی شکلیں مجھے نظر نہیں آتیں۔ ہاں ناز پڑھتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ نماز کیانتے ہے۔ جب تک دل فردنی کا سجدہ نہ کرے صرف ظاہری سجدوں پر امید رکھنا طمع خام ہے۔ جیسا کہ قربانیوں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا۔ صرف تقویٰ پہنچتی ہے۔ ایسا ہی جسمانی رکوع و سجدہ بھی ایسی ہے جب تک دل کا رکوع و سجدہ و قیام نہ ہو۔ دل کا قیام یہ ہے کہ اس کے حکموں پر قائم ہو اور رکوع یہ کہ اس کی طرف جھکے اور سجدہ یہ کہ اس کے لیے اپنے وجود سے دست بردار ہو۔ سو افسوس ہزار افسوس کہ ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں ان میں نہیں دیکھتا۔ مگر دعا کرتا ہوں اور جب تک مجھ میں دم زندگی ہے کئے جاؤں گا۔ اور دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے۔ اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھا دے اور باہمی سچی محبت عطا کر دے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ دعا کسی وقت قبول ہوگی اور خدا میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری جماعت میں خدا تعالیٰ کے علم اور ارادہ میں بد بخت اذلی ہے جسکے لیے یہ مقدمہ ہی نہیں کہ سچی پاکیزگی اور خدا ترسی اسکو حاصل ہو تو اسکو اسے قادر خدا میری طرف سے بھی خوف کرے جیسا کہ تیری طرف سے خوف ہے اور اس کی جگہ کوئی اور لا، جس کا دل نرم اور حس کی جان میں تیری طلب ہو۔ اب میری یہ حالت ہے کہ بیعت کرنے والے سے میں ایسا ڈرتا ہوں جیسا کہ کوئی شیر سے۔ اسی وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دنیا کا کیر پورہ کر میرے ساتھ

بیل سب سے

۴۰

فتح اسلام


اور بے سامانی کی حالت میں چھوڑ گئے۔ اسے خداوند قادر مطلق تو ان کا مشکل اور تنگ ہوا میرے  
مجتہدین کے دلوں میں بالہام ڈال کر اپنے اس بزرگ بھائی کے پیمانوں کے لئے جو بے کس  
اور بے سامان رہ گئے کچھ ہمدردی کا حق بجالاویں۔

اسے خدا سے چارہ سزا ہر دل اندو لگیں	سے پناہ حاجت گزاران آمرزگار بند نہیں
از کرم آل بندہ خود را بیرخشش با نواز	و این جدا افتادگان را از رحم ہا بہ بین

میں نے بطور نمونہ اس جگہ چند دوستوں کا ذکر کیا ہے اور اسی رنگ اور ہی شان  
کے میرے اور دوست بھی ہیں جن کا مفصل ذکر انشاء اللہ ایک مستقل رسالہ میں کر دیا گیا۔  
اب مضمون طویل ہوا جاتا ہے اسی پر بس کرتا ہوں۔

اور میں اس جگہ اس بات کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جس قدر لوگ میرے سلسلہ  
بیعت میں داخل ہیں وہ سب کسب ابھی ایسی بات کے لائق نہیں کہ میں ان کی نسبت  
کوئی عمدہ رائے ظاہر کر سکوں۔ بلکہ بعض خشک ٹنسیوں کی طرح نظر آتے ہیں جو کبھی  
خداوند جو میرے ہمتوں ہی سے مجھ سے کاٹ کر چلنے والی لکڑیوں میں پھینک دے گا بعض ایسے  
بھی ہیں کہ اقل ان میں دسوزی اور اخلاص بھی تھا مگر اب ان پر سخت قبضہ وارد ہوا اور اخلاص  
کی شہر گری اور فریاد محبت کی ثورایت باقی نہیں رہی۔ بلکہ صرف ہلکتہ کی طرح مکاریاں  
باقی رہ گئی ہیں اور ہر سببہ و انت کی طرح اب بجز اس کے کسی کام کے نہیں کرتے  
اکھاڑ کر پیسوں کے نیچے ڈال دیتے جاتیں۔ وہ تھک گئے اور دریا تہ ہو گئے۔  
اور نابکار دنیا نے اپنے دائم تزویر کے نیچے انہیں دیا لیا۔ سو میں سچ کہتا ہوں کہ  
وہ عنقوب مجھ سے کاٹ ویٹے جاتیں گے۔ بجز اس شخص کے کہ خدا تعالیٰ کا فضل  
نئے سرے اس کا ہاتھ پکڑ ليوے۔ ایسے بھی بہت ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ  
کے لئے مجھے دیا ہے اور وہ میرے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہیں۔ اور میں  
انشاء اللہ کسی دوسرے وقت میں ان کا تذکرہ لکھوں گا۔





شعبہ ۸۹ مورخہ ۱۸ شوال ۱۳۵۳ھ بمطابق ۲۲ جنوری ۱۹۳۵ء جلد ۲۲

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

مومن کیلئے ابتداءوں کا اناضریح

الافتخار

مومن کیلئے ابتداءوں کا اناضریح... (Right column text, partially obscured and difficult to read due to image quality)

بیتنا یاد رکھو کہ ابتداء امتحان ایمان کا شرط ہے۔ اس کے بغیر ایمان ایمان کامل ہوتا ہی نہیں۔ اور کوئی عملی امتحان نہ ہو۔

فرمایا مومن کو کہ ابتداء ہے کسی نیکو عمل سے۔ چاہئے اور ابتداء بتاؤ۔ یہ بتاؤ کہ تم کوئی نیکو عمل نہ کرو۔

یہ حوالہ صفحہ 293 پر درج ہے

تقریر مرزا محمود خلیفہ قادیان سے درجہ اخبار "الفضل" جلد 22 نمبر 89 صفحہ 8 مورخہ 24 جنوری 1935ء



بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تو مجھ سے سوری سید محمد سوم شاہ صاحب نے کہ ایک دفعہ کسی کام کے متعلق میرے صاحب یعنی بزرگوار صاحب کے ساتھ سوری محمد علی صاحب کا اختلاف ہو گیا۔ میرے صاحب نے نماز میں ہو کر اذکار حضرت صاحب کو پڑھا، اطلاع دی۔ سوری محمد علی صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ ہم لوگ یہاں حضور کی خاطر کھڑے ہیں کہ حضرت کی خدمت میں پہنچ کر کوئی خدمت دین کا موقع مل سکے۔ لیکن اگر حضور تک ہماری شکایتیں اس طرح پہنچیں گی۔ تو حضور بھی غصاں میں۔ ممکن ہے کسی وقت حضور کے دل میں ہماری طرف سے کوئی بات پیدا ہو تو اس صورت میں ہمیں بجائے قادیان آئیگا فائدہ ہونیکے آٹا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میرے صاحب نے مجھ سے پوچھا تو تھا۔ مگر میں اس وقت اپنی فکر میں تھا تو اس وقت میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے صاحب نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چند دن تو ایک خیال میری دلخ میں اس قدر کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اسنے دوسری باتوں کو مجھے بالکل محو کر دیا ہے اس پر وقت گزرتے بیٹھے وہی خیال میرے سامنے رہتا ہے۔ میں باہر لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں اور کوئی شخص مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس وقت بھی میرے دلخ میں وہی خیال چکر لگتا رہتا ہے۔ وہ شخص سمجھتا ہو گا کہ میں اس کی بات سن رہا ہوں مگر میں اپنی اس خیال میں محو ہوتا ہوں۔ جب میں گویا ہوں تو وہاں بھی وہی خیال میرے ساتھ ہوتا ہے۔ عرض ان دنوں یہ خیال اس قدر کے ساتھ میرے دلخ پر غالب پائے ہوئے ہے کہ کسی اور خیال کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ خیال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے کہنے کی اصل غرض یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جو حق میں جہاد و فدا پر توفیق دے۔ اور آج کے ساتھ حقیقی تعلق رکھنے والے اسلام کا پناہ شمار بندے۔ بعداً حضرت مسلم کے ساتھ پکا بندہ جہاد و اصلاح و تقویٰ کے رہنے پر جہاد و اصلاح کا اعلیٰ نمونہ قائم کرے تا پھر ایسی جماعت کا پیدا کیا جائے جو جہاد و اصلاح کا پناہ شمار ہو۔ عرض کہ یہی جماعت ہے۔ تو اگر وہاں برہمن اور ہندوؤں پر غلبہ ہو گیا اور مسکو پوری طرح زیر ہو گیا تو پھر میری ہاری نہ ہو گی۔ فتح نہیں کیے بغیر ہندی بدبخت کی اصل غرض یہی نہ ہوتی۔ تو گویا ہمارا سامنا کامنہا جہان گیا۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اصل دباؤ بین کی فتح کے تو نمایاں طور پر نشانات دکھائے ہوئے ہیں لہذا میں بھی اپنی کردی محسوس کرنے لگا ہوں لیکن جو ہاری بدبخت

جس خط کا حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے ذکر کیا۔ یہ خط انکم جلد ۹ نمبر ۱۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۲۴۹ پر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے تشریحی مضمون کے ساتھ شائع ہوا ہے جو یہ ہے :

”جی انوریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مدت سے بیماریوں میں رہا۔ اور اب بھی ان کا بقیہ باقی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے جواب لکھوں مگر بیاخت بیماری کے نکل نہ سکا۔ آپ کے پہلے خط کا حاصل میں قدر مجھ کو یاد ہے یہ ہے کہ میری نسبت ..... کی جماعت کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ روپیہ کے خرچ میں بہت اسراف ہوتا ہے۔ آپ اپنے پاس روپیہ جمع نہ رکھیں اور یہ روپیہ ایک کمیٹی کے سپرد ہو جو حسب ضرورت خرچ کیا کریں اور یہ بھی ذکر تھا کہ اس روپیہ میں سے بارخ کے چند خدنگار بھی رد تیاں کھاتے ہیں۔ اور ایسا ہی اور کئی قسم کے اسراف کی طرف اشارہ تھا جن کو میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنی نیک نیتی سے جو کچھ لکھا بہتر لکھا میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کا تذکرہ لکھوں۔ میں آپ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس کی قسم کو پورا کرنا مومن کا فرض ہے اور اس کی خلاف ورزی معصیت ہے کہ آپ ..... تمام جماعت کو اور خصوصاً ایسے صاحبوں کو جن کے دلوں میں یہ اعتراض پیدا ہوا ہے بہت معافی سے اور کھول کر سمجھادیں کہ اس کے بعد ہم ..... کا چندہ بجلی بسندہ کرتے ہیں اور ان پر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے اور مثل گوشت خنزیر ہے کہ ہمارے کسی سلسلہ کی مدد کے لیے اپنی تمام زندگی تک ایک جیب بھی بھیجیں۔ ایسا ہی ہر شخص جو ایسے اعتراضوں میں غصی رکھتا ہے اس کو بھی ہم یہی قسم دیتے ہیں۔“

یہ کام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جس طرح وہ میرے دل میں ڈالتا ہے خواہ وہ کام لوگوں کی نظر میں صحیح ہے یا غیر صحیح، درست ہے یا غلط میں اسی طرح کرتا ہوں پس جو شخص کچھ مدد سے کر لے اسراف کا عندیہ دیتا ہے وہ میرے پر حملہ کرتا ہے۔ ایسا حملہ قابل برداشت نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ مجھے کسی کی بھی پردا نہیں۔ مگر تمام جماعت کے لوگ متفق ہو کر چندہ بند کر دیں یا مجھ سے سخت ہو جائیں تو وہ جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اور جماعت ان سے بہتر پیدا کر دے گا جو صدق اور اخلاص رکھتی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخالف کر کے فرمایا ہے۔ **يَنْصُرَاتِ اللّٰهُ مِنْ جُنْدٍ ۙ يَنْصُرَاتِ رِجَالٌ لَا يُفِيٓئُ اِيْنِهِمْ مِّنَ السَّكٰوٰتِ** یعنی خدا تیری لپٹنے پاس سے مدد کرے گا۔ تیری وہ مدد کریں گے جن کے دلوں میں ہم آپ دہی کریں گے اور اللہ نام کریں گے پس اس کے بعد میں ایسے لوگوں کو ایک مرے جوئے کیرے کی طرح بھی نہیں سمجھتا جن کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کیسا وجہ کہ انہیں جبکہ میں ایسے خشک دل لوگوں کو چندہ کے لیے مجبور

جس شخص کے نام یہ خط تھا اس کا انداز نہیں کیا گیا (مرتب)

نہیں کرتا جن کا ایمان ہنوز نامتام ہے۔ مجھے وہ لوگ چندہ دے سکتے ہیں تو اپنے پتھے دل سے مجھے خلیفۃ اللہ  
 کہتے ہیں۔ اور میرے تمام کاروبار خواہ اُن کو سمجھیں یا نہ سمجھیں ان پر ایمان لائے اور ان پر اعتراض کرنا موجب  
 سلب ایمان کہتے ہیں۔ میں تاہم نہیں کہ کوئی حساب رکھوں۔ میں کسی کھیل کا فخر اپنی نہیں کہ کسی کو حساب دوں۔  
 میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو ایک فذہ بھی میری نسبت اور میرے معارف کی نسبت اعتراض  
 دل میں رکھتا ہے اس پر حرام ہے کہ ایک کوڑی میری طرف بھیجے۔ مجھے کسی کی پروا نہیں۔ جبکہ خدا مجھے بکثرت  
 کہتا ہے گیا ہر روز کہتا ہے کہ میں ہی بھیجتا ہوں جو آتا ہے اور کبھی میرے معارف پر وہ اعتراض نہیں کرتا تو دوسرا  
 کون ہے۔ جو مجھ پر اعتراض کرے۔ ایسا اعتراض علیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تقسیم اموالِ فقہیت کے وقت کیا  
 گیا تھا۔ سو میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ آئندہ سب کو کہیں کہ تم کو اس خدا کی قسم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور  
 ایسا ہی ہر ایک جو اس خیال میں شریک ہے کہ ایک جتہ بھی میری طرف کسی سلسلہ کے لیے بھیجی اپنی عمر تک ارسال نہ  
 کریں۔ پھر دیکھیں کہ ہمارا کیا خرچ ہوا؟ اب تم کے بعد میرے پاس نہیں کہ آدرکھوں۔

فاکسار مرزا فلام احمد

### حل مشکلات کا طریقہ ایک شخص نے اپنی مشکلات کے لیے عرض کی فرمایا:

استغفار کثرت سے پڑھا کرو اور نمازوں میں یا سَاجِدًا یَا قَیُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ یَا اَرْحَمَ  
 الرَّاحِمِیْنَ پڑھو۔

پھر اس نے عرض کی کہ استغفار کتنی مرتبہ پڑھوں؟ فرمایا:

کوئی تعداد نہیں۔ کثرت سے پڑھو یہاں تک کہ ذوق پیدا ہو جائے اور استغفار کو منتر کی طرح نہ پڑھو  
 بلکہ سجدہ کر پڑھو۔ خواہ اپنی زبان میں ہی ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لے اللہ! مجھے گناہوں کے بڑے نتیجوں  
 سے محفوظ رکھ اور آئندہ گناہوں سے بچا۔

زاں بعد فاکسار ایڈیٹر المحکم نے مولوی مشرف الدین احمد صاحب کے صاحبزادہ کے لیے

دعا کے واسطے عرض کیا۔ فرمایا:

اُن کا خط بھی آیا ہے۔ اُن کو نگھ دو کہ یاد دلائے رہیں۔

۱۹۳۷

مینیون نمبر ۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اِنَّ الْفَضْلَ لَیْسَ لِحٰیثِیْنِ  
اِنَّ الْفَضْلَ لَیْسَ لِحٰیثِیْنِ  
اِنَّ الْفَضْلَ لَیْسَ لِحٰیثِیْنِ

# لفظ

خطبہ نمبر  
روزنامہ  
عالم نئی

THE DAILY ALFAZL QADIAN

جلد ۲۵، ۲۲ ربیع الاول ۱۳۵۶ھ، یوم شنبہ مطابق ۵ جون ۱۹۳۷ء، نمبر ۱۲۹

خطبہ نمبر ۱۲۹

امام کا مقام یہ کہ وہ حکم دے اور ماموم کا مقام یہ کہ وہ اطاعت کرے  
افراد جماعت کو خود بخود ان باتوں میں داخل نہ دینا چاہیے جن کا اثر ساری جماعت پر پڑتا ہو

از حضرت امیر مومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایڈا اللہ تعالیٰ  
فرمودہ ۲۸ مئی ۱۹۳۷ء

<p>بہتر کوئی خود چاہا اور میر سے جاریت ہوتی کہ اپنے سے کہہ نہیں دے نہ چاہی نہیں کیا۔ تو ان کی ذمہ داری تجربہ پر نہیں۔ نہ ہے۔ ہیں اور میرا ہی سخن کے تعلق آپ کو ان سے کہہ نہیں کہیں پڑتا ہوں۔ اور نہ صرف آپ لوگوں سے کہہ یا ہر کی جماعتوں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات برای اللہ نہ ہوتا ہوں کہ میری سے کہہ مداقت آپ لوگوں تک پہنچا دی</p>	<p>ان میں سے اکثر تین دن لوگوں کی من جماعتوں میں نہیں رہتے۔ نہ اس خطبہ کے بعد۔ تو اس قادیان میں کتبہ لکھ دیا ہاں تھے۔ اور میرا ہی نہ تھا کہ میرا نہ ملہ ہو سکتا۔ اس کے تعلق میں دے کہ لوگوں تک میری وہی ملہ نہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اللہ نہ ہو سکوں۔ اور اس کے کہہ سکوں کہ میں سے اللہ کے سامنے ہذا نیت اور اس کی</p>	<p>سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔ غائبہ اور مجھے گوارا ہے میں تسخر ایک خطبہ اپنے سفر کے دوران میں پڑھا تھا۔ اور ہر بار اس کی تلاوت کرتا اور اللہ تعالیٰ میں چاہنے کے لئے مجھ کو پڑھا ہے۔ کہ کہ وہ خطبہ موجودہ وقتوں کے متعلق پہلا دور اور پڑھا سفر میں گیا تھا اور آج تک اس وقت ماٹھے بیٹھتے</p>
---	---	--

تقریر مرزا محمود نے... قادیان جلد 25 نمبر 129، صفحہ 6 مورخہ 5 جون 1937ء، یہ حوالہ صفحہ 296 پر درج ہے

جماعت کے نظام کی پابندی کی یا بیٹے جذبات پر قابو نہ ہو اگر تم اس خیالی کے تان نہیں سکتے۔ تو پھر نہیں ہمارے پاس بھاگ کر تھے نا کیا فرہست ہے۔ تبیں یا بیٹے کہ تم اہل عربی دکھ اور اپنے جرم کا اقرار کرو۔ اگر ان دونوں عقیدوں کے چالیں پالیں آدی بھی پتھر تاجن تو ہم دنیا کو ڈرا سکتے ہیں۔ اگر چالیں آدی ایسے چالیں جو ہر کھانے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہوں۔ تو وہ دنیا کو ڈرا سکتے ہیں۔ اور اگر چالیں آدی ایسے میرا نہیں جہاں سے نہ کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہوں۔ تو وہ بھی دنیا کو ڈرا سکتے ہیں۔ مگر تب ہی طاقت ہے۔ مگر جب تم میں سے جس شخص دشمن سے کوئی کالی سکتے ہیں ان کے موہ میں جو تک بھرتی ہے۔ اور وہ کو ڈرا سکتے ہیں۔ مگر تب ہی ہیں۔ لیکن اس طاقت

تو دونوں میں سے ایک اصل اختیار کرو۔ جو کہ میں سمجھتا ہوں۔ اور میں ہوں۔ کہ میں سچ سمجھتا ہوں۔ وہ ہے یہاں اور یہاں مگر اس طرح کہ ما کھانے کی طاقت ڈالو اور امام کے پیچھے جو کہ دشمن سے جنگ کرو۔ ان جب وہ کہے کہ لڑو اس وقت جنگ لڑو لیکن جو تک نہیں امام لڑائی کا حکم نہیں دیتا۔ اس وقت تک دشمن کو اس دینے کا نہیں اختیار نہیں۔ وہ کھانے سے لے کر نہیں کہ ایک ٹیٹا کھا کھینچ کر مارنا نہیں تھا کہ لے جائز نہیں بلکہ میں کہتا ہوں۔ چہرہ تو انگ رہا ایک گلاب کے پھول سے بن نہیں دشمن کو اس وقت تک مارنے کی اجازت نہیں جب تک امام نہیں لڑائی کی اجازت نہ دے لیکن اگر تباہ یا عقیدہ نہیں تب میں میں خیر خیر ان میں نہیں تب سمجھنا کہ اگر تمہارا وہ وہی ہو۔ کہ کمال دینے والے دشمن کو ضرور مرنے دینے چاہئے اور تم اس کمال دینے والے کے جواب میں سخت کھائی کرتے ہو۔ اور اس سے جرح میں کرو۔ پھر اور بدکالی کرتا ہے۔ تو پھر تم مشغول اور اپنے آپ کو خاکا کرو۔ لیکن اس مذکورہ کو تو اردو جس مذہب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کئے کمال کل نہیں۔ کیونکہ ایسی کو غافلش کرانا نہیں بلکہ یہی فرض ہے۔ کیونکہ تمہارے ہی مفصل

اور تمہارا ایسا ہے یہ عقیدہ ہے۔ کہ دشمن کو سردی چاہئے۔ تو پھر تمہارے ساتھ ساتھ ہونا ایک طرف جو جوتس اور بہادری کا دلو کہتے ہو۔ اور دوسری طرف تو کالی اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ یہ تو اپنے دلوں کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ وہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سلام کہہ لیاں دواتے ہیں۔

سے گا۔ کہ وہ سچ میری بات کو سنیں اور یہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر کی برس تین سالہ خطبات کی نہیں برسے سنار سے لے کر آج تک۔

پس میں بھرا ایک دفعہ کھول کھول کر دیتا ہوں۔ مگر شریفانہ اور عقیدانہ لڑائی تو ہی ہوتے ہیں۔ انسان کو مرنے آتا ہو یا انسان کو مارنا آتا ہو۔

ان کے ہر پہلے کی طرف بڑھے چلے ہیں۔ تم میں سے جن قریب کے ہر سے ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ ہم مر جائیں گے۔ مگر سلسلہ کی پتک برداشت نہ کریں گے۔ لیکن جب کوئی دنیا کو اٹھائے تو پھر اور پھر دیکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ بھائی! کہ وہ ہے ہی۔ کہ میں سے متروک لڑا جائے۔ کوئی دلیل ہے جو اولت کہے۔ بھلا ایسے لوٹنے نے میں کسی قوم کو فائدہ پہنچایا ہے۔ یا وہ وہ ہے۔ جو اگر اسے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو نہ کہ پیچھے ہٹے۔ اور پھر ہوا ہے۔ تو اہل عربی سے بچ لوں گے۔ اور اگر کھلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جوش رہا نہیں آتا اور اپنے نفس کو شہداء انتقال کے وقتوں میں بھی تو میں رکھتا ہے۔ پس اگر تمہیں چاہئے

اس نے مزید کہیاں دی ہیں کی تمہیں شرح نہیں آتی کہ تم ایک سخت یہ کام دشمن کا جو لب ایکس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دواتے ہو۔ اور پھر ناشی سے گھروں میں بیٹھتے ہو اگر تم ایک سانی کے مذہب کے بارے میں

گوہ آپ سلسلہ کے دشمن۔ اور خطرناک دشمن ہیں اگر کسی کو مارنا پلٹنا جا کر جوتس میں توکتا کر۔ یہ وہ لوگوں کو مارا میں کھڑا کر کے نہیں خوب پلٹنا چاہئے۔ کیونکہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کا جان دواتے ہیں۔ اور میرے نفس اور احمد کا کہانے پرتے ہیں۔ میں اس وقت پر ان لوگوں کو بھی جوتس اٹھنے نہیں چیتے ہیں۔

کہاں سے وہ تو فوج نہیں جوتس کیا تم کہتے ہو کہ گالیاں دینا کوئی بہادر ہے۔ تم کسی چوڑے کو روک دے کہ کیوں وہ تم سے زیادہ گالیاں دے رہا ہے۔ میں تم میں اگر گالیاں دیتے ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ جوتسوں اور لاپروستہ ہو۔ کوئی ایسا

پتک پتک میں جوتس کو پتک پتک میں جوتس میں سلسلے سے بھارا ہوں تم میں ایک کہتے ہیں نہیں آتے کہ سانسے کوئی آٹھ دس ہر کوئی لڑائی میں یہ باتیں اس کے ساتھ لڑائی میں نہیں خود خود معلوم ہوا

بہادری سے مارنے کا ہے۔ مارنے کا نہیں ہم کہتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اس مقام پر رکھا ہوا ہے۔ کہ مر جاؤ۔ مگر اپنی زبان نہ کھولو۔ کیا تم سے جہاد پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سلام کی تک نہیں پڑھی اس میں کسی وقت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے۔ کہ اگر جہاد کا وقت ہوتا۔ تو خدا تمہارے تمہیں تو ہر کیوں نہ دیتا۔ اس کا تلوار نہ دیتا جاتا ہے۔ کہ یہ تلوار کے جہاد کا وقت نہیں اسی طرح اگر تمہارے سے مارنے کا مقام ہوتا۔ تو نہیں اس وقت کے آڑنے کی طاقت اور اس کے سامان بھی لے۔ میں ہوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دینا ہی جوتس میں مگر نہیں اس کی کوئی تہیہ نہیدی تھی۔ اور وہ سامان نہیں دیتا ہے۔ اس تلوار کے جہاد کے لئے اس لئے تیار نہیں ہی نہ تھا۔ کیا یہ جوتس کمال اسٹیشن اور مسرت

اور اگر کوئی انسان کہتے ہیں کہ اس وقت میں جوتس میں آئے کہ تمہارے لئے ہم

وہ لے لیں نہیں داتا اور یہ کہہ لیا کہ تمہیں جوتس میں ہونا ہے تو سب سے ذمہ داری ہے کہ تمہیں جوتس میں ہونا ہے کہ سب سے اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ہے جوتس میں تمہارے لئے اور اس کے لئے ہونا ہے

اللہ تعالیٰ طرز کھانہ کا طریقہ نشانی سلسلہ دانا کلام میں حاصل کریں کہ جس کا ذکر ہر کتاب میں ہے

یہ حوالہ صفحہ 296 پر درج ہے

تقریر مرزا محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 25 نمبر 129، صفحہ 6 مورخہ 5 جون 1937ء



جلد ۲۵ نمبر ۱۲ مطابق ۲۵ دسمبر ۱۹۳۵ء

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

خدا تعالیٰ کے فضل کا صبر سے انتظا کرو

فرمان: اگر تم صبر اور ایمان پر قائم رہو گے تو فرشتے تمہیں لیسویں دیں گے اور تمہاری  
 سکینت تم پر اتارے گی اور روح القدس سے مدد دینے کا ارادہ کرو۔ اور خدا اس کا  
 ساتھ ساتھ ہو گا اور کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ خدا کے فضل کا صبر سے انتظا کرو۔  
 اور صبر رہو۔ اور صبر کرو۔ اور حق المقدور بدی کے مقابلے سے پرہیز کرو۔  
 تمہاری قبولیت کسی بلیدہ بقیعنا یا در کھو کہ جو لوگ خدا سے دوستی میں آنا چاہیں ان کے  
 خوف سے عمل کرنے میں اور انہیں کے ساتھ صبر سے۔

بی بی

بہتر ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت آج  
 غزوہ کربلا کی سنت خاتمہ کے منتظر  
 ہوں اور صبر سے انتظا کرو۔  
 اور صبر رہو۔ اور صبر کرو۔ اور حق المقدور بدی کے مقابلے سے پرہیز کرو۔  
 تمہاری قبولیت کسی بلیدہ بقیعنا یا در کھو کہ جو لوگ خدا سے دوستی میں آنا چاہیں ان کے  
 خوف سے عمل کرنے میں اور انہیں کے ساتھ صبر سے۔

یہ حوالہ صفحہ 296 پر درج ہے

تقریر مرزا محمود مندرجہ اخبار "الفصل" قادیان مورخہ 12 دسمبر 1935ء جلد 23 نمبر 139 صفحہ 9







ہفت سے لگ بھگ بیس لاکھ سے زائد لوگوں کے چاروں طرف سے ہندوستان پر حملے ہوئے۔ اور وہ لوگ ہندوستان کے ہر گوشے گوشے تک پہنچ گئے۔

لیکن اللہ تعالیٰ ہمت پر پختہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے ہاتھوں سے ہندوستان کو برباد کر دے گا۔ اور وہ لوگ ہندوستان سے نکل جائیں گے۔

**فرق مہرا**

مہرا ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔

یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔

یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔

یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔

یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔

یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔

یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔

یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں کے مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔

جو امت کے نظام کی پابندی  
 کیا ہے خداوند پر تیار ہو کر اگر تم  
 اس خیانت کے قابل نہیں تھے۔ تو پھر  
 تمہیں ہمارے پاس بھاگ کر آنے  
 کی کیا ضرورت ہے۔ تمہیں چاہئے  
 کہ تم اپنی دکھاؤ اور اپنے جرم کا  
 اقرار کرو۔ اگر ان دونوں عقیدوں  
 کے چالیس چالیس آدمی ہی میسر آجائیں  
 تو تم دنیا کو توڑ سکتے ہیں۔ اگر چالیس  
 آدمی ایسے مل جائیں جو ہر کھانے کی  
 حالت اپنے اندر رکھتے ہوں۔ تو وہ  
 دنیا کو ڈرا سکتے ہیں۔ اور اگر چالیس  
 آدمی ایسے میسر آجائیں جو ہر  
 کی حالت اپنے اندر رکھتے ہوں۔ تو  
 وہ بھی دنیا کو ڈرا سکتے ہیں۔ مگر تمہاری  
 حالت یہ ہے کہ جب تم میں سے  
 بعض دشمن سے کوئی کام لیتے ہیں  
 تو ان کے لوہے میں جھاک بھرتا  
 ہے اور وہ لوہے کو اس پر تھک کر دیتے  
 ہیں۔ لیکن اس وقت

ان کے ہر پیچھے کی طرف  
 ہے۔ یہ جہت ہے۔ تم میں سے بعض  
 قہر کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور  
 کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے۔ مگر  
 سلسلہ کی ہتک  
 برداشت ذکر میں گئے۔ لیکن جب  
 کوئی ذرا اٹھ اٹھتا ہے تو پھر وہ  
 دیکھتے تھے جس۔ اور کہتے ہیں کہ  
 بھائی! کچھ روہے میں کہ جن سے  
 مندر نرا جائے۔ کوئی دیکھ رہے  
 جو کالت کہے۔ جیسا ایسے نہیں  
 نے ہیں کسی قوم کو نافرمانی بھلا  
 بند رہے۔ جو اگر منے کا بند کرنا  
 ہے۔ تو ہر کچھ ہتک ہے۔ اور پورا  
 جانا ہے۔ تو پھر ہی سے کچھ ہتک ہے  
 اور اگر ہر کھانے کا بند کرنا ہے۔ تو پھر  
 جوش میں نہیں آنا اور اپنے نفس کو  
 مشغول افسانے کے دشتوں میں میں تو  
 میں لکھتا ہے۔ پس اگر تمہیں چاہئے

نور انوں میں سے ایک اہل اختیار  
 کر۔ جو کہ میں سمجھتا ہوں۔ اور میں جانتا  
 ہوں کہ میں سچ سمجھتا ہوں۔ وہ ہے کہ  
 بہادر ہو مگر اس طرح کہ ماہ  
 کھانے کی عادت ڈالو  
 اور امام کے پیچھے ہو کر دشمن سے  
 جنگ کرو۔ ان جب وہ کہے کہ اب  
 لڑو اس وقت جنگ لڑا لیکن جب  
 تک تمہیں امام لڑائی کا حکم نہیں  
 دیتا۔ اس وقت تک دشمن کو سزا  
 دینے کا تمہیں اختیار نہیں۔ وہ بھی اور  
 سولے سے ہو نہیں سکتے  
 ایک ایسا شخص ہونا چاہئے کہ تمہارے  
 لئے جائز نہیں

بدر میں کہتا ہوں۔ چھتر تو آئے۔ ایک  
 گلاب کے پھول سے بھی تمہیں  
 دشمن کو اس وقت تک مارنے کا  
 اجازت نہیں جب تک امام تمہیں  
 لڑائی کی اجازت نہ دے لیکن اگر  
 قبیلہ زید عقبہ نہیں تمہیں سبھی میں  
 شریف انسان نہیں تب کھو گیا  
 کہ اگر تمہارا زید عقبہ ہو۔ گلاب دینے  
 والے دشمن کو ضرور سزا دینی چاہئے  
 اور تم اس گالی دینے والے کے  
 جواب میں سخت کلام کر سکتے ہو اور  
 اس سے جوش میں آکر وہ پتھر اور  
 بدکلامی کرتا ہے۔ تو پھر تم منہ جاؤ  
 اور اپنے آپ کو تھک کر دو۔ لیکن اس  
 مذکورہ تو رو د جس منہ سے حضرت  
 مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے  
 گالی نکل تھی۔ کیونکہ ایسی کو  
 زبانش کرنا تمہارا ہی فرض  
 ہے۔ کیونکہ تمہارے ہی نفس  
 سے اس نے فریاد کیا ہے۔ وہی  
 کی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک سخت  
 ہو گئے دشمن کا جب وہ اس سے حضرت  
 مسیح موعود علیہ السلام کو گالیوں دواتے ہو۔  
 اور پھر وہی نفسی ہے کہ میں میں ہوتے ہو  
 اگر تم میں ایک ساتھی کے دانے کے برابر بھی جانتے

اور تمہارا سچ یہ ہے کہ تمہیں  
 دشمن کو سزا دینی چاہئے۔ وہ پھر  
 تمہارے منہ سے ہو جائے اور  
 ہاں کو سزا دلا۔ تمہیں ہر وقت  
 جوش اور بہادری کا دلو  
 کہتے ہیں۔ اور تمہاری عادت ڈالو  
 جو تمہیں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔  
 تو اپنے لوگوں کے دشمن ہی کہتا ہوں  
 کہ وہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام  
 دشمن کو گالیوں دواتے ہیں۔

وہ ایک سلسلہ کے دشمن۔ اور  
 خطرناک دشمن ہیں  
 اگر کسی کو ان۔ پینا جا کر ہوتا۔ تو  
 میں تو کہتے۔ کہ ایسے لوگوں کو زیادہ  
 میں کہہ کر کے انہیں خوب پینا  
 چاہئے۔ کیونکہ وہ حضرت مسیح موعود  
 علیہ السلام کو آپ گالیوں  
 دواتے ہیں۔ اور پھر نفس اور احمق  
 کہلاتے ہوتے ہیں۔  
 میں اس وقت پر ان لوگوں کو  
 بھی تمہیں اگلے نفس سمجھتے ہیں۔  
 کہتا ہوں کہ  
 ممکن ہے وقت نہیں ہوتا  
 کیا تمہیں ہو کہ گالیوں دینا کوئی  
 بہادر کی ہے۔ تم کسی چوڑے کو دہریے  
 سے کہہ دو کہ وہ تم سے زیادہ گالیوں  
 دے دے گا۔ پس تم ہی اگر گالیوں دیتے  
 ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ چڑھوں اور  
 کھا کر رہے ہو۔ یہ کوئی ایسا  
 چھتکہ کا مسئلہ  
 نہیں۔ جو تمہیں کچھ میرے آگے گھریں  
 سزا تو تمہیں سال سے کھار رہا ہوں  
 اور تمہیں ایک کچھ میں نہیں آتے  
 میرے سامنے کوئی آدمی جس کو کچھ  
 لے آؤ۔ میں۔ بات تمہارے سامنے  
 دہرا دیتا ہوں۔ تمہیں خود بخود معلوم ہو

جائے گا۔ کہ وہ کچھ میری بات کو کتنی  
 جلدی کچھ نہیں ہے۔ مگر کیا میرے  
 تین سالہ خطبات  
 میں نہیں میرے تین سالہ خطبات  
 کر سکے  
 پس میں پھر ایک دفعہ کھول کھول کر  
 بتا دیتا ہوں کہ تمہارا وہ عقیدہ  
 طریق ڈری ہوئے ہیں۔  
 یا انسان کو مرنا آتا ہو یا انسان  
 کو مارنا آتا ہو۔

بہادر طریقہ کرنے کا ہے۔ اس لئے کہ  
 ہم کہتے ہیں۔ ہمیں اٹھ تھکتے ہیں  
 اس مقام پر دکھا ہوا ہے۔ کہ مراد  
 مگر وہی زبان نہ کہو۔ کیا تمہارے  
 چہارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام  
 کا سلام کی نظر نہیں ہے۔ اس میں  
 کس وقت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام  
 واسطہ بنتا ہے۔ کہ اگر چہ وہ کھڑے  
 ہوتا۔ تو خدا نے تمہیں خود کھول  
 دیا۔ اس کا طواغوت دینا جاتا ہے۔ کہ  
 یہ تلوار کے چہرہ کا سوت نہیں  
 اسی طرح اگر تمہارے سامنے کا سلام  
 ہوتا۔ تو تمہیں اس سونہ کے ٹوٹنے کی  
 طاقت اور اس کے سامنے ہی تھے۔  
 جس سونہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام  
 کو گالیوں دی جاتی ہیں۔ مگر نہیں اس  
 کہ تو نہیں نہیں ہی گئی۔ اور وہ سامان  
 نہیں دیتے تھے۔ اس سونہ ہتک کہ تمہارے  
 لئے اٹھ تھکتے ہیں۔ تم خود کہتے ہو  
 گالیوں دینا اور میرے  
 اور اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نہیں  
 طاقت ہے۔ تو میں اسے کھولتا ہوں۔ تم  
 آگے کہوں نہیں تو تمہارا وہ کھول کر  
 نہیں دیتا جس سونہ سے تمہارے حضرت مسیح  
 موعود علیہ السلام کو گالیوں دواتی ہیں۔ تمہارے  
 سے کہہ دے اللہ حضرت مسیح موعود علیہ  
 اسلام کو سلام کے سونہ کے سامنے  
 تم خود کہتے ہو۔ وہ کھولتا ہوا ہے کہ اور

اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھار کا لہذا تمہارا کلام میں اس کو سب سے زیادہ کافر کے ذرا ہتک

مرزا محمود کا خطبہ مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 25، نمبر 129، صفحہ 6 مورخہ 5 جون 1937ء

یہ حوالہ صفحہ 297 پر درج ہے

تاریکی تک دو دو  
 ہلکے آکر ختم ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ  
 نے تجھے جو وہ تمہاری مدد کرے۔  
 گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ  
 تمہاری مدد کرے کیا اس کو اور  
 تمہارا مذہب ایک ہے یا اس کی اذ  
 تمہاری سیاست ایک ہے یا اس کا  
 نظام تمہارے نظام سے ملتا ہے پھر  
 گورنمنٹ تمہاری کون مدد کرے  
 گی گورنمنٹ اگر مدد دے گی تو  
 ان لوگوں سے جو تمہارے دشمن ہیں  
 کہہ دے کہ وہ اکثریت میں ہیں اور تم  
 اقلیت میں اور  
 گورنمنٹوں کو اکثریت کی خوشنودی  
 کی ضرورت ہوتی ہے  
 اس گورنمنٹ کو تم سے کسی طرح مدد  
 ہو سکتی ہے۔ اس کو تو اسی وقت تک  
 تمہارے ساتھ جمد رہی ہو سکتی ہے  
 جو جنگ تم خاموش رہو اور دشمن  
 کے مقابلہ میں مہر سے کام لوادو  
 اسی صورت میں ہی  
 صرف شریف حاکم تمہاری مدد کرے  
 اور گیس کے انہوں نے جس فتنہ  
 دفا سے بچا گیا وہ خیال کرنا کہ  
 گورنمنٹ اس وقت مدد کرے جب  
 دشمن تم کو گالیاں دے اور ہر اور  
 تم پر اب میں اسے گالیاں دے  
 سہجہ ہو نادانی ہے اس وقت  
 اس کو مدد دے اکثریت کے ساتھ  
 ہوگی۔ کیونکہ وہ جانتی ہے اقلیت  
 کو نہیں کر سکتی۔ پس گورنمنٹ سے  
 اسی صورت میں تم امداد کی توقع کر  
 سکتے ہو۔ جب خود قرآنی کر کے  
 لڑائی اور جھڑپ سے بچو۔ اور میں  
 ہی صورت شریف افسر تم سے مدد دے  
 گویں گے اور گیس گے کہ انہوں سے  
 تمہاری بات مان لی اور خاموش ہو کر  
 اور مہر کر کے فتنہ دفا کو بچنے  
 نہ دیا مگر یہ ذرا حکام پھر ہی تم سے  
 ساتھ لڑیں گے۔ اور گیس گے کیا  
 بڑا اگر دشمن کا فتنہ انہوں نے کہا  
 لادو نہ دیا دیتے اور یہ خود سے  
 اکثریت سے ڈر کر تمہارے گالیاں

یہ کئی خوبی نہیں۔ پس وہ تمہارے  
 مہر کو بزدلی پر محمول  
 کرے اور تمہاری خاموشی کو کمزوری  
 کا نتیجہ قرار دے گا۔ پس تمہارا  
 گورنمنٹ کے پاس شکایت کرنا بالکل  
 بے سود ہے۔ اور مجھے تمہاری مثال  
 دینی ہی نظر آتی ہے۔ جیسے بے  
 زمانہ میں جب یہ معلوم نہ تھا کہ  
 کشمیری فوج میں بھرتی ہو چکے  
 قابل نہیں  
 ایک دفعہ سرحد پر لڑائی ہوئی اور  
 حکومت اگر تیزی سے مہاراجہ صاحب  
 جوں سے کہا کہ اپنی فوج میں سے  
 ایک دستہ تمہاری فوج کے ساتھ  
 روانہ کر دیں۔ انہوں نے ایک کشمیری  
 دستہ کو تیار ہو جانے کا حکم دیا  
 جب وہ تیار ہو گئے تو کشمیری افسر  
 ایک دفعہ صورت میں مہاراجہ  
 صاحب کے پاس آئے اور کہنے  
 لگے ہمارے اسی دستہ تک آپ کا تک  
 کہا جائے۔ پس لڑائی سے مرگڑا  
 نہیں۔ ہم ہر وقت ہاتھ کے لئے تیار  
 ہیں۔ بہت ایک بھاری  
 عاجزانہ التماس  
 ہے اور وہ یہ کہتا ہے چھان سخت  
 دشمن ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ  
 کچھ سپہی کر دیں جو ہماری جانوں  
 کی حفاظت کریں تم ہی خدا کے سپاہی  
 کہلاتے ہو مگر  
 انگریزی سپاہیوں کے پھر سے میں کام  
 کرنا چاہتے ہو پھر نہتے یاد دہی نہت  
 اور کون ہو سکتے ہے۔ اس وقت تم  
 سب اس مثال کے سننے پر نہیں ٹپتے  
 ہو گے کیا تمہاری ہی میں ہی حالت نہیں  
 تم کہتے ہو ہم دشمن کا مقابلہ کرنے  
 کے لئے ہر وقت تیار ہیں مگر انگریزی  
 سپاہیوں کی حفاظت میں۔ اگر  
 واقعہ میں تم خدا کا ساتھ کے سپاہی  
 ہو اور اس کے دشمن کے مقابل پر  
 کھڑے ہو تو پھر تمہیں کسی حفاظت کی  
 ضرورت ہی کیسے۔ تم میرے ساتھ  
 ہونے طریق کے سخت مہاراجہ صاحب  
 کر۔ پھر خدا کا ساتھ کے سپاہی

تمہاری مدد کے لئے آسمان سے  
 اتریں گے۔  
 حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام  
 پر ایک دفعہ ایک مقدمہ ہوا۔ جس  
 مجسٹریٹ کے پاس وہ مقدمہ تھا اس  
 پر مودود نے بعض آدروں کے سخت زور  
 ڈالا کہ جس طرح بھی ہو سکتے تم کسی  
 نہ کسی طرح مرزا صاحب کو سزا دے  
 دو۔ اور اس مقدمہ اصرار کیا کہ آخر  
 اس سزا کو کیا کہ میں کچھ نہ بچ  
 سزا انہیں ضرور دے دو گے ایک  
 ہندو دوست جو اس مجلس میں موجود  
 تھے۔ انہوں نے یہ تمام حالات  
 ایک احمدی کو کہل  
 کے پاس بیان کئے۔ اور کہا کہ میں خود  
 اس مجلس میں موجود تھا۔ آدروں نے  
 بہت اصرار کیا اور پھر مجسٹریٹ نے  
 ان سے وعدہ کیا ہے کہ یہی سزا حضرت  
 مرزا صاحب کو کچھ نہ کچھ سزا دے  
 دو گے۔ اور احمدی کچھ نہیں کہتے  
 گورو اسپور تھے۔ حضرت سید مودود  
 علیہ السلام ان دونوں گوروں سے  
 ہی تھے۔ میں وہاں موجود نہیں تھا میں  
 جو دوست مجلس میں موجود تھے وہ بیان  
 کرتے ہیں کہ جب اس دوست نے  
 آکر ذکر کیا کہ حضور مجسٹریٹ کوئی نکر کرنا  
 چاہئے۔ اس مجسٹریٹ نے فیصلہ کر دیا

کہ آپ کو سزا دے سزا دے تو حضرت سید  
 مودود علیہ السلام نے اس کی طرف  
 کوئی توجیہ نہ فرمائی  
 آخر انہوں نے دوبارہ اور سزا دے بارہ  
 یہی بات دہرائی اور کچھ اور دوست  
 ہی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور  
 سب نے کہا کہ اب ضرور کوئی نکر کرنا  
 چاہئے۔ حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ  
 والسلام اس وقت بیٹھے ہوئے  
 تھے۔ آپ نے جب متواتر یہ بات  
 سنی تو آپ نے چار پائی سے سر اٹھا  
 اور بیٹھے لیٹے کہنی پر لیٹ کر ہنسے  
 جلال سے فرمایا وہ مجسٹریٹ ہوتا تھا  
 چیز ہے  
 وہ خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال کر  
 تو لیٹے  
 پس کیا تم سمجھتے ہو اگر وہ تمہارے  
 ساتھ ہو تو یہ مجسٹریٹ اور افسر اور  
 پرنس کے آدمی تمہاری کچھ نقصان پہنچا  
 سکتے ہی کسی نہیں۔ ہاں نہیں اس  
 تعلیم پر لڑنا چاہئے۔ جو خدا تعالیٰ  
 کے امور نے تمہیں دی اور جو یہ  
 ہے کہ  
 گلہاں میں گورنمنٹ کے حکم کو آدم دور  
 کبریٰ طاقت جو دیکھو تم کو کھا ڈالے  
 اور جو خلیفہ قرآن کو کم میں خدا تعالیٰ  
 نے دی ہے کہ جب کسی مجلس میں خدا

## میری بیماری بہنو!

میری خاندانی بحیرہ: دن بھر آری ایام کی ہر مرض میں حیرت انگیز اثر  
 ظاہر کرتی ہے جس کو ہزاروں میری نہیں استعمال کر کے باساری ایام کی حیرت  
 سے کمال صحت حاصل کر چکی ہیں۔ اگر آپ کو ماہواری بے قاعدگی میں۔ درد سے  
 تھکتے ہیں۔ یا رک رک کر آتے ہیں۔ جلد ہو گئے ہیں۔ یہ سب ان لڑکیوں میں  
 رطوبت خارج ہوتی ہے۔ کمزور و سرور اور بعض رتیلے۔ یہ کہ کچھ ہے بہت  
 میں ایجاد ہو جاتا ہے کہ کچھ سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ سانس بھرا جاتا ہے  
 تو آپ فصول و فاصل پر درجہ بر باد نہ کریں۔ بلکہ میری خاندانی بحیرہ دور  
 راحت کی استعمال کریں۔ خدا کا فضل ہے آپ کی تمام کیفیتیں صحیح ہو چکی  
 اور چاند جیسا کہ چاند بہنو کا۔ بہت کمال خوراک برائے ایک ماہ صحت و  
 پورے معمولی، فقط صحت کی بہترین کتاب کبیر صحت، ایک کتب صحیح گرفت  
 ملگا ہیں۔  
 اپنے حکم النساء کبیر احمدی بمقام شاہد رولہ  
 شینے کا پتہ۔

پہلے ہے جسکی نمونہ سے لوگوں کو خدا یاد آوے۔ اور جو تقویٰ اور طہارت کے اول درجہ پر قائم ہوں اور جنہوں نے درحقیقت دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیا ہو۔ لیکن وہ مفید لوگ جو میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کر اور یہ کہہ کر کہ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ پھر وہ اپنے گروں میں جا کر ایسے مفاسد میں مشغول ہو جائیں۔ کہ صرف دنیا ہی دنیا ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ نہ انکی نظر پاک سے نہ انکا دل پاک سے۔ اور نہ انکے ہاتھوں سے کوئی نیکی ہوتی ہے اور نہ انکے پیر کسی نیک کام کیلئے حرکت کرتے ہیں۔ اور وہ اس چوہے کی طرح ہیں جو تاریکی میں ہی پرورش پاتا ہے۔ بوساکی میں رہتا اور اسی میں مرتا ہے۔ وہ آسمان پر ہمارے سلسلہ میں سے کاٹے گئے ہیں۔ وہ عیث کھنڈ میں کہ ہمیں جماعت میں داخل ہیں۔ کیونکہ آسمان پر وہ داخل نہیں سمجھے جاتے جو شخص میری ماس و صیت کو نہیں مانتا کہ درحقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم کرے اور درحقیقت ایک پاک انقلاب اسکی ہستی پر آجاتے اور درحقیقت وہ پاک دل اور پاک ارادہ ہو جائے اور پلیدی اور جرمکاری کا تمام بول اپنے بدن پر سے پھینک دے اور نوع انسان کا ہمدرد اور خدا کا سہما تالبدار ہو جائے اور اپنی تمام خود روی کو الوداع کہہ کر میرے پیچھے بولے۔ میں اسی شخص کو اس کتے سے مشابہت دیتا ہوں جو ایسی جگہ سے نکل نہیں ہوتا جہاں ہر وار پھینکا جاتا ہے۔ اور جہاں بڑے گلے مڑوں کی ہاشیں ہوتی ہیں۔ کیا میں اس بات کا محتاج ہوں کہ وہ لوگ زبان کر میرے ساتھ ہوں اور اسلحہ پر دیکھنے کیلئے ایک جماعت جو میں سے ہر ایک کتابوں کہ اگر تمام لوگ مجھے چھوڑ دیں اور ایک بھی میرے ساتھ نہ رہے۔ تو میرا خدا میرے لئے ایک اور قوم پیدا کرے گا جو صدق اور وفا میں ان سے بہتر ہوگی یہ آسمانی کشش کام کر رہی ہے جو نیک دل لوگ میری طرف دھڑکتے ہیں کوئی نہیں جو آسمانی کشش کو روک سکے۔ بعض لوگ خدا سے زیادہ اپنے بڑا اور فریب پر بھروسہ رکھتے ہیں شاید ان کے دلوں میں وہ بات پریشید ہو کہ بتوں اور رسالتیں سب انسانی ہو گئیں! اور اتفاقی طور پر شہرتیں اور قبولیتیں ہو جاتی ہیں ماس خیال سے کوئی خیال پیدا نہیں اور ایسے انسان کو اس خدا پر ایمان نہیں جس کے ارادہ کے بغیر ایک ہتہ بھی گر نہیں سکتا۔ یعنی میں ایسے دل اور طعون میں ایسی طبیعتیں خدا ان کو ذلت سے مارے گا۔ کیونکہ وہ خدا کے کارخانہ کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگ درحقیقت دہریہ اور خبیث باطن ہوتے ہیں۔ وہ چھٹی زندگی کے دن گذارتے ہیں اور مرنے کے بعد بجز جہنم کی آگ کے ان کے جہنم میں کچھ نہیں۔



موضوعہ یکم جون ۱۹۳۳ء نمبر ۱۴۳ مطابقت صفحہ ۲۵۲ نمبر ۱۲۵۲ جلد ۲۰

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

قرآن کے مقابلہ میں حدیث کا وجہ

قرآن شریف میں جو حدیثیں مذکور ہیں، ان میں سے بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ ان حدیثوں میں سے بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ ان حدیثوں میں سے بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔

قرآن شریف میں جو حدیثیں مذکور ہیں، ان میں سے بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ ان حدیثوں میں سے بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ ان حدیثوں میں سے بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔

بی بی

بی بی کی زندگی اور خدمات کا تفصیلی بیان۔ بی بی کی زندگی اور خدمات کا تفصیلی بیان۔ بی بی کی زندگی اور خدمات کا تفصیلی بیان۔

یہ حوالہ صفحہ 299 پر درج ہے

خطبہ جمعہ مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 20، نمبر 143، صفحہ 7 مورخہ یکم جون 1933ء

















سارا سارا دن

بچوں کے اچھے وقتوں پر وقت چلے آتے ہیں  
فرما بیٹھنے کی بجائے اس کسی میں ڈال دینے  
سکر ڈی کے ذریعہ اس میں سے لگا کر  
پڑھنا ہے اس کے لئے کہہ سکتے ہیں  
چکے ہیں نے، بچا ہے کہ کھٹے پھل  
ہیں کہ کھٹ کھٹ ہوئی، اچھا کہ روزہ کھو، تو  
تو وہ وہ کھٹوں صاحب نے دیا ہے  
پیشہ داروں میں کہیں کہہ کر کسی نے ڈاکٹر  
روزہ کر تو رکھو، وہ دنوں کے تین تیر روزہ

۹۹ فیصدی

وہی ہے جو سبھی کے ان کے تیری تیری بچے کی  
نہیں ہوئی کسیوں کی ہمت کسی کا نہیں ہے  
۱۱ فیصدی کا نہیں  
پڑا میں سے ۹۹  
وہی ہے جو سبھی کے ان میں سے شاہ ایک ہیں  
کہا جا چکے کہ ہاڑوں پر بیجا ہوتے، وہ ایسے دنوں  
میں سے کہا جاتا ہے کہ چاہے رات جو دنوں میں  
دستا ہیں، ڈاکوئی اور کام کرنے میں معصوم ہیں  
پہناتے ہیں کھٹے ہیں، اور وہی تیر روزہ

رقم بیٹھنے کا

پڑا میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف اس سے وہ  
پہناتے ہیں کا میں سے ڈاکوئی ہے، فرق کی ادائیگی  
رک ہو سکتی، ان میں سے ان پڑا ۹۹  
جس میں ان کی حرکت ہوئی ہے، ان کو کھٹے ہیں  
ڈاکوئی کا سب سے وقتوں کے دنوں میں  
ڈاکوئی ہے، پڑا ہے، ڈاکوئی نہیں دیا جا سکتا  
وہی ہے، ان کی طرف میں پڑا ہے، ان کی  
ہوں کہ کھٹے ہیں، وہی ہے، ان کی طرف میں پڑا ہے  
پڑا میں وہ کھٹے ہیں، ان کی طرف میں پڑا ہے  
انوں سے لادو

زبانی بات

کئی نہیں ہیں، سبھی نے سبھی سے سارا سارا دن  
ج میں ہیں، پڑا ہے، پڑا ہے، پڑا ہے  
محبت و پیار کا تعلق  
ہے، سونے ڈاکوئی کا نہیں، ان کی طرف میں پڑا ہے  
حروری ہے، ان کی طرف میں پڑا ہے، ان کی طرف میں پڑا ہے  
کہ کھٹے ہیں، اور ان کے لئے ان سے کھٹے ہیں

بے گیت اور بے گیت کی بات ہے، لیکن بے گیت کے  
وقت پاؤں ہاڑوں رکھ دیتے ہیں، غیب کی بیت اور اس  
کے نہیں بگ

(6)

بہو کی بیعت

ہونا ہے، اور شہ قائل ہے اس کے لئے کہ اپنا وقت  
بغیر ہونے کے کہ جسے خدا کا وقت ہونے کا، عوامی مقام  
مطابق ہے جو اس کا، تمام دنوں کے لئے کھٹے ہیں  
ہے، یہ ایک ہے کہ بیعت کی برہنہ بیعتی جاتی ہے  
لیکن بہو میں

بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
یا بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بیعت کا نظارہ

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

ذکاوت جس

وہی ہے، اور اس کے مطابق یہ بیعت ہوں، کہ بہو کی بیعت  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
کہ ایک دن کسی طرح سہا ہے، بیعت کے وقت میں  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

خون کا دباؤ کم

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

اور کوئی بیعت سے بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا  
بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا، اور بہو کی بیعت کا

یہ حوالہ صفحہ 300 پر درج ہے

خطبہ جمعہ مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 21، نمبر 149، صفحہ 7۴5 مورخہ 14 جون 1934ء









نمبر ۲۱۵، رمضان المبارک ۱۳۵۲ھ، ۱۳ نومبر، مطابق ۱۳ مارچ و ستمبر ۱۹۳۲ء، نمبر ۲۲ جلد

## رمضان المبارک متعلق قرآن نبوی

### جنت اور روزہ دار

عن سعد بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطرت في الجنة باقيا قال له  
 الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال ابن الصائم  
 فيقولون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أعلق غلام يدخل منه أحد - (بخاری شریف)  
 پہلے رمضان شریف سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس  
 کا نام ریان ہے۔ اس دروازہ میں سے قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہونگے۔ اس آیت اعلان کی جائیگی  
 کہ روزہ دار کہاں ہیں، وہ آکر اس دروازہ سے جنت میں داخل ہونگے۔ اور یہ سب داخل ہونگے  
 تو روزہ بند کرو یا جائیگا۔ ان کے سوا اس دروازہ سے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔

### المستیع

حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازہ میں سے قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہونگے۔ اس آیت اعلان کی جائیگی کہ روزہ دار کہاں ہیں، وہ آکر اس دروازہ سے جنت میں داخل ہونگے۔ اور یہ سب داخل ہونگے تو روزہ بند کرو یا جائیگا۔ ان کے سوا اس دروازہ سے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔

یہ حوالہ صفحہ 301 پر درج ہے | حوالہ نمبر 316، جلد 22، نمبر 72، صفحہ 8، سورہ 13 دسمبر 1934ء

اور اس وقت میں کراچی کے پورے اور  
پہلوں کے ٹھکانے کی باگ پکڑ کر اسے سونپنا  
چاہا۔ اور اس سے درخواست کی کہ آپ  
میں نہیں۔ اس سے اس کا یہ کہہ کر اسے لانا  
جب یہ سب سنا ہی جائیگا۔ اور یہ کہہ کر اسے  
کراچی کی طرف سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ  
فری۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ اسے حاصل ہوتی  
ہے۔ کہ ان کے غنہ کے بدشانہ نام نہیں رہتی۔

**قادیان کی اہمیت**  
جن کا بیان اندازاً کی باتوں میں فرم ہے۔ اس مقام  
کے سبب اور قابل قدر ہے کہ اس سے عزت و  
بروں کی اہمیت اور یہ ہے کہ اس کے بارے میں  
اب کراچی کی اہمیت اور یہ ہے کہ اس کے بارے میں  
تو یہ باتوں میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کی باتوں سے زیادہ فرم ہے۔ اور یہاں کے

کی طرف سے کہنے کے فرسوں اور یہ ہے کہ اس کے بارے میں  
تو یہ باتوں میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

مشرفی حکومتوں سے تعلقات کی اہمیت  
اور یہ باتوں میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں  
اس کے بارے میں فرم ہے کہ اس کے بارے میں

کون تھا جس کی تمنا یہ نہ تھی ایک جو جس کے  
پھر وہ دن جیب آگے اور چودھویں آئی صدی  
پھر دوبارہ آگئی اجبار میں رسم یہود  
تھا نوشتوں میں یہی از ابتداء تا انتہا  
میں تو آیا جس جہاں میں ابن مریم کی طرح  
پر اگر آتا کوئی جیسی نہیں امید تھی  
ایسے ہمدی کیلئے میدان کھلا تھا قوم میں  
پر یہ تھا رحم خداوندی کہ میں ظاہر ہوا  
آگ بھی پھر آگئی جب دیکھ کر اتنے نشان  
ہے یقین یہ آگ کچھ مدت تک جاتی نہیں  
یہ نہیں ایک اتفاقی امر تا ہوا علاج  
وہ خدا جس نے بنایا آدمی اور دیں دیا  
بے خدا بے زبرد و تقویٰ بے دیانت بے عفا  
میدر طاہوں مت بنو پور سے بنو تم مستحق  
موت سے گر خود ہو بے ڈر کچھ کر دو بچوں پر رحم  
بن کے رہنے والو! تم ہرگز نہیں ہو آدمی  
بن دلوں کو خود بدل دے لے مر قادر خدا  
تیرے آگے کو یا اثبات ناممکن نہیں  
ٹوٹے کاموں کو بناوے جب نگاہ فضل ہو

کون تھا جس کو نہ تھا اس آنے والے سے پیار  
سب اول ہو گئے منکر ہی دین کے منار  
پھر سرج وقت کے دشمن ہوئے یہ حجتہ دار  
پھر بڑے کیونکر کہ ہے تعدیر نے نقش جدار  
میں نہیں مامور از بہر جہاد و کارزار  
اور کرنا جنگ اور دینا غنیمت بے شمار  
پھر تو اس پر جمع ہوتے ایک دم میں صد ہزار  
آگ آتی گزرتی آتا تو پھر جاتا تیرا  
قوم نے مجھ کو کہا کذاب ہے ابو بد شعار  
ہاں مگر توبہ کریں با صد نیاز و انکسار  
ہے خدا کے حکم سے یہ سب تیاہی اور تبار  
وہ نہیں راضی کہ بے دینی ہوان کا کاروبار  
بن ہے یہ دنیاے دون طاہوں کو سے اس میں شکار  
یہ جو ایماں ہے زباں کا کچھ نہیں آتا بکار  
امن کی رہ پر چلو بن کو کرو مت اختیار  
کوئی ہے مدبہ کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار  
تو قورب العالمین ہے اور سب کا شہریار  
بھڑنا یا توڑنا یہ کام تیرے اختیار  
پھر بنا کر توڑ دے اک دم میں کرشے تاوتار

احمد کے دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے احمدیوں میں بھی ایک فرق ہے۔ دیکھنے والوں کے دل میں ایک سو رادار لذت اسکے دیار اور صحبت کی اجک باقی ہے۔ نہ دیکھنے والے بار بار اس کا بے پناہ پسے گئے کہائے ہمنے جلد ہی کیوں نہ کی اور کیوں نہ اس محبوب کا اہلی چہرہ اس کی زندگی میں دیکھ یا تصویر اور اس میں بہت فرق ہے۔ اور وہ فرق بھی وہی جانتے ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ احمد ز صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے اند عادات پر کچھ تحریر کروں۔ شاید ہمارے وہ دوست جنہوں نے اس ذات بابرکات کو نہیں دیکھا حظ اٹھائیں۔

**حلیہ مبارک** | بھائے اس کے کہیں آپ کا حلیہ بیان کروں اور ہر چیز پر خود کوئی ٹوٹ و طے ہے بہتر ہے کہ میں سرسری طور پر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور توجہ پڑھنے والے کی اپنی رائے پر چھوڑ دوں آپ کے تمام حلیہ کا خلاصہ ایک فقرہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ

آپ مردانہ حسن کے اعلیٰ نمونہ تھے =

مگر یہ فقرہ بائبل نامکمل رہے گا اگر اسکے ساتھ دوسرا یہ نہ ہوگا

یہ حسن انسانی ایک روحانی چمک و مک اور انوار اپنی ساقی لئے ہوئے تھا =

اور جس طرح آپ جنال رنگ میں اس صامت کے لئے مبعوث تھے تھے، اسی طرح آپ کا جمال بھی خدا کی قدرت کا نمونہ تھا۔ اور دیکھنے والے کے دل کو اپنی طرف، کھینچتا تھا۔ آپ کے چہرہ پر نواہیت کے ساتھ رعونت سبب اور استکبار نہ تھے بلکہ فروتنی، خاک رسی اور محبت کی آمیزش موجود تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت اقدس پور صاحب کو دیکھنے فریہ بابا نانک شریف لے گئے تو وہاں پہنچ کر ایک وقت کے نیچے سایہ میں کپڑا پھا دیا گیا اور سب لوگ بیٹھ گئے۔ اس پاس کے دیہات اور خاص قصبہ کے لوگوں نے حضرت صاحب کی آمد سن کر ملاقات اور مصافحہ کے لئے آنا شروع کیا۔ اور جو شخص آتا مولوی سید محمد اسمن صاحب کی طرف آتا اور ان کو منبرت اقدس سمجھ کر مصافحہ کر کے بیٹھ جاتا۔ عرض کچھ دیر تک لوگوں پر یہ امر نہ نکلا۔ جب تک خود مولوی صاحب موصوف نے اشارہ سے اور یہ کہہ کر لوگوں کو ادھر متوجہ کیا کہ حضرت صاحب یہ ہیں، بعینہ ایسا واقعہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلعم کو مدینہ میں پیش آیا تھا۔ وہاں بھی لوگ حضرت ابو بکرؓ کو رسوخل سمجھ کر مصافحہ کرتے رہے۔ جب تک کہ انہوں نے آپ پر چادر سے سایہ کر کے لوگوں کو ان کی نقلی

۶۸۵

(البشری صفحہ ۵۵)

۳۶- "أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِشُورٍ وَبِقَا" ل

(البشری صفحہ ۵۷، ۶۳)

۳۷- "دختر نیک آگاہی شان خورد تر چندین سال"

(البشری صفحہ ۸۹)

۳۸- "اسے خدا اس پیالہ کو ٹال دے"

(البشری صفحہ ۹۶)

۳۹- "نزول ورتا دیان"

(البشری صفحہ ۹۹)

۵۰- "تیری نمازوں سے تیرے کام افضل ہیں"

۵۱- مولانا بلال الدین صاحب شمس رضی اللہ عنہ شرح قصیدہ "يَا عَيْنَ يَكْفِيكَ اللهُ" میں لکھتے ہیں کہ:-

"اسی قصیدہ کے متعلق ایک اور روایت مرحوم و معظور حضرت پیر سراج الحق رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضرت سید مرحوم علیہ السلام جب یہ قصیدہ تصنیف فرما چکے تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا کہ یہ قصیدہ جناب انبی میں قبول ہو گیا اور خدا نے مجھ سے فرمایا جو اس قصیدہ کو حفظ کرے گا اور ہمیشہ پڑھے گا میں اس کے دل میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھردوں گا اور اپنا قرب عطا کروں گا"

(شرح القصیدہ صفحہ ۲۰۱-۲۰۹، جون ۱۹۵۶ء)

۵۲- حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بیان کیا کہ:-

"ایک مرتبہ حضرت اقدس کو نماز شمس کی بہت سخت شکایت ہو گئی۔ تمام ہاتھ بھرے ہوئے تھے لکھنا یا دوسری ضروریات کا سرانجام دینا مشکل تھا۔ علاج بھی برابر کرتے تھے مگر نماز شمس دور نہ ہوتی تھی..... ایک دن (میں) حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عصر کے قریب وقت تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہیں مگر آپ کے آنسو بند رہے ہیں..... میں نے جرات کہہ کے پوچھا کہ حضور آج خلاف معمول آنسو کیوں بند رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک مصیبت کا خیال گذرا کہ اللہ تعالیٰ نے کام تو اتنا بڑا میرے سپرد کیا ہے اور ادھر صحت کا یہ حال ہے کہ آٹھ دن کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے۔ اس پر مجھے الام ہو ا۔"

"ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے"

۱- (ترجمہ) زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی۔ (مترجم)

۲- ان کی نیک لڑکی صبح سے چھوٹی چند سال کی ہے۔ (مترجم) نوٹ:- اس الام کے متعلق پیر صاحب نے البشری صفحہ ۶۳ پر لکھا ہے:- "العام منقول از ریاض حضرت آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی"

۳- (ترجمہ) قادیان میں نزول۔ (مترجم) ۴- یعنی جو عظیم الشان خدمات تو اسلام کی تائید میں بجالا رہا ہے۔ (مترجم)

۵- یہ الام غالباً ۱۸۹۱ء یا ۱۸۹۲ء کا ہے۔ حضرت قمرانیہ امیرہ صاحبہ رضی اللہ عنہا نے خارش کی تکلیف کا واقعہ ۱۸۹۱ء

بتکایا۔ سیرت الہدی حصہ اول صفحہ ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱ اور حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ نے اسے ۱۸۹۲ء

کا۔ (دیکھئے سیرت الہدی حصہ سوم صفحہ ۵۲، روایت نمبر ۵۷۴)۔ (مترجم)

یہ حوالہ صفحہ 306 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 685 طبع چہارم از مرزا قادیانی

الْبِرِّ اِذْ الْمُسْتَعِينِمْ سے پایا جاتا ہے کہ جب اتالی کو کشیشیں تمک کر رہ جاتی ہیں، تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

دعا کا بل تب ہوتی ہے کہ ہر قسم کی خیر کی جامع ہو اور ہر شر سے بچاؤ سے۔ پس اِخْتِذْ نَا الْبِرِّ اِذْ الْمُسْتَعِينِمْ میں سلسلے خیر جمع ہیں۔ اور خَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْغَائِبِينَ میں سب شرزوں میں سے بچنے کی دعا ہے۔ مَغْضُوبِ سے بالاتفاق یہودی اور انصاریوں سے نصاریٰ مراد ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی مرد مزاد حقیقت نہ تھی، تو اس دعا کی تعلیم سے کیا غرض تھی؟ اور پھر ایسی تاکید کہ اس دعا کے بدلے نمازی نہیں ہوتی اور ہر رکعت میں اس کا پڑھا جانا ضروری قرار دیا۔ مجید اس میں یہی تھا کہ یہ ہمارے زمانہ کی طرف ایمان ہے۔ اس وقت صراطِ مستقیم ہی ہے جو ہماری راہ ہے۔

کہتے ہیں کہ مسیح کی شبیہ کو سول دی گئی، مگر میں کہتا ہوں کہ اس میں

۹۔ مسیح کی شبیہ کا افسانہ

حصر عقل یہی بتاتا ہے کہ وہ شخص جو مسیح کی شبیہ بنایا گیا، یاد دشمن ہو گیا دوست۔ اگر وہ دشمن تھا تو ضرور تھا کہ وہ شور مچاتا کہ میں مسیح نہیں ہوں اور میرے فلاں رشتہ دار موجود ہیں۔ میرا اپنی بیوی کے ساتھ فلاں راز ہے۔ مسیح کو میں ایسا بھکتا ہوں۔ غرض وہ شور مچا کر اپنی صفائی اور بریت کرتا اور علامت کسی تاریخ صحیح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو شخص صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اس نے شور مچا کر راتی جاہل کر لی تھی۔

اور اگر وہ مسیح کا دوست اور عواری ہی تھا۔ پھر صاف بات ہے کہ وہ مومن یا اللہ تھا اور وہ صلیب پر مرنے کی وجہ سے بلا وجہ ملعون ہوا اور خدا نے اس کو ملعون بنایا۔ رہی یہ بات کہ مصلوب ملعون کیوں ہوتا ہے؟ یہ عام بات ہے کہ جو چیز کسی فرقہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ اس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے۔ سولی کو جرموں کے ساتھ تعلق ہے جو گویا کاٹ دینے کے قابل ہوتے ہیں اور خدا کا تعلق جرم کے ساتھ کسی نہیں ہوتا۔ یہی لعنت ہے۔ اس وجہ سے وہ لعنتی ہوتا ہے۔

اس لیے یہ کہی نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن تاکر وہ گنہ ملعون قرار دیا جاوے پس یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اہل دہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کی کہ مسیح کی حالت فحش و فحورہ سے ایسی ہو گئی جیسے مردہ ہوتے ہیں۔

۱۰۔ انبیاءِ نبییتِ امراض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں

انبیاءِ علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے ہائور نبییت اور ذلیل بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً آشک ہو، جنام ہو یا اور کوئی ایسی ذلیل مرض۔ یہ بیماریاں نبییت و گول ہی کو ہوتی ہیں اَلْغَيْبِثَاتُ الْغَيْبِثِيْنَ (النور ۲۷۱) اس میں عام لفظ رکھا ہے اور نکات بھی عام ہیں۔ اس لیے ہر نبییت

۴۴  
کتابخانه  
کتابخانه  
کتابخانه  
کتابخانه

سراج منیر



ضمیمہ نمبر 306

۶۷

کلی فوج عقیق - والمواک یتبرکون بشیابک - اذا جاء نصر الله والفتح وانتهى امر  
الزمان الينا الیس هذا بالحق - یعنی تیری مدد وہ لوگ کرینگے جن کے دلوں پر میں آسمان سے  
وحی نازل کروں گا۔ وہ دور دور کی راہوں سے تیرے پاس آئینگے اور بلا شہ تیرے کپڑوں سے  
برکت ڈھونڈینگے جب ہمدانی مدد اور فتح آجائیں گی تب مخالفین کو کہا جائیگا کہ کیا یہ انسان  
کا اقتدار تھا یا خدا کا کا دوبارہ - ایسا ہی خدا تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن یہ بھی تمنا کریں گے  
کہ یہ شخص منقطع النسل رہ کر نابود ہو جائے۔ تا نا داتوں کی نظر میں یہ بھی ایک نشان ہو۔  
لہذا اس نے پہلے سے براہین احمدیہ میں خبر دے دی کہ ینقطع ابواک ویدء منک۔  
یعنی تیرے بزرگوں کی پہلی نسلیں منقطع ہو جائیں گی اور ان کے ذکر کا نام و نشان نہ رہے گا۔  
اور خدا تجھ سے ایک نئی بنیاد ڈالے گا۔ اسی بنیاد کی مانند جو ابراہیم سے ڈالی گئی - اسی

ایسا ہی خدا تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی خبیث مرض دامن گیر ہو جائے جیسا کہ جذام  
اور جنون اور اندھا ہونا اور مرگ - تو اس سے یہ لوگ توجہ نکالیں گے کہ اس پر غضب الہی ہو  
گیا۔ اس لئے پہلے سے اس نے مجھے براہین احمدیہ میں بشارات دی کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے  
تجھے محفوظ رکھوں گا۔ اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کر دوں گا۔ اور بعد اس کے آنکھوں کی نسبت خاک  
یہ بھی الہام ہوا۔ فنزل الرحمة علی ثلاث۔ العین و علی الاخرین۔ یعنی رحمت تین  
عضوؤں پر نازل ہوگی۔ ایک آنکھیں کہ پیرانہ مالی اس کو صدمہ نہیں پہنچائے گی اور نزل الملم و غیرو  
سے جس سے نور بصارت جاتا رہے محفوظ رہیں گی۔ اور دو عضو اور ہیں جن کی خدا تعالیٰ نے تصریح  
نہیں کی۔ کن پر بھی یہی رحمت نازل ہوگی۔ اور ان کی توفیق اور طاقتوں میں فتور نہیں آئے گا۔  
اب بولو تم نے دنیا میں کس کذاب کو دیکھا کہ اپنی عمر تلاتا ہے اپنی صحت بھری اور دوسروں کو اعضا  
کی صحت کا آفر عمر تک دعویٰ کرتا ہے۔ ایسا ہی چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ قتل کے منصوبے  
کریں گے اس لئے پہلے سے براہین میں خبر دے دی یعصمک الله ولن یصلک الناس۔

۱۷۱

یہ حوالہ صفحہ 306 پر درج ہے

تلفہ گولڈویہ [ضمیمہ] صفحہ 31 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 67 از مرزا قادیانی

جس طرح کا چلبے کھانا کھائے !

(۳۰۴) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی شبیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم بیان فرماتے تھے کہ میں حضرت صاحب کے مکان کے باہر کے حصے میں رہتا ہوں۔ پتھر کئی دفعہ حضرت صاحب کے گھر کی عورتوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا ہے کہ حضرت صاحب کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ ان کے سامنے سے کوئی عورت کسی طرح سے بھی گزر جاوے ان کو پتہ نہیں لگتا۔ یہ معاملہ موقع پر بھگرتی ہیں کہ جب کوئی عورت حضرت صاحب کے سامنے سے گزرتی ہوئی ان کا منہ پر گھر گھسٹ کا پردہ کا اہتمام کرنے لگتی ہے۔ اور ان کا مشاوریہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کی آنکھیں ہر وقت نیچی اور نیم بند رہتی ہیں اور وہ اپنے کام میں بالکل نہجک رہتے ہیں ان کے سامنے سے جلتے ہوئے کسی خاص پردہ کی ضرورت نہیں۔ نیز مولوی شبیر علی صاحب نے بیان کیا کہ بہر مہول میں بھی حضرت صاحب کی یہی عادت تھی کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتی تھیں اور ادھر ادھر آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی آپ کو عادت نہ تھی۔ ہر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میری جانتے ہوئے آپ کسی خادم کا ذکر غائب کے صحنہ میں فرماتے تھے حالانکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا تھا۔ اور پھر کسی کے جملے پر آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہ شخص آپ کے ساتھ ہے !

(۳۰۴) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی شبیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سو چند خام کے نوڈ کھانے لگے تو نوڈ گرا فرما آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آنکھیں کھول کر رکھیں ورنہ تصویرا جی نہیں آئے گی۔ اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ نکلنے کے ساتھ آنکھوں کو کچھ زیادہ کھولا بھی گرہ پھر اسی طرح نیم بند ہو گئیں !

(۳۰۵) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی شبیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسا کرتے تھے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر غالب آنے کا مادہ رکھ دیا ہے۔ پس خواہ انسان اپنی ہا عملوں سے کیسا ہی گندہ ہو گیا ہو وہ جب بھی نیکی کی طرف مائل ہونا چاہے گناہ کی نیک فطرت اس کے گناہوں پر غالب آجاتی اور اس کی مثال اس طرح پر سمجھا جا کرے تھے کہ جیسے پانی کے اندر طبعی خاصہ ہے کہ وہ آگ کو بہاتا ہے پس خواہ پانی خود کتنا بھی گرم ہو جاوے حتیٰ کہ وہ جلا نے میں آگ کی طرح ہو جاوے لیکن پھر بھی

لموا جراب بھی پہنے رہتے تھے۔ بلکہ سردیوں میں دو سو تھوڑے سا ان پور تھوڑے سا پتھر تھوڑے سا  
 پاؤں میں آپ ہمیشہ ویسی جوتا پہنتے تھے۔ نیز میان کیا بہت سے حضرت والدہ صاحبہ نے  
 کہ جب سے حضرت مسیح موعود کو دوسرے پڑنے شروع ہوئے اس وقت سے آپ زری  
 گرمی میں گرم کپڑے کا استعمال شروع فرمایا تھا۔ ان کپڑوں میں آپ کو گرمی بھی لگتی تھی۔  
 اور بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی تھی گرمی ایک دفعہ شروع کر دیئے تو پھر آخر  
 تک یہی استعمال فرماتے رہے۔ اور جب سے شیخ رحمت اللہ صاحب گرائی شرم لاہور  
 احمدی ہوئے وہ آپ کے لئے کپڑوں کے جوڑے بنا کر باقاعدہ لاتے تھے اور حضرت صاحب  
 کی عادت تھی کہ بیدار کپڑا کوئی لے آئے ہیں لیتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لئے  
 گرگابی لے آیا آپ نے پہن لی مگر کھیلنے سے باؤں کا آپ کو تپ نہیں لگتا تھا کئی  
 دفعہ الٹی پہن لیتے اور پھر تکلیف ہوتی تھی بعض دفعہ آپ کا اٹا پاؤں پڑ جا تو تنگ  
 ہو کر فرماتے ان کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ بیٹے آپ کی سہولت  
 کی واسطے اسے بید ہے پاؤں کی شناخت کیلئے نشان لگا دینے سے گریا و جود اسے  
 آپ التامید سے پہن لیتے تھے اسلئے آپ نے اسے اتار دیا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت  
 صاحب نے بعض اوقات انگریزی طرز کی قمیص کے کٹوں کے متعلق بھی اسی قسم کا پندیرگی  
 کے الفاظ فرمائے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ شیخ صاحب موصوف آپ کے لئے انگریزی طرز  
 کی گرم قمیص بنا کر لایا کیلئے تھے آپ انہیں استعمال تو فرماتے تھے۔ مگر انگریزی طرز کی کھونکو  
 پند نہیں فرماتے تھے کیونکہ اول تو کٹوں کے ٹن لگانے سے آپ گھبراتے تھے دوسرے ٹنوں  
 کے کھولنے اور بند کرنے کا التزام آپ کے لئے مشکل تھا۔ بعض اوقات فرماتے تھے کہ یہ کیا  
 کان سے نکلے رہتے ہیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ لباس کے متعلق حضرت مسیح موعود کا عام  
 اصول یہ تھا کہ جس قسم کا کپڑا ملتا تھا پہن لیتے تھے۔ مگر عموماً انگریزی طریق لباس کو پسند  
 نہیں فرماتے تھے۔ کیونکہ اول تو اسے اپنے لئے مادگی کے خلاف سمجھتے تھے دوسرے آپ  
 ایسے لباس سے جو اعضا کو بکرا ہوار کے بہت گھبراتے تھے۔ گھریں آپ کے لئے صرف مل کے  
 کر کے اور گزیاں تیار ہوتی تھیں۔ باقی سب کپڑے عموماً ہیٹھ آپ کو آجاتے تھے۔ شیخ

تمی اُس دن گھر میں یہی ایک لطیفہ ہو گیا۔

۱۲۴۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ بعض بوڑھی عورتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی لیکر کچھ کھانے کو مانگا انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا کہ یہ لے لو۔ حضرت نے کہا نہیں میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی۔ حضرت صاحب نے اسپر بھی وہی جواب دیا وہ اس وقت کسی بات پر چڑھی ہوئی بیٹھی تھیں۔ سختی سے کہنے لگیں کہ جاؤ پھر آکر روٹی کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں ایک لطیفہ ہو گیا۔ یہ حضرت صاحب کا بالکل بچپن کا واقعہ ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے یہ واقعہ سنا کر کہا کہ جس وقت اُس عورت نے مجھے یہ بات سنائی تھی۔ اس وقت حضرت صاحب بھی پاس تھے۔ مگر آپ خاموش رہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مولوی ذوالفقار علی خان صاحب نے کہ جن دنوں میں گورداسپور میں کرم دین کا مقدمہ تھا ایک دن حضرت صاحب کچھری کی طرف تشریف لے جانے لگے اور جب معمول پہلے دعا کے لیے اُس کمرہ میں گئے جو اس عرصہ کے لیے پہلے مخصوص کر لیا تھا۔ میں اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ باہر انتظار میں کھڑے تھے اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں اس وقت حضرت صاحب کی چھڑی تھی۔ حضرت صاحب دعا کرتے باہر نکلے تو مولوی صاحب نے آپ کو چھڑی دی حضرت صاحب نے چھڑی ہاتھ میں لے کر آئے دیکھا اور فرمایا۔ یہ کس کی چھڑی ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضور ہی کی ہے جو حضور اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ میری نہیں ہو گی صاحب کہتے ہیں کہ وہ چھڑی مدت سے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ مگر محویت کا یہ عالم تھا کہ کبھی اسکی شکل کو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہ پہچان سکیں۔ حالانکہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دفعہ میں قادیان آیا۔ اس وقت حضرت صاحب مسجد کی میز صیوں میں کھڑی ہو کر کسی افغان کو رخصت کر رہے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ آپ اُس وقت خوش نہ تھے۔ کیونکہ وہ شخص افغانستان میں جا کر تبلیغ کرنے سے ڈرتا تھا۔ خیر میں جا کر حضور سے ملا۔ اور

کہ میں پھر نو گاؤں میں چلا جاؤں اور بڑی بیقراری سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا۔  
جلدی نہیں کرنی چاہیے اپنے وقت پر یہ خود ہو جائیگا۔ میاں عبد اللہ صاحب بیان  
کرتے ہیں۔ کہ کچھ عرصہ بعد میرا تبادلہ غوث گڑھ میں ہو گیا۔ جہاں میرا تبادلہ  
لگا کہ نو گاؤں کی خواہش دل سے نکل گئی۔ اور میں نے حضرت کے فرمان  
کی یہ تامل کر لی کہ چونکہ غوث گڑھ بھی مسلمانوں کا گاؤں ہے اور اسمیں مسجد  
ہے۔ اور یہاں میرا دل بھی خوب لگ گیا ہے اس لیے حضرت کے فرمان کے یہی معنی  
ہونگے۔ جو تو سے ہونگے۔ مگر کچھ عرصہ بعد نو گاؤں کا حلقہ خالی ہوا۔ اور تحصیلدار نے  
میری ترقی کی سفارش کی اور لکھا کہ ترقی کی یہ صورت ہے کہ مجھے علاوہ غوث گڑھ کے  
نو گاؤں کا حلقہ بھی جو وہ بھی <sup>۵۵</sup> سالانہ کا تھا۔ ایدیا جائے۔ اور دونوں حلقوں  
کی تنخواہ یعنی ماہانہ <sup>۵۵</sup> دی جاوے۔ یہ سفارش بہاراج سے منظور ہو گئی اور  
اس طرح میرے پاس غوث گڑھ اور نو گاؤں دونوں حلقے آگئے۔ اور ترقی بھی  
ہو گئی۔ میاں عبد اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص امتداری  
نفل تھا۔ ورنہ نو گاؤں غوث گڑھ سے پندرہ کوس کے فاصلہ پر ہے اور درمیان  
میں کسی غیر حلقے ہیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ غوث گڑھ کا تمام گاؤں میاں عبد اللہ  
صاحب کی تبلیغ سے احمدی ہو چکا ہے۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ یہ تمام دیہات ریاست  
پٹیالہ میں واقع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبد اللہ صاحب سنوری نے  
کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت صاحب کو ایک جیبی گھڑی عرصہ دی۔ حضرت صاحب  
اسکو نکال کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجیر نہیں لگاتے تھے۔ اور جب وقت  
دیکھنا ہوتا تھا۔ تو گھڑی نکال کر ایک کے ہند سے یعنی عدد سے گن کر وقت کا پتہ  
تھے اور اٹھ کر رکھ کر ہند سے گنتے تھے۔ اور منہ سے بھی گنتی جاتی تھی اور گھڑی دیکھتے ہی وقت  
نہ پہچان سکتے تھے۔ میاں عبد اللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کر  
اس طرح وقت شمار کرنا مجھے بہت ہی پیارا معلوم ہوتا تھا +

کھیت کو بہت سی بھرتی ڈلو کر حضرت اُمّ المؤمنین نے تیار کروایا تھا۔ (اُس وقت نواب صاحب کی بیگم جو وہ مالیر کوٹلہ سے ساتھ لائے تھے، زندہ تھیں) یہ بات حضرت اُمّ المؤمنین کی ناراضگی کا موجب ہوئی۔ اور حضرت اُمّ المؤمنین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور نے نواب صاحب کو لکھا۔ جس پر نواب صاحب نے اُس روز میں پر مکان بنانے کے ارادہ کو ترک کیا۔ کہ اس میں ابتدا ہی میں تنازع ہوا ہے، یہ جگہ مبارک نہیں ہو سکتی۔ اور بعد میں دوسرے اصحاب نے بھرتی ڈلو کر وہاں مکانات بنوائے۔ اور نواب صاحب نے مدرسہ تعلیم الاسلام کے پاس زمین خرید کر کے کوٹھی بنوائی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تعلقات محبت کے بڑبانے میں انہیں بڑی برکات حاصل ہوئیں؛

## بال سفید

فرمایا کرتے تھے۔ کہ ہمارے بال تیس سال کی عمر میں سفید ہونے شروع ہوئے تھے۔ اور پھر جلد جلد سب سفید ہو گئے؛

## انہوں کو کچھ وید ہے

حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اُس نے کیا حرکت کی۔ کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے۔ وہاں ایک کونے میں گھرا تھا جس کے پاس پانی کے گڑے رکھے تھے۔ وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور تنگی بیٹھ کر تہانے لگ گئی حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے، اور کچھ خیال نہ کیا۔ کہ وہ کیا کرتی ہے۔ جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آئی۔ اُس نے اُس نیم دیوانی کو ملامت کی۔ کہ حضرت صاحب کے کمرے میں موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی۔ تو اُس نے ہنس کر جواب دیا۔ انہوں کو کچھ وید ہے۔ یعنی اُسے کیا دکھائی دیتا ہے۔ حضور

ذکر حبیب صفحہ 38 از مفتی محمد صادق قادریانی

یہ حوالہ صفحہ 309 پر درج ہے

۲۲۲

نسیم دعوت

پیدا کرتا ہے۔ جن سے اب یورپ بھی دن بدن واقف ہوتا جاتا ہے۔ آخر جیسے بہت سے  
تجارب کے بعد طلاق کا قانون پاس ہو گیا ہے۔ اسی طرح کسی دن دیکھ لو گے کہ تنگ کر  
اسلامی پردہ کے مشابہ یورپ میں بھی کوئی قانون شائع ہو گا۔ ورنہ انجمن ام یہ ہو گا۔ کہ  
چار پائیوں کی طرح خورتیں اور مرد ہو جائیں گے۔ ایسے مشکل ہو گا کہ یہ شناخت کیا جائے  
کہ فلاں شخص کس کا بیٹا ہے۔ اور وہ لوگ کیونکر پاک دل ہوں۔ پاک دل تو وہ ہوتے  
ہیں۔ جن کی آنکھوں کے آگے ہر وقت خدا رہتا ہے۔ اور نہ صرف ایک موت ان کو  
یاد ہوتی ہے۔ بلکہ وہ ہر وقت عظمت الہی کے اثر سے مرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ حالت  
شراب خوری میں کیونکر پیدا ہو۔ شراب اور خدا ترسی ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔  
خون مسیح کی دلیری اور شراب کا جوشش تقویٰ کی بیخ کنی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اندازہ  
نہیں لگا سکتے کہ آیا کفارہ کے مسئلہ نے یہ خرابیاں زیادہ پیدا کی ہیں یا شراب نے۔ اگر  
اسلام کی طرح پردہ کی رسم ہوتی۔ تو پھر بھی کچھ پردہ رہتا۔ مگر یورپ تو پردہ کی رسم کا  
دشمن ہے۔ ہم یورپ کے اس فلسفہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور وہ اس اصرار سے باز نہیں آتے۔  
تو شوق سے شراب پیائیں۔ کہ اس کے ذریعہ سے کفارہ کے فوائد بہت ظاہر ہوتے ہیں۔  
کیونکہ مسیح کے خون کے سہارے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ شراب کے وسیلہ سے ان کی میزانی  
بڑھتی ہے۔ ہم اس بحث کو زیادہ طویل نہیں دینا چاہتے۔ کیونکہ فطرت کا تقاضا الگ الگ ہے۔  
ہمیں تو ناپاک چیزوں کے استعمال سے کسی سخت مرض کے وقت بھی ڈر لگتا ہے۔ چہ جائیکہ  
پانی کی جگہ بھی شراب پی جائے۔ تبھی اس وقت ایک اپنا سرگزشت قصہ یاد آتا ہے۔ اور  
وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے۔  
اور بعض وقت سونتو دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آیا ہے۔ اور بوجہ اس کے کہ پیشاب  
میں شکر ہے۔ کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور کثرت پیشاب سے بہت  
ضعف تک ذہن پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس

۶۹

۴۳

شادی میں تجھے کچھ فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام ضروریات کا رفع کرنا میرے ذمہ رہے گا۔ سو قسم ہے اُس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اُس نے اپنے وعدہ کے موافق اس شادی کے بعد ہر ایک بار شادی سے مجھے سبکدوش رکھا اور مجھے بہت آرام پہنچایا۔ کوئی باپ دنیا میں کسی بیٹے کی پرورش نہیں کرتا جیسا کہ اُس نے میری کی۔ اور کوئی والد پوری ہوشیاری سے دن رات اپنے بچے کی ایسی خبر نہیں کھتی جیسا کہ اُس نے میری رکھی۔ اور جیسا کہ اُس نے بہت عرصہ پہلے براہین احمدیہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یا احمد! اسکن انت و زوجک الجنة۔ ایسا ہی وہ بجالایا۔ معاش کا غم کرنے کے لئے کوئی گھڑی اُس نے میرے لئے خالی نہ رکھی۔ اور خانہ داری کے ہتھات کے لئے کوئی اضطراب اُس نے میرے نزدیک آئے نہ دیا۔ ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بپاعتس اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سی امراض کا نشانہ رہ چکا تھا۔ اور دو مرضیں یعنی ذیابیطس اور دردِ موع دورانِ سر قدیم سے میرے شامل حال تھیں جن کے ساتھ بعض اوقات تشنجِ قلب بھی تھا۔ اس لئے میری حالت مردی کا عدم تھی۔ اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔ اور ایک خط جس کو میں نے اپنی جماعت کے بہت سے معزز لوگوں کو دکھلا دیا ہے جیسے انخویم مولوی نور الدین صاحب اور انخویم مولوی برہان الدین وغیرہ۔ مولوی محمد حسین صاحب ایڈیٹر اشاعت السنۃ نے بہمدردی کی راہ سے میرے پاس بھیجا کہ اپنے شادی کی ہے اور مجھے حکیم محمد شریف کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بپاعتس سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ اگر یہ امر آپ کی روحانی قوت سے تعلق ہو کھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں اولیاء اللہ کے خوارق اور روحانی قوتوں کا منکر نہیں ورنہ ایک بڑے فکر کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ



دشمن ہو گئے مگر ہر ایک خدا کا فرستادہ جو بھیجا جاتا ہے ضرور ایک ابتلاؤں ساتھ لاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ جب آئے تو بد قسمت یہودیوں کو یہ ابتلاؤں پیش آیا کہ ایلیا دوبارہ آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ اور ضرور تھا کہ پہلے ایلیا آسمان سے نازل ہوتا تب مسیح آتا۔ جیسا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اہل کتاب کو یہ ابتلاؤں پیش آیا کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے نہیں آیا۔ اب کیا ضرور نہ تھا کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت بھی کوئی ابتلاؤں ہو۔ اور اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے بہتر فرقہ کی مان لیتا تو پھر کون معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا۔ کیا وہ باتوں کو ماننے آیا تھا یا منوانے آیا تھا؟ تو اس صورت میں اسکا آنا بھی بے سود تھا۔ سوائے قوم! تم ضد نہ کرو۔ ہزاروں باتیں ہوتی ہیں جو قبل از وقت سمجھ نہیں آتی۔ ایلیا کے دوبارہ آنے کی اصل حقیقت حضرت مسیح سے پہلے کوئی نبی سمجھا نہ سکتا تاہو حضرت مسیح کے ماننے کے لئے تیار ہو جاتے۔ ایسا ہی اسرائیلی خاندان میں سے خاتم الانبیاء آنے کا خیال جو یہود کے دل میں مرکوز تھا اس خیال کو بھی کوئی نبی پہلے نبیوں میں سے صفائی کے ساتھ دور نہ کر سکا۔ اسی طرح مسیح موعود کا مسئلہ بھی مخفی چلا آیا تا منت اللہ کے موافق اس میں بھی ابتلاؤں ہو۔ بہتر تھا کہ میرے مخالف اگر ان کو ماننے کی توفیق نہیں دی گئی تھی تو بارے کچھ مدت زبان بند رکھ کر اور کھن مسان اختیار کر کے میرے انجام کو دیکھتے اب جس قدر عوام نے بھی گایاں دیں یہ سب گناہ مولویوں کی گردن پر ہے! انہوں نے یہ لوگ فرست سے بھی کام نہیں لیتے۔ میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور وہ دزد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چادروں میں مسیح نازل ہوگا وہ دزد چادریں میرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر علم تفسیر الروایا کے دزد دو بیماریاں ہیں۔ سو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سرورد اور

دوران سزاور کئی خواب اور تشنچ دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوسری چلو  
جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے  
دامتگیر ہے اور بسا اوقات تو تو وقوع رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر  
کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض منعوت وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میری مثال حل  
رہتے ہیں۔ بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لئے جب زینہ چڑھ کر اوپر  
جاتا ہوں تو مجھے اپنے ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیرٹھی سے دوسری  
سیرٹھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا۔ اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے  
کہ ہر روز موت کا سامنا اس کے لئے موجود ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کے انجام کی  
نظریں بھی موجود ہیں تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیونکہ اکثر اوپر جرات  
کر سکتا ہے اور وہ کس صحت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری اتنی برس کی عمر  
ہوگی۔ حالانکہ ڈاکٹری تجارب تو اس کو موت کے پنجہ میں ہر وقت پھنسا ہوا خیال  
کرتے ہیں۔ ایسی مریضوں والے مدقوق کی طرح گداز ہو کر جلد مر جاتے ہیں یا کابھیل  
یعنی سرطان سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس زور سے میں ایسی حالت  
پر خطر میں تبلیغ میں مشغول ہوں کیا کسی مفتری کا کام ہے۔ جب میں بدن کے اوپر  
کے حصہ میں ایک بیماری۔ اور بدن کے نیچے کے حصہ میں ایک دوسری بیماری دکھتا  
ہوں تو میرا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ وہی دو چادریں ہیں جن کی خبر جناب رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

میں محض نصیحتاً اللہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ  
گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طینت  
ہے تو خیر آپ کی مرضی۔ لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی  
تو اختیار ہے کہ مساجد میں آٹھے ہو کہ یا اللہ اللگ میرے پر بد عیاش کریں

کے لئے افیون سفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ بہر روی فرمائی۔ لیکن اگر میں ذیابیطس کے لئے افیون کھانے کی عادت کر لوں۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا۔ اور دوسرا افیونی۔

پس اس طرح جب میں نے خدا پر توکل کیا۔ تو خدا نے مجھے ان خبیث چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔ اور بارہا جب مجھے غلبہ مرض کا ہوا۔ تو خدا نے فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے شفا دیدی۔

تب اسی وقت مجھے آرام ہو گیا۔ انہی باتوں سے میں جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جھوٹے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہ اُس نے مدح پیدا کی اور نہ ذرات اجسام۔ وہ خدا سے غافل ہیں۔ ہم ہر روز اُس کی نئی پیدائش دیکھتے ہیں۔ اور ترقیات سے نئی نئی روح وہ ہم میں پھونکتا ہے۔ اگر وہ نسبت سے ہست کر نیوالا نہ ہوتا۔ تو ہم تو زندہ ہی مر جاتے۔ عجیب ہے۔ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے۔ کون ہے جو اس کی مانند ہے۔ اور عجیب

ہیں اُس کے کام۔ کون ہے جس کے کام اس کی مانند ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں بعض وقت حکمت اس کی ایک کام کرنے سے اُسے روکتی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں۔ کہ

مجھے دو مرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سر درد اور دورانِ سر اور دورانِ خون کم ہو کر مالتھ پیر سرد ہو جانا۔ بغض کم ہو جانا۔ دوسرے جسم کے نیچے کے حصہ میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں قریباً بیس برس سے ہیں۔ کبھی دُعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دُعا ہو گئیں۔ مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دُعا کی۔ کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں۔ تو جواب ملا۔ کہ ایسا نہیں ہو گا۔

✽ انسان جب تک خود خدا کی تحلی سے اور خدا کے وسیلہ سے اس کے وجود پر اطلاع نہ پاوے۔ تب تک وہ خدا کی پرستش نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے خیال کی پرستش کرتا ہے۔ محض خیال کی پرستش کرنا اندرونی گندگی کو صاف نہیں کرتا۔ ایسے لوگ تو پریشتر کے فود پر پیشو ہتے ہیں کہ خود اس کا پتہ آپ لگاتے ہیں۔ مینہ

کیونکہ احمد نبی ہے۔ نبوت اس سے منسک نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دفعہ یہ ذکر آیا کہ احادیث میں ہے کہ مسیح موعودؑ زرد رنگ چادروں میں اترے گا۔ ایک چادر بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی اور دوسری چادر بدن کے نیچے کے حصہ میں۔ سو میں نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعودؑ لیاریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے۔ اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں یعنی ایک سر کی بیماری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری۔ ابھی وہ اسی جگہ تھے کہ بہت یقین اور بھاری تبدیلی کی وجہ سے ان پر الہام اور وحی کا دروازہ کھولا گیا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کھلے لفظوں میں میری تصدیق کے بارے میں انہوں نے شہادتیں پائیں جنکی وجہ سے آخر کار انہوں نے اس شہادت کا شربت اپنے لئے منظور کیا جسکے مفصل لکھنے کیلئے اب وقت آگیا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جس طرز سے انہوں نے میری تصدیق کی راہ میں مرنا قبول کیا۔ اس قسم کی موت اسلام کے تیرہ سو برس کے سلسلہ میں بجز نمونہ صحابہ یعنی اشد عنہم کے اور کسی جگہ نہیں پاؤ گے۔ پس بلاشبہ اس طرح انکا مرنا اور میری تصدیق میں نقد جان خدا تعالیٰ کے حوالہ کرنا یہ میری سچائی پر ایک عظیم الشان نشان ہے۔ مگر ان کیلئے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ انسان شک شبہ کی حالت میں کب چاہتا ہے کہ اپنی جان دے۔ اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو تباہی میں ڈالے۔ پھر عجب تو یہ کہ یہ بزرگ معمولی انسان نہیں تھا۔ بلکہ ریاست کابل میں کئی لاکھ کی انکی اپنی جاگیر تھی اور انگریزی عہداری میں بھی بہت سی زمین تھی۔ اور طاقت علمی اس درجہ تک تھی کہ ریاست کے تمام مولویوں کا انکو سردار قرار دیا تھا۔ وہ سب زیادہ عالم علم قرآن اور حدیث اور فقہ میں سمجھے جاتے تھے اور نئے امیر کی دستار بندی کی رسم بھی انہیں کے ہاتھ سے ہوتی تھی۔ اور اگر امیر فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ پڑھنے کیلئے بھی وہی مقرر تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں مستبر ذریعہ سے پہنچی ہیں۔ اور انکی خاص زبان سے میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں پچاس ہزار کے قریب انکے مستعد اور اراکین تھے جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل میں ایک فرد تھا۔ اور کیا علم کے لحاظ سے اور کیا تقویٰ کے لحاظ سے اور کیا جاہ اور مرتبہ کے لحاظ سے اور کیا خاندان کے لحاظ سے اس ملک میں اپنی نظیر نہیں کھتا تھا۔ اور علاوہ مولوی کے خطاب کے صاحبزادہ اور انوان بلخ اور شلمزادہ کے لقب سے اس ملک میں مشہور تھے۔ اور شہید مرحوم ایک بڑا کتب خانہ حدیث اور

کیے نذیریں جمع کی جلیوں گی۔ تریہ عظیم نشان پیشگوئی پُردی ہو رہی ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ بیماریوں میں ہمیشہ سے مبتلا رہتا ہوں، پھر بھی آج کل میری مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا ہوں اور حالہ کہ زیادہ جگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دورانِ سر کا ذرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کئے جاتا ہوں؛ چونکہ دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کدھر جاتا ہے۔ اسی وقت عبر ہوتی ہے جب شام کی نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے پانی کا ٹوٹا کھ دیا جاتا ہے۔ اس وقت مجھے السوس ہوتا ہے کہ کاش اتنا دن اور ہوتا، حالانکہ اسپتال کی بیماری سے اور ہر روز کئی کئی قسمت آتے ہیں، مگر جب پانخانے کی حاجت بھی ہوتی ہے تو بے رنج ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوتی اور ایسا ہی رونے کے لیے جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو برا بھلا کر کے جلد جلد چند کتے کھالیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روٹی کھاتا ہوں اور کھاتی دیتا ہوں، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھاتا ہوں۔ میری توجہ اور خیال اسی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ پس یہ کام بہت غریبی ہے اور خدا چاہے تو ایک نشان ہو گا جس کی نظیر لالے پر کوئی قادر نہ ہو گا۔

[ناظرین! حضرت اقدس کے اس جوش کا بھی قدر پتہ ان الفاظ سے مل سکتا ہے جو آپ کو اعلیٰ کلام اسلام کے لیے حق نے عطا فرمایا ہے۔ آپ اللہ کے رکھتے ہیں کہ ہم کس دوسری میں ہیں اور وہ کس خیال میں پیرا سی سبب کلام میں فرمانے لگے کہ:]

”مگر چہ یہ کتاب بظاہر کوئی عجیب اور اعجاز نظر نہ آتی ہو، مگر اس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم ہو جائے گا جب ہم نے ہوتو کے لیے مضمون لکھنا شروع کیا تو ہمارے ایک دوست نے اپنے خیال کے موافق کہ خوشی ظاہر نہ کی مگر خدا تعالیٰ نے الہاماً خوشخبری دی کہ وہ مضمون بالارباب چنانچہ یہ اشتہار جلسہ سے پہلے ہی شائع کر دیا گیا۔ آخر جب وہ جلسہ میں پڑھا گیا تو اس کی عظمت اور اس کے حقائق کو سب نے تسلیم کیا یہاں تک کہ لاہور کے انگریزی اُردو اخبارات نے اس کے بالارہنے کا اعتراف کیا۔ اسی طرح پر جب یہ کتاب شائع ہو کر باہر نکلے گی، تب پتہ پتہ لگے گا۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو دہلی سے جٹر لے کر لایا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ جب میں عطار کی دوکان پر گیا، تو جو عطر وہ دکھاتا تھا، میں اس کو ہی واپس کر دیتا تھا۔ آخر عطار نے کہا، میں تم یہاں دوکان میں بیٹھے ہو تو میں پتہ نہیں لگتا۔ جب دوکان سے باہر لے کر جاؤ گے، تب اس جٹر کی حقیقت معلوم ہوگی! چنانچہ جب وہ جٹر لے کر آیا تو اس نے بیان کیا کہ جو گاڑیاں ہم سے پیچھے آتی تھیں ان کے سوار کہتے تھے کہ کس کے پاس جٹر ہے۔ گویا اس کی اتنی خوشبو تھی۔“

[اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے دلوں کی صداقت اور اپنے مومن اللہ ہونے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مولیٰ شیر علی صاحب نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان سے گورداسپور جاتے ہوئے بٹالہ ٹھیسے وہاں کوئی مہمان جو آپ کی تلاش میں قادیان سے ہوتا ہوا بٹالہ واپس آیا تھا آپ کے پاس کچھ پھل بطور تحفہ لایا۔ پھلوں میں انگور بھی تھے۔ آپ نے انگور کھانے۔ اور فرمایا انگور میں ترشی ہوتی ہے۔ مگر یہ ترشی نزلہ کے لیے مضر نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی میرا دل انگور کو چاہتا تھا۔ سو خدا نے بھیج دیئے۔ فرمایا۔ کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ کہ جس چیز کو دل چاہتا ہے۔ اللہ اُسے ہبیا کر دیتا ہے۔ پھر ایک واقعہ سنایا۔ کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا۔ کہ میرے دل میں پونڈے لگنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مگر وہاں راستہ میں کوئی گنا میسر نہیں تھا۔ مگر اللہ کی قدرت کہ سوڑی دیر کے بعد ایک شخص ہم کو مل گیا جس کے پاس پونڈے تھے۔ اس سے ہم کو پونڈے مل گئے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ کے کہ اولاً میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سنت دوزخ پڑا۔ کسی نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کو یہی اطلاع دی۔ یہی اور وہ دونوں آگئے۔ پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دوزخ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا۔ کہ مرزا سلطان احمد تو آپسی چار پائی کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ مگر مرزا فضل احمد کے چہرہ پر ایک رنگ آتا تھا۔ اور ایک جاتا تھا اور وہ کبھی اصرعہ جاتا تھا۔ اور کبھی ادھر کبھی اپنی پگڑھی اتار کر حضرت صاحب کی ٹانگوں کو باندھتا تھا۔ اور کبھی پاؤں دبانے لگ جاتا تھا۔ اور گھبراہٹ میں اس کے اٹھ کاہتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب محمدی بیگم کی شادی دوسری جگہ ہو گئی اور قادیان کے تمام رشتہ داروں نے حضرت صاحب کی سخت مخالفت کی اور خلاف کوشش کرتے رہے اور سب نے

میرا ساتھ دیا ہے اسی طرح جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی۔

(۸۰) بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے نے کہ میرا دادا جسے لوگ مام طور پر ظیفہ کہتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سخت لفظ تھا اور آپ کے حق میں بہت بدزبانی کیا کرتا تھا۔ اور والد صاحب کو بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ والد صاحب نے اس سے تنگ آکر حضرت مسیح موعود کو دعا کیلئے خط لکھا حضرت مسیح موعود کا جواب گیا کہ ہم نے دعا کی ہے والد صاحب نے یہ خط تمام محل والوں کو دکھا دیا اور کہا کہ حضرت صاحب نے دعا کی ہے اب دیکھ لینا ظیفہ گالیاں نہیں دیں گی۔ دوسرے میرے دن جمعہ تھا ہمارا دادا صاحب دستور غیر احمدیوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے گیا مگر وہاں سے دعا آکر غیر معمولی طور پر حضرت مسیح موعود کے متعلق خاموش رہا۔ حالانکہ اسکی عادت تھی کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر آنے کے بعد خصوصاً بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم آج مرزا صاحب کے متعلق خاموش کیوں ہو؟ اس نے کہا کسی کے متعلق بدزبانی کرنے سے کیا حاصل ہے اور مولوی نے بھی آج جمعہ میں غلط کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جگہ کیسا ہی برا ہو میں بدزبانی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ بات ہے؛ ہمیشہ تو تم گالیاں دیتے تھے اور آج تمہارا یہ خیال ہو گیا ہے۔ بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ باپو میرے والد کو لوگ باپو کہا کرتے تھے، کل ہی ایک خط دکھارنا تھا کہ تمہارا بیان سے آیا ہے اور کہتا تھا کہ اب ظیفہ گالی نہیں دیں گی۔ مولوی رحیم بخش صاحب کہتے تھے کہ اسکے بعد باوجود کئی دفعہ مخالفوں کے بڑگانے کے میرے دادا نے کبھی حضرت مسیح موعود کے متعلق بدزبانی نہیں کی اور کبھی میرے والد صاحب کو اچھبت کی وجہ سے تنگ نہیں کیا اس روایت کے متعلق یہ بات قابل توجہ ہے۔ کہ اسکے راوی صاحب نے اب حضرت ظیفہ المسیح کے منہ سے اس کے ماتحت اپنا نام عبدالرحیم رکھ لیا ہے اور عموداً مولوی عبدالرحیم صاحب درد کے نام سے یاد رکھے جاتے ہیں)۔

(۸۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو زولہ سے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سارا رمضان کے روزے نہیں رکھے اور تہذیب ادا کر دیا۔ دوسرا رمضان آیا تو آپ نے روزے کئی شروع

کئے مگر آٹھ نوروز سے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا اسلئے باقی چھوڑ دئے اور خدیہ ادا کر دیا اسلئے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آپ نے دس گیارہ روز سے رکھے تھے کہ پھر روزہ کی وجہ سے روزے ترک کرنے پڑے اور اپنے خدیہ ادا کر دیا اسلئے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا تیرہواں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور اپنے روزہ توڑ دیا اور باقی روزے نہیں رکھے اور خدیہ ادا کر دیا اسلئے بعد جو رمضان آئے اپنے سب روزے رکھے مگر پھر وفات سے دو تین سال قبل کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور خدیہ ادا فرماتے رہے ماکسار نے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتداء دوروں کے زمانہ میں روزہ چھوڑا تو کیا پھر بعد میں انکو قضا کیا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں صرف خدیہ ادا کر دیا تھا تاکہ عرض کرتا ہے کہ جب شروع شروع میں حضرت مسیح موعود کو دوران سراورہ بر واطراف کے دورے پڑنے شروع ہوئے تو اس زمانہ میں آپ بہت کم روزہ ہو گئے تھے اور صحت خراب رہتی تھی اسلئے جب آپ روزے چھوڑتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر دوسرے رمضان تک انکے پورا کرنے کی طاقت نہ پاتے تھے۔ مگر جب انکار رمضان آتا تو پھر قوی بناد میں روزہ رکھنا شروع فرمادیتے تھے لیکن پھر دورہ پڑتا تھا تو ترک کر دیتے تھے اور بقیہ کا خدیہ ادا کر دیتے تھے۔ والہ السلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا ہے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود احوال میں خراب سے استعمال فرمایا کرتے تھے پھر بیٹے کہہ کر وہ ترک کر دیتے اسلئے آپ معمولی پا جانے استعمال کرنے لگ گئے ماکسار عرض کرتا ہے کہ غرارہ بہت کھلے پلٹتے کہ پانچام کو کہتے ہیں۔ (پہلے اسکا بند و نشان میں بہت روان تھا اب بہت کم ہو گیا ہے)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود عام طور پر سفید لیل کی بگڑی استعمال فرماتے تھے جو عموماً دس گز لمبی ہوتی تھی بگڑی کے نیچے کلاہ کی جگہ نرم قسم کی رومی ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ اور گرمیوں میں بعض اوقات بگڑی امار کر سہ صرف ٹوپی ہی رہنے دیتے تھے بدن پر گرمیوں میں عموماً لیل کا کرنا استعمال فرماتے تھے۔ اسکے اوپر گرم سداری اور گرم کوٹ پہنتے تھے ہا بامہ بھی آپ کا گرم ہوتا تھا۔ نیز آپ

(۸۲)

(۸۳)



اور ماسٹر عبدالرحمن صاحب اور ماسٹر شیر علی صاحب بی اسے اور حافظ محمد العلی صاحب اور بہت سے دوستوں کو اطلاع دی گئی۔ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کیلئے کھڑا ہو گیا اور خدا تعالیٰ اجانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک توثیق دی گئی۔ اور فصیح تقریر عربی میں فی البدیہہ میرے مُنہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جسکی ضخامت کئی جزو تک تھی ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلمبند کی جائے کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے جس وقت یہ عربی تقریر جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا لوگوں میں سنائی گئی اُس وقت حاضرین کی تعداد شاید دو سو کے قریب ہوگی سبحان اللہ اُس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان پر کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا خود بخود بنے بنائے فقرے میرے مُنہ سے نکلتے جاتے تھے اور ہر ایک فقرہ میرے لئے ایک نشان تھا۔ چنانچہ تمام فقرات چھپے ہوئے موجود ہیں جن کا نام خطبہ الہامیہ ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ کیا کسی انسان کی طاقت میں ہو کہ اتنی لمبی تقریر بغیر سوچے اور فکر کے عربی زبان میں کھڑے ہو کر محض زبانی طور پر فی البدیہہ بیان کر سکے۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔

۳۷۳

۱۶۶۔ نشان: مجھے دو بیماریاں مدت دراز سے تھیں۔ ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بیتاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے اور یہ مرض قریباً پچیس برس تک دامنگیر رہی اور اس کے ساتھ دورانِ سر بھی لاحق ہو گیا اور طبیبوں نے لکھا کہ ان عوارض کا آخر نتیجہ مرگی ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر قسریا دو ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر مرض صرع میں مبتلا ہو گئے اور اسی سے اُنکا انتقال ہو گیا۔ لہذا میں دعا کرتا رہا کہ خدا تعالیٰ ان امراض سے مجھے محفوظ رکھے۔ ایک دفعہ

(۳۶۹) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ سینے  
کئی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراقب بھی  
فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ خود داعیِ محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت  
کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹیریا کے مریضوں میں بھی  
عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرنے کے یکریم ضعف ہو جانا۔ فکروں کا آنا۔ ہاتھ پاؤں کا ستر  
ہو جانا۔ گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا یا ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے یا کسی تنگ جگہ یا بعض  
اوقات ذیلو کا دیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیرہ ذلک۔ یہ عصبانیت  
کی ذکاوت حس یا تکان کی علامات ہیں اور ہسٹیریا کے مریضوں کو بھی ہوتی ہیں اور انہی مسنوں میں  
حضرت صاحب کو ہسٹیریا یا مراقب بھی تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ دوسری جگہ جو مولوی شیر علی صاحب  
کی روایت میں ہے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو بعض انبیاء کے متعلق لوگوں  
کا خیال ہے کہ ان کو ہسٹیریا تھا یہ ان کی غلطی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ جس کی تیزی کی وجہ سے ان کے  
اندر بعض ایسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جو ہسٹیریا کی علامات سے ملتی جلتی ہیں یا سوائے لوگ غلطی سے  
اسے ہسٹیریا کہنے لگ جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب جو کبھی کہیں بیٹھا کرتے  
تھے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ یہ اسی عام محاورہ کے مطابق تھا اور نہ آپ علی طو پر یہ سمجھتے تھے کہ ہسٹیریا  
نہیں بلکہ اس سے ملتی جلتی علامات ہیں جو ذکاوت حس یا شدتِ کار کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ نیز  
خاکسار عرض کرتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ایک بہت قابل اور لائق ڈاکٹر ہیں چنانچہ  
زمانہ طالب علمی میں بھی وہ ہمیشہ اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوتے تھے اور ڈاکٹری کے آخری امتحان  
میں تمام صوبہ پنجاب میں اول نمبر پر رہے تھے اور ایامِ ملازمت میں بھی ان کی لیاقت و قابلیت  
سلمہ ہی ہے۔ اور چونکہ بوجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت قوی رشتہ دار ہونے کے  
ان کو حضرت صاحب کی صحبت اور آپ کے علاج منجانباً کسی بہت کافی موقع ملتا رہتا تھا اس لئے  
ان کا راسخ اس معاملہ میں ایک خاص وزن رکھتی ہے جو دوسری کسی رائے کو کم حاصل ہے۔

(۳۷۰) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح  
موعود علیہ السلام کے نمازیں گھر کے بچے کبھی شب بات وغیرہ کے موقع پر پونہ ہی کیل تفریح کے

معلوم ہمایا فرمایا اشارہ ہوا کہ اس راہ میں ترقی کرنے کے لیے روزے رکھنے ہی ضروری ہیں۔ فرماتے تھے۔ پھر میں نے چھ ماہ لگاتار روزے رکھے اور گھر میں باپ پر کسی شخص کو معلوم نہ تھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ صبح کا کھانا جب گھر سے آتا تھا۔ تو میں کسی حاجت مند کو دیدیتا تھا۔ اور شام کا خود کھا لیتا تھا۔ میں نے حضرت والدہ صاحبہ سے پوچھا۔ کہ آخر عمر میں بھی آپ نفل روزے رکھتے تھے یا نہیں؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ آخر عمر میں بھی آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ خصوصاً شوال کے چھ روزے التزام کے ساتھ رکھتے تھے۔ اور جب کبھی آپ کو کسی خاص کام کے متعلق دعا کرنا ہوتی تھی تو آپ روزہ رکھتے تھے اہاں مگر آخری دو تین سالوں میں بوجہ ضعف و کمزوری رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے تھے دعا گزار عرض کرتا ہے کہ کتاب البریہ میں حضرت صاحب نے روزوں کا زمانہ آٹھ نومہ بیان کیا ہے)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کو پہلی دفعہ فدائین سرائے ہسٹیریا کا فعدہ بشیر اول (ہمارا ایک بڑا بھائی ہوتا تھا جو ۱۸۸۸ء میں فوت ہو گیا تھا) کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کو اٹھو آیا اور پھر اسکے بعد طبیعت خراب ہو گئی۔ مگر یہ دورہ خفیف تھا۔ پھر اسکے کچھ عرصہ بعد آپ ایک دفعہ نماز کیلئے باہر گئے اور جلتے ہوئے فرما گئے۔ کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ حامد علی حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کے ایک پرانے مخلص خادم تھے۔ اب فوت ہو چکے ہیں) نے دروازہ کٹکٹا یا کہ جلدی پانی کی ایک کھاگر گرم کر دی۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ میں سمجھ گئی۔ کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھو میرا طبیعت کا کیا حال ہے۔ شیخ حامد علی نے کہا۔ کہ کچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں پردہ کرا کے مسجد میں چلی گئی۔ تو آپ لیٹے لیٹے تھے۔ میں جب پاس گئی تو

(۹)

فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھا رہا تھا۔ کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے۔ پھر میں پیچ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کی سی حالت ہو گئی والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ اسکے بعد سے آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے خاکسار نے پوچھا۔ دورہ میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا لاٹھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے کچھ جاتے تھے۔ خصوصاً گردن کے پٹھے۔ اور سر میں جکڑ ہوتا تھا۔ اور اس حالت میں آپ اپنے بدن کو سہا رہ نہیں سکتے تھے۔ شروع شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے۔ پھر اسکے بعد کچھ تو دوروں کی ایسی سختی نہیں رہی۔ اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی۔ خاکسار نے پوچھا اس کی پہلے تو سر کی کوئی تکلیف نہیں تھی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا پہلے معمولی سردی کے دورے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا کیا پہلے حضرت صاحب خود نماز پڑھتے تھے؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں مگر پھر دو دنوں کے بعد چھوڑ دی۔ خاکسار عرض کرتا ہر کیسیجیت کے دعویٰ سے پہلے کی بات ہے۔

(اس روایت میں جو حضرت یحییٰ موعود کے دوران سر کے دوروں کے متعلق حضرت والدہ صاحبہ نے ہسٹیریا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کو وہ بیماری مراد نہیں ہے۔ جو علم طب کی رُو سے ہسٹیریا کہلاتی ہے۔ بلکہ یہ لفظ اس جگہ ایک غیر طبی رنگ میں دوران سر اور ہسٹیریا کی جزوی مشابہت کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہے۔ درنہ جیسے کہ حصہ دوم کی روایت نمبر ۲۲۵ و ۲۶۹ میں تشریح کی جا چکی ہے۔ حضرت یحییٰ موعود کو حقیقتاً ہسٹیریا نہیں تھا چنانچہ خود حضرت یحییٰ موعود نے جہاں کہیں بھی اپنی تحریرات میں اپنی اس بیماری کا ذکر کیا ہے۔ وہاں اسکے متعلق کبھی بھی ہسٹیریا وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی علم طب کی رُو سے دوران سر کی بیماری کسی صورت میں ہسٹیریا یا مراق کہلا سکتی ہے۔ بلکہ دوران سر کی بیماری کے لئے انگریزی میں غالباً ڈیپلو

کیلے نذیر میں جمع کی جلدیں لگی۔ تو یہ ظہیر ایشان پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ باوجود اس کے کہ دو بیماریوں میں ہمیشہ سے مبتلا رہتا ہوں، پھر بھی آج کی میری معروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے اندازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا ہوں، حالانکہ زیادہ جانگنے سے مراق کی بیماری ترقی کر گئی جاتی ہے اور دورانِ سر کا فائدہ لیا وہ ہو جاتا ہے۔ مگر میں اس بات کی پروا نہیں کرتا اور اس کام کو کئے جاتا ہوں، چونکہ دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کب صبح جاتا ہے۔ اسی وقت صبح ہوتی ہے جب شام کی نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے پانی کا لٹارہ دیا جاتا ہے۔ اس وقت مجھے السوس ہوتا ہے کہ کاش اتنا دن اور ہوتا، حالانکہ اسپتال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی دست آتے ہیں، مگر جب پاخانے کی حاجت ہی ہوتی ہے تو بے رنج ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوتی اور ایسا ہی رونی کیلے جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا جبر کر کے جلد جلد چند نکتے کھاتا ہوں۔ بنظر تو میں رونی کھاتا ہوں اور دکھائی دیتا ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھاتا ہوں۔ میری تو جوار خیل اسی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں یہ کام ہیبت مندی سے اور خدا چاہے تو ایک نشان ہو گا جس کی نظیر لانے پر کوئی قادر نہ ہو گا۔

[ناظرین! حضرت آدمؑ کے اس جوش کا بھی قدیم پیمانہ الفاظ سے لے سکتا ہے جو آپ کو اعلیٰ کلمۃ الاسلام کے لیے حق نے عطا فرمایا ہے۔ آپ امانہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس دہی میں ہیں اور وہ کس خیال میں پیرا ہی سبب کلام میں فرمائے گئے۔ کہ:]

”اگرچہ یہ کتاب بنا کر کوئی عجیب اور اعجاز نظر نہ آتی ہو، مگر اس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ جب ہم نے ہوتو کے لیے مضمون لکھنا شروع کیا تو ہمارے ایک دوست نے اپنے خیال کے موافق کہ خوشی ظاہر نہ کرے مگر خدا تعالیٰ نے ایسا خوشخبری دی کہ وہ مضمون بالارہا اپنا پتہ یہ اشہار جلسہ سے پہلے ہی شائع کر دیا گیا۔ آخر جب وہ جلسہ میں پڑھا گیا تو اس کی عظمت اور اس کے حقائق کو سب نے تسلیم کیا یہاں تک کہ لاہور کے انگریزی اُردو اخبارات نے اس کے بالا رہنے کا اعتراف کیا۔ اسی طرز پر جب یہ کتاب شائع ہو کر باہر نکلے گی، تب پتہ لگے گا۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو وہی سے جھڑپنے کیلے کہا وہ کہنے لگا کہ جب میں عطاری کی دوکان پر گیا تو جو جھڑپ دکھاتا تھا، میں اس کو وہی دیکھتا تھا۔ آخر عطاری نے کہا، میاں تم یہاں دوکان میں بیٹھے ہو تو میں پتہ نہیں لگتا۔ جب دوکان سے باہر لے کر جاؤ گے، تب اس جھڑپ کی حقیقت معلوم ہوگی، اپنا پتہ جب وہ جھڑپ لے کر آیا تو اس نے بیان کیا کہ جو گائیاں ہم سے پیچھے آتی تھیں ان کے سوار کہتے تھے کہ کس کے پاس جھڑپ ہے۔ گویا اس کی اتنی خوشبو تھی۔“

[اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے دعویٰ کی صداقت اور اپنے نامزد من اٹھ ہونے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ

(۳۶۹) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ سینے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض اوقات آپ مرقا بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی منت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جاتی تھیں جو ہسٹیریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرنے کے بعد ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا یا ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے یا کسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیرہ۔ یہ عصاب کی ذکاوت حس یا تھکان کی علامات ہیں اور ہسٹیریا کے مریضوں کو بھی ہوتی ہیں اور انہی مسنوں میں حضرت صاحب کو ہسٹیریا یا مرقا بھی تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ دوسری جگہ جو مولوی شیر علی صاحب کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو بعض انبیاء کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ہسٹیریا تھا یہ ان کی غلطی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ جس کی تیزی کی وجہ سے ان کے اندر بعض عصبی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جو ہسٹیریا کی علامات سے ملتی جلتی ہیں یا سوائے لوگ غلطی سے اسے ہسٹیریا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب جو کبھی کبھی سینہ دیر تھے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ اسی عام محاورہ کے مطابق تھا اور نہ آپ علی طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ہسٹیریا نہیں بلکہ اس سے ملتی جلتی علامات ہیں جو ذکاوت حس یا شدت کلر کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ایک بہت قابل اور لائق ڈاکٹر ہیں۔ چنانچہ پندرہ سالہ طالب علمی میں بھی وہ ہمیشہ اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوتے تھے اور ڈاکٹری کے آخری امتحان میں تمام صوبہ پنجاب میں اول نمبر پر رہے تھے اور ایام ملازمت میں بھی ان کی لیاقت و قابلیت ستم ہی ہے۔ اور چونکہ بوجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت قوی ہمتہ دار ہونے کے ان کو حضرت صاحب کی صحبت اور آپ کے علاج معالجہ کا بھی بہت کافی موقع ملتا رہتا تھا اس لئے ان کی رائے اس معاملہ میں ایک خاص وزن رکھتی ہے جو دوسری کسی رائے کو کم حاصل ہے۔

(۳۷۰) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں گھر کے بچے کبھی شب بات وغیرہ کے موقع پر یونہی کھیل تفریح کے

اسلام علیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ بندہ کی امام میں فضیلت نہیں۔ بلکہ اعمال صالحہ میں فضیلت ہے۔ اور اس میں کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ سونیک کا عمل میں کوشش چاہیے تاکہ موجب نجات ہو۔ والسلام۔  
مرزا غلام احمد

میٹھ موعود کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی  
چونکہ کچھ مدت سے حضرت کی طبیعت میں  
کے دوسرے حصہ میں اکثر خواب ہو جاتی  
ہے۔ اس لیے نماز مغرب اور عشاء گھریں باجماعت پڑھ لیتے ہیں۔ باہر تشریف نہیں لاسکتے۔  
ایک دن نماز مغرب کے بعد چند عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو سننے کے قابل ہے۔ (ایڈیٹر تحفہ)  
نہ پایا :

کوئی یہ ندول میں گمان کرے کہ یہ روز گھریں جمع کر کے نماز پڑھا دیتے ہیں اور باہر نہیں جاتے۔ یہ نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی کہ آئیو الا شخص نماز جمع کیا کرے گا۔ سوچھ میں نے تک تو باہر جمع کر داتا رہا ہوں  
اب میں نے کہا کہ عورتوں میں بھی اس پیشگوئی کو پورا کر دینا چاہیے۔ چونکہ بغیر ضرورت کے نماز جمع کرنا ناجائز  
ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے مجھ کو بیمار کر دیا اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کر دیا  
ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کرے۔ کیونکہ وہ پورا نہ ہو تو آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم نمودر باللہ جھوٹے ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو وہ بات جو اس کے اختیار میں ہو نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے موافق پوری کر دینی چاہیے اور خدا تعالیٰ خود بھی سامان دیتا کر دیتا ہے جیسا کہ  
مجھ کو بیمار کر دیا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کر دے۔ جیسا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تیرے ہاتھ میں کسری کے سونے کے کرے کے کرے  
پہنائے جائیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کسری کا ملک فتح ہوا۔ تو حضرت عروج  
نے اس کو سونے کے کرے جو ٹوٹ میں آئے تھے، پہنائے۔ حالانکہ سونے کے کرے یا کوئی اور چیز سونے  
کی مردوں کے لیے ایسی ہی حرام ہے جیسا کہ اور تمام چیزیں۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے  
یہ بات نکل تھی اس لیے پوری کی گئی۔ اسی طرح ہر ایک دوسرے انسان کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے  
قول کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

فرمایا کہ :

دو زور و چادروں سے مراد  
دیکھو میری بیماری کی نسبت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

پیشگوئی کی تھی جو اسی طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوتی ہوں گی تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں ایک اُدپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔ ہمارے مخالف مولوی اس کے معنی یہ کرتے ہیں۔ کہ وہ پرجہ جو گیوں کی طرح دو چادریں اوڑھے ہوئے آسمان نیچے اتریں گے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ چونکہ معجزوں نے ہمیشہ زرد چادر کے معنی بیماری کے ہی لکھے ہیں۔ ہر ایک شخص جو زرد چادر دیکھے یا کوئی آرد زرد پھیر تو اس کے معنی بیماری کے ہی ہوں گے اور ہر ایک شخص جو ایسا دیکھے آزما سکتا ہے کہ اس کے معنی یہی ہیں۔

### صلح پسندی کے ساتھ دو عورتوں کے جھگڑے پر فرمایا کہ :

قرآن شریف میں آیا ہے وَالضُّلَعُ خَيْرٌ مِنَ النِّسَاءِ (۱۲۹)  
اس لیے اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لینی

مذہب کی غیرت ضروری ہے

چاہیے کیونکہ اس میں خیر اور برکت ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ غیر مذہب کے ساتھ بھی یہ بات رکھی جاسکتے بلکہ ان کے ساتھ سخت مذہبی عداوت رکھنا چاہیے۔ جب تک مذہب کی غیرت نہ ہو انسان کا مذہب ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہندو بیسائی ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ صلح رکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی مصلوں میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے گھروں میں جانا تو معصیت میں داخل ہے

ہیں آپس میں جو ایک لڑکی میں ہوں تو لڑائی جھگڑا کی

جھگڑوں کی بنیاد بدظنی ہوتی ہے

زیادہ تر بلیاؤں بدظنی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دوزخ

میں دو تہائی آدمی بدظنی کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تیاہمت کے دن میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ اگر تم مجھ پر بدظنی نہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا۔ حقیقت میں اگر لوگ خدا تعالیٰ پر بدظنی نہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا۔ حقیقت میں اگر لوگ خدا تعالیٰ پر بدظنی نہ کرتے تو اس کے احکام پر کیوں نہ پختہ انہوں نے خدا تعالیٰ پر بدظنی کی اور کفر اختیار کیا۔ اور بعض تو خدا کے وجود تک کے منکر ہوتے ہیں۔ انساؤں اور لڑائیوں کی وجہ یہی بدظنی ہے۔

زلزلہ کی نسبت باتوں میں فرمایا کہ :

پیشگوئیوں کے مطابق زلزلوں کا وقوع

قرآن شریف میں زلزلہ آئے کی خبر دی گئی ہے کہ

مسیح کے وقت ایسے زلزلے آئیں گے کہ شدت میں نہایت ہی سخت ہوں گے۔ اب تک ان مولویوں نے



۳۲۲

ٹھانڈی ٹھکانہ اپیل میں پورے ہوں۔ سو ایسا ہی ہوا کہ حاکم نے پانچ صد روپیہ جرمانہ کیا۔ جو اپیل میں واپس آ گیا۔

فاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ مولوی کرم دین والے مقدمہ کا واقعہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: سیٹیٹی غلام نبی صاحب نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا۔ کہ حضور غلام نبی کو مراقب ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رنگ میں سب نبیوں کو مراقب ہوتا ہے اور محکم بھی ہے۔ یہ طبیعتوں کی مناسبت ہے۔ جس قدر ایسے آدمی میں کچھ چلے آویں گے۔

فاکسار عرض کرتا ہے کہ جیسا کہ روایت نمبر ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱ میں تشریح کی جا چکی ہے اس سے طبی اصطلاح والا مراقب مراد نہیں۔ بلکہ جس کی غیر معمولی تیزی اور طبیعت کی ذکاوت مراد ہے۔ جس کے اندر یہ احساس بھی شامل ہے کہ جب ایک کام کا خیال پیدا ہو تو جب تک وہ کام ہو نہ جاوے۔ چین نہ لیا جاوے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں گھبراہٹ رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: سیٹیٹی غلام نبی صاحب نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن بڑی مسجد میں بیٹھے تھے۔ مسجد کے ساتھ جو گھر ہندوؤں کے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جگہ اگر مسجد میں شامل ہو جائے تو مسجد خراب ہو جائے۔ حضور کے چلے جانے کے بعد حضرت خلیفۃ الاول نے فرمایا کہ آج مرزا نے ہر سارے مکان لے لئے۔ سو اب اگر حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد پورا ہوا کہ یہ مکانات مسجد میں مل گئے۔ ہمارا تو اس وقت بھی ایمان تھا کہ حضرت صاحب کی سرسری باتیں بھی پوری ہو کر رہیں گی۔ کیونکہ حضور بن بنائے بولتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی شاذ و نادر ہی مجلس ایسی ہوتی ہوگی۔ جس میں ہر پھر کہ وفات مسیح نامری علیہ السلام کا ذکر نہ آجاتا ہو۔ آپ کی مجلس کی گفتگو کا خلاصہ میرے نزدیک دو نکتوں میں آجاتا ہے۔ ایک وفات مسیح اور دوسرے تقویٰ۔

فاکسار عرض کرتا ہے کہ وفات مسیح عقائد کی اصلاح اور دوسرے مذاہب کو مغلوب کرنے کے

تھے تو ناک سے بہت رطوبت بہتی تھی۔ حضرت صاحب آٹھے اور چلا کہ ان کو گھٹے لگا  
 لیں۔ تاکہ ان کا شک و دہ ہو مگر وہ اس وجہ سے کہ ناک بر راتا تھا۔ پر سے پر سے کہتے  
 تھے۔ حضرت صاحب کہتے تھے۔ کہ شاید اسے تکلیف ہے اسلئے دودھ ہوتا ہے چنانچہ  
 کافی دیر تک یہی ہوتا رہا کہ حضرت صاحب ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے اور وہ پر سے  
 پر سے کہتے تھے اور چونکہ میں معلوم تھا کہ اصل بات کیا ہے اسلئے ہم پاس کھڑے ہونے جانے  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب ہم بچے تھے تو حضرت  
 بیچ موعود علیہ السلام خواہ کام کر رہے ہوں۔ یا کسی اور حالت میں ہوں ہم آپ کے  
 پاس پہلے جاتے تھے۔ کہ ابا پیسہ دو اور آپ اپنے رومال سے پیسہ کھول کر دے  
 دیتے تھے۔ اگر ہم کسی وقت کسی بات پر زیادہ اصرار کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے  
 کہ میں میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ زیادہ تنگ نہ کرو۔ خاکسار عرض کرتا ہوں  
 کہ آپ معمولی نقدی وغیرہ اپنے رومال میں جو بڑے ساڑھ کا ٹکڑا کاٹا ہوا ہوتا تھا  
 باندھ لیا کرتے تھے اور رومال کا دھواڑا نکھٹ کے ساتھ جھلوا لیتے یا کالج  
 میں بندھوا لیتے تھے۔ اور چابلیاں انار بندھ کے ساتھ باندھتے تھے۔ جو بوجھ کی  
 بعض اوقات تنگ آتا تھا۔ اور والدہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت سچ  
 موعود ہونا ریشمی ازار بند استعمال فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو پیشاب جلدی  
 جلدی آتا تھا اسلئے ریشمی ازار بند رکھتے تھے تاکہ کھلنے میں آسانی ہو اور اگر  
 بھی بڑھاوے تو کھولنے میں دقت نہ ہو۔ سوئی ازار بند میں آپ سے بعض وقت  
 گرہ پڑ جاتی تھی۔ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک  
 دفعہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت صاحب کو سہل ہو گئی اور چھ ماہ تک بیٹا  
 رہے۔ اور بڑی نازک حالت ہو گئی۔ حتیٰ کہ زندگی ہی ناامیدی ہو گئی۔ چنانچہ ایک  
 دفعہ حضرت صاحب کے چچا آپ کے پاس آکر بیٹھے۔ اور کہنے لگے کہ دنیا میں یہی حال  
 ہے۔ سبھی نے مڑا ہے۔ کوئی آگے غور جاتا ہے۔ کوئی پیچھے جاتا ہے اس لئے

اپہر ہر اسان نہیں ہونا چاہیے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ تمہارے دادا خود حضرت صاحب کا علاج کرتے تھے۔ اور برابر چھ ماہ تک انہوں نے آپ کو بکرے کے پائے کا شوربا کھلایا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس جگہ بچا سے مراد مرزا غلام محی الدین صاحب ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے ہماری چھوٹی صاحبہ یعنی مرزا امام الدین کی ہمشیر نے جو ہماری تانی کی چھوٹی بہن ہیں۔ اور مرزا احمد بیگ صاحب ہوشیار پوری کی بیوہ ہیں۔ کہ ایک دفعہ ہمارے والد اور تایا کو سکھوں نے بسراوا کے قلعہ میں بند کر دیا تھا اور قتل کا ارادہ رکھتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ غالباً سکھوں کے آخری عہد کی بات ہے۔ جب کہ زیمہ سنجیت سنگھ کے بعد ملک میں پھر بدامنی پھیل گئی تھی۔ اس وقت نانا صاحب نے بسراوا کے بھائی مرزا غلام محی الدین صاحب کو سکھوں نے قلعہ میں بند کر دیا تھا اور سننے میں آیا کہ جب مرزا غلام حیدر ان کے چھوٹے بھائی کو اطلاع ہوئی۔ تو انہوں نے لاہور سے لکھ ناکران کو خبر دیا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ بسراواں قادیان سے قریب اڑلئی میں مشرق کی طرف ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں دو ایک قلعہ ہوتا تھا۔ جو اب مسما ہو چکا ہے۔ مگر اسکے آثار اب بھی ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب میں چھوٹی لڑکی تھی۔ تو میر صاحب (یعنی خاکسار کے نانا جان) کی تبدیلی ایک دفعہ یہاں قادیان بھی ہوئی تھی۔ اور ہم یہاں چھ سات ماہ ٹھہرے تھے۔ پھر یہاں سے دوسری جگہ میر صاحب کی تبدیلی ہوئی۔ تو وہ تمہارے تایا سے بات کر کے ہم کو تمہارے تایا کے مکان میں چھوڑ گئے تھے۔ اور پھر ایک مہینہ کے بعد آکرے گئے۔ اس وقت تمہارے تایا قادیان سے باہر رہتے تھے اور آٹھ روز کے بعد یہاں آیا کرتے تھے اور مجھے یاد پڑتا کہ میں نے انکو دیکھا ہے خاکسار نے پوچھا کہ حضرت صاحب کو بھی ان دنوں میں آپنے کسی دیکھا تھا یا نہیں؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب

اور چہرہ اثنائاً شرخ تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں کیا کروں میری  
 تو خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطر اپنے دلہے اور پاؤں میں  
 لہا پیٹنے کو تیار ہوں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں شہ زنت سے بچاؤنگا۔ اور  
 عزت کے ساتھ بڑی کرونگا۔ پھر آپ محبت اکہی پر تقریر فرمانے لگے۔ اور قریباً نصف  
 گھنٹہ تک جوش کے ساتھ بولتے رہے۔ لیکن پھر یکلمت بولتے بولتے آپ کو آبکالی  
 آئی اور ساتھ ہی تھے ہوتی۔ جو نالص خون کی تھی۔ جس میں کچھ خون جھا ہوا تھا اور  
 کچھ تھینے والا تھا۔ حضرت نے تے سے سر اٹھا کر رد مال سے اپنا منہ پونچھا اور آنکھیں  
 بھی پونچھیں۔ جوتے کی وجہ سے پانی لے آئیں تھیں۔ مگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا۔  
 کہ تے میں کیا نکلا ہے۔ کیونکہ آپ نے یکلمت جھک کر تے کی اور پھر سر اٹھا لیا۔ مگر میں  
 اسکے دیکھنے کے لیے جھکا۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میں عرض کیا۔ حضور تے میں  
 خون نکلا ہے۔ تب حضور نے اسکی طرف دیکھا۔ پھر خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب  
 اور دوسرے لوگ بھی کمرے میں آگئے اور ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر انگریز تھا۔ وہ آیا۔ اور  
 تے دیکھ کر خواجہ صاحب کے ساتھ انگریزی میں باتیں کرتا رہا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ  
 اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح خون کی تے آنا خطرناک ہے پھر اسنے کہا کہ یہ آرام  
 کیوں نہیں کرتے؟ خواجہ صاحب نے کہا آرام کس طرح کریں۔ بمشورٹ صاحب قریب  
 قریب کی پیشیاں ڈال کر تنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ معمولی مقدمہ ہے جو یونہی طے ہو  
 سکتا ہے اسنے کہا اسوقت آرام ضروری ہے میں سرٹیفکیٹ لکھ دیتا ہوں۔ کتنے عرصے  
 کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے؟ پھر خود ہی کہنے لگا۔ میرے خیال میں دو مہینے آرام کرنا  
 چاہیے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ فی الحال ایک مہینہ کافی ہوگا۔ اسنے فوراً ایک مہینہ  
 کے لیے سرٹیفکیٹ لکھ دیا اور لکھا کہ اس عرصہ میں میں ان کو کچھری میں پیش کرنے  
 کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے واپسی کا حکم دیا۔ مگر ہم سب  
 ڈرتے تھے۔ کہ اب کہیں کوئی نیا مقدمہ نہ شروع ہو جاوے۔ کیونکہ دوسرے  
 دن پیشی تھی اور حضور گورڈا سپورڈ کر بغیر عدالت کی اجازت کے واپس آ رہے

اٹھا اور امتحان کیلئے چلنا شروع کیا تو ثابت ہوا کہ میں بالکل تندرست ہوں۔ تب مجھے اپنے  
 قادر خدا کی عظمت کو دیکھ کر رونایا کہ کیسا قادر ہمارا خدا ہے اور ہم کیسے خوش نصیب ہیں  
 کہ اس کی کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور اسکے رسول کی پیروی کی۔ اور کیا بد نصیب وہ  
 لوگ ہیں جو اس ذوالحجائب خدا پر ایمان نہیں لائے۔

۸۵۔ نشان۔ ایک مرتبہ میں قونج زخمیری سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن پاخانہ کی راہ سے

خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے انہیں دنوں میں شیخ رحیم بخش صاحب رحم

مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب کے والد ماجد بٹالہ سے میری عیادت کیلئے آئے اور میری ناک کا

انہوں نے دیکھی اور میں نے سنا کہ وہ بعض لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آج کل یہ مرض دبا کی طرح پھیل رہی

بٹالہ میں ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کر آیا ہوں جو ایسی مرض سے فوت ہوا ہے اور ایسا اتفاق ہوا کہ

کہ کچھ بخش نام ایک عجم قادیان کا رہنے والا اسی دن اسی مرض سے بیمار ہوا اور آٹھویں دن مر گیا۔

اور جب سولہ دن میری مرض پر گزرے تو آٹھویں نو میدی کے ظاہر ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ بعض عورتوں

میرے دیوار کے پیچھے روتے تھے اور مسنون طور پر تیس مرتبہ سورہ یس سنائی گئی۔ جب میری مرض

اس نوبت پر پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القاد کیا کہ اور علاج چھوڑ دو اور دریا کی ریت

جس کے ساتھ پانی بھی ہو تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو۔ تب بہت جلد دریا سے

ایسی ریت منگوائی گئی اور میں نے اس کلمہ کے ساتھ کہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اور

درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدن پر ملنا شروع کیا۔ ہر ایک دفعہ جو جسم پر وہ ریت پہنچتی

تھی تو گویا میرا بدن آگ میں سے نجات پاتا تھا صبح تک وہ تمام مرض دور ہو گئی اور صبح کے وقت

اللہم ہوا۔ وان کنتم فی ربیب حقاً نزلنا علی عبدنا فأتوا بشفاؤ من مثله۔

۸۶۔ نشان۔ ایک دفعہ مجھے دانت میں سخت درد ہوئی۔ ایک دم قرار نہ تھا کسی شخص کو میں نے

دریافت کیا کہ اس کا کوئی علاج ہے۔ اس نے کہا کہ علاج دندان باختراج دندان۔ اور دانت نکالنے سے

میرا دل ڈرا۔ تب اس وقت مجھے خود گی تاگی اور میں زمین پر عیانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور چارپائی

آدمی تھا۔ اور کچھ پٹلا ہوا بھی تھا۔ اسکے لڑکے میاں دین محمد مرحوم عرف میاں بچا کو ہمارے اکثر دست جلتے ہو گئے۔ قوم کا کشمیری تھا۔

(148) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کہ ہمارے ساتھ والد صاحب کے بہت کم تعلقات تھے یعنی بیل بول کم تھا۔ وہ ہم سے ڈرتے تھے۔ اور ہم ان سے ڈرتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ ہم سے الگ الگ رہتے تھے۔ اور ہم ان سے الگ الگ رہتے تھے کیونکہ ہر دو کا طریق ہاؤسنگ جدا تھا اور چونکہ تاجا صاحب مجھے بیٹوں کی طرح رکھتے تھے اور جائیداد وغیرہ بھی سب انہی کے انتظام میں تھی۔ والد صاحب کا کچھ دخل نہ تھا۔ اسلئے بس یہیں اپنی ضرورتا کے لیے تاجا صاحب کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا تھا۔

(149) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کہ والد صاحب کی ایک بہن ہوتی تھیں ان کو بہت خواب اور کشف ہوتے تھے۔ مگر دادا صاحب کی اونکے متعلق یہ رائے تھی کہ انکے داغ میں کجی نقص رہی لیکن پورا نہ ہوتے بعض ایسی خوابیں دیکھیں کہ دادا صاحب کو یہ خیال بدلتا پڑا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ کوئی سفید لیش بڑھا شخص انکو ایک کافز جسپر کچھ لکھا ہوا ہے۔ بطور تعویذ کے دے گیا ہے۔ جب انکے کھل تو ایک بمونج پتر کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ جسپر قرآن شریف کی بعض آیات لکھی ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک اور خواب دیکھا کہ وہ کسی دریا میں چل رہی ہیں جسپر انہوں نے ڈر کر پانی پانی کی آواز نکالی اور پھر اسکو کھل گئی۔ دیکھا تو ان کی پٹلیاں تر تھیں اور تازہ رویت کے نشان لگے ہوئے تھے۔ دادا صاحب کہتے تھے کہ ان باتوں سے غلط داغ کو کوئی تعلق نہیں۔

(150) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کہ ایک دفعہ والد صاحب سخت بیمار ہو گئے۔ اور حالت نازک ہو گئی اور حکیموں نے ناامیدی کا اظہار کر دیا اور نبض بھی بند ہو گئی۔ مگر زبان جاری رہی والد

صاحب نے کہا کہ کیمپڑا کر میرے اوپر اود نیچے رکھو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ اور اس سے حالت رو باصلاح ہو گئی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے۔ کہ یہ مرض قویخ زہری کا تھا۔ اور یہ کہ اقد تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تھا کہ پانی اور ریت ملگوا کر بدن پر ملی جاوے۔ سو ایسا کیا گیا تو حالت اچھی ہو گئی۔ مرزا سلطان احمد صاحب کوریت کے متعلق ذہول ہو گیا ہے۔

بسم اعد الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے مولوی کشیر علی صاحب نے کہ حضرت صاحب ایک دفعہ غیر معمولی طعمہ غریب کی طرف شیر کھائے۔ تو راستہ سے ہٹ کر عید گاہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور پھر آپ نے قبرستان کے جنوب کی طرف کھڑے ہو کر دیر تک دعا فرمائی۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے کوئی خاص قبر یا منور رکھی تھی؟ مولوی صاحب نے کہا میں نے ایسا نہیں خیال کیا۔ اور میں نے اس وقت دلچسپی سمجھا تھا کہ چونکہ اس قبرستان میں حضرت صاحب کے رشتہ داروں کی قبریں ہیں جیسے حضرت صاحب نے دعا کی ہے خاکسار عرض کرتا ہوں کہ شیخ یعقوب علی صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں ایک دفعہ حضرت صاحب نے اپنی والدہ صاحبہ کی قبر پر دعا کی تھی۔ مولوی صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ جب حضرت صاحب کی لڑکی امہ انصیر فوت ہوئی تو حضرت صاحب اسے اسی قبرستان میں دفنانے کے لیے لے گئے تھے اور آپ خود اسے اٹھا کر قبر کے پاس لے گئے۔ کسی نے آگے بڑھ کر حضور سے لڑکی کو لینا چاہا۔ مگر آپ نے فرمایا کہ میں خود لیمادنگا۔ اور دعا نظر کشتم علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت صاحب نے وہاں اپنے کسی بزرگ کی قبر بھی دکھائی تھی۔

بسم اشد الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے مولوی کشیر علی صاحب نے کہ میرے چچا مولوی کشیر محمد صاحب مرحوم بیان کرتے تھے کہ لوائل میں بعض اوقات حضرت مسیح موعود بھی حضرت مولوی نور الدین صاحب کے درس میں چلے جاتا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مولوی صاحب نے درس میں بدر کی جنگ کے موقع پر فرشتے نظر آنے کا واقعہ بیان کیا اور پھر اسکی کچھ تاویل کرنے لگے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے دیکھنے میں نبی

سمجھتا ہوں گذشتہ مجددین امت محمدیہ میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تید عبدالقادر صاحب جیلانی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی۔ ماور فرط کے تھے کہ میری روح کو ان کی روح کو خاص جوڑ ہے۔

پسّم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو غالباً ۱۸۵۷ء میں ایک دفعہ خارش کی تکلیف بھی ہوئی تھی۔ اس واقعہ کے بہت عرصہ بعد ایک دفعہ منہس کر فرمانے لگے کہ خارش واسے کو کھانے سے اتنا لطف آتا ہے کہ بعض لوگوں نے کھلے ہے۔ کہ ہر بیماری کا اجر انسان کو آخرت میں ملے گا۔ سوائے خارش کے۔ کیونکہ خارش کا بیمار دنیا میں ہی اس سے لذت حاصل کر لیتا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خارش کی تکلیف مرزا عزیز احمد صاحب کی پیشکش پر ہوئی تھی۔ جو غالباً ۱۸۹۱ء کا واقعہ ہے۔ اس کا ذکر روایت ۲۶۲ میں بھی ہو چکا ہے۔

پسّم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم منشی تفریح احمد صاحب کپور تھلوی نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا۔ ۵۷۵  
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ کہ رزق کی تسلی بسا اوقات ایمان کی کمزوری کا موجب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا۔ کہ دنیا میں مصائب اور مشکلات سے کوئی خالی نہیں یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا کے اولیاء کرام ہی اس سے خالی نہیں رہتے۔ مگر انبیاء اور اولیاء کی تکالیف کا سلسلہ روحانی ترقیات کا باعث ہوتا ہے۔ اور دنیا و ادوں پر جو مصائب اور مشکلات کا سلسلہ آتا ہے وہ ان کی شامت اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جب تک مصائب و آلام بصورت انعام نظر نہ آنے لگیں۔ اور ان سے ایک لذت اور سرور حاصل نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی شخص حقیقی مومن نہیں کہلا سکتا۔

پسّم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بذریعہ تحریر ذکر کیا۔ کہ ایک ۵۷۶  
دفعہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تفریح نامہ کے متعلق سوال کیا۔ جنہوں نے فرمایا۔ جس کو تم پنجابی میں دانڈھا کہتے ہو۔ بس اس میں تھر ہوتا چلے بیٹے۔ میں نے عرض کیا۔ کہ کیا کوئی میلوں کی بھی شرط ہے۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں۔ بس جس کو تم دانڈھا کہتے ہو۔ وہی سفر ہے جس میں تھر جائز ہے۔ میں نے عرض کیا۔ کہ میں سیکھواں سے قادیان آتا ہوں کیا اس وقت نماز تھر کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ بلکہ میرے نزدیک، گناہ ایک عورت قادیان سے نکل جانے تو وہ بھی تھر کر سکتی ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ سیکھواں قادیان سے غالباً چار میل کے فاصلہ پر ہے اور نکل تو شاید ایک میل سے بھی کم ہے۔ نکل کے متعلق جو حضور نے تھر کی اجازت فرمائی ہے۔ اس سے یہ مراد معلوم ہوتی ہے کہ



ہوا تھا۔

(۳۳۵) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے مجھ سے بذریعہ خط بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان میں کسی قدر لکنت تھی اور آپ پر نالے کو پناہ فرمایا کرتے تھے اور کلام کے دوران میں کبھی کبھی جوش کی حالت میں اپنی ٹانگ پر ہاتھ بھی مارا کرتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ قاضی صاحب کی یہ روایت درست ہے، مگر یہ لکنت صرف کبھی کبھی کسی خاص لفظ کے تلفظ میں ظاہر ہوتی تھی ورنہ ویسے عام طور پر آپ کی زبان بہت صاف چلتی تھی۔ اور ٹانگ پر ہاتھ مارنے کے صوف یہ معنی ہیں کہ کبھی کبھی جوش تعریف میں آپ کا ہاتھ اٹھ کر آپ کی ران پر گرتا تھا۔

(۳۳۶) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے مجھ سے بذریعہ خط بیان کیا کہ ایک دفعہ میں اور عبد الرحیم خان صاحب پسر مولوی غلام حسن خان صاحب پشاوری مسجد مبارک میں کھانا کھا رہے تھے جو حضرت کے گھر سے آیا تھا۔ ناگاہ میری نظر کھانے میں ایک کھسی پر پڑی، چونکہ مجھے کھسی سے طبعاً نفرت ہے مینے کھانا ترک کر دیا۔ اس پر حضرت کے گھر کی ایک خادمہ کھانا اٹھا کر واپس لے گئی۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس وقت حضرت اقدس اندرون خانہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ خادمہ حضرت کے پاس سے گزری تو اسنے حضرت سے یہ ماجرا عرض کر دیا۔ حضرت نے فوراً اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر اس خادمہ کے حوالہ کر دیا کہ یہ لے جاؤ۔ اور اپنے ہاتھ کا ڈال بھی برتن میں ہی چھوڑ دیا۔ وہ خادمہ خوشی خوشی ہمارے پاس وہ کھانا لائی اور کہا کہ حضرت صاحب نے اپنا تبرک دیدیا ہے۔ اس وقت مسجد میں سید عبد الجبار صاحب بھی جو گذشتہ ایام میں کچھ عرصہ بادشاہ سوانتہ می رہے ہیں، موجود تھے۔ چنانچہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔

(۳۳۷) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے مجھ سے بذریعہ خط بیان کیا کہ سنہ ۱۲۵۰ھ میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقدمہ کی بیروی کے لئے گورداسپور میں قیام فرماتے تھے ایک دفعہ رات کو بارش ہونی شروع ہو گئی۔ اس وقت حضرت اقدس مکان کی چھت پر تھے جہاں پر کہ ایک برساتی بھی تھی۔ بارش کے آنے پر حضور اس برساتی میں داخل ہونے لگے۔ مگر اس کے عین دروازے میں مولوی عبدالغنی صاحب متوطن صفحہ ضلع کیسبل پور

مگر چون مانتے کی تنگ ہوتی ہے۔ آپ میں یہ تمیزوں خوبیاں جمع تھیں۔ اور پھر خوبی کہیں  
 جہیں بہت کم پڑتی تھی۔ سر آپکا بڑا تھا۔ خوبصورت بڑا تھا۔ اور علم تھا کہ کی رو سے ہر سمت سے  
 پورا تھا۔ یعنی لمبا بھی تھا۔ چوڑا بھی تھا۔ اونچا بھی اور سطح اوپر کی۔ اکثر حصہ ہوا اور چھپے سے  
 بھی گولائی درست تھی۔ آپ کی کنپٹی کشادہ تھی اور آپ کی کھال عقل پر دلالت کرتی تھی۔  
**لب مبارک** آپ کے لب مبارک پتھے نہ تھے۔ مگر تاہم ایسے مولے بھی نہ تھے کہ بڑے  
 لگیں۔ وہ آپ کا متوسط تھا۔ اور جب بات نہ کرتے ہوں تو سنتہ کھلا نہ رہتا تھا۔ بعض اوقات  
 مجلس میں جب خاموش بیٹھے ہوں تو آپ عامر کے شلہ سے دبان مبارک ٹھٹک لیا کرتے تھے۔  
 دندان مبارک آپ کے آخر عموں کچھ خراب ہو گئے تھے یعنی کیرا بعض ڈاڑھوں کو ناک گیا تھا۔  
 جس سے کہیں کہیں تکلیف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک ڈاڑھ کا سرا ایسا نوکدار ہو گیا تھا کہ  
 سے زبان میں زخم پڑ گیا تو ریتی کے ساتھ اسکو گھسوا کر برابر بھی کر لیا تھا۔ مگر کہیں کوئی دانت  
 نکل لیا نہیں۔ مسواک آپ اکثر فرمایا کرتے تھے۔

پیر کی ایڑیاں پہنی بعض دفعہ گرمیوں کے موسم میں پھٹ جا کر تھی تھیں۔  
 مگر گرم کپڑے سردی گرمی برابر پہنتے تھے۔ تاہم گرمیوں میں پسینہ بھی خوب آجاتا تھا مگر آپ  
 پسینہ میں کبھی بو نہیں آتی تھی خواہ کتنے ہی دن بدتر تھیں۔ اور کیسا ہی موسم ہو۔  
**گردن مبارک** آپ کی گردن متوسط لمبائی اور موٹائی میں تھی آپ اپنے مطاع بن کریم مسوم کی  
 طرح ان کے اتبار میں ایک مد تک جب ملتی زینت کا جہاں عزیز رکھتے تھے جس سے جہاں  
 حنا۔ مسواک۔ روشن اور مشہور۔ کنگھی اور زینت کے ساتھ استعمال فرمایا کرتے تھے۔  
 گران با تو دل اس اہنگ آپ کی شان سے بہت دور تھا۔

**لباس** سب سے اول یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ آپ کو کسی قسم خاص لباس کشتوں  
 نہ تھا۔ آخری پیام کے کچھ سالوں میں آپ کے پاس کپڑے سائت اور سلسلے سلائے بلور خنہ کے  
 بہت آتے تھے خاص کر کوٹ صدی اور پانچا قمیض وغیرہ اکثر شیخ رحمت اللہ صاحب لہوری  
 برعید بقرعید کے وقت اپنے ہمراہ نذر لاتے تھے دن آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ مگر علاوہ  
 ان کے کہیں کہیں آپ فوج بھی بنوا لیا کرتے تھے۔ عامر تو اکثر خود ہی خرید کر بانڈھتے تھے جس طرح

مگر چوڑی ماسے کی تنگ ہوتی ہے۔ آپ میں یہ تیزوں خوبیاں جمع تھیں۔ اور پھر، خوبی کو میں  
جیسے بہت کم پڑتی تھی۔ سر آپکا بڑا تھا۔ خوبصورت بڑا تھا۔ اور علم قیاد کی رو سے ہر سمت سے  
پورا تھا۔ یعنی لمبا بھی تھا۔ چوڑا بھی تھا۔ اونچا بھی اور سطح اوپر کی۔ اکثر حصہ ہوا اور پچھلے سے  
بھی گولائی درست تھی۔ آپ کی کینٹھی کشادہ تھی اور آپ کی کھال عقل پر دالت کرتی تھی۔

**لب مبارک** | آپ کے لب مبارک پتھلے نہ تھے۔ مگر تاہم ایسے موٹے بھی نہ تھے کہ بڑے  
لگیں۔ دانا تھپکا کا متوسط تھا۔ اور جب بات نہ کرتے ہوں تو منہ کھلا نہ رہتا تھا بعض اوقات  
جلس میں جب خاموش بیٹھوں تو آپ ہمارے کے شاد سے دبان مبارک دھک دیا کرتے تھے۔  
دندان مبارک آپ کے آخر عموں کچھ خراب ہو گئے تھے یعنی کیرا بعض ڈاڑھوں کو لگ گیا تھا  
جس سے کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک ڈاڑھ کا سرا ایسا نوکدار ہو گیا تھا کہ  
سے زبانی میں زخم پڑ گیا تو ریتی کے ساتھ اسکو گھسوا کر برابر بھی کرایا تھا۔ مگر کبھی کوئی دانت  
سکھوایا نہیں۔ بسواک آپ اکثر فرمایا کرتے تھے۔

پیر کی ایڑیوں کی بعض دفعہ گرمیوں کے موسم میں پھٹ جا کر تھی۔  
مگر چہ گرم کپڑے سردی گرمی برابر پہنتے تھے۔ تاہم گرمیوں میں پسینہ بھی خوب آجاتا تھا لہذا آپ کے  
پسینہ میں کبھی بو نہیں آتی تھی خواہ کتنے ہی دن بند کرتے نہیں۔ اور کیسا ہی موسم ہو۔  
**گردن مبارک** | آپ کی گردن متوسط لمبائی اور موٹائی میں تھی۔ آپ اپنے مطاع بنی کہیم معلوم کی  
طرح ان کے اجراع میں ایک حد تک جھلنی زینت کا خیاں غزور رکھتے تھے غسل جمہور۔ حجامت  
حنا مسواک۔ رخن اور زوشبہ۔ گنگھی اور آئینہ بکاستھماں باہر مسنون لڑی پر آپ فرمایا کرتے تھے۔  
مگر ان باتوں میں ابھناک آپ کی شان سے بہت دور تھا۔

**لباس** | سہا اول یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ آپ کو کسی قسم کے خاص لباس کا شوق  
نہ تھا۔ آخری ایام کے کچھ سالوں میں آپ کے پاس کپڑے سائت اور سٹے سٹائے بلور غنہ کے  
بہت آتے تھے خاص کر کوٹ صدری اور پانچامہ قمیض وغیر جو اکثر شیخ رحمت اللہ صاحب لہوری  
ہر عید بقرعید کے وقت پہنے ہمراہ نذر لاتے تھے وہ آپ ہستمال فرمایا کرتے تھے۔ مگر علاوہ  
ان کے کبھی کبھی آپ خود بھی بنوا لیا کرتے تھے۔ غلام تو اکثر خود ہی خرید کر بانہ دھتے تھے جس طرح

کھیت کو بہت سی بھرتی ڈلو کر حضرت اُم المؤمنین نے تیار کر دیا تھا۔ اُس وقت نواب صاحب کی بیگم جو وہ مالیر کوٹلہ سے ساتھ لائے تھے، زندہ تھیں یہ بات حضرت اُم المؤمنین کی ناراضگی کا موجب ہوئی۔ اور حضرت اُم المؤمنین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور نے نواب صاحب کو لکھا۔ جس پر نواب صاحب نے اُس چیز میں پر مکان بنانے کے ارادہ کو ترک کیا۔ کہ اس میں ابتدا ہی میں تزارع ہوا ہے نہ جگہ مبارک نہیں جو سکتی۔ اور بعد میں دوسرے اصحاب نے بھرتی ڈلو کر وہاں مکانات بنوائے۔ اور نواب صاحب نے مدرسہ تعلیم الاسلام کے پاس زمین خرید کر کے کوٹھی بنوائی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تعلقات محبت کے بڑبانے میں انہیں بڑی برکات حاصل ہوئیں ۛ

## بال سفید

فرمایا کرتے تھے۔ کہ پہلے سے بال تیس سال کی عمر میں سفید ہونے شروع ہوئے تھے۔ اور پھر جلد جلد سب سفید ہو گئے ۛ

## انہوں کو دیکھو یہ ہے

حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بلور خادمہ کے رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اُس نے کیا حرکت کی۔ کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے۔ وہاں ایک کونے میں گھرا تھا۔ جس کے پاس پانی کے گڑے رکھے تھے۔ وہاں اپنے کپڑے اتار کر اورنگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے، اور کچھ خیال نہ کیا۔ کہ وہ کیا کرتی ہے۔ جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آگئی۔ اُس نے اُس نیم دیوانی کو ملامت کی۔ کہ حضرت صاحب کے کمرے میں موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی۔ تو اُس نے ہنس کر جواب دیا۔ انہوں کو دیکھو یہ ہے۔ یعنی اُسے کیا دکھائی دیتا ہے۔ حضور

سہارک سمجھا کرتی تھیں۔ اہد قطعاً طور پر یقینی ہے۔ کہ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں ہی خاندان کے صحائب کے دن دُور ہو کر فراخی شروع ہو گئی تھی۔ اور قادیان ہندو اسکے ارد گرد کے بعض مراعات دارا صاحب کو راجہ رنجیت سنگھ نے بجا ل کر دیئے تھے۔ اور دادا صاحب کو اپنے ماتحت ایک معزز عہدہ فوجی بھی دیا تھا۔ اور راجہ کے ماتحت دادا صاحب نے بعض فوجی خدمت بھی سر انجام دی تھیں پس پھر حال حضرت صاحب کی پیدائش راجہ رنجیت سنگھ کی موت یعنی ۱۸۳۹ء سے کہ عرصہ پہلے ماننی پڑیگی۔ لہذا اس طرح بھی ۱۸۳۶ء والی روایت کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہو اللہ اعلم۔ اور حضرت صاحب نے جو ۱۸۳۹ء لکھا ہے سو اس کو خود آپ کی دوسری تصویریں دکر رہی ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ آپ نے ۱۹۰۵ء میں اپنی عمر، سال بیان کی ہے اور یہاں یہ بھی لکھا ہے یہ تمام ہاتھ سے ہیں۔ صحیح علم صرف خدا کو ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ میری تحقیق میں احوال ۱۸۵۲ء میں آپکی ولادت ہوئی تھی اور وفات ۱۸۳۶ء میں ہوئی۔ واللہ اعلم۔

(۱۸۶)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ اے۔ کہ میں بچپن میں والد صاحب یعنی حضرت بیچ سوری علیہ السلام سے تاریخ فرشتہ۔ نسو میر۔ اور شاہی ٹھکتاں۔ بوستاں پڑھا کرتا تھا۔ اور والد صاحب کبھی کبھی پچھلا پڑھا ہوا سبق بھی بنا کرتے تھے۔ مگر پڑھنے کے متعلق مجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ حالانکہ میں پڑھنے میں بے پروا تھا لیکن آخر دادا صاحب نے مجھے والد صاحب کو پڑھنے سے روک دیا اور کہا کہ میں نے سب کو ملاں نہیں دینا۔ تم مجھ سے پڑھا کرو مگر ویسے دادا صاحب والد صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے۔

(۱۸۷)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ اے۔ کہ ایک دفعہ والد صاحب اپنے چوبائے کی کمر کی سے گر گئے۔ اور دائیں بازو پر چوٹ آئی۔ چنانچہ آخر عمر تک وہ ناتھ کزور دہا خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ والد صاحب لڑائی تھیں۔ کہ آپ کمر کی سے اترنے لگے تو سامنے

سٹول رکھا تھا اٹ گیا۔ اور آپ گر گئے اور دائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ ہاتھ آخر عمر تک کمزور رہا۔ اس ہاتھ سے آپ لقمہ تو منہ تک لیجا سکتے تھے مگر پانی کا برتن وغیرہ منہ تک نہیں اٹھا سکتے تھے۔ خاک روضہ میں کرتا ہو کہ نماز میں بھی آپ کو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے سہارے سے سنبھالنا پڑتا تھا +

(۱۸۸) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک روضہ میں کرتا ہے کہ حضرت صاحب شیرنا اور سوری خوب جانتے تھے اور سننا یا کرتے تھے۔ کہ ایک دفعہ بچپن میں میں ڈوب چلا تھا تو ایک اجنبی بدمعوس شخص نے مجھے نکالا تھا۔ اس شخص کو میں نے اس سے قبل بائیں ہاتھ سے نہیں دیکھا نیز فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ ایک گھوڑے پر سوار ہوا اس نے شوخی کی اور بے قابو ہو گیا۔ میں نے بہت روکنا چاہا۔ مگر وہ شرارت پر آمادہ تھا نہ رکا۔ چنانچہ وہ اپنی کپڑے ننگ میں ایک درخت یا دیوار کی طرف بھاگا (اشک منی) اور پھر اس ننگ کے ساتھ اس سے ٹکرایا۔ کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اور وہ وہیں مر گیا۔ مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بچالیا۔ خاک روضہ میں کرتا ہے کہ حضرت صاحب بہت نصیحت کیا کرتے تھے کہ سرکش اور بدمعوس گھوڑے پر سوار نہیں چڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس گھوڑے کا مجھے مارنے کا ارادہ تھا۔ مگر میں ایک طرف گر کر بچ گیا اور وہ مر گیا +

(۱۸۹) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کے والد صاحب باہر جو پابے میں رہتے تھے۔ وہیں ان کے لئے کھانا جاتا تھا۔ اور جس قسم کا کھانا بھی ہوتا تھا کھا لیتے تھے۔ کبھی کبھی نہیں کہتے تھے +

(۱۹۰) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کے والد صاحب تین کتابیں بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی قرآن مجید۔ فتاویٰ رومی اور دلائل الخیرات اور کچھ نوٹ بھی لیا کرتے تھے۔ اور قرآن شریف بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے +

(۱۹۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ

جس قدر جلد اس رسالہ کی فروخت ہوگی اسی قدر جلد تر رسالہ سراج منیر طبع ہوگا۔ آٹھ سو روپیہ جمع تھا۔ وہ سب رسالہ سرمہ چشم آریہ پر خرچ ہو گیا۔ اس رسالہ میں کچھ تو بوجہ علالت طبع اس عاجز اور کچھ دیگر موانع سے مطبع وغیرہ سے توقف ہوئی۔ اب یہ رسالہ سرمہ چشم آریہ، امید قوی ہے کہ چند روز تک من کل الوجہ تیار ہو کر میرے پاس پہنچ جائے گا۔ چونکہ یہ رسالہ ضخامت میں بہت بڑا ہو گیا ہے اور خرچ بھی اس پر بہت ہوا ہے اور ابھی دو سو روپیہ دینا ہے اس لئے قیمت اس کی ایک روپے بارہ آنے مقرر ہوئی ہے جس زمانہ میں یونہی تخمینہ سے ۴ قیمت مقرر کی گئی تھی اس زمانہ میں آپ نے ڈیڑھ سو رسالہ کا فروخت کرنا اپنے ذمہ لیا تھا۔ پس اس حساب سے سٹیمیں روپے آٹھ آنے کا رسالہ آپ کے ذمہ فروخت کرانا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کر کے اگر آپ محض اللہ پوری پوری کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو، رقم کثیر جمع کرنے میں سعی مبذول فرمادیں تو نہایت ثواب کی بات ہے۔ مجملہ اس کے پانسو روپیہ منشی عبدالحق صاحب اکوٹ شملہ کا ہے جو بطور قرضہ طبع رسالہ کے لئے لیا گیا۔ اور تین سو روپیہ چندہ کا ہے۔ اس میں بہت کوشش کرنی چاہئے تا سراج منیر کے طبع میں توقف نہ ہو۔ امید ہے کہ یہ کوشش موجب خوشنودی رحمن ہو۔ آپ کے رفیق ہندو کو اس رسالہ کا پڑھنا مفید ہے اگر وہ غور سے پڑھے اور نجاتِ طبع رکھتا ہو۔ اور سعادتِ ازلی مقدر ہو تو ہدایت پانے کے لئے کافی ہے۔ انشاء اللہ تقدیر دعا بھی کروں گا۔ کبھی کبھی یاد دلاتے رہیں۔ میرا حافظہ بہت خراب ہے۔ اگر کئی دفعہ سنی کی ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں۔ یاد دہانی عمدہ طریقہ ہے۔ حافظہ کی یہ بہتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ واللہ فی کل فعل حکمہ۔

والسلام

خانسار

غلام احمد

از صدر انبالہ حاطہ ناگ پھنی



یہ حوالہ صفحہ 320 پر درج ہے

مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ 483 (طبع جدید) از مرزا قادیانی

## مکتوب نمبر ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

مخدومی مکرمی اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب سلمہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عنایت نامہ پہنچا۔ مجھے نہایت تعجب ہے کہ ذوا معلومہ سے آل مخدوم سے کچھ فائدہ محسوس نہ ہوا۔ شاید کہ یہ وہی قول درست ہو کہ ادویہ کو ابدان سے مناسبت ہے۔ بعض ادویہ بعض ابدان کے مناسب حال ہوتی ہیں اور بعض دیگر کے نہیں۔ مجھے یہ دوا بہت ہی فائدہ مند معلوم ہوئی ہے کہ چند

امراض کاٹلی و سستی و رطوبات معدہ اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوظ بنگلی جاتا رہتا تھا۔ شاید قلت حرارت غریزی اس کا موجب تھی۔ وہ عارضہ بالکل جاتا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا حرارت غریزی کو بھی مفید ہے اور منی کو بھی غلیظ کرتی ہے۔ غرض میں نے تو اس میں آثار نمایاں پائے ہیں۔ واللہ اعلم وعلّمہ أحکم۔

اگر دوا موجود ہو اور آپ دودھ اور ملائی کے ساتھ کچھ زیادہ قدر شربت کر کے استعمال کریں۔ تو میں خواہشمند ہوں کہ آپ کے بدن میں ان فوائد کی بشارت سنوں۔ کبھی کبھی دوا کی چھپی چھپی تاثیر بھی ہوتی ہے کہ جو ہفتہ عشرہ کے بعد محسوس ہوتی ہے چونکہ دوا ختم ہو چکی ہے اور میں نے زیادہ زیادہ کھالی ہے اس لئے ارادہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو دوبارہ تیار کی جائے۔ لیکن چونکہ گھر میں ایام امید ہونے کا کچھ گمان ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ ابھی تک وہ گمان پختہ ہوتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو راست کرے۔ اس جہت سے جلد تیار کرنے کی چنداں ضرورت میں نہیں دیکھتا۔ مگر میں شکر گزار ہوں کہ خدا تعالیٰ نے دوا کا بہانہ کر کے بعض خطرناک عوارض سے مجھ کو مخلص عطا کی۔ فالحمد للہ علی احسانہ۔ مجھے اس بات کے سننے سے افسوس ہوا کہ رسالہ امرتسر سے واپس منگوا یا گیا۔ فیروز پور کو وہ خاص ترجیح کونسی تھی؟ بلکہ میری دانست میں حال کے زمانہ میں دنیوی واقف کاروں سے کوئی معاملہ نہیں ڈالنا چاہئے کہ وہ عہد شکنی میں بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ عمدہ اور سیدھا طریق یہ ہے کہ قانونی طور پر کارروائی کی جائے۔ اللہ جلّ شانہ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جب کوئی داد استد تم کرو تو اس معاملے کے بارے میں تحریر ہونی چاہئے۔ مطبع ایسا ہونا چاہئے جن کے پریس میں استاد

یہ حوالہ صفحہ 320 پر درج ہے

مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ 20 (طبع جدید) از مرزا قادیانی



کہ دروغگو کو اس کے گھر تک پہنچا دیں کیونکہ مکاروں اور خیانت پیشوں کی سزا وہی یہی ہے کہ ان کے خیانت کی  
طریقوں کو پرشیدہ نہ دکھانے اور مست اور آسٹ کو کچھ لہلہائے اسی غرض سے ہم نے اس رسالہ کو  
لکھا ہے غلط بیانی کے بیجا الزام کا فیصلہ پہلے لکھیں کہ یہ ہیں بزرگیناں جو میری نسبت کی گئیں اور کہا گیا کہ  
یہ شخص غلط بیان اور قدیمی شائبہ اور خبیث نفس ہے یہ ایسا خبیثت سے بھرا ہوا بہتان ہے کہ کوئی  
صادق آدمی اس پر سب نہیں کر سکتا اور نیز اس پر غمگوشی دہنے سے خلق اللہ کو ہر پہنچے گا ہر ملک کو ہر  
گناہ ہے غلط بیانی اور بہتان طرز ہی راست ہانوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شریر اور بد ذات آدمیوں کا کام ہے  
کہ جو نہ خدا سے ڈریں اور نہ خلقت کے لعن و لعن کی پروا رکھیں اور چہ کنہ حق ان لوگوں نے گالیاں دیکھیں اور سوجھ

میرے خیال میں انسانی شرم نے ان کو اجازت نہیں دی اور جب میرے بعض مخلصوں نے ان کو وہ مقام پر نہ  
کر سنا یا تو پھر وہ اس قدر پیش ہوا کہ طریق اس حالت میں ہے کہ جب مکرانہ ہرگز صورت کے پاس ہاں لگے۔  
پتھر کھول کر بھو گیا کہ سنیہتہ پکاوش میں یہ ماننا کھلے کہ ایسا مرد ہرگز حجت قابل ہوا ہو پس اس میں  
وہ نامور بھی داخل ہیں جو حجت کہنے پر تو پھر سے قادر ہیں مگر سنی قابل وہ نہیں مثلاً سنی میں کڑے نہیں یہی  
ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ ایسا ہو کہ ہرگز حجت نہ کر سکتا ہو بلکہ یہ نیک لکھا ہے کہ اگر وہ قابل وہ ہرگز لکھا  
ہی ہو رہتی تھی تب بھی نیک ہو گا تو یہ جواب سکر وہ لوگ غمگوشی ہرگز گئے جہاں میں سے ایک  
پشت کی بولے کہ بے شک ایسی حالتوں میں لکھی نیک لکھا کہ سفایقہ نہیں وہ ہم وہی سے نیک پر ماضی  
ہیں۔ غرض اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عام ہوتی ہو کی یہی ہے کہ وہ لوگ ضرورتوں کے وقت میں ہوں  
اور پویشوں سے نیک لکھا کریں مگر ہر ہے کہ انسانی کائنات میں کو قبول نہیں کرتا انسان کی  
فطرتی حقیقت ہزار ہزاری سے اس کام پر نیت یہی ہے انسان تو اس کے سرخ صحیحی  
مرفیوں کے لئے غیرت لکھا ہے ہر معاملہ کا ہے کہ اس میں کوئی اور نہ ہو جس کا یہ حساب بھی ہو  
کہا ہے ہیں تو ہم اپنے غرور سے ان کو ان کی درخواست پر قیام میں لکھا جکتے ہیں اور ہرگز

۱۹۹۵ء تک ہر ملت ہے

۱۹۹۵ء تک زمین غلط لکھا ہے

راقم امین ز اعظام احمد

شائع کر دیا اور شائع بھی ایسا کیا کہ شاید ایک یا دو ہفتہ تک دس ہزار مرد و عورت تک ہمدردی  
 و درخواست نکاح اور ہمارے مضمون الہام سے بخوبی اطلاع عیاب ہو گئے ہونگے اور پھر زبانی شاعت  
 پر اکتفا نہ کر کے اخباروں میں ہمارا خط چھپوایا اور بازاروں میں ان کے دکھلانے سے وہ خط  
 جا بجا پڑھا گیا اور عورتوں اور بچوں تک اس خط کے مضمون کی منادی کی گئی۔ اب جب  
 مرزا نظام الدین کی کوشش سے وہ خط ہمارا نورافشاں میں بھی چھپ گیا۔ اور علیسامیوں  
 نے اپنے مادہ کے موافق بیجا افترا کرنا شروع کیا تو ہم پر فرض ہو گیا کہ اپنے فکرم سے اصلیت  
 کو ظاہر کریں۔ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری  
 پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا اور نیز یہ پیشگوئی ایسی بھی  
 نہیں کہ جو پہلے پہل اسی وقت میں ہم نے ظاہر کی ہے بلکہ مرزا الہام الدین و نظام الدین اور  
 اس جگہ کے تمام آریہ اور نیز لیکچر ام پشاور کی اور صد ہا دوسرے لوگ خوب جانتے ہیں کہ  
 کئی سال ہوئے کہ ہم نے اسی کے متعلق جہاں ایک پیشگوئی کی تھی یعنی یہ کہ ہمدردی برادری میں  
 سے ایک شخص احمد بیگ نام فوت ہو نیوالا ہے۔ اب منصف آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اس پیشگوئی  
 کا ایک شعبہ تھی یا یوں کہو کہ یہ تفصیل اور وہ اجمال تھی اور اس میں تاریخ اور مدت ظاہر کی گئی  
 اور اس میں تاریخ اور مدت کا کچھ ذکر نہ تھا اور اس میں شرائط کی تصریح کی گئی اور وہ ابھی اجمال  
 حالت میں تھی۔ سمجھدار آدمی کیلئے یہ کافی ہے کہ پہلی پیشگوئی اُس زمانہ کی ہے کہ جبکہ ہمنوز وہ لڑکی  
 نابالغ تھی اور جبکہ یہ پیشگوئی بھی اسی شخص کی نسبت ہے جس کی نسبت اب سے پانچ برس  
 پہلے کی گئی تھی یعنی اُس زمانہ میں جبکہ اُس کی یہ لڑکی آٹھ یا نو برس کی تھی تو اسپر نفسانی افترا کا  
 گمان کرنا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ والسلام علی من اتبع الهدی۔

(غسار غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپورہ پنجاب)۔ ارجوئی ۱۸۸۷ء۔

## مولوی شہار اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ  
يَسْتَنْبِطُوكَ اَخْلَقَ مَوْلَايَ وَرَبِّيْ اِنَّهُ لَخَبِيْرٌ

خدمت مولوی شہار اللہ صاحب السلام علی من اتبع الهدی سے۔ مدت سے آپ کے پرچہ امجدیہ میں میری  
مکتوب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود کذاب و جہاں مفسد کے نام سے  
منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت خیرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفسر اور کذاب اور جہاں ہے اور اس شخص  
کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہر امر افتر ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا  
ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں اور آپ ہستی سے افتر میرے پرکھ کے دنیا کو میری طرف آنے سے  
روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں  
ہو سکتا اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفسر ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ  
کی زندگی میں ہی ہلک ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ وقت اور  
حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے  
بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفسر نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود  
ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ کذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا  
جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے ظالموں، ہیمنہ وغیرہ کو ہلاک بیماریاں آپ پر  
میری زندگی میں ہی دار نہ ہوئی تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشگوئی نہیں محض  
دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر جو  
علیم و خیر ہے جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا  
افتر ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتر کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے  
مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی شہار اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت

۵۴ یونس

سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے آمین۔ مگر اے میرے کمال اور صادق خدا۔ اگر مولوی شہناہ اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگا تا ہے حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دُعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مسلک سے بجز اس صورت کے کہ وہ گلے گلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں میں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان دہ ہے اور انہوں نے ان تہمتوں اور بدزبانوں میں آیت لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پر بھی عمل نہیں کیا اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص درحقیقت مُفسد اور مُکذِب اور دوکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی شہناہ اللہ انہیں تہمتوں کے ذریعہ سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آقا اور میرے بھتیجے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں منتہی ہوں کہ مجھ میں اور شہناہ اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں درحقیقت مُفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھائے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مثلاً کہ۔ اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین تم آمین۔ رَبَّنَا اِنْتَجِبْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ آمین۔

بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

المراتق

عبد اللہ العمد میرزا غلام احمد مسیح الموعود غافا، اللہ واید

مرقوم تاریخ ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء مطابق یکم ربیع الاول ۱۳۲۵ء روز دو شنبہ

۲۰۶

۱۳ اپریل ۱۹۰۷ء

(قبل عصر)

صدقتِ اسلام کیلئے طاعون کی تلوار  
ابوسعید عرب صاحب نے ذکر کیا کہ زنگون میں  
بندروں میں بھی طاعون کی وبا پڑی تھی جس پر

نے فرمایا کہ :-

برائین کے لکھنے کے زمانے میں خدا تعالیٰ نے ہم کو اس طاعون کے پڑنے کی خبر دی تھی۔ بد قسمت کفار کی  
ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ وہ انبیاء کے مقابلہ میں اپنی موت کا نشان مانگا کرتے ہیں۔ اب ہمارے مخالفوں کا بھی  
یسی حال ہے۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کے واسطے یہ تلوار بھیج دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ برائین میں جو وراثت  
کا وعدہ دیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ حالانکہ برائین میں صدقتِ اسلام کے واسطے کئی لاکھ دلیل ہے۔ خدا تعالیٰ نے پیسے سے  
اس میں یہ باتیں کھنوا دی ہیں۔ کیا ہی شان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ پچھلے زمانہ میں جس طرح آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم کے مخالفوں کو نامراد اور ذلیل کر کے ہلاک کیا جاتا تھا ایسا ہی آخر میں بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت شریروں کی سزا  
کے واسطے تلوار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی تھی اور اس زمانہ میں تلوار خدا خود چلا رہا ہے جو لوگ  
جہاد پر اعتراض کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ بد قسمت کفار ہل وقت بھی اپنی شامت اعمال کے سبب اسی طرح ہلاک  
ہوئے تھے جیسے کہ اب ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کی خاطر اگر اس وقت تلوار ملی تھی تو اس وقت بھی دین اسلام ہی کی  
خاطر تلوار ملی رہی ہے۔

سب سے بڑی کرامت استجابتِ دعا ہے

فرمایا :-

یہ زمانہ کے مجاہدات ہیں۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو  
کوئی ٹیلی نہیں ہوتا کہ اچانک ایک الام ہو گیا ہے اور پھر وہ اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے۔ کون ہفتہ عشرہ نشان کے  
خال نہیں جاتا۔ ثناء اللہ کے متعلق جو کھمگیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کی  
بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو الام ہوا کہ  
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ بِالْبَقْرَةِ (۱۸۸۱) سو فیاد کے نزدیک بڑی کرامت استجابتِ دعا ہی ہے۔ بات سب  
اس کی شاخیں ہیں۔

لاہوری نے آپکی چھاتی میں پستان کے پاس انجکشن یعنی دوائی کی بچکاری کی۔ جس سے وہ جگہ کچھ ابھرائی۔ مگر کچھ افادہ محسوس نہ ہوا۔ بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا۔ کہ اس حالت میں آپ کو کیوں یہ تکلیف دی گئی ہے تھوڑی دیر تک غرغره کا سلسلہ جاری رہا۔ اور ہر آن سانسوں کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی روح رفیق اہلی کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہم صل علیہ وعلیٰ مطاعہ محمد و باساک و سلم۔ خاک رنے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی۔ اور حضرت سیح موعودؑ کی وفات کا ذکر آیا۔ تو والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ حضرت سیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا۔ مگر اسکے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے۔ اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے۔ اور میں بھی سو گئی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفعہ رقع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے اسکے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا۔ تو اپنے ماتہ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ سیری چار پانی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپکے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا۔ تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا۔ نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپکو ایک اور دست آیا۔ مگر اب اس قدر ضعف تھا۔ کہ آپ پاخانہ نہ جاسکتے تھے۔ اس لیے میں نے چار پانی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی۔ مگر ضعف بہت ہو گیا تھا اسکے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک تے آئی۔ جب آپ تے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے۔ تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چار پانی پر گر گئے۔ اور آپ کا سر چار پانی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت

بچشم خود دیکھے۔ بلکہ خود میری ذات اور میرے گھر والوں اور بچوں پہان کا اثر ہوا۔ زلزلہ کے وقت نہایت اندیشہ ہوا کہ خدا جانے محمد اسمعیل کا کیا حال ہوا۔ ممکن ہے۔ زلزلہ میں کہیں کسی مکان کے تلے دب کر مر گیا ہو۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ نہیں۔ مجھے الہام ہوا ہے۔ کہ ڈاکٹر محمد اسمعیل وہ ڈاکٹر ہو گا۔ محمد اسحاق کو دو دفعہ طاعون ہوا۔ آپ کی دُعا سے اچھا ہوا۔ اور آپ نے پہلے ہی فرمادیا تھا۔ کہ یہ مر گیا ہے۔ ایک دفعہ تین چار گھنٹہ میں سجا رہی جانا رہا اور گھنٹیاں میں دو گھنٹوں

دعائی میں علالت اور

حضرت کی دعا سے صحت

مجھے ایک دفعہ سخت گردہ کا درد ہوا۔ میں نے جب آپ کو بلا یا تو دیکھا کہ فوراً وہیں ہو گئے۔ تنہائی میں جا کر دعا شروع کر دی جس کا اثر فوراً ہوا۔ اور یہ عاجز اچھا ہو گیا۔ ایک دفعہ ہم سب حضرت مرزا صاحب کے ہمراہ دلی گئے۔ وہاں میں سخت بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب اور محمد اسمعیل میرا بیٹا سموت پریشان ہو گئے۔ حضرت صاحب نے مولوی حکیم مولوی ذوالقرنین صاحب کو تیار دیا۔ کہ درگاہ چلے آؤ۔ وہ فوراً دلی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا فرمادی۔ اور حضرت صاحب میرے تندرست ہونے سے بہت خوش ہوئے۔ ابتداء

میں جب کہیں حضرت صاحب باہر تفریف لے جاتے تھے تو مجھے حضرت اقدس کی خدمت

تھے۔ اور آخر زمانہ میں جب کہیں سفر کرتے تھے اور گھر کے لوگ ہمراہ ہوتے تھے۔ تو زندہ بھی ہر کام ہوتا تھا۔ چنانچہ جب آپ لاہور میں تشریف لے گئے۔ میں سفر میں آپ کو سفر آخرت پیش آیا تب بھی بندہ آپ کے ہمراہ تھا۔ اور اس شام کی سیر میں بھی خریک تھا جس کے دوسرے روز آپ نے قبل از دوپہر انتقال فرمایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اب بڑی اہمیت تبدیلی میرے حال میں پیدا ہوئی۔ اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی۔ کہ میں کئی ملائی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت صاحب جس حالت کو بیمار ہوئے۔ اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کہ بہت تکلیف ہوئی۔ تو مجھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا۔ اور آپ کا حال دیکھا۔ تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ میر صاحب مجھے وہ بانی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسرے روز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن تو ہم پر آپ کے

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

## تمام جماعت احمدیہ کے لئے اعلان

چونکہ ڈاکٹر عبدالحکیم اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ نے جو پہلے اس سلسلہ میں داخل تھانہ صرف یہ کام کیا کہ ہماری تعلیم سے اور ان باتوں سے جو خدا نے ہم پر ظاہر کیں مومنہ پھیر لیا بلکہ اپنے خط میں وہ سختی اور گستاخی دکھلائی اور وہ گندے اور ناپاک الفاظ میری نسبت استعمال کئے کہ بجز ایک سخت دشمن اور سخت کینہ ور کے کسی کی زبان اور قلم سے نکل نہیں سکتے اور صرف اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ بیجا تہمتیں لگائیں اور اپنے مرتج لفظوں میں مجھ کو ایک حرام خور اور بندۂ نفس اور شکم پرور اور لوگوں کا مال فریب سے کھانے والا قرار دیا اور محض تکبر کی وجہ سے مجھے بیروں کے نیچے پا مال کرنا چاہا اور بہت سی ایسی گالیاں دیں جو ایسے مخالف دیا کرتے ہیں جو پورے جوش ہمدادت سے ہر طرح سے دوسرے کی ذلت اور توہین چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ پیشگوئیاں جن پر مانا کیا جاتا ہے کچھ چیز نہیں مجھ کو ہزار ہا ایسے الہام اور خوابیں آتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں۔ غرض اس شخص نے محض توہین اور تحقیر اور دن آزاری کے ارادہ سے جو کچھ اپنے خط میں لکھا ہے اور جس طرح اپنی ناپاک بدگوئی کو انتہا تک پہنچا دیا ہے ان تمام تہمتوں اور گالیوں اور عیب گیریوں کے لکھنے کے لئے اس اشتہار میں گنجائش نہیں علاوہ اس کے میری تحقیر کی غرض سے جموٹ بھی پیٹ بھر کے بولا ہے مگر مجھے ایسے مغتری اور بدگو لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں کیونکہ اگر جیسا

یہ حوالہ صفحہ 329 پر درج ہے

مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 667، 668 طبع جدید از مرزا قادیانی



کہ مجھے اس نے رعنا باز حرام خورد مکار فرمی اور جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے اور طریق اسلام اور دیانت اور ہیروئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر مجھے کرنا چاہا ہے اور میرے وجود کو محض فضول اور اسلام کے لئے مضر ٹھہرایا ہے۔ بلکہ مجھے محض حکم پر در اور دشمن اسلام قرار دیا ہے۔ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو میں اس کیڑے سے بھی بدتر ہوں جو نجاست سے پیدا ہوتا اور نجاست میں ہی مرتا ہے لیکن اگر یہ باتیں خلاف واقعہ ہیں تو میں اُمید نہیں رکھتا کہ خدا ایسے شخص کو اس دنیا میں اخیر مواخذہ کے چھوڑے گا جو مرید ہو کر اور پھر مرتد ہو کر اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو ذلیل سے ذلیل زندگی بسر کرنے والے جیسے چوہڑے اور چھار جو حکم پر در کہلاتے ہیں اور مُردار کھانے سے بھی عار نہیں رکھتے ان کی مانند مجھے بھی محض حکم پرست اور بندہ نفس اور حرام خورد قرار دیتا ہے۔

اب میں ان باتوں کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا اور خدا کی شہادت کا لہنگہ ہوں اور اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں اور اس اشارہ پر ختم کرتا ہوں اَللّٰهُمَّ اَشْكُوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ الَّذِيْ رَاَيْتَ مِنْ اَللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۱۔

اب چونکہ یہ شخص اس درجہ پر میرا دشمن معلوم ہوتا ہے جیسا کہ عمرو بن اشام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جان کا دشمن تھا اس لئے میں اپنی تمام جماعت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس سے بکلی قطع تعلق کر لیں اس کے ساتھ ہرگز واسطہ نہ رکھیں ورنہ ایسا شخص ہرگز میری جماعت میں سے نہیں ہوگا اِنَّا اَلْقَخْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْبَعْقِ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاعِلِيْنَ ۲۔ آمین آمین آمین۔

### المشتہد

خاکسار

مرزا غلام احمد مسیح موعود

از قادیان ضلع گورداسپور پنجاب

(الحکم ۳۰ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

۱ یوسف: ۸۷ ۲ الاعراف: ۹۰

یہ حوالہ صفحہ 329 پر درج ہے

مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 667، 668 طبع جدید از مرزا قادیانی

۱۸۹۹ء (الف) ”ایک دفعہ مجھے دانت میں سخت درد ہوئی۔ ایک دم قرار نہ تھا۔ کسی شخص سے میں نے دریافت کیا کہ اس کا کوئی علاج ہے۔ اس نے کہا کہ علاج دندان اخراج دندان۔ اور دانت نکلنے سے میرا دل ڈرا۔ تب اس وقت مجھے غنودگی آگئی اور میں زمین پر بیٹائی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور چارپائی پاس دکھی تھی میں نے بیٹائی کی حالت میں اس چارپائی کی پائنتی پر اپنا سر رکھ دیا اور تھوڑی سی نیند آگئی جب میں بیدار ہوا تو درد کا نام و نشان نہ تھا اور زبان پر یہ الہام جاری تھا:

إِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِي

یعنی جب تُو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتا ہے۔ قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۳۵۔ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۲۳۶، ۲۳۷)

(ب) (حضرت) مولوی نور الدین صاحب کو ایک مہینہ سے زیادہ عرصہ ہوا تھا کہ دانت کا سخت درد رہا اور سولے اکھڑوانے کے کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ فرمایا: مجھے بھی ایک دفعہ خطرناک درد ہوا یہاں تک کہ مار سے درد کے غشی ہو گئی۔ اس میں الہام ہوا:

وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِي

جب اٹھا تو درد جاتا رہا۔ (از خط مولوی عبد الکریم صاحب مندرجہ حکم جلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء صفحہ ۳)

۶ جولائی ۱۸۹۹ء ”۶ جولائی کی رات کو خدا تعالیٰ نے بہشت و روزخ کا نظارہ آپ کو دکھایا۔ اول بہشت

دکھائی گئی اور اس کے ہر قسم کے ثمرات و نعماء دکھائی گئیں۔ اتنے میں الہام ہوا:

يَأْتِيكَ مِنْ كَيْتٍ قَيْحٍ عَمِيْقٍ

پھر روزخ دکھایا گیا۔ وہ سخت مکروہ اور پانخانہ کی شکل کا تھا۔ اتنے میں الہام زبان پر جاری ہوا:

اس روایا کی صحیح تاویل پوری ہو گئی۔ (خط حضرت مولانا عبد الکریم صاحب مندرجہ حکم جلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء صفحہ ۳)

لے (نوٹ از مرقب) یہ الہام بیان اس لئے لایا گیا ہے کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے (جو مجرب میں درج ہے) معلوم ہوتا ہے کہ ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء سے پہلے کا الہام ہے۔

لے یعنی حضرت اقدس نے فرمایا۔ (مرقب)

لے (ترجمہ از مرقب) (مدواہی تیرے پاس ہرگز سے کہے گی۔)

۵۵۲

نہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ اسے ایک دن قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔  
پس قرآن شریف میں جس شخص کا نام خاتم الخلفاء دکھا گیا ہے اسی کا نام احادیث میں مسیح موعود دکھا گیا ہے  
اور اسی طرح سے دونوں ناموں کے متعلق جتنی پیشگوئیاں ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے  
والے کو۔ اور کمال وہ ہے جو سب سے پیچھے آوے۔ اور ظاہر ہے کہ جو قرب قیامت کے وقت آوے گا وہی  
سب سے پیچھے ہوگا۔ لہذا وہی سب سے اکل اور افضل ہوا۔ صرف تعزیر الفاظی ہی ہے۔ قرآن شریف نے خلیفہ کے  
لفظ سے پکارا ہے اور حدیث میں اس کو مسیح موعود کے نام سے نامزد کیا گیا ہے۔ رہا یہ کہ ہمارے ال دعوئی کا ثبوت  
کیسے ہے۔ سو یاد رکھو کہ ہماری صداقت کا ثبوت وہی ہے جو ہمیشہ سے انبیاء اور ماسوروں کا ہوتا رہا ہے۔ حضرت  
علی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ثبوت کوئی شخص پیش کر سکتا ہے اسی دلیل سے ہم اپنے دعویٰ کا مدق ظاہر کر سکتے  
ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے خدا تعالیٰ ہی کی گواہی سے کچھ ٹھہرا کرتے ہیں۔ دعویٰ تو صادق بھی کرتا  
ہے اور کاذب بھی۔ اور نفس دعویٰ کرنے میں تو دونوں یکساں ہیں گر ان میں ماہر الاشیاء بھی تو ہوتا ہے۔

بلا فرس کر دو کہ مسیح موعود کا ذکر قرآن میں بھی نہ ہوتا اور حدیث میں بھی پایا نہ جاتا تو پھر کیا تھا پھر بھی صادق  
اپنے نشانوں سے شناخت کر لیا جاتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ کا ذکر بھلا کس پہلی کتاب میں درج تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے  
کہ حضرت موسیٰ کے آنے کی خبر اور پیشگوئی کس کتاب میں موجود تھی؟ پھر حضرت موسیٰ کس طرح نبی مان لئے گئے؟  
یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی تازہ تازہ گواہی ہی مدق کی دلیل ہو سکتی ہے۔ صرف دعویٰ جادیل مدق کی دلیل ہرگز  
نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس دعویٰ کے ساتھ خدائی شہادت نہ ہو وہ جھوٹا ہے اور خدا کے مواخذہ کے قابل ہے۔  
جھوٹے مدعی کو خدا خود ہاک کرتا ہے اور اس کو مہلت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ خدا پر انفرادی ہے اور حق و باطل  
میں گڑ بڑ ڈالنا چاہتا ہے۔

میں اس شریعت کی خدمت اور تجدید کے واسطے آیا ہوں  
میں کوئی نئی بات نہیں  
ہا یا اور نہ ہی میں نے

کوئی نئی شریعت قائم کی ہے۔ میں اسی شریعت کی خدمت اور تجدید کے واسطے آیا ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ  
وسلم آئے تھے اور میری پہچان دعویٰ کے لیے بھی منہاج نبوت پر ہی نشان موجود ہیں۔ میں نے اپنی کتابوں میں  
ان کا ذکر کیا ہے۔ ابھی ایک تازہ کتاب حقیقۃ الوحی میں نے لکھی ہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیا جاوے کہ  
کس قدر نشان خدا تعالیٰ نے میری تائید کے واسطے ظاہر فرمائے۔ کیا یہ کسی جھوٹے کے واسطے بھی دکھائے جاتے ہیں؟  
دیکھو بعض انبیاء صرف ایک ہی معجزہ سے صادق قبول کر لیتے گئے، مگر یہاں تو ہزاروں نشان موجود ہیں۔ پھر  
ہم اگر کسی نئے دین کا دعویٰ کرتے۔ کتاب اللہ کے خلاف کوئی نیا حکم اپنی طرف سے بیان کرتے۔ سنت رسول

ایام الصلح


۳۴۱

مجھے معلوم ہوئی تھی اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقلہ  
ادی القدیۃ۔ یعنی خدا تعالیٰ اس نیکی یا بدی کو جو کسی قوم کے شامل حال ہے دور نہیں کرتا جب تک وہ  
قوم ان باتوں کو اپنے سے دفع نہ کرے جو اس کے دل میں ہیں۔ اس خدا نے اس قریہ کو جو اس کے علم  
میں ہے انتشار سے محفوظ رکھا۔ انسوس کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ الہام آپ بنا لیا ہے۔ ان کے  
جواب میں کیا کہیں اور کیا لکھیں۔ اے بد قسمت بد گل نو! کیا ممکن ہے کہ کوئی خدا پر جھوٹ باندھے  
اور پھر اس کے دمت قبر سے بچ رہے۔ خدا جھوٹوں کو ہلاک کرے گا۔ اور وہ جو اپنے دل سے  
باتیں بہاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے وہ ہلاک کئے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دلیری  
کر کے خدا پر بہتان باندھا۔ راستہ انہوں کے لئے بھی دن مقبور ہیں۔ اور جھوٹے مفتروں کے لئے بھی  
وقت مقبور کئے گئے ہیں۔ جب وہ وقت آئیں گے تو خدا تعالیٰ دکھا دیگا کہ کس نے شوخی سے باتیں کیں  
اور کس نے صدقہ القدس کی آواز کی پیروی کی۔ خدا کی باتوں کو خدائی نشاںوں سے تم شناخت کرو گے  
سچائی پوشیدہ نہیں رہے گی اور نہ اہل حق رہے گا۔ وہ خدا جو ہمیشہ اپنے تئیں ظاہر کرتا رہا ہے وہ  
اب بھی دکھائیگا کہ وہ ان کے ساتھ ہے جو واقعی طور پر اس سے ڈرتے اور نیکی اور پیغمبر گاری کی راہوں  
کو اختیار کرتے ہیں۔

اے لوگو! خدا سے ڈرو۔ اور حقیقت اس سے صلح کرو۔ اور سچ صلحیت کا جامہ  
پہن لو۔ اور چاہیے کہ ہر ایک شہادت تم سے دور ہو جائے۔ خدا میں بے انتہا عجیب قدرتیں ہیں۔  
خدا میں بے انتہا طاقتیں ہیں۔ خطا میں بے انتہا رحم اور فضل ہے۔ وہی ہے جو ایک ہولناک سیلاب کو  
ایک دم میں خشک کر سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہلک بلاؤں کو ایک ہی ادا سے سے اپنے ہاتھ سے  
اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے۔ مگر اس کی یہ عجیب قدرتیں ان ہی پر کھلتی ہیں جو اس کے ہی ہو جاتے  
ہیں۔ اور وہی یہ خواہی دیکھتے ہیں جو اس کے لئے اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کرتے ہیں۔ اور اس کے  
آسمانے پر گرتے ہیں اور اس قطرے کی طرح میں سے موتی بنتا ہے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور  
محبت اور صدق اور صفا کی سوزش سے پگھل کر اس کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ تب وہ مصیبتوں میں



عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے موضوع پر سکولوں، کالجوں اور دینی مدارس میں منعقدہ انعام گھر اور دیگر کونز مقابلوں میں پوچھے جانے والے 300 سے زائد اہم سوالات اور جوابات کا مجموعہ



(سوالاً..... جواباً)

محمد بن خالد

اپنی نوعیت کی منفرد کتاب

- جسے آپ ختم نبوت کا "مختصر انسائیکلو پیڈیا" بھی کہہ سکتے ہیں۔
- جو آپ کو بے شمار کتابوں سے بے نیاز کر دے گی۔
- جو تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے موضوع پر لکھی جانے والی خاص اور اہم کتابوں کا نچوڑ ہے۔
- جو دلچسپ، حیرت انگیز اور انکشافاتی معلومات سے لبریز ہے۔
- جو مسلمانوں کے اندر ختم نبوت سے محبت و عقیدت اور اس کی اہمیت و فضیلت کا شعور پیدا کرتی ہے۔

پڑھیے اور اپنے قلب و ذہن کو ایک نئی ایمانی و ایقانی جلا بخشیے

کارکنان تحفظ ختم نبوت کے لیے خصوصی رعایت ہر جگہ بک سٹال پر دستیاب ہے

کارکنان تحفظ ختم نبوت کے لیے ایک گرانقدر تحفہ

# تحفظ ختم نبوت

## اہمیت اور فضیلت

دینی غیرت و حمیت پر مبنی ایک فکر انگیز دستاویز

محدثین خالہ

ایک ایسی تاریخی و تحقیقی کتاب

- ⊖ جو جنگ یمامہ سے لے کر آج تک (14 صدیوں پر مشتمل) دینی غیرت و حمیت اور ایمانی جرأت و بسالت سے لبریز دلولہ انگیز حقائق و واقعات سے مزین ہے۔
- ⊖ جو ”ختم نبوت زندہ باد“ کا ورد کرنے والے کفن بردوش مجاہدوں کی زندہ و جاوید روداد اور چشم کشا مشاہدات و تجربات پر مبنی ہے۔
- ⊖ جس میں ”شہیدان ناموس رسالت ﷺ“ کے ماہتالی اور آفتابی کرداروں کا روشن تذکرہ ہے۔
- ⊖ جو قلم کی سیاہی سے نہیں، دلی سوز و گداز اور خمن جگر سے لکھی گئی ہے۔
- ⊖ جس کے مطالعہ سے خون رگوں میں جوش مارتا اور قاری تاریخ کے جھروکوں سے ہر واقعہ اپنی پرنم آنکھوں سے براہ راست دیکھتا ہے۔
- ⊖ جس کا ہر لفظ پاکیزہ، ایمان پرور، پرسوز اور باطل شکن ہے۔
- ⊖ جس کے مطالعہ سے ہر مسلمان کے روح و قلب میں محبت رسول ﷺ کے خوابیدہ جذبات و احساسات اجاگر ہو جاتے ہیں۔
- ⊖ جس میں ”غداران ختم نبوت“ کا عبرتناک انجام، ہر قادیانی نواز کے لیے عبرت و نصیحت کا سبق لیے ہوئے ہے۔
- ⊖ جو قادیانی اور قادیانی نوازوں کی آنکھوں کا آشوب اور ان کے حلق میں چبھتا کاٹنا ہے۔
- ⊖ جس کا مطالعہ کارکنان ختم نبوت کے ایمان و ایقان کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے اور وہ ایک نئے دلولے اور تازہ جذبے کے ساتھ اس محاذ پر برسر پیکار رہتے ہیں۔

آنکھوں کے راستے دل میں اتر جانے والی یہ کتاب ہر مسلمان کے لیے ایک گرانقدر تحفہ ہے۔  
اسے پڑھئے..... سمجھئے..... اور اس کی روشنی کو پھیلائیے..... شفاعت محمدی ﷺ آپ کی نظر ہے!

شیخ المشائخ حضرت خواجہ خان محمد دامت برکاتہم العالیہ

(امیر مرکز یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان) کی ایمان افروز تقریر کے ساتھ

کارکنان تحفظ ختم نبوت کے لیے خصوصی رعایت ہر ایچ بی ک سال پر دستیاب ہے

عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی  
کے موضوعات پر مبنی نہایت مستند، وقیع، تحقیقی، فکر انگیز اور ایمان پرور

## کتابیں

- Ⓒ جنہوں نے بے شمار قادیانیوں کے افکار و عقائد بدل کر رکھ دیئے
- Ⓒ دینی سکالر اور نامور محقق **محمد تقی خاں** کے حقائق کشا قلم سے
- Ⓒ ایک ایسا اندازِ تحریر جو قاری کے دل و دماغ پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتا ہے

آئیے! خود پڑھیے! دوستوں کو تحفہ میں دیجیے!! اور فتنہ قادیانیت کے خلاف قلمی جہاد میں  
حصہ لے کر امت مسلمہ کے دین و ایمان کے سرمائے کی حفاظت کا سامان کیجیے!!!

شہیدانِ ناموس رسالت ﷺ

تحفظِ ختمِ نبوت اہمیت اور فضیلت

قادیانیت سے اسلام تک

ثبوت حاضر ہیں!

ربوہ و قادیان، جوہم نے دیکھا

قادیانیت، اُس بازار میں

علامہ اقبالؒ اور فتنہ قادیانیت

اسلام، انٹرنیٹ پر

معاہداتِ ختمِ نبوت (سوالاً جواباً)

اسلام کا سفیر (قائد اعظمؒ)

کامیاب مناظرہ

وحید الدین خان، اسلام دشمن شخصیت

ہر اچھے بک سٹال پر دستیاب ہیں



گفتگو ہو یا مباحثہ، تقریر ہو یا مناظرہ

# قادیانیوں کو الواب کئے!

محمد قین خالد

ایک شاہکار کتاب جس کے مطالعے سے آپ قادیانیوں کو ہر موضوع پر آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔

- قادیانی نعرہ ”محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں“ کی نقاب کشائی
- قادیانیوں کی آئینی اور شرعی حیثیت
- قادیانیوں سے مناظرہ کیسے کریں؟
- ایک فیصلہ کن مباحثہ
- قادیانی راسپوٹینوں کے عبرت ناک انجام
- قادیانی نبیوں کے بھیانک حالات اور ان کی بربادی کے ہوش ربا واقعات

چونکا دینے والے تاریخی حقائق و واقعات جو عام لوگوں سے اوجھل رہتے ہیں

کہاؤں سے زیادہ دلچسپ، حقائق سے زیادہ سبق آموز

ایک ایسی کتاب جسے آپ بار بار پڑھنا چاہیں

کارکنان تحفظ ختم نبوت کے لیے خصوصی رعایت

# قادیانیت سے اسلام تک

محمد بن خالد

ایسے خوش نصیبوں کی ایمان پرور  
فکر انگیز اور المناک داستان

- ⊖ جو گمراہی اور ضلالت کے تاریک و عمیق گڑھے سے نکل کر اسلام کے پر نور اور ابدی اجالے میں آگئے۔
- ⊖ جو گھر کے بھیدی کی حیثیت سے قادیانی لڑکا کے سر بستہ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔
- ⊖ جنہوں نے ”جھوٹی نبوت“ کے ایوانوں میں زلزلہ پیا کر دیا۔
- ⊖ جس کے مطالعے سے قلب سلیم کا حامل ہر قادیانی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔

یہ کتاب تاریکی سے روشنی کی طرف اور ضلالت سے ہدایت کی طرف آنے والے راہ حق کے مسافروں کے ہوش ربا تجربات و حوادث کا نچوڑ ہے۔

## راہ حق کے یہ مسافر!!!

- اعتراف کرتے ہیں کہ قادیانیت، مذہب کے نام پر واہموں، وسوسوں، مفروضوں اور خام خیالیوں کا ایک گورکھ دھندہ ہے۔
- وہ تسلیم کرتے ہیں کہ قادیانیت دھوکہ دہی، فریب کاری، طمع سازی، جعل طرازی اور فتنہ سامانی کی ایک بندگی ہے۔
- وہ اعلانیہ اقرار کرتے ہیں کہ قتل و عارت، تخریب کاری، دہشت گردی، سماج دشمنی، اور جرائم پیشگی قادیانی قیادت کا نصب العین ہے۔
- وہ مانتے ہیں کہ دین بیزاری، وطن دشمنی اور غداری قادیانیوں کا ”ٹریڈ مارک“ ہے۔
- وہ یقین رکھتے ہیں کہ قادیانیوں کے ”بندشہر“ ربوہ اور قادیان اخلاق سے متنفر، شرافت سے عاری اور حیا سے بے بہرہ جنسی بھیڑیوں کی کھلی شکار گاہیں ہیں۔

اظہار حق کی پاداش میں ان ”مظلوموں“ پر مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ دنوں پر وارد ہوتے تو راتیں بن جاتیں!

اپنی نوعیت کی منفرد کتاب..... جس کا مطالعہ وقت کا مطالبہ ہے  
آئیے! پڑھیے!! اور اپنے سرمایہ دین و ایمان کی حفاظت کا سامان کیجیے!

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پر قربان ہو جانے والے خوش نصیبوں کا ایمان افزو زندگہ

# شہیدان ناموس رسالت

غازی علم دین شہید	غازی حاجی محمد مانگ	شہدائے جنگ یمامہ
غازی عبد اللہ شہید	غازی فاروق احمد	غازی میاں محمد شہید
غازی زاہد حسین	غازی عامر عبد الرحمن چیمہ	غازی احمد دین شہید
غازی عبد القیوم شہید	غازی مرید حسین شہید	شہدائے تحریک ختم نبوت 1953ء
غازی منظور حسین شہید	غازی محمد صدیق شہید	غازی عبد الرشید شہید
غازی بابو معراج دین شہید	غازی محمد عمران وحید	غازی عبد المنان

اس کے علاوہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اور بہت سے دوسرے اہم مقالات

- ⊖ ظلمت دہری میں ”چراغ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ کی اجلی اور کول لوؤں سے اجالا کرنے والے ضروریز و ضیاء بار ماہتابی و آفتابی کرداروں کا روشن تذکرہ
- ⊖ تھانوں کی تنگ و تاریک حوالاتوں، پھانسی گھاٹوں کی بے نور فضاؤں اور جیلوں کی کال کوٹھڑیوں میں ”آبروئے مازہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم است“ کا ورد کرنے والے کفن بردوش مجاہدوں کی زندہ جاوید روداد اور انوکھے مشاہدات
- ⊖ ایک ایسی کتاب جس کا ایک ایک لفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے والے بدطینت انسان نما اہلیوں کے ایوانوں کے لیے برق قضا کی حیثیت رکھتا ہے۔
- ⊖ یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں..... خواجہ بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پرکٹ مرنے والوں اور دشمنان رسالت مآب کے ناپاک وجود سے دھرتی کو پاک کرنے والی پاکیزہ ہستیوں کا مختصر مگر مبسوط انسائیکلو پیڈیا ہے۔
- اپنی نوعیت کی منفرد کتاب جس کا مطالعہ آپ کے جذبہ ایمانی کو ایک نیا دلولہ عطا کرے گا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# ناموں میں رسالت

## کے خلاف

## مغرب کی شرانگیزیوں

محمد بن خالد

- ⊖ آزادی اظہار کے نام پر مغرب کی اسلام دشمنی
- ⊖ ملعون لوگوں کی ناپاک داستانیں
- ⊖ گستاخان رسول کے شیطانی چہروں کی رونمائی
- ⊖ تمہہ در تمہہ سازشیں بے نقاب ہوتی ہیں!

کارکنان تحفظ ختم نبوت کے لیے خصوصی رعایت برائے بک سال پر دستیاب ہے

# QADYANIAT IN THE EYES OF LAW

## فتنہ قادیانیت کے خلاف

محمدتین خالد

# عقائد و اصول

- وہ محکم فیصلے جن کا ہر لفظ قولِ فیصلہ ہر سطر برہانِ قاطع اور ہر جملہ شاہد عدل ہے۔
- وہ تاریخ ساز فیصلے جنہوں نے ملت کی بے زمام ناقہ کو منزل تک پہنچانے میں رہبر کا کردار ادا کیا۔
- وہ شفاف فیصلے جو کذب کو صداقت کا آئینہ دکھاتے ہیں۔
- وہ عہد آفریں فیصلے جنہوں نے حق و باطل کے مابین خط امتیاز کھینچ کر رکھ دیا۔
- وہ واضح فیصلے جنہوں نے جعلی نبوت کے پیروکاروں کے چہروں پر پڑے تقدیس کے ہر نقاب کو الٹ دیا۔
- وہ آئینہ صفت فیصلے جس میں قادیانی گروہ کا سربراہ اور اس کے پیروکار اپنا اصل چہرہ دیکھ کر بلبلا اٹھے۔

- قادیانیوں کی زہریلی سازشوں اور تخریبی کارروائیوں کی لرزہ خیز روداد ہیں۔
- قادیانیوں کی طرف سے شانِ رسالت ﷺ میں توہین، قرآن مجید اور کلمہ طیبہ میں تحریف، شعائرِ اسلامی کا تمسخر، آئین کا مذاق اور قانون کی خلاف ورزیوں کا وہ حقائق نامہ ہے جس نے ہر قادیانی کو سوائے زمانہ گستاخِ رسول "سلمانِ رشدی" قرار دیا ہے۔
- ججوں، سیاستدانوں، آئین شناسوں، وکیلوں، صحافیوں، دانشوروں، علماء اور طالب علموں کے لیے ایک راہنما کتاب کا کام دیں گے۔

یہ  
عقائد  
و  
اصول

ہر اچھے بک شال پر دستیاب ہے

کارکنانِ تحفظِ ختمِ نبوت کے لیے خصوصی رعایت



عالم اسلام میں اپنی نوعیت کی منفرد کتب

# قادیانیت کا شہادہ

قادیانیوں کے بدترین کفریہ عقائد و عظام پر مبنی شہادتیں

محمد بن خالد

ہیرت انگیز  
معلومات

یہ ایک ایسی تاریخی و تحقیقی کتاب ہے

ہوشربا  
انکشافات

جو قادیانیوں کی اسلام کے خلاف ہرزہ سہائیوں اور گناہوں کے مستند دستاویزی ثبوت لیے ہوئے ہے۔

سارے راز  
بے نقاب

پچھلے 10 سال کی شبانہ روز انتھک محنت کے بعد مکمل کیا گیا ہے جس میں قادیانی تختب اور اخبارات و رسائل کے 50 ہزار سے زائد صفحات کو لگانے کے بعد قادیانیوں کے مذہب عقائد و عظام کے تحریری ثبوت کجا کر دیے گئے ہیں۔

سنسنی خیز  
واقعات

بند کتابوں کی  
کھلی کہانی

جن کے مطالعے سے ہر قادیانی اپنے عقائد کی جی اور بیجا ایک تصویر دیکھ کر راہ ہدایت پاسکتا ہے۔ جو سادہ لوح مسلمانوں کو فتنہ سازوں سے بچانے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔

ناقابل تردید  
حقائق

ہر گھر اور  
لائبریری کی  
ضرورت

جس کا مطالعہ علماء، خطباء، وکلاء، اساتذہ اور طلباء کو فتنہ قادیانیت کے خلاف مضبوط دلائل اور محسوس معلومات کا ذخیرہ فراہم کرے گا۔ جسے قادیانیت کے خلاف ہر بدلتی متغیر بحث اور مناظرہ میں مستند حوالے کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ جسے تمام مکارف کے خیر علیہ کریم احمد امراہل علم و دانش کی خواہش اور سرپرستی میں تیار کیا گیا۔

قادیانیت  
پر مکمل  
انسائیکلو پیڈیا

ایک ایسی دستاویز جس کا مدحتوں سے انتظار تھا پڑھیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے آگے بڑھیے!

علم و عسکران پبلشرز

الحمد مارکیٹ، 40- اردو بازار، لاہور

فون: 7352332، 7232336 فیکس: 7352332

www.ilmolrnanpublishers.com

Email: ilmolrnanpublishers@hotmail.com